

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (الحجر: ٢٢)

تَفْسِيرُ كَبِيرٍ

مصنفه

حضرت مرزا بشير الدين محمود احمد
خليفة المسيح الثاني المصلح الموعود رضی اللہ عنہ

جلد دوم

سورة البقرة ركوع ٦ تا ركوع ١٤

تفسير كبير

از حضرت مرزا بشير الدين محمود احمد

خليفة المسيح الثاني المصلح الموعود ﷺ
(جلد دوم۔ مشتمل بر سورة البقرة ركوع ٦ تا ركوع ١٧)

Tafsir-e-Kabir (The Grand Exegesis)

by Hazrat Mirza Bashir-ud-Deen Mahmood Ahmad,
Khalifatul-Masih II, al-Muslih al-Mauood (1889-1965),
may Allah be pleased with him.

Volume 2

(Sūrah al-Baqarah, Rukū‘ 6-17)

(Complete Set – Volumes 1-15)

© Islam International Publications Ltd.

First published in India and Pakistan between 1940-1962 (11 Volume Set)
Second edition printed in Pakistan and the UK between 1986-1994 (10 Volume Set)
Reprinted in Qadian, 2004 (5 Volume Set)
Reprinted in Qadian, 2010 (10 Volume Set)
Digitally typeset edition published in UK, 2023 (15 Volume Set)

Published by:

Islam International Publications Limited
Unit 3, Bourne Mill Business Park,
Guildford Road, Farnham, Surrey UK, GU9 9PS

Printed in the TURKEY at:
Pelikan Basim

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior written permission from the Publisher.

For further information, please visit www.alislam.org

ISBN: 978-1-84880-274-2 (Set Vol. 1-15)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عقبہ المسیح الموعود

پیش لفظ

اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے مامور حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عظیم الشان رحمت کے نشان کے طور پر پسر موعود کی بشارت عطا فرمائی جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ کے وجود میں پوری ہوئی اور کلمات الہامیہ آپ کے وجود مسعود میں جلوہ گر ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 'اسے علوم ظاہری و باطنی سے پُر کیا جائے گا۔' قرآن مجید فرقان حمید کے وہ علوم و معارف بھی آپ کو سکھائے گئے جو اس سے پہلے منکشف نہ تھے۔ چنانچہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ 'اس تفسیر کا بہت سا مضمون غور کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔' آپ نے قرآن کریم کی تفسیر تحریر فرمائی اور اس کے مطالب و معانی اور نکات عجیبہ کو ظاہر و باطن میں پھر زندہ فرمادیا۔ یہ تصنیف لطیف موسوم بہ تفسیر کبیر اس مذکورہ بالا بشارت کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت اور شاہد ناطق ہے اور لاریب قرآنی علوم و معارف کا ایک بیش بہا خزانہ ہے جو خدا تعالیٰ نے موجودہ زمانہ کی ضرورتوں کے موافق ظاہر فرمایا ہے۔

تفسیر کبیر کی پہلی جلد ۱۹۴۰ء میں اشاعت پذیر ہوئی۔ بعدہ مختلف وقتوں میں اس کی کل ۱۱ جلدیں شائع ہوئی تھیں۔

حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اوائل خلافت میں ہی ارشاد فرمایا کہ تفسیر کبیر کی صد سالہ جوہلی کے تحت دوبارہ اشاعت کی جائے۔ چنانچہ اس کے پاڑیٹو بنوا کر گیارہ کی بجائے دس جلدوں میں شائع کیا گیا۔

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس علمی خزینہ کی اشاعت کا تازہ ایڈیشن طبع کروانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ پہلی طباعت کتابت ہو کر شائع ہوئی تھی اور باریک قلم سے لکھائی کی وجہ سے پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی تھی۔ ہر صفحہ پر دو کالم تھے۔ چنانچہ یہ نیا ایڈیشن حسب ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کمپوز کروایا گیا ہے، اس کا فونٹ سائز ۱۴ مقرر کیا گیا ہے اور دو کالموں کی بجائے عبارت کو ایک ہی سطر میں مسلسل کر دیا گیا ہے۔ نیز حضور انور کی ہدایت تھی کہ جلدوں کی ضخامت کو بھی متوازن اور ہلکا رکھا جائے تاکہ پڑھتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑ کر سنبھالنے میں دقت نہ ہو۔ اس ہدایت پر عملدرآمد کے نتیجے میں تفسیر کبیر کی جلدوں کی تعداد دس سے بڑھ کر پندرہ ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے حل لغات کے مقامات میں بھی ادل بدل کرنا پڑا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ہدایت کے مطابق تفسیر کبیر عربی ایڈیشن کی طرز پر حوالہ جات کی تخریج کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں تفسیر کبیر عربی ترجمہ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ عربی عبارات بالخصوص حل لغات کے مواقع پر عربی عبارات جہاں اعراب کا اہتمام نہ تھا وہاں اعراب لگائے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ اس تفسیر کی اشاعت کو دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرنے کا موجب بنائے۔

اس ترتیب و طباعت کے مختلف مراحل پر جن احباب کو خدمت قرآن کا موقع نصیب ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی توفیق میں برکت بخشے۔ آمین

خاکسار

منیر الدین شمس

ایڈیشنل وکیل التصنیف

اپریل ۲۰۲۳ء

يٰۤاِسْرٰٓءِيْلَ اذْكُرْ وَاَنْعَمْتَى الْاَتِيَّ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىۤ

اے بنی اسرائیل! میرے اس احسان کو جو میں تم پر کر چکا ہوں یاد کرو اور (اس احسان کو بھی) کہ

فَضَّلْتُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾

میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔

حَلَّ لُغَاتٍ - بَنِي إِسْرَائِيلَ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو بائبل کے بیان کے مطابق ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ تورات میں آتا ہے ”کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔“ (پیدائش باب ۳۲ آیت ۲۸) عبرانی کی لغت Analytical Hebrew and Chaldee میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب کے علاوہ ان کی نسل پر (بھی) یہ لفظ بولا جاتا ہے یعنی کبھی بنی اسرائیل کو خالی اسرائیل بھی کہہ دیتے ہیں۔ عربی اسرائیل کا عبرانی تلفظ يَسْمَرِ اِيْبِيْل ہے اور یہ مرگب ہے یسّر اور ایل سے۔ یسّر کے معنے ہیں جنگجو بہادر سپاہی۔ اور ایل کے معنے ہیں خدا۔ پس يَسْمَرِ اِيْبِيْل کے معنے ہوئے خدا کا بہادر سپاہی Warrior or Soldier of God۔ عربی زبان کے لحاظ سے یہ لفظ اِسْمَرِ اور اِيل سے مرکب ہے گو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلیۃً عبرانی لفظ ہو اور عربی میں مستعار طور پر استعمال ہوتا ہو لیکن عربی زبان اور عبرانی زبان درحقیقت ایک ہی ہیں اور ہماری تحقیق میں عبرانی زبان عربی کی بگڑی ہوئی صورت ہے یورپین مصنفوں میں سے بھی بعض اس خیال کے ہیں گو اکثر مذہبی تعصب کی وجہ سے ان دونوں زبانوں کو ایک اور زبان کی شاخ ہی قرار دیتے ہیں بلکہ بعض تو عربی کو عبرانی کی شاخ تک قرار دے دیتے ہیں لیکن یہ موقع اس بحث کا نہیں اس موقع کے مناسب حال اس قدر کہنا کافی ہے کہ عربی اور عبرانی کا اشتراک ایک مسلمہ حقیقت ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں عربی ہے اور عبرانی زبان میں اس کی شکل بدل گئی ہے اور ہمزہ نے یاء کی شکل اختیار کر لی ہے۔ عربی زبان میں اَسْمَرِ الرَّجُلُ کے معنے ہیں قَبِيْضٌ عَالِيَهُ وَاَتَّخَذَهَا (اقرب) یعنی فلاں شخص اپنے مد مقابل پر غالب آ گیا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان معنوں کے اعتبار سے اِسْمَرِ کے معنے ہوں گے وہ شخص جس کے اندر بہادری اور قوت ہو اور وہ اپنے مد مقابل پر غلبہ پا کر اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ اگر عبرانی کے تلفظ اور رسم الخط کو دیکھا جائے تو يَسْمَرِ کے معنے ہیں اَللَّيْنِ وَالْاَلْفِيَاذُ (لسان) کسی کی بات کو آسانی سے قبول کر لینا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔

لفظ اِئِيلِ عربی زبان میں خدا تعالیٰ کے معنوں میں نہیں آتا۔ ہاں اگر غور کیا جائے تو اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ پر ہی صادق آتے ہیں کیونکہ یہ آل سے بنا ہے اور آل کا اسم فاعل اِئِيلُ بنتا ہے اور اِئِيلِ اس سے صفت مُشَبَّہ کا صیغہ ہے۔ آل کے معنی ہیں سناٹس یعنی اس نے نگہداشت کی۔ چنانچہ کہتے ہیں آل الرَّجُلِ اَهْلُهُ اُمِّي سَنَسَهُمْ کہ فلاں شخص نے اپنے کنبہ کی پوری نگہداشت کی (اقرب) نیز کہتے ہیں آل الْمَلِكِ الرَّعِيَّةِ کہ بادشاہ نے اپنی رعیت کی نگرانی رکھی اور رعیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور کی تدبیر کی۔ نیز کہتے ہیں آل عَلَى الْقَوْمِ۔ وَوَلِيَ کہ وہ قوم پر بادشاہ ہو گیا۔ پس اِئِيلُ کے معنی ہوئے مدبر، حاکم، بادشاہ اور اِئِيلُ کے معنی ہوں گے ایسی ہستی جس کی ذات میں تدبیر امور اور حکومت اور بادشاہت کی صفات پائیداری کے ساتھ پائی جاتی ہیں اور یہ صفات سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتیں۔ کیونکہ وہی ایک ذات ہے جوازی اور ابدی ہے۔ آل کے ایک معنی لوٹنے کے ہیں ان معنوں کے لحاظ سے اِئِيلِ کے معنی ہوں گے کہ وہ ذات جس کے اندر لوٹنے کی صفت پائیداری اور ہیشگی کے ساتھ پائی جاتی ہے اور یہی معنی بلفظ دیگر تَوَّابٌ کے ہیں۔ یعنی بار بار رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر لوٹنے والا۔

الغرض پہلے مادہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کے معنی مندرجہ ذیل ہوں گے (۱) ازلی ابدی بادشاہ (یعنی خدا تعالیٰ) کا سخت گرفت رکھنے والا بندہ (۲) ازلی ابدی مدبّر ہستی کا سخت گرفت رکھنے والا بندہ (۳) بار بار لوٹنے والے کا (یعنی تَوَّابِ خدا کا) بہادر بندہ۔

دوسرے مادہ یعنی يَسَّرُ کے لحاظ سے اسرائیل کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ کا پورا مطیع و فرمانبردار اور اس کے اخلاق کو اپنے اندر لینے والا۔ عبرانی زبان چونکہ عربی سے نکلی ہے اس لئے اگرچہ اسرائیل کا تلفظ عبرانی میں بدل گیا اور اِسْرَ کو يَسَّرُ اور اِئِيلِ کو اِيلِ (نرم زبان سے یعنی زبر اور زیر کے درمیانی تلفظ سے) کر دیا گیا اور عربی زبان جو کہ اپنے اصل معنی کا انکشاف کرتی ہے عبرانی نے اسے محدود کر دیا۔ کیونکہ عبرانی میں اسرائیل کے معنی صرف خدا کے جنگجو بہادر سپاہی کے ہیں لیکن عربی زبان میں جہاں یہ معنی بھی بالوضاحت پائے جاتے ہیں وہاں ایک اور معنی کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ یہ لفظ يَسَّرُ سے بھی صفت مُشَبَّہ کا صیغہ بن سکتا ہے اور یہ لفظ اس خاص حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انبیاء کی فطرت میں پائی جاتی ہے یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لئے سر تسلیم خم رکھنا۔ گویا اسرائیل اس شخص کو کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو اور اس کے احکام کے ماننے کے لئے ہر وقت اپنے تئیں تیار رکھے۔ ان معنوں کی تصدیق تاج العروس والے نے بھی کی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ مَعْنَاكَ صَفْوَةٌ اللّٰهُ وَقَيْلٌ عَبْدُ اللّٰهِ کہ

اسرائیل کے معنے ہیں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کے احکام کا فرمانبردار۔ بعض لوگوں نے اس کے معنے سِرِّی اللہ کے کئے ہیں (تاج) سِرِّی کے معنے عربی زبان میں صاحب شرف و مروت اور فیاض کے یا معزز شریف سردار کے ہیں۔ لیکن

Hebrew and English Lexicon of the Old Testament

میں اس بات کی تصریح کر دی گئی ہے کہ یَسْرٌ کے حقیقی معنے سِرِّی کے نہیں ہاں اس سے ملتا جلتا مفہوم ہے (اصل) بات یہ ہے کہ یَسْرٌ چونکہ جنگجو بہادر کو کہتے ہیں اور ایسا شخص ہی سردار لشکر ہو سکتا ہے جو بہادر اور جنگجو ہو اور عرب لوگ بھی ایسے شخص کو سردار مانتے تھے جو صاحب شرف اور مروت اور فیاض ہو اور ایسا شخص ہی جنگوں میں پیشرو ہو سکتا تھا تو گو یا ان معنوں کے لحاظ سے یَسْرٌ کے معنے سِرِّی کے مشابہ ہو گئے۔

أُذْكُرُوا امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اور ذَكَرَ الشَّيْءَ (يَذْكُرُ ذِكْرًا وَتَذَكَّرًا) کے معنے ہیں حَفِظَهُ فِي ذَهَبِهِ کسی چیز کو اپنے ذہن میں یاد کر لیا اور جب ذَكَرَ الشَّيْءَ بِلِسَانِهِ کہیں تو معنے ہوں گے قَالَ فِيهِ شَيْئًا کہ اس نے کسی بات کے متعلق اپنی زبان سے کچھ کہا۔ اور ذَكَرَ لِفُلَانٍ حَدِيثًا کے معنے ہیں قَالَهُ لَهُ كَوْنِي بَاتِ بِيَانِ كِي جَبْ ذَكَرَ مَا كَانَ قَدْ نَسِيَ کا فقرہ بولیں تو اس کے معنے ہوں گے فَظَنَ بِهِ كَسِي بَهُولِي هُوِي بَاتِ كِي يَادِ تَا زِه هُوِي۔ (اقرب) امام راعب لکھتے ہیں اَلَّذِي تَارَةً يُقَالُ وَيُرَادُ بِهِ هَيْئَةُ لِلنَّفْسِ بِهَا يُمَكِّنُ لِلْإِنْسَانِ اَنْ يُحْفَظَ مَا يَفْتَنِيهِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ کہ ذکر کا لفظ بول کر کبھی نفس کی وہ ہیئت مراد لی جاتی ہے جس کے ذریعے سے انسان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ معلوم شدہ باتوں کو یاد رکھ سکے وَهُوَ كَالْحِفْظِ اِلَّا اَنَّ الْحِفْظَ يُقَالُ اِعْتِبَارًا بِأَحْوَاذِهِ وَالدِّكْرُ يُقَالُ اِعْتِبَارًا بِإِسْتِحْضَارِهِ۔ اور ان مذکورہ بالا معنوں میں ذکر کا لفظ حفظ کے لفظ کے ہم معنی ہے ہاں حفظ اور ذکر ہر دو کے مفہوم میں تھوڑا سا امتیاز ہے حفظ کسی شخص کے یاد کرنے پر اس وقت بولیں گے جب وہ ذہن میں بعض باتوں کو جمع کرتا چلا جائے اور ذکر اس کے اس طور پر یاد رکھنے کو کہیں گے کہ اس کو وہ باتیں مستحضر ہیں اور جب چاہے انہیں استعمال کر لے وَتَارَةً يُقَالُ لِحُضُورِ الشَّيْءِ الْقَلْبِ أَوِ الْقَوْلِ اور کبھی دل میں کسی امر کا خیال لانے یا زبان پر کسی بات کے لانے کا نام ذکر رکھا جاتا ہے وَلِلَّذِي قِيلَ اَلَّذِي كُرِيَ كُرَانٌ ذِكْرٌ بِالْقَلْبِ وَ ذِكْرٌ بِاللِّسَانِ اِسى لئے کہتے ہیں کہ ذکر دو طرح ہوتا ہے (۱) قلبی ذکر (۲) زبانی ذکر۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَرَّحَ بِانِ ذِكْرٍ عَنْ نَسِيَانٍ وَ ذِكْرٌ لَاعَنْ نَسِيَانٍ بَلْ عَنْ اِدَامَةِ الْحِفْظِ کہ خواہ قلبی ذکر ہو یا قولی ہر دو کی دو دو قسمیں ہیں۔ (۱) بھول جانے کے بعد کسی بات کا یاد کرنا (۲) یا بغیر بھولنے کے یاد رکھنا (مفردات) پس اُذْكُرُوا

کے معنی ہوں گے۔ تم یاد کرو۔

نِعْمَتِي النِّعْمَةُ کے معنی ہیں (۱) الطَّيْبَةُ وَالْمَيْتَةُ احسان۔ (۲) مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقٍ وَمَالٍ وَغَيْرِهِ۔ وہ مال یا رزق یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو بطور انعام ملے۔ (۳) الْمَسْرُوقَةُ۔ خوشی۔ (۴) الْيَوْمِ الْبَيْضَاءِ الصَّالِحَةُ ایسا احسان جس میں کوئی کدورت اور کمی نہ ہو۔ وَفِي الْكُلِّيَّاتِ النِّعْمَةُ فِي أَصْلِ وَضْعِهَا ”الْحَالَةُ الَّتِي يَسْتَلِدُّ بِهَا الْإِنْسَانُ“ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اشْتَهَرَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ النِّعْمَةَ بِالْكَسْرِ لِلْحَالَةِ وَبِالْفَتْحِ لِلْمَرَّةِ۔ اور کلیات اَبی البقاء میں یوں لکھا ہے کہ نعمت اصل وضع کے لحاظ سے اس حالت کو کہتے ہیں جس سے انسان لذت اُٹھاتا ہے اور یہ اس بناء پر ہے کہ حالت بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں فَعْلَةٌ اور کسی کام کے ایک ہونے کا اظہار کرنے کے لئے فَعْلَةٌ کا وزن لاتے ہیں اور نِعْمَةٌ کی زیر سے چونکہ فَعْلَةٌ کے وزن پر ہے اس لئے اس میں نعمت والی حالت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وَنِعْمَةُ اللَّهِ۔ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ لِعَبْدٍ مِمَّا لَا يَتِمُّ لِي غَيْرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ آيَاتَهُ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے بندے پر وہ احسان ہے جس کے بعد بندہ اس کے متعلق کسی اور سے خواہش نہیں رکھتا۔ اس کی جمع أَنْعَمٌ اور نِعْمٌ آتی ہے اور جب فُلَانٌ وَاسِعُ النِّعْمَةِ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے وَاسِعُ الْمَالِ یعنی فلاں مالدار ہے۔ (اقرب)

أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْعَمْتُ أَنْعَمَ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔

أَنْعَمْتُ إِنْعَامٌ سے ہے۔ انعام کے معنی فضل کرنے اور زیادہ کے ہیں۔ (اقرب) یہ لفظ ہمیشہ اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ منعم علیہ یعنی جس پر احسان ہوا ہو عقل والی ہستی ہو۔ (مفردات) غیر ذوی العقول کی نسبت مثلاً گھوڑے بیل کی نسبت کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں شخص نے اس گھوڑے یا بیل پر انعام کیا ہاں یہ کہیں گے کہ فلاں انسان پر انعام کیا۔

فَضَّلْتُكُمْ فَضَّلْتُكُمْ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے اور فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ کے معنی ہیں۔ جَعَلَ لَهُ مَرْبِيَّةً عَلَيْهِ وَحَكَمَ لَهُ بِالْفَضْلِ دوسرے کے مقابل پر اس کو خوبی کے اعتبار سے عمدہ قرار دیا۔ اور خوبیوں کی بنا پر اسے دوسروں سے افضل قرار دیا۔ نیز فَضَّلَهُ کے معنی ہیں صَيَّرَهُ أَفْضَلَ مِنْهُ اسے دوسروں کے مقابل ممتاز اور افضل قرار دیا (اقرب) پس فَضَّلْتُكُمْ کے معنی ہوں گے میں نے تم کو فضیلت دی اور دوسروں سے ممتاز بنا دیا۔

الْعَالَمِينَ عَالَمٌ کی جمع ہے اور مخلوق کی ہر صنف اور قسم عَالَمٌ کہلاتی ہے۔ (مفردات امام راغب) اور عَالَمُونَ یا عَالَمِينَ کے سوا اس کی جمع عَالَمٌ یا عَوَالِمٌ بھی آتی ہے اور غیر ذوی العقول کی صفات میں سے وَن

یا بیان سے صرف عالم یا یا سم و لفظوں کی جمع بنتی ہے۔ اور عالم مخلوق کو اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس سے خالق کا پتہ لگتا ہے (اقرب) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عالم کی جمع عالمون یا عالمین تب بنائی جاتی ہے جبکہ ذوی العقول کا ذکر ہو۔ مثلاً انسان، فرشتے وغیرہ۔ مگر یہ قاعدہ لغت کے بھی خلاف ہے۔ اور قرآن کریم کے محاورہ کے بھی خلاف۔ لغت کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس پر شاہد ہے۔ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ قَالَ لَيْسَ حَوْلَكَ إِلَّا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ۔ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ۔ قَالَ رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ۔ (الشعراء: ۲۲، ۲۳، ۲۴) اس آیت میں عالمین میں انسانوں کے سوا آسمان زمین اور ان کے درمیان کی سب اشیاء اور مغرب اور مشرق اور ان کے درمیان کی سب اشیاء کو عالمین میں شامل بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ حم سجدة میں ہے۔ قُلْ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ بِأَلَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكِ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ۔ (حم سجدة: ۱۰، ۱۱) اس آیت میں بھی زمین اور پہاڑوں وغیرہ کو عالمین میں شامل کیا گیا ہے۔

الْعَالَمِينَ کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک حضرت مسیح موعودؑ بھی تحریر فرماتے ہیں۔ إِنَّ الْعَالَمِينَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ... سِوَاءَ كَانٍ مِنَ الْعَالِمِ الْأَرَوَّاحِ أَوْ مِنَ الْعَالِمِ الْأَجْسَامِ... أَوْ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَغَيْرِ هُمَا مِنَ الْأَجْرَارِ (اعجاز السح وروحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۱۳۹، ۱۴۰) یعنی عالم سے مراد جاندار اور غیر جاندار سب اشیاء ہیں۔ اسی طرح سورج، چاند وغیرہ کی قسم کے اجرام فلکی۔ غرض سب جاندار یا غیر جاندار اس میں شامل ہیں۔

جو صرف ذوی العقول کے لئے اسے قرار دیتے ہیں وہ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (قلم: ۵۳) کی آیت سے استدلال کرتے ہیں مگر یہ استدلال درست نہیں۔ کیونکہ جب اس کا استعمال غیر ذوی العقول کے لئے قرآن کریم میں موجود ہے تو اس آیت کے متعلق صرف یہ کہا جائے گا کہ عام لفظ خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے چنانچہ قرآن کریم میں یہی لفظ اس سے بھی خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے فرماتا ہے وَآتَى فَضَلْتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرة: ۴۸) اے یہود ہم نے تم کو سب جہانوں پر فضیلت دی ہے حالانکہ مراد صرف اپنے زمانہ کے لوگ ہیں نہ کہ ہر زمانہ کے لوگ۔ کیونکہ خیر الامم مسلمانوں کو کہا گیا ہے۔ پس خاص معنوں کا استعمال جبکہ عام معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے اس کے معنوں کو محدود نہیں کرتا۔ اور حق یہی ہے کہ عالمین میں ہر قسم کی مخلوق شامل ہے۔ خواہ جاندار

ہو یا غیر جاندار۔

تفسیر - آیت ہذا میں بنی اسرائیل کو آخری کلام پر ایمان لانے کی طرف مزید

توجہ کا مبذول کرانا اس آیت میں ایک اور ذریعہ سے بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ کے آخری کلام پر ایمان لانے کی طرف توجہ دلائی ہے پچھلے رکوع میں تو انہیں اس طرف متوجہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ سے تم نے ایک عہد کیا تھا خدا تعالیٰ نے اس عہد کے متعلق اپنی ذمہ داری پوری کر دی لیکن تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اس لئے خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم رہ گئے۔ اب پھر ایک نیا کلام تمہاری کتب کی دی ہوئی خبروں کے مطابق نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو نئے سرے سے تم پر خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہونے لگیں گے۔ اب اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ محسن کی محبت تو شریفوں کا خاصہ ہے۔ خدا تعالیٰ کے تم پر بیجا احسان ہیں تمہاری قوم کو ادنیٰ حالت سے اٹھا کر اس نے ایسی ترقی دی کہ دنیا کی بہترین قوموں میں سے بنا دیا پھر کیوں اس کے احسان کی قدر نہیں کرتے اور اس کے پیغام کو رد کرتے ہو۔ احسان کی قدر کرو اور اپنے محسن سے منہ نہ موڑو۔

آیت وَ اِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے مراد ساری قومیں **اِنِّي فَضَّلْتُكُمْ** سے یہ مراد نہیں کہ اگلی پچھلی سب قوموں پر فضیلت دی بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی۔ قرآن شریف میں اُمت محمدیہ کی نسبت فرمایا ہے کہ یہ تمام امتوں سے بڑھ کر ہے جیسا کہ فرمایا۔ **كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** (آل عمران: ۱۱۱) اور فرمایا۔ **وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا** (البقرة: ۱۴۳) یہ امر کہ **عَلَى الْعَالَمِينَ** سے مراد اسی زمانہ کے لوگ ہیں قرآن شریف کی اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے۔ **اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰى اٰدَمَ وَ نُوحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَّ اٰلَ عِيسٰى عَنِ الْعَالَمِيْنَ** (آل عمران: ۳۴) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ **عَالَمِيْنَ** سے مراد اپنے اپنے زمانہ کے لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے جن انبیاء اور لوگوں کا ذکر ہے وہ مختلف زمانوں میں گزرے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے ہر ایک تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت رکھتا تھا۔ کیونکہ اگر آدم تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ نوح پر اور دوسرے بزرگوں پر بھی جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے ان کو فضیلت حاصل تھی۔ اس صورت میں ان دوسرے بزرگوں کی نسبت کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ان کو تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔

عالم سے مراد ارد گرد دیا خاص زمانہ کے لوگ پس بلاشبہ **عَالَمِيْنَ** سے مراد خاص زمانہ کے لوگ ہیں۔ ان آیات کے علاوہ ایک اور آیت بھی **عَالَمٌ** کے معنوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ سورہ حجرج ۵ میں حضرت لوط کے ذکر میں

آتا ہے کہ جب وہ چند مہمانوں کو اپنے گھر لے آئے تو شہر والوں نے ان سے کہا اَوْ لَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (الحج: ۷۱) کیا ہم نے تجھے غیر قوموں کے لوگوں کو شہر میں لانے سے منع نہیں کیا تھا اس جگہ عَالَمِينَ سے مراد اردگرد کے لوگ ہیں نہ کہ اگلی پچھلی نسلوں کے آدمی۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں جہاں عَالَمِينَ کا لفظ استعمال ہوا ہے ضروری نہیں کہ اپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہو۔ بلکہ اس کے معنی اردگرد کے لوگ یا اسی زمانہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہی دونوں معنی آیت زیر تفسیر میں مراد ہیں۔

بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت بخشنے جانے سے مراد روحانیت کے سب میدانوں میں فضیلت بخشنے جانا ہے اس آیت میں فَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فرمایا ہے اَللّٰس نہیں فرمایا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت کئی رنگ میں تھی۔ عالمہ کے معنی جیسا کہ سورۃ فاتحہ (آیت نمبر ۲) کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے اس گروہ یا قسم کے ہیں جو خدا تعالیٰ کے لئے بطور نشان ہوتا ہے پس عَالَمِينَ کا لفظ مختلف قسم کی خصوصیات رکھنے والے گروہوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے روحانی علوم میں تم کو ترقی ملی تھی۔ اگر اَللّٰس ہوتا تو ایک قسم کی ترقی ہی اس سے سمجھی جاسکتی تھی مگر عَالَمِينَ کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ روحانیت کے سب میدانوں میں انہیں فضیلت بخشی گئی۔ کیا بلحاظ شریعت کے، کیا بلحاظ روحانیت کے، کیا بلحاظ اخلاقِ فاضلہ کے۔ غرض ہر قسم کے صاحب کمال لوگ ان میں پیدا ہوئے۔ جو اس زمانہ کے یا اردگرد کی قوموں کے دوسرے صاحب کمال لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ

اور اس دن سے ڈرو کہ (جس دن) کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا قائم مقام نہ بن سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی

مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۹﴾

سفارش منظور کی جاوے گی اور نہ اس سے (کسی قسم کا) معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جاوے گی۔

حَلَّ لُغَاتٍ - اتَّقُوا امر مخاطب کا جمع کا صیغہ ہے۔

الْمُنْتَفِعِينَ الْمُتَّفِعِينَ متقی کی جمع ہے جو اتَّقَى کا اسم فاعل ہے۔ **إِتَّقَاءٌ** وَفَى سے بابِ إِفْتِعَالِ

کا مصدر ہے۔ وَفَى کے معنی ہیں بچایا، حفاظت کی اور اتَّقَى کے معنی ہیں۔ بچا۔ اپنی حفاظت کی (اقرب) مگر اس لفظ

کا استعمال دینی کتب کے محاورہ میں معصیت اور بُری اشیاء سے بچنے کے ہیں اور خالی ڈر کے معنوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ وَقَايَةً کے معنی ڈھال یا اس ذریعہ کے ہیں جس سے انسان اپنے بچاؤ کا سامان کرتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اتقاء جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو انہی معنوں میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی نجات کے لئے بطور ڈھال بنا لیا۔

لفظ تقویٰ کا استعمال قرآن مجید میں اور اس کے معنی قرآن کریم میں تقویٰ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے گزرو تو کیا کرتے ہو، اس نے کہا یا اس سے پہلو بچا کر چلا جاتا ہوں یا اس سے پیچھے رہ جاتا ہوں یا آگے نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر طرح اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے ایک شاعر (ابن المعتز) نے ان معنوں کو لطیف اشعار میں نظم کر دیا ہے وہ کہتے ہیں۔

خَلَّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا ذَلِكَ التَّقَى
وَاصْنَعْ كَمَا شِ فَوْقَ أَرْضِ الشُّوْكِ يَحْذَرُ مَا يُزِي
لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

(ابن کثیر سورۃ بقرۃ زیر آیت ۱۷۱)

یعنی گناہوں کو چھوڑ دے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے یہ تقویٰ ہے اور تو اُس طریق کو اختیار کر جو کانٹوں والی زمین پر چلنے والا اختیار کرتا ہے یعنی وہ کانٹوں سے خوب بچتا ہے اور تو چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھ کیونکہ پہاڑ کنکروں سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔

يَوْمَ مَا يَوْمَهُ اس کے معنی مطلق وقت کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے۔ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (الحج: ۴۸) خدا تعالیٰ کا بعض دن ہزار سال کا ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

يَوْمًا كَيَوْمِ نَدَى وَيَوْمَ طَعَانٍ

میرے ممدوح پر دو ہی قسم کے وقت آتے ہیں۔ یا تو وہ سخاوت میں مشغول ہوتا ہے یا دشمنوں کو قتل کرنے میں۔ اسی طرح عرب کہتے ہیں۔ يَوْمًا كَيَوْمِ نُدْعٍ وَيَوْمِ بُؤْسِ آجِ الدَّهْرِ۔ یعنی زمانہ دو حال سے خالی نہیں یا تو انسان کے لئے نعمتیں لاتا ہے یا تکالیف لاتا ہے۔ (لسان العرب)

اسی طرح سیبویہ کا قول ہے کہ عرب کہتے ہیں۔ أَنَا الْيَوْمَ أَفْعَلُ كَذَا لَا يُدُونَ يَوْمًا بَعَيْنِهِ وَلَكِنَّهُمْ

يُرِيدُونَ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ (لسان العرب) یعنی جب کہتے ہیں کہ میں آج کے دن اس اس طرح کروں گا۔ تو اس سے مراد چوبیس گھنٹہ والا دن نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے مراد صرف موجودہ وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ جو قرآن کریم میں آتا ہے۔ اس سے بھی مراد معروف دن نہیں بلکہ زمانہ اور وقت مراد ہے۔ (لسان العرب) پھر لکھا ہے وَقَدْ يُرَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ مُطْلَقًا وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تِلْكَ اَيَّامُ الْهَجْرِ اَجَى وَقْتُهُ (لسان العرب) یعنی کبھی یوم سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ یہ دن فتنہ اور لڑائی کے دن ہیں۔ مراد یہ کہ یہ فتنہ اور لڑائی کا زمانہ ہے۔

لا تَجْزِي جِزْي سے مضارع منفی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اَلْجِزْيَةُ (جو جِزْي کا مصدر ہے) کے معنی ہیں اَلْمَكَافَاةُ عَلَى الشَّيْءِ کسی بات پر کسی کو کوئی بدلہ دینا اور جب کہیں کہ جِزْي الشَّيْءِ تو اس کے معنی ہوں گے گفنی ایک چیز دوسری چیز کی ساری باتوں میں قائم مقام ہوگئی اور پہلی چیز سے استغناء حاصل ہو گیا (قاموس) نیز کہتے ہیں جِزْيَةٌ فَلَا تَأْتِي حَقَّهَا اور مطلب یہ ہوتا ہے قَضَيْتُهُ کہ میں نے اس کے حق کو پورا کر دیا (لسان) وَتَأْتِي جِزْيٌ بِمَعْنَى اَعْلَى اور جِزْي کے معنی بعض اوقات اَعْلَى کے ہوتے ہیں یعنی کوئی چیز دوسری چیز کے قائم مقام ہوگئی (لسان) پس لَا تَجْزِي نَفْسُ کے معنی ہوں گے (۱) کوئی نفس قائم مقام نہیں بن سکے گا۔ (۲) کوئی شخص حقوق کو پورا نہیں کر سکے گا۔

نَفْسٌ اَلنَّفْسُ کے معنی ہیں (۱) اَلرُّوحُ - رُوح - (۲) اَلْجِسْمُ - جسم - (۳) وَيُرَادُ اَلنَّفْسُ اَلشَّخْصُ وَالْاِنْسَانُ بِجَمَلَتِهِ بعض اوقات نفس کا لفظ بول کر رُوح اور جسم کا مجموعہ انسان اور اس کا خاص تشخص مراد لیا جاتا ہے۔ (۴) اَلْعَظْمَةُ - عظمت (۵) اَلْعِزَّةُ عزت - (۶) اَلْهَيْبَةُ ہمت - (۷) اَلرَّادَةُ - ارادہ (۸) اَلرَّأْيُ رَأَى - (اقراب)

شَفَاعَةٌ شَفَعَ کا مصدر ہے۔ شَفَعَ کا دوسرا مصدر اَلشَّفَعُ ہے۔ اور اَلشَّفَعُ کے معنی ہیں حَمُّ الشَّيْءِ اِلَى مِثْلِهِ ایک چیز کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز ملا کر ان دونوں کو جمع کر دینا۔ اور اَلشَّفَاعَةُ کے معنی ہیں اِلَّا نَضْمًا اِلَى اٰخَرَ تَاخِرًا اَللّٰهُ وَسَائِلًا عَنْهُ کسی شخص کا کسی شخص کے ساتھ اس کی مدد کرنے کی خاطر مل جانا اور اس سے حق کا مطالبہ کرنے والے سے التجا کرنا کہ قصور وار کے قصور کو معاف کر دے۔ وَ اَكْتَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي اِنضِمَامٍ مَنْ هُوَ اَعْلَى حُرْمَةً وَمَرْتَبَةً اِلَى مَنْ هُوَ اَدْنَى اور شفاعت کے لفظ کا اکثر استعمال ایسے دو اشخاص کے ملنے پر ہوتا ہے جن میں سے ایک عزت و مرتبہ کے لحاظ سے اعلیٰ مقام رکھتا ہو اور دوسرا ادنیٰ۔ اور عزت و مرتبہ رکھنے والا

ہیں جو ان کے گناہوں سے بہر حال زیادہ رہیں گی اور گناہوں کا بدلہ دے کر بھی وہ جنت کے مستحق رہیں گے۔ اس آیت میں ان خیالات کا رد کیا گیا ہے تاہن اسرائیل کو نیکی کا اصل مفہوم معلوم ہو۔ اور وہ صد اقسوں کا انکار کر کے تباہ نہ ہو جائیں۔

انسانی فطرت میں اعلیٰ روحانی مقام کے حاصل کرنے کا احساس اور اس کا قرآن کریم میں ذکر اس آیت کا مضمون سمجھنے کے لئے اس امر کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ امر مرکز ہے کہ وہ اعلیٰ روحانی مقام کو حاصل کرے متمدن اقوام ہوں کہ غیر متمدن قبائل سب میں یہ احساس کمال کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ افریقہ کے حبشی ہوں یا میکسیکو کے قدیم باشندے یا آسٹریلیا کے ابتدائی نسلوں کے آدمی۔ سب اس خواہش سے متاثر نظر آتے ہیں بعض میں یہ احساس معین صورت میں پایا جاتا ہے اور بعض میں مبہم صورت میں مگر پایا سب میں جاتا ہے قرآن کریم نے اس احساس کو نہایت لطیف پیرایہ میں بیان فرمایا ہے فرماتا ہے۔ **وَ اِذْ اخَذْنَا مِنْ رَبِّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَكَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُمْ بِرِڪْمٍ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ شَهِدْنَا ؕ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ۔ اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرٰكُ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَاَنْتُمْ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ بَعْدِهِمْ ؕ اَقْتُلُوْا كُنٰتُمْ اِنَّمَا فَعَلْتُمْ اَلَمْ تَطْلُوْنَ (الاعراف: ۱۷۳، ۱۷۴)** اور یاد کر جبکہ تیرے رب نے تمام انسانوں کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو لیا اور انھیں اپنی جانوں پر گواہ بنایا۔ اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اے لوگو! یہ ہم نے اس لئے کیا تا تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس امر سے غافل تھے۔ یا یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد آنے والی نسل تھے۔ اس لئے لازماً ہم ان کے خیالات سے متاثر ہوئے پھر کیا تو ہم کو ان جھوٹ بولنے والوں کے جرم کے بدلہ میں سزا دے گا۔

ہر انسان تو حید کا اثر فطرتاً لے کر پیدا ہوتا ہے شرک کا رنگ اس کے ماں باپ اس پر چڑھاتے ہیں اس آیت میں نہایت لطیف استعارہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے آباء کی پیٹھوں سے ہی یعنی پیدائشی طور پر تو حید کا اثر لے کر نکلتا ہے اور شرک کا رنگ بعد میں اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اس پر چڑھاتے ہیں۔ اگر تو حید کا اثر خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی پر نہ ڈالا ہوتا تو انسان شرک کرنے میں معذور ہوتا لیکن اس نے تو حید کا اقرار پیدائشی طور پر اس کے اندر رکھ کر ہر انسان پر حجت کر دی ہے اب نہ تو وہ ناقصی کا عذر کر سکتا ہے اور نہ اپنے ماں باپ کے اثر کا عذر پیش کر سکتا ہے۔ اس فطری اثر کو ہم ہر قوم اور ہر قبیلہ میں محسوس کرتے ہیں ہمیشہ سے انسان اپنے پیدا کرنے والے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرتا آیا ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ لکن فطرت میں

پائی جاتی ہے اور کہیں باہر سے نہیں آئی لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سستی غفلت یا سہل انگاری کی وجہ سے اس مقصد کو پانے کے لئے سہل راستے تلاش کرتا رہتا ہے فلسفیانہ رنگ کے لوگ اس خواہش کو اس طرح پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چونکہ اس دنیا کے ماحول میں پیدا کیا ہے۔ اس لئے وہ ہم سے صرف اس قدر امید کرتا ہے کہ ہم اچھے شہری ہو کر رہیں۔ اگر ہم اس مقصد کو پورا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر ذمہ واریاں ہیں سب ادا ہو جاتی ہیں۔

فلسفیوں کی طرف سے عارضی قربانیوں کے ذریعہ سے قَالُوا ابلیٰ کا جواب دینے کی کوشش جو فلسفی ہیں وہ مختلف قسم کی عارضی قربانیوں سے قَالُوا ابلیٰ کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ قربانیاں بعض وقت ظاہر میں بڑی نظر آتی ہیں لیکن حقیقتاً اصل قربانی کا چھوٹا قائم مقام ہوتی ہیں۔ مثلاً بعض لوگ بجائے مستقل نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے اور رات اور دن اپنے نفس کی اصلاح اور اپنی خواہشات کی قربانی کا کٹھن راستہ طے کرنے کے اپنے بعض اعضاء کاٹ دیتے ہیں اور اسے اس دائمی اور پوری قربانی کا قائم مقام سمجھ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمہ حقیقی پاکیزگی کے حصول کے لئے مقرر کی ہے بعض لوگ شہوانی جذبات کو دبانے کی طاقت نہ پا کر اس عضو کو جو اس کا ذریعہ ہے کاٹ دیتے ہیں بعض لوگ غیبت جھوٹ اور بدکلامی سے رکنے کی ہمت نہ دیکھ کر اپنی زبان کٹوا دیتے ہیں بعض دنیا میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کے ذکر کی طاقت نہ پا کر جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں اور کبھی ننگے رہ کر اپنے خیال میں آسائش کی قربانی کرتے ہیں اور کبھی سر کے بل لٹک کر اپنی ذمہ واری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں (جیسا کہ ہندوؤں میں دیکھا جاتا ہے) لیکن یہ سب طریقے اپنے اصلی فرائض سے بھاگنے کے مترادف ہیں۔

اس خیال کا بطلان کہ کامل لوگ تبتیل سے کام لیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ انسان کی تکمیل کو ان چیزوں پر منحصر رکھتا تو اسے ایک متمدن انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر تبتیل یعنی نکاح سے بچنا نیکی کا اصل ذریعہ ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ دنیا کے کامل کرنے کا ذریعہ اسے فنا کرنا ہے جو کہ بالبداہت باطل ہے۔ اگر تبتیل ہی انسانی زندگی کا کمال ہے تو سب انسانوں کو کامل ہونا چاہیے اور اگر سب انسان ہی تبتیل اختیار کر لیں تو ایک نسل میں ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبتیل کمال کا ذریعہ نہیں بلکہ کامل لوگ تبتیل سے کام لیتے ہیں۔ لیکن یہ خیال بھی بالبداہت باطل ہے کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کاملوں کی نسل اس دنیا میں نہ چلے اور ناقصوں کی چلے۔ حالانکہ جانوروں میں اچھے گھوڑے اچھے بیل اور اچھے بھینسے اور اچھے اونٹ اور اچھے بکرے سے نسل لی جاتی

ہے۔ کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے اچھی نسل چلتی ہے۔ یہی طریق پھل دینے والے درختوں اور پھول لانے والے پودوں میں اختیار کیا جاتا ہے اور یہی طریق اناج اور سبزی ترکاری پیدا کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے پھر کس طرح ممکن ہے کہ اچھا اناج اچھے بیج سے اور اچھا پھل اچھے درخت کے پیوند سے اور اچھا جانور اچھے سانڈ سے پیدا ہو لیکن انسانوں میں سے اچھے لوگوں کو تو بے نسل رکھا جائے اور ناقص انسانوں سے نسل لی جائے۔ یہ ایسا غلط خیال ہے کہ کوئی معقول انسان اسے مان نہیں سکتا۔ بعض قوموں میں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس کے غضب سے بچنے کے لئے اولاد کی قربانی دی جاتی تھی قریباً دنیا کے ہر ملک میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں اس رسم کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روایا میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کا ایمان دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ اور اس رسم کو بھی ہمیشہ کے لئے مٹا دیا جائے۔ بعض قوموں میں مجرموں یا اجنبیوں کو پکڑ کر قربانی میں پیش کیا جاتا تھا۔ یہ سب غیر طبعی غیر حقیقی اور غیر معقول خیالات تھے جو ایک طرف خدا تعالیٰ کی صفات اور دوسری طرف انسانی فطرت کی پاکیزگی کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے رہے۔ اگر یہ لوگ غور سے کام لیتے تو سمجھ جاتے کہ یہ طریق تکمیل کا نہیں ہے تکمیل کا طریق دائمی طور پر برے جذبات سے چوکس رہنا اور ان سے بچنے کے لئے اپنے نفس سے برسرِ پیکار رہنا اور اس کے ساتھ متواتر اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنا اور اس کی مدد حاصل کرتے رہنا ہے۔

جہاں مذہب کے متعلق تفصیلی تعلیم نہ رکھنے والے گروہوں میں اوپر کے غلط خیال پھیلے ہوئے ہیں۔ وہاں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنی ضمیر کو تسلی دینے کے لئے اور تکمیل انسانی کی حقیقی جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے ان تین طریقوں کو ایجاد کر رکھا ہے جن کا ذکر اوپر کی آیت میں کیا گیا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ جن قوموں میں کوئی مکمل شریعت نہیں ان میں یہ خیالات نہیں پائے جاتے ان میں بھی ان خیالات کے پردے میں اپنے نفس کے خواطر کو چھپایا جاتا ہے مگر تفصیلی مذاہب کے پیروؤں میں ان امور کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور دوسرے امور کو کم۔ اس آیت میں اصل مخاطب بنی اسرائیل ہیں اور وہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اس وقت دو حصوں میں تقسیم تھے (۱) یہود (۲) نصاریٰ۔ ان دونوں قوموں میں حقیقی نیکی کے مٹ جانے پر تنزل کے زمانہ میں یہ خیالات زور پکڑ گئے تھے وہ ہر وقت چوکس رہ کر اور رات دن اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہ کر اس کو پانے کی بجائے یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر وہ شریعت اور آسمانی طریق کو نظر انداز بھی کر دیں تو کوئی ہرج نہیں۔ انھیں یا تو بزرگوں کے کفارہ کے

ذریعہ سے نجات حاصل ہو جائے گی یا بزرگوں کی شفاعت سے یا پھر ان نسلی تعلقات سے جو انھیں حاصل ہیں اور یا ان مالی قربانیوں کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔

یہودیوں اور نصاریٰ کے کفارہ کا غلط عقیدہ اور اس اب میں الگ الگ ان تینوں امور کے متعلق یہودی اور نصرائی تعلیم کو بیان کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس کا رد آیت لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ سے طرح یہ اقوام غلطی میں پڑ کر نجات کے حقیقی راستہ سے دُور جا چکی ہیں۔

پہلا باطل خیال جو یہود و نصاریٰ میں پیدا ہو گیا تھا اور اب تک موجود ہے اور جس کی تردید اس آیت میں قرآن کریم نے کی ہے یہ ہے کہ کوئی اور وجود ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جائیں گے۔ یہود میں یہ خیال ابتداءً قربانی سے پیدا ہوا یعنی جب تقویٰ کی حالت ان میں کمزور پڑ گئی۔ تو انہوں نے ان قربانیوں سے جن کا ان کے مذہب میں توبہ کی طرف توجہ دلانے کے لئے حکم تھا یہ تسلی حاصل کرنا شروع کر دی کہ یہ قربانیاں ان کے گناہوں کا حقیقی کفارہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ’اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس جیتے حلوان کے سر پر رکھے۔ اور بنی اسرائیل کی ساری بدکاریوں اور ان کے سارے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر کے ان کو اس حلوان کے سر پر ڈھرے۔ اور اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کے لئے معین ہو بیابان کو بھجوادے کہ وہ حلوان ان کی ساری بدکاریاں اپنے اوپر اٹھا کے ویرانے میں لے جائے گا اور وہ اس حلوان کو بیابان میں چھوڑ دے‘ (احبار باب ۱۶ آیت ۲۱، ۲۲) نیز فرماتے ہیں ’اور خطا کی قربانی کی بابت ایک بکرا۔ تاکہ اس سے تمہارے لئے کفارہ دیا جاوے‘ (گنتی باب ۲۸ آیت ۲۲) یعنی جہاں اور قربانیاں پیش کیا کرو وہاں اپنی خطاؤں کے کفارہ کے طور پر ایک بکرا بھی قربانی کیا کرو تا وہ بکرا تمہارے لئے کفارہ ہو جائے اور تمہارے گناہوں کو اپنی قربانی سے مٹادے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے احکام کو دیکھتے ہوئے ان کے یہ معنی کرنے کہ بکرے یا بیل کی قربانی انسانی گناہوں کا حقیقی کفارہ ہے بالکل درست نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری جگہ فرماتے ہیں ’یہ وہ شریعتیں اور حقوق اور احکام ہیں جو خداوند تمہارے خدا نے مجھے فرمائے کہ میں تمہیں سکھلاؤں تاکہ تم اس سر زمین میں جس کے وارث ہوتے جاتے ہو ان پر عمل کرو تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے ڈرتا رہے اور اس کے سب حقوق اور اس کے سب حکموں کو جو میں تمہیں فرماتا ہوں حفظ کرے، نہ فقط تو بلکہ تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا زندگی بھر۔ تاکہ تیری عمر کے دن بڑھائے جاویں۔‘ (استثناء باب ۶ آیت ۲۱)

پھر لکھا ہے ”سُن لے اے اسرائیل۔ خداوند ہمارا خدا اکیلا خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداوند اپنے خدا کو دوست رکھ اور یہ باتیں جو آج کے دن میں تجھے فرماتا ہوں تیرے دل میں رہیں اور تو یہ باتیں کوشش سے اپنے لڑکوں کو سکھلا۔ اور تو اپنے گھر میں بیٹھتے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا چرچا کر اور تو ان کو نشانی کے لئے اپنے ہاتھ پر باندھ۔ اور وہ تیری آنکھوں کے درمیان ٹیکوں کی مانند ہوں گے انہیں اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھ۔“ (استثنا باب ۶- آیت ۳۹ تا ۹۲) پھر لکھا ہے ”اور تم وہی کرو جو خداوند کی نظر میں راست اور درست ہے۔ تاکہ تمہارا بھلا ہو۔“ (استثنا باب ۶- آیت ۱۸) اوپر کے حوالوں سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل کی درستی اور نیکی اور توحید اور شریعت پر انتہا درجہ کا زور دیتے ہیں اور ان پر عمل کو ایسا ضروری قرار دیتے ہیں کہ انہیں تحریر و تقریر سے پھیلانے اور ایک دوسرے کی تلقین کرتے رہنے بلکہ درود پوار پر لکھ رکھنے تک کی تاکید کرتے ہیں۔ اس تعلیم کے بعد کیا ایک لمحہ کے لئے بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کے نزدیک قوم کی قوم کے گناہ ایک بکرے کی قربانی سے دُھل جائیں گے۔ اگر گناہوں کا دُھلنا اتنا ہی آسان ہے تو پھر اس قدر زور شریعت پر دینے بلکہ حق یہ ہے کہ شریعت نازل کرنے ہی کی ضرورت کیا ہو سکتی تھی۔

قرآن کریم کا یہود کو کفارہ کا عقیدہ رکھنے پر انتہا قرآن کریم یہود کے اس غلط خیال کی تردید فرماتا ہے اور یہود کو ہوشیار کرتا ہے اور اس دن سے ڈراتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور کوئی جان (قربانی کیا ہوا بکرا) کسی جان (یہودی) کی جگہ اس کے حضور میں قبول نہ کی جائے گی بلکہ اس دن اپنے نفس کی پاکیزگی ہی کام آسکے گی۔

جیسا کہ میں اوپر بتا آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو خطا کی قربانی کے بارہ میں ہے۔ اس کے معنی صرف یہ تھے کہ بکرے کی قربانی سے نفس کی قربانی کی طرف توجہ دلائی جائے اور بکرے کی قربانی صرف ایک تصویری زبان میں نصیحت تھی۔ مگر یہود نے سہل انگاری سے کام لے کر اصل نصیحت کو نظر انداز کر دیا۔ اور تمثیل کو اصل قرار دیکر نفس کی پاکیزگی کو پیچھے ڈال دیا۔ اور بکرے کی قربانی کو اپنے لئے کافی سمجھا۔

بنی اسرائیل پر کفارہ کے عقیدہ کا اثر اس قسم کے کفارہ کا اثر بنی اسرائیل کی طبیعت پر ایسا گہرا تھا کہ جب بخت نصر بادشاہِ بابل نے بیت المقدس کو مسامر کر دیا تو چونکہ قربانیاں اسی جگہ ہوتی تھیں ان کو یوں معلوم ہوا کہ گویا آئندہ گناہ بخشوانے کا کوئی ذریعہ ہی ان کے پاس نہیں رہا اور بہت سے آدمی اس صدمہ کی وجہ سے تارک الدنیا ہو گئے (جو کوش انسا نیکو پیڈیا زیر لفظ Atonement بحوالہ توستفتا باب ۱۵- آیت ۲) اور ایک بڑے عالم جو شاہن حنائیہ نے

واویلا کر کے کہا ”ہم پر افسوس اب ہمارے گناہوں کا کفارہ کس طرح ہوگا۔“ (جوئش انسا نیکو پیڈیا زیر لفظ Atonement بحوالہ ۱۳ اسدر باب ۹ آیت ۳۶)

مختلف انبیاء کی طرف سے یہودیوں کے خیالی کفارہ کے باطل ہونے کا اعلان میں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہرگز یہ منشاء نہ تھا کہ بکرے کی قربانی گناہوں کا کفارہ ہو جائے بلکہ ان کا منشاء صرف یہ تھا کہ بکرے کی قربانی سے نفس کی قربانی کی طرف توجہ دلائی جائے چونکہ ان کے زمانہ میں لوگ رسوم اور تصویری زبان کے شیدا تھے اللہ تعالیٰ نے نفس کی قربانی کا مضمون ان کے سامنے رکھنے کے لئے بکرے کی قربانی کی ایک رسم ان میں رکھ دی تاکہ سب قوم کی ایک مقررہ دن گناہوں کے ازالہ کی طرف توجہ ہو جائے مگر انہوں نے تصویری زبان کو تو بھلا دیا مگر تصویر کو قائم رکھا۔ بیت المقدس کے گرائے جانے پر جو صدمہ یہود کو ہوا۔ اس کی وجہ سے انبیائے وقت نے ان کے اس غلط خیال کی تردید شروع کر دی کہ انسان کے گناہ کوئی بیل یا بکرا اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ ہوسیع نبی فرماتے ہیں ”تم کلمہ ساتھ لے کے خداوند کی طرف پھرو۔ اور اُسے کہو کہ ساری بدکاری کو دُور کر اور ہمیں عنایت سے قبول کر۔ تب ہم اپنے ہونٹوں کے کچھڑے نذر گزار نہیں گے۔“ (ہوسیع باب ۱۳ آیت ۲) اس آیت میں ہوسیع نبی یہود کو بتاتے ہیں کہ عام کچھڑا یا بکرا کفارہ نہیں بنتا بلکہ توبہ اور تسبیح اور تہمید سے انسان گناہ کے اثر سے نجات پاتا ہے۔ گائے کے پیٹ سے نکلا ہوا کچھڑا نہیں بلکہ تائب کی زبان سے نکلا ہوا کچھڑا حقیقی کفارہ ہوتا ہے۔ اس سے چند سال پہلے عاموس نبی نے یہود کو ان قربانیوں پر بھروسہ کرنے سے اس طرح ہوشیار کیا۔ ”اور تم ہر چند سختی قربانیوں اور ہدیوں کو میرے آگے گزارانو گے۔ تو بھی میں انہیں قبول نہ کروں گا اور تمہارے موٹے بیلوں کے شکرانے کے ہدیوں کی طرف متوجہ نہ ہوں گا۔“ (عموس باب ۵ آیت ۲۲) پھر لکھا ہے کہ اصل علاج توبہ کا یہ ہے کہ ”تو ایسا کر کہ عدالت پانی کی طرح بہتی رہے اور راستی بڑی نہر کی مانند۔“ (عموس باب ۵ آیت ۲۴)

یہودیوں کی کفارہ کے متعلق ایک اور ایجاد یسعیاہ نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں ”اب آگے کو جھوٹے ہدیے مت لاؤ۔ لبان سے مجھے نفرت ہے۔ نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی کہ میں عید اور بیدینی دونوں کی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا جی تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری عیدوں سے بیزار ہے وہ مجھ پر ایک بوجھ ہیں۔ میں ان کے اٹھانے سے تھک گیا۔“ (یسعیاہ باب ۱۳ آیت ۱۴)

پھر لکھا ہے ”اپنے تئیں دھوؤ۔ آپ کو پاک کرو اور اپنے بُرے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دُور کرو۔ بد فعلی سے باز آؤ۔ نیکو کاری سیکھو۔ انصاف کے پیرو ہو۔ مظلوموں کی مدد کرو۔ یتیموں کی فریادرسی کرو۔ عورتوں

کے حامی ہو اب آؤ کہ ہم باہم جھگڑ کریں۔ خداوند کہتا ہے اگرچہ تمہارے گناہ قمر زمی ہوویں۔ پر برف کی مانند سفید ہو جائیں گے اور ہر چند وہ ارغوانی ہوویں پر اُون کی مانند اُجلے ہوں گے۔‘ (یسعیاہ باب آیت ۱۸ تا ۱۶) اسی بارہ میں میکاہ نبی فرماتے ہیں ”میں کیا لے کے خداوند کے حضور میں آؤں اور خدا تعالیٰ کے آگے کیونکر سجدہ کروں۔ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچھڑے کو لیکر اس کے آگے آؤں گا۔ کیا خداوند ہزاروں مینڈھوں سے یا تیل کی دس ہزار نہروں سے خوش ہوگا۔ کیا میں اپنے پلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض اپنے پیٹ کے پھل کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے ڈالوں گا۔ اے انسان اس نے تجھے وہ دکھایا ہے جو کچھ کہ بھلا ہے اور خداوند تجھ سے اور کیا چاہتا ہے مگر یہ کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو پیدا کرے اور اپنے خدا کے ساتھ فروتنی سے چلے۔“ (میکاہ باب ۶ آیت ۶ تا ۸) اُوپر کے حوالوں سے ثابت ہے کہ یہود کے دلوں میں یہ عقیدہ گھر کر چکا تھا کہ قربانیاں ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور مختلف نبیوں نے انہیں اس عقیدہ سے ہٹانے کی کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ بکروں، بیلوں بلکہ پلوٹھے لڑکوں کی قربانی تک سے خوش نہیں ہو سکتا۔ سابقہ گناہوں کے بد اثر سے بچنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ انسان دل سے اور زبان سے توبہ کرے اور راستبازی اور نیکو کاری کو اپنے عمل سے پھر قائم کرے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر نبیوں کی یہ تعلیم دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ بکروں اور بیلوں کی قربانی کی عظمت تو یہود کے دلوں سے کچھ کم ہوئی۔ مگر ایک اور قسم کا کفارہ انہوں نے ایجاد کر لیا اور وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں کی نکالیف ہماری قوم کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور اگر نیکو کار کسی زمانہ میں موجود نہ ہوں تو بے گناہ بچوں کو اللہ تعالیٰ مار کر قوم کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے چنانچہ یہود کی کتب میں لکھا ہے ”جس نسل میں نیک لوگ نہ ہوں بے گناہ سکول کے بچوں کو خدا تعالیٰ لے جاتا ہے۔“ (جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Atonement جو الہ شبات طالمود)

کفارہ کے متعلق مسیحی عقیدہ یہی خیال تھا جس نے بعد میں مسیحی کفارہ کے عقیدہ کے بننے میں مدد دی۔ قرآن کریم ان یہود کو مخاطب کر کے اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے یہود بنی اسرائیل کوئی جان (خواہ بکر اہو، خواہ بزرگ، خواہ بے گناہ سکول کا بچہ) کسی اور جان (یہودی) کی قائم مقام نہیں ہو سکتی اور قرآن کریم کی اس تعلیم سے جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے خود بنی اسرائیل کے نبیوں کو اتفاق ہے۔

بنی اسرائیل کا دوسرا حصہ وہ ہے جو مسیحی ہو چکا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح نے صلیب پر موت پا کر مسیحیوں کے گناہوں کو اُٹھایا۔ مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ قربانی جس کا حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا مسیح کی آمد کی خبر تھی۔ اور اس سے اس خیال کو تازہ رکھا گیا تھا کہ خدا کا ایک بڑے یعنی مسیح دنیا میں آ کر قربان ہوگا اور دنیا کے گناہ اُٹھالے گا۔ وہ کہتے

ہیں کہ ایک بڑہ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ سب دنیا کے گناہ اٹھالے لیکن خدا کے بیٹے میں یہ طاقت ہے کہ وہ دوسروں کے گناہ اٹھالے۔ وہ یہود کے اس خیال کو کہ ہمارے بزرگوں نے نکالیف اٹھا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیا اس دلیل سے رد کرتے ہیں کہ وہ بزرگ بہر حال گنہگار تھے۔ اور گنہگار گنہگار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پس مسیح جو بے گناہ تھا اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ دوسروں کے گناہ اٹھائے۔ مسیح بغیر کسی گناہ کے صلیب پر لٹکا یا گیا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر لٹکا اس طرح مسیح کے کفارہ کی نسبت وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ گناہ انسان کو آدم کے گناہ کے نتیجے میں ورثہ میں ملا۔ مسیح چونکہ بلا باپ تھے اس لئے وہ آدم کے گناہ کے وارث نہ تھے پس وہی اس قابل تھے کہ بے گناہ ہوتے اور چونکہ وہ بے گناہ تھے اس لئے وہی انسانوں کے گناہ کا کفارہ ہو سکتے تھے۔ بعض مسلمانوں نے ان کے اس خیال کی نادانی سے اس طرح تائید کر دی کہ وہ کہتے ہیں سوائے مسیح اور ان کی ماں کے کوئی مسیح شیطان سے پاک نہیں گویا وہ اس خیال کی وجہ سے مسیحوں سے بھی ایک ہاتھ آگے چلے گئے۔ اور جبکہ مسیحی صرف مسیح کو کلی طور پر بے گناہ کہتے ہیں وہ ان کی ماں کو بھی مسیح شیطان سے اس طرح پاک قرار دیتے ہیں جس طرح اور کوئی نبی مسیح شیطان سے پاک نہیں ہوا۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ)

مسیح کے بے گناہ اور مصلوب ہونے کے متعلق عیسائیوں کے پیش کردہ حوالہ جات کی حقیقت مسیح کے بے گناہ ہونے اور صلیب پر چڑھ کر لوگوں کے گناہ اٹھالینے کے متعلق حضرت مسیح کا ایک قول بھی نقل نہیں کیا جاتا اور نہ نقل کیا جا سکتا ہے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم سراسر اس کے خلاف ہے (اگر ایسا حوالہ ہوتا بھی تو وہ قابل اعتبار نہ تھا۔ کیونکہ موجودہ اناجیل سخت محرف مبدل ہیں) ہاں حواریوں کے بعض اقوال اس بارہ میں نقل کئے جاتے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں ”جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے مسیح ہمارے گناہوں کے واسطے مرا۔“ (۱۔ قمرتیوں باب ۱۵ آیت ۳) ”اس نے (یعنی مسیح نے) موت کی اذیت کے سبب جلال و عزت کا تاج پایا۔ تاکہ وہ خدا کے فضل سے سب آدمیوں کے لئے موت کا مزہ چکھے۔“ (عبرانیوں باب ۲ آیت ۹) ”تاکہ وہ (یعنی مسیح ان باتوں میں جو خدا سے نسبت رکھتیں لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے واسطے ایک رحیم اور دینا ندر سردار کا ہن ٹھہرے۔“ (عبرانیوں باب ۲ آیت ۱۷)۔ ”مسیح نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا کہ وہ ہمارے بدلہ میں لعنت ہوا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کاٹھ پر لٹکا یا گیا سو لعنتی ہے۔“ (گلتیوں باب ۳ آیت ۱۳) ان حوالوں اور بعض ایسے ہی اور حوالوں سے مسیحی نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسیح بے گناہ تھا۔ مگر وہ ایسی موت مرا جو لعنتیوں کی موت ہے کیونکہ وہ کاٹھ پر لٹکا یا گیا جو تورات کی رو سے لعنتیوں کی موت ہے پس معلوم ہوا کہ اسکی موت اس کے لئے نہ تھی بلکہ دوسرے گنہگاروں

کے لئے تھی تاکہ وہ ان کے لئے کفارہ ہو جائے۔

انجیل اور تورات میں کفارہ کا ردّ یہ خیال جیسا کہ اوپر یہود کے عقائد کے بارہ میں لکھا جا چکا ہے یہود کے اس خیال کا نتیجہ ہے جو ان میں آخری زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے کہ بزرگ لوگ جو تکلیف اٹھاتے ہیں اس کا سبب قوم کو گناہوں کی سزا سے بچانا ہوتا ہے مگر یہ خیالات بائبل کی دوسری آیات کے بالکل خلاف ہیں مسیح علیہ السلام خود فرماتے ہیں۔ ”اور جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کے میرے پیچھے نہیں آتا میرے لائق نہیں۔“ (متی باب ۱۰ آیت ۳۸) یہی بات بہ تغیر الفاظ دوسری انجیل میں بھی ہے۔ اس آیت کے مضمون سے ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنی صلیب سے لوگوں کی نجات وابستہ نہیں بتاتے بلکہ ہر اک شخص کا خود صلیب پر لٹکنا اس کی نجات کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی جو موسوی سلسلہ کے بانی تھے اور جن کی تعلیم کو قائم کرنے کا دعویٰ حضرت مسیح کرتے ہیں اس قسم کے کفارہ کی تردید پائی جاتی ہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چالیس راتوں کے لئے گئے اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑا بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کے تباہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ لکھا ہے۔ ”پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ ایک گردن کش قوم ہے۔ اب تو مجھ کو چھوڑ کہ میرا غضب اُن پر بھڑکے اور میں انہیں بھسم کروں۔ اور میں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔“ (خروج باب ۳۲ آیت ۹، ۱۰) اس کے بعد لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور شرک پر ناراضگی ظاہر کی۔ اور پھر لکھا ہے ”اور دوسرے دن صبح کو یوں ہوا کہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں کہ شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ کروں۔ چنانچہ موسیٰ خداوند کے پاس پھر گیا اور کہا کہ ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لئے سونے کا معبود بنایا اور اب کاش کہ تو ان کا گناہ معاف کرتا۔ مگر نہیں تو میں تیری مہلت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے دفتر سے جو تو نے لکھا ہے میٹ دے۔“ (خروج باب ۳۲ آیت ۳۰ تا ۳۲) ان آیات سے ظاہر ہے کہ اپنی قوم کو حضرت موسیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ دینے کا وعدہ کر کے پہاڑ پر گئے اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ یا تو ان کا گناہ یوں ہی معاف کر دے نہیں تو مجھے تباہ کر کے ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے۔ اس التجا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ تو تو گنہ گار ہے۔ گنہ گار گنہ گار کا کفارہ کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کو اپنے دفتر سے میٹ ڈوں گا۔“ (خروج باب ۳۲ آیت ۳۳) اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہ گار کے بدلہ میں کسی دوسرے کو سزا نہیں دیتا بلکہ اس کا قانون یہی ہے کہ وہ گنہ گار ہی کو سزا دیتا ہے۔ اس تعلیم کی موجودگی میں

یہ کہنا کہ مسیح اپنی قوم کے گناہوں کے لئے صلیب پر لٹکائے گئے، بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے۔ شائد کوئی کہے کہ یہ تعلیم حضرت مسیح کے وقت میں منسوخ ہوگئی مگر یہ تو ایک ازلی صداقت ہے اور ازلی صداقتیں منسوخ نہیں ہوا کرتیں۔ انسانوں کے متعلق احکام بدل سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی ستمیں نہیں بدل سکتیں۔

مسیحیوں کے کفارہ کے متعلق دلائل اور ان کا رد قرآن مجید میں جن دلائل پر مسیحیت کفارہ کی بنیاد رکھتی ہے وہ بھی عقلاً اور نقلاً غلط ہیں۔ مثلاً یہ کہ انسان کو ورثہ میں گناہ ملا ہے اس لئے وہ اس پر غالب نہیں آسکتا۔ گویا انسان کی فطرت ہی گنہگار ہے۔ قرآن کریم اس کو رد فرماتا ہے اور فرماتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین: ۵) ہم نے یقیناً انسان کو ہر قسم کی کجی سے پاک قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدَّىٰ لَدَىٰ الْفِطْرَةِ (بخاری کتاب الجنائز باب ما قبل فی اولاد المشرکین) ہر بچہ کامل فرمانبرداری کی رُوح لے کر پیدا ہوتا ہے۔

ورثہ میں گناہ کے ملنے کی حقیقت عجیب بات ہے کہ مسیحی ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ورثہ کے گناہ پر انسان غالب نہیں آسکتا۔ اور اس لئے کفارہ کے لئے ایک ایسے وجود کی ضرورت تھی کہ جو بلا باپ پیدا ہوا ہو لیکن دوسری طرف وہ اس امر کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دو ہی انسان جن کو ورثہ کا گناہ نہ ملا تھا یعنی آدم و حوا وہ دونوں گنہگار تھے۔ اگر وہ دونوں انسان جنہوں نے ورثہ میں گناہ نہ پایا تھا گنہگار تھے تو پھر یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جن کو ورثہ میں گناہ نہ ملے وہ پاک رہ سکتے ہیں۔ یہ امر تو ثابت ہوتا اگر کئی مثالیں ایسی بھی پائی جاتیں کہ ورثہ میں گناہ نہ پا کر لوگ بے گناہ رہ گئے ہوتے مگر مسیحیوں کے نزدیک تو دو ہی ایسے وجود تھے اور دونوں ہی گنہگار تھے۔

تیسرا وجود حضرت مسیح کا ان کے نزدیک ہے لیکن حضرت مسیح کی نسبت یہ کہنا کہ بوجہ بے باپ ہونے کے ان کو ورثہ میں گناہ نہ ملا تھا محض ایک تحکم کا فیصلہ ہے کیونکہ بچہ صرف اپنے باپ کی قوتوں کو ورثہ میں نہیں لیتا بلکہ ماں کی قوتوں کو بھی ورثہ میں لیتا ہے۔ نہ معلوم کس نادان نے اس مسئلہ کی ایجاد کرنے والے کے دل میں یہ شبہ ڈال دیا کہ بچہ صرف باپ کی خصلتیں لیتا ہے۔ بچہ جس طرح باپ کی خصلتیں لیتا ہے اسی طرح ماں کی خصلتیں لیتا ہے۔ بعض دفعہ بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کی شکل پر۔ بعض دفعہ باپ کی قوتوں کا حصہ اس میں زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کی قوتوں کا۔ اور بعض دفعہ برابر برابر۔ پس اگر مسیح کا باپ نہ تھا تو اس سے یہ کیونکر نتیجہ نکلا کہ ان میں ورثہ کا گناہ نہ آیا تھا۔ وہ حضرت مریم کے پیٹ میں پلے اور ماں کی خصوصیات کے وارث ہوئے اور عورت مسیحیوں کے نزدیک اسی طرح گنہگار ہے۔ جس طرح مرد۔ بلکہ بائبل کی رُوح سے شیطان نے چونکہ حوا کے ذریعہ سے آدم کو

ورغلا یا تھا۔ (پیدائش باب ۳ آیت ۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان عورت کو مرد کی نسبت گناہ کے زیادہ قریب سمجھتا تھا تبھی اس نے براہ راست آدم کو ورغلا نے کی کوشش نہ کی۔ پس جو بچہ بائبل کے بیان کے مطابق صرف حوا کی کمزوری لے کر پیدا ہوا۔ وہ گناہ کے زیادہ قریب تھا بہ نسبت اُن بچوں کے جو آدم کی نسبتی طاقت سے حصہ لیتے ہیں۔ خود مسیح علیہ السلام کی اپنی رائے اپنے بارے میں انجیل کے مطابق یہ ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص مسیح کے پاس آیا اور اُن سے کہا۔ ”اے نیک استاد میں کونسا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اس نے اس سے کہا تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا۔“ (متی باب ۱۹۔ آیت ۱۶، ۱۷) ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح اپنے آپ کو نیک نہیں قرار دیتے۔ پھر انہیں ایک ہی نیک قرار دے کر کفارہ کی بنیاد اس پر رکھنی کہاں تک درست فعل ہو سکتا ہے۔

انجیل میں تحریف کا ایک نمونہ اس جگہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس آیت کو پیش کر کے مسیحیوں کے کفارہ کے عقیدہ پر اعتراض کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آیت اُنیس سو سال^{۱۹} تک بقول مسیحیوں کے انجیل کا حصہ تھی۔ تازہ انجیل میں اُسے بدل دیا گیا ہے۔ کم سے کم اُردو کے تراجم میں سے اُسے بدل دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ غلط ہوتا رہا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے بلکہ یہ کہا تھا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے۔ مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اُنیس سو سال تک جو غلطی معلوم نہیں ہوئی وہ بانی سلسلہ احمدیہ کے اعتراض کے بعد کیونکر معلوم ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک دلیرانہ تحریف ہے جو اس زمانہ میں جبکہ پریس کو ایجاد ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے ہیں اور کروڑوں انجیل ہر زبان میں شائع ہو چکی ہیں کی گئی ہے۔ جو قوم اس قدر دلیرانہ تحریف پریس کی ایجاد کے بعد کر سکتی ہے اس سے پریس سے پہلے تحریف کی کیا کچھ امید نہیں کی جاسکتی۔ مگر یہ سب کچھ بائبل کے بیان کے مطابق ہے۔ ورنہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے اسلام کے نزدیک تو سب ہی بچے نیک فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ کے انبیاء خواہ مسیح ہوں یا موسیٰؑ یا اور کوئی۔ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے مسیح علیہ السلام کو کوئی خصوصیت حاصل نہ تھی۔

مسیح کے کفارہ کی دوسری بنیاد اور اس کا انہدام اس بارہ میں یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مسیح کے کفارہ کی دوسری بنیاد اس پر ہے کہ وہ لوگوں کی خاطر اور ان کے گناہ اُٹھانے کے لئے صلیب پر لٹک کر مرے۔ صلیب پر لٹک کر مرنے کی نسبت تو آگے چل کر متعلقہ آیات کے ماتحت لکھا جائے گا۔ اس جگہ کے مناسب حال میں

صرف اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ نہ تو مسیح کا اپنی مرضی سے صلیب پر لٹکنا انجیل سے ثابت ہے نہ اُن کا صلیب پر مرنا۔ انجیل سے اس بات کا ثبوت کہ مسیح نہ صلیب پر اپنی مرضی سے لٹکے اور نہ ہی صلیب پر انہوں نے وفات پائی انجیل میں صاف لکھا ہے کہ حضرت مسیح ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ وہ اُن کو صلیب سے بچالے۔ چنانچہ لکھا ہے ”کچھ آگے بڑھ کے (مسیح علیہ السلام) منہ کے بل گرا۔ اور دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے گزر جائے۔ تو بھی میری خواہش نہیں بلکہ تیری خواہش کے مطابق ہو۔“ (متی باب ۲۶ آیت ۳۹)۔

کیا عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ جو شخص آسمان سے گنہ گاروں کے گناہ اُٹھانے کے لئے اپنی مرضی سے آیا۔ وہ اس طرح رورود کرو اور سجدہ میں گر کر اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ مسیحی کہتے ہیں کہ مسیح نے ساتھ یہ بھی تو کہا کہ خدا کی مرضی ہو۔ بیشک ایسا ہی لکھا ہے مگر اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ مسیح کی اپنی مرضی لوگوں کے گناہ کا کفارہ بننے کی نہ تھی پھر وہ کفارہ ہو کس طرح گیا۔ کیا خدا تعالیٰ نے ظلماً ایک آکاری شخص کے کندھوں پر لوگوں کا بوجھ ڈال دیا۔ مسیح کی شدت مخالفت تو ہم اس حد تک دیکھتے ہیں کہ جب اُسے صلیب پر لٹکایا گیا تو بقول انا جیل اُس نے کہا ”ایلی۔ ایلی۔ لہما سبتانی۔“ (متی باب ۲۷ آیت ۴۶) یعنی اے میرے خدا! اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس حوالہ سے تو اس تشریح کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو مسیحی پہلے حوالہ کی کرتے ہیں یعنی مسیح علیہ السلام نے خدا کی مرضی کو مقدم کر لیا تھا۔ کیونکہ انجیل کہتی ہے کہ جب خدا کی مرضی ظاہر ہو ہی گئی اور مسیح صلیب پر لٹک گئے۔ تو انہوں نے بجائے رضامندی ظاہر کرنے کے خدا تعالیٰ سے نعوذ باللہ شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت مسیح کسی صورت میں بھی صلیب پر لٹکایا جانا نہیں چاہتے تھے۔ پس یہ کہنا کہ وہ انسانوں کے گناہ اُٹھانے کے لئے اس دنیا میں آئے تھے۔ بالکل باطل ہے۔ اگر وہ اس غرض کے لئے دنیا میں آئے ہوتے تو کبھی اس واحد ذریعہ سے جو مسیحیوں کے خیال میں لوگوں کو گناہ سے بچانے کا تھا۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرتے۔

اب رہا دوسرا سوال کہ کیا مسیح علیہ السلام واقعہ میں صلیب پر فوت ہوئے؟ سو اس بارہ میں اختصاراً خود حضرت مسیح علیہ السلام کی شہادت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس فقیہوں اور فریسیوں کا ایک وفد آیا اور درخواست کی کہ انہیں ایک نشان دکھایا جائے۔ اس پر حضرت مسیح نے فرمایا کہ ”اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا۔ کیونکہ جیسا یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ ویسا ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔“ (متی باب ۱۲ آیت ۴۰، ۳۹) یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں

زندہ گئے تھے اُس کے پیٹ میں زندہ رہے تھے اور اس کے پیٹ سے زندہ ہی نکلے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ مسیح علیہ السلام بھی قبر میں زندہ ہی گئے اور زندہ ہی رہے اور یہ خیال کہ مسیح صلیب پر مر گئے تھے ایک باطل خیال ہے اور جب وہ مرے ہی نہیں تو اُن کا دوسروں کے گناہوں کی خاطر موت قبول کرنے کا مسئلہ بھی سراسر باطل ٹھہرا۔ اب ہم حضرت مسیحؑ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہیں یا اُن لوگوں کو جو انہیں صلیب پر مار کر قبر میں مُردہ ہی کی حیثیت میں داخل کرتے ہیں اور مُردہ ہی کی حیثیت میں رکھتے ہیں۔

یہود پر انسانی قربانی کا اثر اس موقع پر یہ لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ انسانی قربانی ان معنوں میں کہ لوگ خود کسی انسان کو پکڑ کر اپنے گناہوں کے کفارہ کے طور پر قتل کر دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے موقوف ہو چکی تھی مگر پھر بھی یہود اس کے اثر سے بالکل آزاد نہ تھے۔ چنانچہ کتاب قاضیوں باب ۱۱ میں لکھا ہے کہ اسرائیلی سردار افتاح جب بنوعمون سے لڑنے کو نکلا تو اُس نے نذرمانی کہ اگر خدا تعالیٰ اُسے فتح دے تو سب سے پہلی چیز جو اُسے اُس کے گھر سے نکلتی ملے گی وہ اُسے قربان کرے گا۔ اس کی واپسی پر اُس کی لڑکی جو اُس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اُسے سب سے پہلی ملی۔ اور اس نے اُسے قربان کر دیا۔ اس قسم کی نذر بھی ایک قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گناہ ہماری کامیابی کے راستہ میں روک بنتے ہیں تو اُن کے اثر کو دور کرنے کے لئے ہم فلاں قربانی پیش کریں گے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ کوئی جان کسی جان کی قائم مقام کے طور پر خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش نہیں ہو سکتی نہایت سچا اور عقل کے مطابق دعویٰ ہے۔ اور خود یہود اور نصاریٰ کی کتب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اقوال اس کے مؤید ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو خیالات یہود اور نصاریٰ میں پائے جاتے ہیں صرف ایک باطل خواہش کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے بزرگوں کو اپنے گناہوں کے بدلہ میں قربانی کے طور پر پیش کر کے ان بزرگوں کی سخت ہنک کی ہے اور گناہ کا دروازہ بہت وسیع کر دیا ہے۔

شفاعت اور اس کے متعلق یہودیوں کے خیالات دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ اُس دن کوئی شفاعت بھی کسی کی طرف سے قبول نہ کی جائے گی۔ یہ بھی یہود و نصاریٰ کے رائج الوقت خیالات کے رد میں ہے۔ یہود نسی شفاعت کے قائل تھے اور اُن کا خیال تھا کہ اُن کا اولاد ابراہیم میں سے ہونا ان کے لئے شفاعت کا موجب ہوگا اور اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ یا اگر سزا دے گا تو نہایت محدود۔ قرآن کریم میں آگے چل کر اسی صورت میں اُن کے اس دعویٰ کا مندرجہ ذیل الفاظ میں ذکر ہے وَقَالُوا

كُنْ تَسَبَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً (البقرة: ۸۱) یعنی یہود کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ چند گنتی کے دنوں سے زیادہ کسی صورت میں نہ چھوئے گی۔ یہود کے اس خیال کے متعلق ریورنڈ سیل رکوع ۹ کی مذکورہ بالا آیت کے نیچے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ زمانہ حال کے یہود کا یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ کوئی یہودی سوائے واتن اور ابیرام اور دہریوں کے دوزخ میں گیارہ مہینوں یا حد سے حد ایک سال سے زیادہ نہ رہے گا۔ پرانے لٹریچر میں مجھے اس بارہ میں کوئی حوالہ نہیں مل سکا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانہ کی کتب تو بہت کچھ مٹ چکی ہیں اور زمانہ حال کے مصنفین اس غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یہود کبھی طور پر اور قومی طور پر بعث بعد الموت کے منکر ہیں۔ اور اس وجہ سے بعد الموت زندگی کی نسبت انہوں نے کاوش کر کے یہودی خیالات کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود بعد الموت زندگی کے قائل تھے چنانچہ اوپر کی آیت بھی اس پر شاہد ہے اور اوپر کی آیت بھی اس پر شاہد ہیں۔ اوپر کی آیت کے مفہوم کی تشریح کے سلسلہ میں بعض احادیث اسلامی کتب میں آتی ہیں جو اس امر کی مزید وضاحت کر دیتی ہیں۔ ابن اسحاق اور ابن جریر حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہر ہزار سال کے مقابل پر ہمیں ایک دن کا عذاب ملے گا۔ اس کے بعد ہمارا عذاب ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ بعض یہود کا خیال ہے کہ انہیں صرف چالیس دن تک دوزخ کا عذاب ملے گا کیونکہ انہوں نے چالیس دن تک بچھڑے کی پرستش کی تھی (سوائے واتن اور ابیرام کے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اور وہ ہلاک کر دیئے گئے تھے اور سوائے دہریوں کے) حضرت ابن عباسؓ کی روایات میں جو دنوں کے بارہ میں اختلاف ہے کسی روایت میں سات دن بیان ہوئے ہیں اور کسی میں چالیس دن۔ یہ اختلاف یہود کے مختلف قبائل کے مختلف خیالات کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے زمانہ میں بعث بعد الموت کے قائل تھے مگر ان کا خیال تھا کہ بوجہ اولادِ ابراہیم ہونے کے وہ لمبی سزا نہیں پائیں گے۔ اور یہ خیال ان کا کم سے کم کئی صدی پرانا تھا کیونکہ عرب میں رہنے والے یہود چند صدی پہلے سے عرب میں آ کر بسے تھے۔ پس ان کے وہ خیالات جو دوسرے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں (دیکھو حوالہ سیل) بہر حال چند صدی پہلے کے ہی تسلیم کرنے پڑیں گے۔

عہد نامہ قدیم میں بعث بعد الموت کا ذکر غور سے دیکھا جائے تو عہد نامہ قدیم سے بھی بعد الموت زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی مذہب اس بارہ میں تعلیم دینے کے بغیر مکمل کہلا ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ

بعد الموت زندگی ہی انسانی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس ذریعہ کے علم سے محروم رکھنا گویا مذہب کی غرض سے محروم رکھنا ہے۔ پس جو مذہب اس تعلیم میں کوتاہی کرتا ہے اپنے خلاف خود گواہی دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ کی کتاب استثنا باب ۳۱ آیت ۱۶ میں لکھا ہے ”تب خداوند نے موسیٰ کو فرمایا دیکھ تو اپنے باپ دادوں کے ساتھ سو رہے گا۔“ اس کے معنی صاف ہیں کہ مرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رُوح اپنے باپ دادوں کے ساتھ رکھی جائے گی۔ کیونکہ جسمانی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں نہیں بنی جہاں کہ ان کے باپ دادوں کی تھی۔ کیونکہ وہ جنگل میں فوت ہوئے اور ان کی قبر کا ظاہری نشان تک نہیں ملتا۔ تو رات میں لکھا ہے ”آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا۔“ (استثنا باب ۳۳ آیت ۶) پس معلوم ہوا کہ باپ دادوں کے ساتھ سونے سے مراد اُس جگہ رہنے کے ہی ہیں۔ جہاں ان کی رُوحیں موت کے بعد رہتی ہیں۔

اسی طرح تو رات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ”اور اس پہاڑ پر جس پر تو جاتا ہے مرجا اور اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی ہارون حور کے پہاڑ پر مر گیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔“ (استثنا باب ۳۲ آیت ۵۰) اس حوالہ سے بھی جسمانی موت کے بعد ایک اور زندگی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ نیک ارواح کسی خاص جگہ پر اکٹھی رکھی جاتی ہیں۔ ورنہ مرنے کے بعد اپنے باپ دادوں سے جا ملنے کے معنی ہی کیا ہوئے۔

حضرت ایوبؑ فرماتے ہیں ”کاش میں اُن بچوں کی طرح ہوتا جنہوں نے اُجالا نہیں دیکھا۔ یعنی بڑی عمر کو نہیں پہنچے۔ پھر ان کی حالت کی نسبت فرماتے ہیں ”وہاں شریستانے سے باز آتے اور تھکے ماندے چین سے ہیں وہاں اسیرل کے آرام کرتے ہیں اور ظالم کی آواز پھر نہیں سنتے۔ چھوٹے بڑے وہاں برابر ہیں۔ اور غلام اپنے آقا سے آزاد۔“ (ایوب باب ۳۳ آیت ۱۷ تا ۱۹) ان آیات سے بھی ایک دوسری زندگی کا پتہ ملتا ہے۔

یہودیوں کے شفاعت کا عقیدہ تراشنے کی وجہ سے حضرت داؤدؑ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ”تو میری جان کو قبر میں رہنے نہ دے گا اور تو اپنے قدوس کو سڑنے نہ دے گا۔ تو مجھ کو زندگانی کی راہ دکھلائے گا۔“

(زبور باب ۱۶ آیت ۱۰، ۱۱)

اسی طرح حضرت داؤدؑ فرماتے ہیں ”ان لوگوں سے اے خداوند جو تیرے ہاتھ ہیں دنیا کے لوگوں سے جن کا بچرہ اسی زندگانی میں ہے اور جن کے پیٹ تو اپنی نہانی چیزوں سے بھرتا ہے۔ ان کی اولاد بھی سیر ہوتی اور وہ اپنی باقی دولت اپنے بال بچوں کے لئے چھوڑ جاتے ہیں پر میں جو ہوں صداقت میں تیرا مونہہ دیکھوں گا۔ اور جب

میں تیری صورت پر ہو کے جاگوں گا تو میں سیر ہوؤں گا۔“ (زبور باب ۷۷ آیت ۱۴، ۱۵)

ان آیات سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نزدیک بعض لوگ اسی زندگی پر تکیہ کرتے ہیں لیکن مومن بعد از موت زندگی پر دھیان رکھتا ہے کیونکہ وہاں اُسے اللہ تعالیٰ کی کامل طور پر زیارت ہوگی اور اسکی رُوح اسی دنیا میں خدا کی صورت پر ہوگی یعنی کامل الصفات ہوگی۔

پھر حضرت داؤد خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ”اُس نے (یعنی داؤد نے) تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے اس کو عمر کی درازی ابد تک بخشی۔“ (زبور باب ۲۱ آیت ۴)

ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں کی تعلیمات سے بعد از موت زندگی کا ثبوت یقینی طور پر ملتا ہے اور جب ہم قرآن کریم کی شہادت کو ملا کر دیکھیں جو دشمن کے نزدیک بھی کم سے کم زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک معتبر تاریخی شہادت کی حیثیت ضرور رکھتی ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس بارہ میں زمانہ حال کے محققین کا یہ خیال کہ حضرت مسیحؑ سے پہلے کے اسرائیلی نبیوں کی تعلیم میں بعد از موت زندگی کا ثبوت نہیں ملتا۔ ایک بودا، کمزور اور بے دلیل خیال ہے اور قلتِ تدبیر کا نتیجہ ہے۔

حق یہ ہے کہ بعد از موت زندگی کی تعلیم یہود میں پہلے سے موجود تھی۔ اور وہ اپنے اعمال سے ڈرتے ہوئے اس زندگی کے عذاب کا خوف دل سے مٹانے کے لئے کچھ حیلے تراشتے تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ بوجہ نبیوں کی اولاد ہونے کے ان کی شفاعت سے ہم عذابِ اُخروی سے یا تو کھلی طور پر بچ جائیں گے یا بہت محدود عذاب ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ شفاعت گناہ پر دلیر کرنے کے لئے نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی رعایت تم کو نہ دی جائے گی۔ پس اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور خود ساختہ خیالات سے فریب کھا کر اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ یہود کو شفاعت کے بارہ میں غالباً اس امر سے بھی دھوکا لگا کہ اس دنیا میں پہلے بعض الہی عذابوں کا اُن کے متعلق فیصلہ ہوا، پھر نبیوں کی دعا سے وہ ٹل گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا۔ حالانکہ اس دنیا کو اگلے جہان سے کوئی نسبت نہیں۔ اس دنیا میں عذاب کے ٹلانے سے انسان کو پھر توبہ اور نیکی کا موقع مل سکتا ہے مگر دوسری زندگی تو آخری فیصلہ کا مقام ہے۔ وہاں اس قسم کی بخشش کے معنی تو یہ بنتے ہیں کہ دنیوی زندگی کو بالکل عبث قرار دے دیا جائے۔

عیسائیت اور مسئلہ شفاعت شفاعت کا خیال مسیحیوں میں بھی پایا جاتا ہے انجیل میں لکھا ہے ”اے میرے بچو! میں یہ باتیں تمہیں لکھتا ہوں تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور اگر کوئی گناہ کرے تو یسوع مسیح جو صادق ہے باپ کے پاس

ہمارا شفیق ہے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فقط ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔“

(یوحنا کا پہلا خط باب ۲ آیت ۱)

کیا کفارہ اور شفاعت ایک ہی چیز ہے؟ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفارہ اور شفاعت ایک چیز ہیں؟ اگر ایک چیز ہیں تو پھر ان دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کے کیا معنی ہیں۔ جہاں تک میرا علم جاتا ہے اس بارہ میں مسیحی کتب خاموش ہیں۔ مگر کفارہ اور شفاعت کے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ کفارہ سے یہ مراد ہے کہ کسی فعل کے ذریعہ سے کسی دوسرے فعل کے اثر کو مٹا دینا لیکن شفاعت کسی فعل یا بدلہ پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اس کے معنی سفارش کے ہیں خواہ سفارش کرنے والا گنہگار کے فعل کا کوئی بدلہ نہ دے وہ حج یا فیصلہ کنندہ سے اپنے تعلق کو جتا کر ایک گنہگار کے لئے معافی لیتا ہے۔ میرے نزدیک مسیحیوں نے اس فرق کو نہ سمجھ کر دونوں مطالب کو خلط کر دیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہودی بھی اور مسیحی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے اور اب بھی ہیں کہ ان کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ سے جو قرب حاصل ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا تو ان کو عذاب دے گا ہی نہیں، یا دے گا تو بہت ہی خفیف ساعذاب دے گا۔ اور اس خیال نے انہیں گناہوں پر دلیر کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے الہی صداقتوں پر غور کرنے کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ قرآن کریم ان کی اس غلطی کو ان پر آشکارا کر کے ان کی سوئی ہوئی فطرت کو جگاتا ہے اور سچائیوں پر غور کرنے کی قابلیت کو پھر زندہ کرتا ہے۔

کیا قرآن کریم شفاعت کا منکر ہے؟ اس موقع پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے جو مسیحی مصنف اسلام اور بانی اسلام کے متعلق پھیلاتے رہتے ہیں۔ مسیحی مصنف اس آیت اور ایسی ہی اور آیات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک شفاعت کا مسئلہ مسلم نہیں ہے اور یہ کہ شفیق ہونے کی مدعی صرف مسیح کی ذات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے رُوسے شفیق نہیں ہیں (ویری جلد ۲ صفحہ ۱۳۰ سورۃ بقرہ زیر آیت ۷۷) اور مسلمان جو ان کو شفیق کہتے ہیں یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے۔ جو بقول ان کے خلاف قرآن کمزور احادیث پر مبنی ہے۔ یہ خیال مسیحیوں کا غلط فہمی پر مبنی ہے۔ میں شفاعت کا مضمون تو جو آیات اس کے متعلق ہیں، ان کے نیچے انشاء اللہ بیان کروں گا یہاں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم شفاعت کا منکر نہیں بلکہ اس قسم کی شفاعت کا منکر ہے جو یہودیوں اور مسیحیوں کے عقیدہ کے مطابق ہے ورنہ وہ شفاعت کا قائل ہے۔ چنانچہ اسی سورۃ میں آگے چل کر یہ الفاظ موجود ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَآءِ اِلٰہٖٓ بِاِذْنِهٖ (البقرہ: ۲۵۶) یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی

اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ اسی طرح فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الزخرف: ۸۷) یعنی جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہاں شفاعت کا حق ہمارے اس بندے کو حاصل ہے جو حق کی گواہی دے رہا ہے اور یہ اس حق کی گواہی دینے والے کو جانتے ہیں۔ پس قرآن کریم شفاعت کا قائل ہے وہ صرف اس غیر معقول شفاعت کا منکر ہے جو لوگوں کو گناہوں پر دلیر کرتی ہے اور سچائیوں پر غور کرنے سے باز رکھتی ہے۔

آیت زیر تفسیر کے الفاظ بھی اس بارہ میں ہماری ہدایت کے لئے کافی ہیں۔ اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شفاعت نہ ہوگی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کی طرف سے شفاعت قبول نہ کی جائے گی گویا مجرم کی طرف سے شفاعت کے پیش ہونے کو رد کیا گیا ہے۔ مجرّد شفاعت کو رد نہیں کیا گیا۔

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ مِثْلُ عَدْلٍ فِي يَوْمِ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اس جملہ میں یہود و نصاریٰ کی تیسری غلطی کا جو ان کو گناہوں پر دلیر کرتی ہے رد کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ گنہ گار اپنے گناہوں کا بدلہ دے کر گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یہود اور نصاریٰ دونوں میں گناہوں کا بدلہ دینے کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک مسیحیوں میں یہود سے بھی زیادہ یہ عقیدہ ہے۔ جب ان میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ پادری کے پاس جاتا ہے اور وہ کچھ سزا اس کے لئے مقرر کر دیتا ہے جب وہ اس سزا کو بھگت لے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ یہود بھی قربانیوں وغیرہ کے ذریعہ سے گناہوں کا بدلہ دینے کے عادی تھے اور ہیں۔ اسلام گناہوں کا اس قسم کا بدلہ تسلیم نہیں کرتا تو گناہ کی معافی گناہ سے نفرت اور آئندہ کے اجتناب سے متعلق قرار دیتا ہے۔ اور حق یہی ہے کہ اس کے سوا گناہ کی معافی کی کوئی صورت نہیں۔ کسی کو قتل کر کے کوئی شخص صدقہ دے دے تو اس سے اس کا یہ گناہ کس طرح معاف ہو جائے گا۔ یا اگر جا میں بیٹھ کر کچھ روزے رکھ لے تو یہ مقصد کس طرح حاصل ہو سکے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے بھی بعض غلطیوں کے لئے دوسرے اعمال کو بطور کفارہ قرار دیا ہے لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جو عبادت کی ظاہری شکل کے بارہ میں ہیں۔ بندوں کی حق تلفی یا خدا تعالیٰ کی حق تلفی کے بارہ میں ایسی کوئی تعلیم اسلام کی نہیں۔ مثلاً کسی شخص سے حج کا کوئی رکن رہ گیا تو اس کے بدلہ میں کسی اور نیکی کا حکم دیدیا گیا ہے یا نادانستہ قتل ہو گیا ہے تو اسے ایک اور عمل بتا دیا گیا ہے یہ اس لئے نہیں کہ اس دوسرے عمل نے گناہ کو دور کر دیا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ ظاہری شکل کی غرض کسی اور طرح پوری ہو جائے یا انسان ہوشیار ہو جائے اور آئندہ بے احتیاطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کی تشریح وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان تین طریق کے سوا کوئی اور غیر طبعی طریق بھی انسان کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریق ہے کہ انسان صداقت کو سمجھنے اور اُسے قبول کرنے کے لئے پورا زور لگائے اور جہاں تک اس میں طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالائے۔ اور اس کی آواز پر لبیک کہتا رہے۔ پس یہود و نصاریٰ کو چاہیے کہ خود ساختہ طریقوں پر اٹھنا نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوئی صداقت آئی ہے اُسے قبول کریں ورنہ کوئی اور حیلہ اُن کے کام نہ آئے گا۔

پہلی آیت اور آیت زیر تفسیر کا تعلق پہلی آیت سے اس آیت کا یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ تم کو خدا تعالیٰ نے اپنے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ اس میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس فضیلت کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم خدا تعالیٰ کے شکر گزار اور فرمانبردار بندے بنتے۔ مگر تم اس کے برخلاف اس کی اطاعت کا جو اُتار پھینکنے کے لئے قسم قسم کے بہانے تلاش کرنے لگ گئے ہو اور خدا تعالیٰ کے فضل کو پیش کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور ناواقفوں کو دھوکا دینا چاہتے ہو۔

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے اس حالت میں نجات دی کہ وہ تمہیں بدترین عذاب

يَذَبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ^ط وَفِي ذَلِكُمْ

دے رہی تھی تمہارے لڑکوں کو (ایک ایک کر کے) ذبح کرتی تھی اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتی تھی اور تمہارے رب

بَلَاءٍ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٍ ﴿۵۰﴾

کی طرف سے اس (بات) میں (تمہارے لئے) ایک بڑی آزمائش تھی۔

حَلَّ لُغَاتٍ - آل - آل کے معنے ہیں کنبہ۔ قوم (اقرب) بعض کے نزدیک آل اہل سے منقول ہے (مفردات) اور اہل الرَّجْلِ کے معنے ہیں عَشِيرَتُهُ وَ دَوُو قُرْبَاهُ۔ آدمی کا کنبہ اور اس کے اقرباء۔ وَ اَهِلُّ الرَّجْلِ: رَوْجَتُهُ بعض اوقات اہل الرَّجْلِ بول کر یہ مراد ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی بیوی۔ اور جب کسی نبی کے لئے یہ لفظ بولیں اور کہیں اہل نَبِيِّ تو اس کے معنے ہوں گے اُمَّتُهُ نبی کی امت۔ اور اہل بیت کے معنے ہیں گھر میں رہنے والے۔ اور اَهِلُّ الْأَمْرِ ان لوگوں کو کہیں گے جو کسی اہم امور پر متعین ہوں۔ یعنی حُكَّام (اقرب) لیکن اہل

اور آل کے استعمال میں فرق کیا گیا ہے۔ لفظ آل بڑے انسانوں کی طرف ہی مضاف ہوگا اور کسی نکرہ کی طرف یا کسی زمانے اور مکان کی طرف نہیں ہوگا (مثلاً یہ نہ کہیں گے کہ آلِ رَجُلٍ یا آلِ زمانہ یا آلِ بَيْتٍ) لیکن اَهْلُ کا لفظ ہر ایک کی طرف مضاف ہو سکتا ہے۔ نیز آل کا لفظ کسی معزز اور شریف ذات کی طرف ہی منسوب ہوگا بمقابل اهل کے کہ وہ معزز اور غیر معزز ہر دو کی طرف مضاف ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آلُ السُّلْطَانِ یعنی بادشاہ کی قوم اور رعیت۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آلُ الحَيَّاطِ درزی کی آل۔ ہاں اَهْلُ الحَيَّاطِ کہہ سکیں گے۔ مگر لفظ اهل ہر ایک کے ساتھ استعمال ہو سکے گا یعنی اهلُ السُّلْطَانِ بھی کہہ سکیں گے اور اَهْلُ الحَيَّاطِ بھی۔ (مفردات) پس آلِ فرعون کے معنے ہوئے فرعون کی قوم۔

فِرْعَوْنَ لَقَبَ كُلِّ مَن مَلَكَ مِصْرَ یعنی لفظ فرعون مصر کے قدیمی بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ بعض کے نزدیک ہر سرکش اور متمرد و مغرور پر فرعون کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کی جمع فِرْعَوْنَةٌ ہے۔ (اقرب) لفظ فرعون فِرْعَوْنَ سے بنا ہے اور فِرْعَوْنَ کے معنے ہیں كَانَ ذَا دَهَاءٍ وَ نَكَرٍ کہ اس کے اندر ذہانت اور عقلمندی حد درجہ کی پائی جاتی ہے اور تَفَرَّعَ فُلَانٌ کے معنے ہیں طغی وَ تَجَبَّرَ سرکش ہوا اور شان و شوکت کا اظہار کیا۔ اور تَفَرَّعَ التَّبَاتِ کے معنے ہیں طَالَ وَ قَوِيَ کہ کوئی پودا لمبا اور مضبوط ہو گیا (اقرب) فرعون مگر مجھ کو بھی کہتے ہیں (اقرب) گویا مصر کے قدیمی بادشاہوں کا لقب ان کی حد درجہ ذہانت اور بڑھی ہوئی طاقت کی وجہ سے فرعون ہو گیا۔

يَسْؤُمُونَكُمْ سَامَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور سَامَ فَلَا تَانَ الْأَمَرَ کے معنے ہیں کَلْفَهُ أَيَاہُ کسی کو مشکل اور بامشقت کام کرنے کا حکم دیا۔ وَ أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِّ وَالْعَذَابِ اور اس فعل کا اکثر استعمال دُکھ اور شر پہنچانے کے معنوں میں آتا ہے۔ جب سَامَ البَائِعِ السَّلْعَةَ کہا جائے تو اس کے معنے ہوں گے عَرَضَهَا وَ ذَكَرَ ثَمَّتَهَا۔ سامان کو خریدنے والے پر پیش کیا اور قیمت کا ذکر کیا۔ جب سَامَهُ حَسَفًا کہیں تو معنے ہوں گے أَوْلَاهُ أَيَاہُ وَ أَرَادَهُ عَلَيْهِ کہ اُسے ذلت پہنچائی یا اس پر ذلت پڑنے کی خواہش کی۔ (اقرب)

مفردات راغب میں ہے کہ السَّؤْمُ کے اصل معنے ہیں الذَّهَابِ فِي ابْتِغَاءِ الشَّيْءِ کہ کسی چیز کی تلاش میں جانا فَهُوَ لَفْظٌ لِمَعْنَى مُرَكَّبٍ مِنَ الذَّهَابِ وَالْابْتِغَاءِ گویا لفظ سؤم درحقیقت مرکب معنے رکھتا ہے یعنی کسی جگہ جانا اور کسی چیز کو تلاش کرنا لیکن بعض اوقات صرف جانے کے معنے میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں سَامَتِ الْوَيْلُ کہ اونٹ چرنے کے لئے گئے اور کبھی صرف ابْتِغَاءِ یعنی چاہنے کے معنے میں۔ جیسے يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ

الْعَذَابِ کہ وہ تمہیں بدترین عذاب دینا چاہتے تھے۔ (مفردات)

تاج العروس میں ہے کہ سَامَةٌ کے معنی ہیں اَلرَّزْمَةُ وَجَشْمَةُ اس کے ذمہ کوئی کام لگایا اور اسے اس

کام کے کرنے کی تکلیف دی۔ (تاج)

الْعَذَابِ الْعَذَابِ كُلُّ مَا شَقَّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَمَمَعَهُ عَنْ مُرَادِهِ۔ عذاب کے معنی ہیں ہر وہ چیز جو

انسان پر شاق گزرے اور حصول مراد سے اُسے روک دے۔ وَفِي الْكُلِّيَّاتِ كُلُّ عَذَابٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ

التَّعَذُّبُ إِلَّا وَلَيْسَ هَذَا عَذَابًا بِهَا طَائِفَةٌ فَإِنَّ الْمُرَادَ الظَّرْفَ۔ اور کُلِّيَّاتِ (ابی البقاء) میں لکھا ہے کہ

عذاب سے مراد قرآن مجید میں عذاب دینا ہوتا ہے سوائے وَلَيْسَ هَذَا عَذَابًا بِهَا طَائِفَةٌ کی آیت کے۔ وہاں ظاہری سزا

مراد ہے (اقرب) الْعَذَابُ هُوَ الْإِجْبَاعُ الشَّدِيدُ۔ عذاب کے معنی ہیں سخت تکلیف دینا۔ فَالتَّعَذُّبُ فِي

الْأَصْلِ هُوَ حَمْلُ الْإِنْسَانِ أَنْ يَعْذَبَ أَيْ يَجُوعَ وَيَسْهَرَ۔ اگر مادہ کے لحاظ سے اُسے دیکھا جائے تو اس کے

معنی ہیں کہ کسی کو بھوکا اور بیدار رہنے پر آمادہ کرنا۔ کیونکہ عَذَابُ الرَّجُلِ کے معنی ہیں۔ اس نے کھانا پینا ترک کر

دیا۔ وَقِيلَ أَصْلُهُ مِنَ الْعَذَابِ۔ فَعَدَّ بِنْتُهُ أَيْ أَرَلْتُ عَذَابَ حَيَاتِهِ۔ بعض نے کہا ہے کہ عذاب عَذَابٌ سے

نکلا ہے۔ جس کے معنی میٹھے پانی کے ہیں۔ تَعَذُّبٌ کے معنی اور عَذَّبْتُ کے معنی ہیں کہ اُسے زندگی کی حلاوت سے

محروم کر دیا (مفردات) پس عَذَابِ کے معنی ہوئے (۱) تکلیف (۲) ایسی چیز جو زندگی کی حلاوت سے محروم کر دے

(۳) مقصود و حیات سے محروم کر دے۔

پس يَسُوءُ مَوْتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کے معنی ہوں گے (۱) وہ تمہیں بدترین عذاب دے رہے تھے۔ (۲) وہ

تمہیں بدترین عذاب دینا چاہتے تھے۔

يَذَّبِحُونَ ذَّبَحَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ذَّبَحَ ذَّبَحَ سے باب تفعیل ہے۔ ذَّبَحَ کے

معنی ہیں شَقَّ پھاڑ دیا۔ نیز اس کے معنی ہیں فَتَقَّ توڑ دیا۔ حَنَقَ گلا گھونٹ کر مار دیا۔ تَحَزَّ ذبح کیا۔ (اقرب)

لسان میں ہے الذَّبْحُ قَطْعُ الْحُلُقُومِ۔ ذَّبَحَ کے معنی ہیں گلا کاٹنا (لسان)۔ تاج العروس میں ہے الذَّبْحُ۔

الْهَلَاكُ کہ ذبح کے ایک معنی ہلاک کر دینے یا مار دینے کے ہیں (تاج)۔ اس جگہ ذَّبَحَ کے معنی مارنے یا گلا گھونٹ کر

مارنے کے ہیں۔ پس يَذَّبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ کے معنی ہوں گے (۱) وہ تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے (۲) وہ تمہارے

لڑکوں کو گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے۔

يَسْتَحْيُونَ اسْتَحْيَا سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اسْتَحْيَاهُ کے معنی ہیں أَبْقَاهُ حَيًّا

اُسے زندہ رہنے دیا۔ نیز لکھا ہے قَالَ الْيَحْيَىٰ اِسْتَحْيَاهُ اِسْتَبْقَاهُ وَاَلَمْ يَقْتُلْهُ كَالْيَحْيَىٰ كَيْفَ هِيَ - اِسْتَحْيَاهُ کے معنی ہیں کہ اُسے زندہ رہنے دیا اور اُسے قتل نہ کیا (لسان) پس يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کے معنی ہوں گے کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور قتل نہ کرتے تھے۔

بَلَاءٌ بَلَوْتُ الرَّجُلَ (بَلَاءٌ وَبَلَوًا) وَابْتَلَيْتُهُ کے معنی ہیں اِخْتَبَرْتُهُ میں نے اس کا امتحان لیا اور اِبْتَلَاكَ اللهُ کے معنی ہیں اِمْتَحَنَكَ - اللہ نے اس کا امتحان لیا اور اس سے اِسْمُ الْبَلْوَى - اَلْبَلَاءُ اَلْبَلِيَّةُ اور اَلْبَلَاءُ آتا ہے یعنی امتحان۔ نیز لکھا ہے اَلْبَلَاءُ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ کہ بلاء کے اندر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ بلائے خیر بھی اور بلائے شر بھی۔ چنانچہ کہتے ہیں اِبْتَلَيْتُهُ بَلَاءً حَسَنًا وَ بَلَاءً سَيِّئًا کہ میں نے اس کا اچھا امتحان لیا اور بُرا امتحان لیا۔ پھر لکھا ہے وَ اللهُ تَعَالَى يَبْلِي الْعَبْدَ بَلَاءً حَسَنًا وَ يَبْلِيهِ بَلَاءً سَيِّئًا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان ہر دو طرح سے لیتا ہے بلاء انعام سے بھی اور بلاء تکلیف سے بھی۔ نیز اَلْبَلَاءُ کے معنی انعام کے بھی لکھے ہیں (لسان) اَلْبَلَاءُ کے اصل معنی امتحان کے ہوتے ہیں لیکن امتحان چونکہ کبھی انعام کے ذریعہ سے اور کبھی سزا کے ذریعہ سے لیا جاتا ہے اس لئے بلاء کے اندر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ انعام کا امتحان بھی اور تکلیف کا امتحان بھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَ بَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ (الاعراف: ۱۶۹)

عَظِيمٌ عَظِيمٌ - عَظَمَ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور عَظَمَ الشَّيْءُ عِظْمًا وَ عَظَامَةً کے معنی ہیں کَبُرَ کوئی چیز بڑی ہوگئی۔ جب کہیں کہ عَظَمَ اَلْأَمْرُ عَلَى فُلَانٍ تو اس کے معنی ہوتے ہیں شَقَّ وَ صَعُبَ یعنی فلاں کام اس پر برداشت کرنا مشکل اور گراں ہو گیا (اقرب) پس عَظِيمٌ کے معنی ہوں گے (۱) بڑا (۲) گراں۔ مشکل۔

تفسیر۔ بنی اسرائیل پر خدا تعالیٰ کے متعدد احسانات اور ان کی تفصیل اس آیت سے

ان احسانات کی تفصیلات گنوانی شروع کی ہے جو ایک لمبے عرصہ سے بنی اسرائیل پر ہوتے چلے آئے تھے۔ چنانچہ پہلا احسان یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل مصر کے فرعون کے ماتحت غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ کو بھیج کر اس عذاب سے اُن کو نجات دلوائی۔

پہلا احسان بنی اسرائیل کو غلامانہ زندگی سے نجات دلوانا۔ بائبل میں بنی اسرائیل کی اس غلامانہ زندگی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ ”مصر میں ایک نیا بادشاہ جو یوسف کو نہ جانتا تھا پیدا ہوا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں۔ آؤ ہم ان سے دانشمندانہ معاملہ کریں تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جاویں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جاویں۔ اس

لئے انہوں نے اُن پر خراج کے لئے محصل بٹھلائے تاکہ انہیں اپنے سخت کاموں کے بوجھوں سے متاویں..... اور مصریوں نے خدمت کروانے میں بنی اسرائیل پر سختی کی۔ اور انہوں نے سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سب قسم کی خدمت کھیت کی کروا کے ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی ساری خدمتیں جو وہ کراتے تھے مشقت کی تھیں۔“

(خروج باب آیت ۱۳ تا ۲۸)

يَذَّبِحُونَ اَبْنَاءَكُمْ کے معنی لڑکوں کو ہلاک کرنے کے يَذَّبِحُونَ اَبْنَاءَكُمْ رعمسيس ثانی جس کے زمانہ میں حضرت موسیٰؑ پیدا ہوئے بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا اور بنی اسرائیل کی ترقی دیکھ کر اس نے ان کے لڑکے قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ مگر دانیوں کی نرم دلی کی وجہ سے اس ارادہ میں وہ پوری طرح کامیاب نہ ہوا اور آخر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے دریا میں پھینک دئے جایا کریں۔ اور لڑکیاں بچالی جائیں۔“ (خروج باب ۱ آیت ۲۲) طالمود میں بھی اسی مضمون کی روایات ہیں۔ اسی طرح اعمال باب ۷ آیت ۱۹ میں لکھا ہے:-

”یہاں تک کہ اس نے (فرعون نے) ان کے لڑکوں کو پھینک دیا تاکہ وہ جیتے نہ رہیں۔“

بعض لوگوں نے اس آیت میں ذبح کے لفظ سے دھوکا کھایا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک بنی اسرائیل کے بچوں کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا۔ حالانکہ تاریخ کی شہادت اس کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کے دھوکا کھانے کی یہ وجہ ہے کہ ذبح کا لفظ گلا کاٹ دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس کے معنی ہلاک کر دینے کے بھی ہیں۔ جن کے نظر انداز کر دینے کی وجہ سے ان معترضوں کو دھوکا لگا ہے۔ چنانچہ تاج العروس جلد ۲ صفحہ ۱۳۸ پر لکھا ہے۔ وَالذَّبْحُ: الْهَلَاكُ یعنی ذبح کے ایک معنی ہلاکت کے بھی ہیں۔ پس يَذَّبِحُونَ اَبْنَاءَكُمْ کے یہ معنی نہیں کہ وہ تمہارے لڑکوں کا گلا کاٹ دیتے تھے بلکہ یہ معنی ہیں کہ وہ تمہارے لڑکوں کو ہلاک کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت ۱۴۲ میں يَذَّبِحُونَ اَبْنَاءَكُمْ کی بجائے يَقْتُلُونَ اَبْنَاءَكُمْ کے الفاظ رکھ کر قرآن کریم نے يَذَّبِحُونَ کے معنی خود ہی کر دیئے ہیں کہ اس سے مراد گلا کاٹنا ہی نہیں بلکہ مار دینا ہے خواہ کسی طرح سے ہو۔

بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ایسے عذاب سے نجات دینے میں تمہارے لئے بڑا انعام تھا۔ یہ نجات بہت سے

انعامات کا موجب ہوئی۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو چھاڑا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور تمہاری نظروں

وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۱﴾

کے سامنے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا۔

حَلَّ لُغَاتٍ - فَرَقْنَا فَرَقَ سے متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے۔ اور فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ کے معنی ہیں

فَلَقْنَا ہم نے سمندر کو چھاڑا۔ (اقرب)

تَنْظُرُونَ نَظَرَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور نَظَرَهُ وَآيِهِ کے معنی ہیں أَبْصَرَهُ وَتَأَمَّلَهُ

بِعَيْنِهِ کسی پر اچانک نظر پڑنے کے بعد غور سے اسے دیکھنے کے لئے ٹکٹکی لگائی۔ نیز نَظَرَهُ کے معنی ہیں۔ مَدَّ

ظَرْفَهُ الْيَدَ أَوْ لَمَّ يَدَهُ کسی کی طرف آنکھ اٹھائی۔ خواہ پھر اسے دیکھ سکا یا نہ دیکھ سکا۔ (دونوں حالتوں میں نَظَرَ

کا لفظ اس پر بول سکتے ہیں) نیز کہتے ہیں نَظَرَ فِي الْأَمْرِ نَظْرًا۔ اور معنی یہ ہوتے ہیں کہ تَدَبَّرَهُ وَتَفَكَّرَ فِيهِ

يُقَدِّرُهُ وَيُقَيِّسُهُ نظر کے یہ بھی معنی ہیں کہ کسی امر پر غور کیا اور کسی معاملہ کو کسی اور معاملہ پر قیاس کر کے غور و فکر سے

اپنی رائے قائم کی۔ جب نَظَرَ بَيْنَ الثَّائِسِ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں حَكَمَهُ وَفَصَّلَ دَعَاوِيَهُمْ لوگوں

کے جھگڑوں کا سوچ بچار کر فیصلہ کیا اور یہ بتایا کہ ان میں سے اپنے دعوے میں صادق کون تھا اور جب نَظَرَ لِلْقَوْمِ

بولا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے ذَلِيَ لَهُمْ وَأَعَاتَهُمْ کہ لوگوں کو مصائب و مشکلات میں پھنسا دیکھ کر دل میں رحم

پیدا ہوا اور ان کی مدد کی۔ نَظَرَ الشَّيْءَ کے ایک معنی اِنْتَظَرَهُ کے بھی ہیں یعنی انتظار کیا۔ نیز اہل عرب کہتے ہیں

دَارِحٌ تَنْظُرًا إِلَى دَارِ فُلَانٍ أَمْحَى تَقَابُلَهُمَا۔ یعنی میرا گھر فلاں کے گھر کے بالمقابل ہے۔ (اقرب)

پس تَنْظُرُونَ کے معنی ہوں گے (۱) تم آل فرعون کا غرق ہونا دیکھ رہے تھے۔ (۲) تم آل فرعون کے غرق

ہونے کو دیکھ کر ان کے دعاوی کے جھوٹا ہونے اور اپنے دعاوی کے سچا ہونے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ (۳) تم آل فرعون

کے غرق ہونے پر رحم کھا رہے تھے کہ کاش وہ بدیاں نہ کرتے اور ہلاکت تک نوبت نہ پہنچتی۔ (۴) تم ان کی ہلاکت

کے منتظر تھے۔ (۵) ہم نے آل فرعون کو اس وقت غرق کر کے ہلاک کر دیا جب کہ تم بالکل ان کے بالمقابل تھے۔

تفسیر - فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ کے معنی کرنے میں مفسرین کا غلطی کھانا اور اس کے صحیح معنی

فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ کے لفظی معنی ہیں۔ جبکہ ہم نے تمہارے ذریعہ سے سمندر کو چھاڑا اور ان معنوں سے دھوکا کھا کر

اکثر مفسرین نے آیت کے یہ معنی کئے ہیں کہ بنی اسرائیل دریا پھاڑنے کا ذریعہ تھے۔ ان کو دریا میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو جوں جوں وہ آگے بڑھتے تھے دریا کا پانی سمٹتا جاتا تھا لیکن یہ معنی خود قرآن کریم کے الفاظ سے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِنْ اَصْرَبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَاقَ فَمَا كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظُّلُوْدِ الْعَظِيْمِ (الشعراء: ۶۳) یعنی ہم نے موسیٰؑ کو وحی کی کہ تو سمندر پر سونٹا مار۔ جب اس نے سونٹا مارا تو سمندر پھٹ گیا اور ہر کڑا ایک اونچے ٹیلے کی طرح نظر آتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کے پھٹنے کا ذریعہ ظاہر میں سونٹا تھا نہ کہ بنی اسرائیل۔ پس یہ معنی کہ بنی اسرائیل کے ذریعہ سے سمندر کو پھاڑا باطل ہوئے۔ اب یہ سوال ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بقاء عربی زبان میں تعلیل اور سببیت کے لئے بھی آتی ہے۔ اور آیت کے معنی یہ ہیں۔ کہ ہم نے تمہارے سبب سے سمندر کو پھاڑا۔ یعنی تمہیں نجات دینے کے لئے ہم نے ایسا کیا۔ دوسرے الفاظ میں فَرَقْنَا لَكُمْ الْبَحْرَ کے معنوں میں فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ آیا ہے۔ (دیکھو بحر محیط، کشاف، شرح مائة عامل زیر آیت ہذا)

فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ میں بنی اسرائیل کے سمندر سے ہو کر بیچ نکلنے کے معجزہ کی طرف اشارہ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ اس آیت میں اس معجزہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰؑ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اُس وقت دکھایا جبکہ حضرت موسیٰؑ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ اور ان کو واپس لے جانے کے لئے فرعون اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کر رہا تھا۔

خروج باب ۱۴ آیت ۲۱ تا ۳۱ میں لکھا ہے:-

”پھر موسیٰؑ نے دریا پر ہاتھ بڑھایا۔ اور خداوند نے بہ سبب بڑی پوری آندھی کے تمام رات میں دریا کو چلایا اور دریا کو سکھا دیا اور پانی کو دو حصے کیا۔ اور بنی اسرائیل دریا کے بیچ میں سے سکھی زمین پر ہو کے گزر گئے۔ اور پانی کی ان کے دہنے اور بائیں دیوار تھی۔ اور مصریوں نے پیچھا کیا۔ اور ان کا پیچھے کئے ہوئے وے اور فرعون کے سب گھوڑے اور اس کی گاڑیاں اور اس کے سوار دریا کے بیچوں بیچ تک آئے۔ اور یوں ہوا کہ خداوند نے پیچھے پہر اس آگ اور بدلی کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی۔ اور مصریوں کی فوج کو گھبرا دیا۔ اور ان کی گاڑیوں کے پہیوں کو نکال ڈالا۔ ایسا کہ مشکل سے چلتی تھیں۔ چنانچہ مصریوں نے کہا۔ کہ آؤ اسرائیلیوں کے مُنہ پر سے بھاگ جاویں۔ کیونکہ خداوند ان کے لئے مصریوں سے جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰؑ سے کہا کہ اپنا ہاتھ دریا پر بڑھا۔ تاکہ پانی مصریوں

اور ان کی گاڑیوں اور ان کے سواروں پر پھر آوے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ دریا پر بڑھایا۔ اور دریا صبح ہوتے اپنی قوت اصلی پر لوٹا۔ اور مصری اس کے آگے بھاگے۔ اور خداوند نے مصریوں کو دریا میں ہلاک کیا۔ اور پانی پھرا۔ اور گاڑیوں اور سواروں اور فرعون کے سب لشکر کو جو ان کے پیچھے دریا کے بیچ آئے تھے چھپالیا۔ اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل خشک زمین پر دریا کے بیچ میں چلے گئے۔ اور پانی کی ان کے دہانے اور بائیں دیوار تھی۔ سو خداوند نے اُس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے یوں بچایا۔ اور اسرائیلیوں نے مصریوں کی لاشیں دریا کے کنارے پر دیکھیں۔ اور اسرائیلیوں نے بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی۔ اور لوگ خداوند سے ڈرے۔ تب خداوند پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے۔“

قرآن کریم کے دیگر مقامات میں واقعہ ہذا کا ذکر قرآن کریم میں یہ واقعہ علاوہ اس آیت کے سورۃ شعراء ع ۴ اور سورۃ طہ ع ۴ میں بھی بیان ہوا ہے۔ چنانچہ سورۃ شعراء میں آتا ہے۔ **فَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَاَنْفَاقٌ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ** (الشعراء: ۶۴) یعنی ہم نے موسیٰ سے وحی کی کہ تو سمندر پر سونٹا مار۔ جب اس نے سونٹا مارا تو سمندر پھٹ گیا۔ اور ہر ٹکڑا ایک اونچے ٹیلے کی طرح نظر آتا تھا۔ پھر سورۃ طہ میں آتا ہے۔ **وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَسْرِ بِعَصَاكَ فَاَضْرِبْ بِهَا الْبَحْرَ يَنْفُصًا فَاصْطَفٰۤى مِنَ الْغُرٰٓمِ مِمَّا رَكَبُوْهُ فَاَجْرٌ لَّهِمْ يَوْمَئِذٍ ۗ وَمَا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ الْاٰلِ الْاُولٰٓئِیۡنَ اِلَّا كِبٰۤىۡرًا ۙ فَاَتَّبَعْنٰهُمۡ بِدَعْوَنِ الْفِرْعَوْنِ ۗ فَصَٰغِبْهُمْ وَاَسْبٰغِبْهُمْ مِنْ اٰیٰتِہٖۡ مَا عَشِیۡتُہُمْ ۗ وَاَصَلٰکَ فِرْعَوْنُ قَوْمًا وَّمَا هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا عٰرِفٰۤى ۙ** (طہ: ۸۰ تا ۸۱) یعنی ہم نے موسیٰ سے وحی کی کہ ہمارے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال لے جاؤ۔ اور سمندر میں سونٹا مار کر ان کے لئے خشک رستہ بنا دو۔ تم اس طرح اس کو پار کر لو گے اور تعاقب سے اور ڈوبنے سے نہ ڈرو گے۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں سمیت بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ لیکن سمندر کا ریلہ کچھ ایسا آیا کہ وہ غرق ہو گئے اور فرعون نے یوں اپنی قوم کو تباہی میں ڈالا اور بیچ نہ سکا۔

قرآن کریم کی آیات کے پیش نظر واقعہ کی کیفیت ان آیات کو ملا کر قرآن کریم کے بیان کے مطابق واقعہ کی کیفیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل ارض مقدس کے ارادہ سے چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ پہنچا۔ اسے دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرائے اور سمجھے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کی معرفت ان کو تسلی دلائی اور حضرت موسیٰؑ سے کہا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر میں ایک راستہ ہو گیا اور وہ اس میں سے آگے روانہ ہوئے۔ ان کے دونوں طرف پانی تھا جو ریت کے ٹیلوں کی مانند یعنی

اونچا نظر آتا تھا۔ لشکرِ فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ مگر بنی اسرائیل کے صحیح سلامت پارہونے پر پانی پھولونا اور مصری غرق ہو گئے۔

اس واقعہ کے سمجھنے کے لئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تمام معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کسی انسان کا ان میں دخل اور تصرف نہیں ہوتا۔ پس حضرت موسیٰؑ کا عصا اٹھانا اور سمندر پر مارنا صرف ایک نشانی کے لئے تھا۔ نہ اس لئے کہ حضرت موسیٰؑ کا عصا کا سمندر کے سمٹ جانے میں کوئی دخل تھا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے الفاظ سے ہرگز ثابت نہیں کہ سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور اس میں سے حضرت موسیٰؑ نکل گئے تھے بلکہ قرآن کریم میں اس واقعہ کے متعلق دو لفظ استعمال کئے گئے ہیں۔ ایک فَوْقَ اور ایک اِنْفَلَقَ کا۔ جن کے معنی جدا ہو جانے کے ہیں۔ پس قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اس واقعہ کی یہی تفصیل ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے وقت سمندر جدا ہو گیا تھا۔ یعنی کنارہ سے ہٹ گیا تھا اور جو خشکی نکل آئی تھی اس میں سے بنی اسرائیل گزر گئے تھے۔ اور سمندر کے کناروں پر ایسا ہو جایا کرتا ہے۔

بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آمدہ واقعہ کی مثال نیپولین کی لائف میں چنانچہ نیپولین کی لائف میں لکھا ہے کہ جب وہ مصر پر حملہ آور ہوا تو وہ بھی اپنی فوج کے ایک حصہ سمیت بحیرہ احمر کے کنارہ کے پاس جزر کے وقت گزرا تھا۔ اور اس کے گزرتے گزرتے مد کا وقت آ گیا اور وہ مشکل سے بچا۔ اس واقعہ میں معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایسے وقت میں سمندر کے سامنے پہنچایا جبکہ جزر کا وقت تھا۔ اور حضرت موسیٰؑ کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت پانی گھٹنا شروع ہو گیا۔ لیکن فرعون کا لشکر جب سمندر میں داخل ہوا تو ایسی غیر معمولی روکیں اس کے راستہ میں پیدا ہو گئیں کہ اس کی فوج بہت سست رفتار سے بنی اسرائیل کے پیچھے چلی۔ اور ابھی سمندر ہی میں تھی کہ مد آگئی اور دشمن غرق ہو گیا۔

سمندر دو ٹکڑوں میں پھٹا نہ تھا بلکہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا چنانچہ اس خیال کی تائید قرآن کریم کے الفاظ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (سورہ شعراء آیت ۶۴) بھی کرتے ہیں۔ جن کے یہ معنی ہیں کہ جب سمندر ہٹا تو ہر ایک ٹکڑا ایک اونچے ریت کے ٹیلے کی طرح ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن کریم کا یہ منشاء ہوتا کہ سمندر دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا تو کُل کا لفظ جو نکرہ مفرد پر آیا ہے کبھی استعمال نہ ہوتا۔ پس کُل کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس موقع پر سمندر پھٹا نہ تھا بلکہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ اور جیسا کہ اُن سمندروں میں ہوتا ہے جن کے کناروں پر چھوٹے گڑھے پانیوں کے ہوتے ہیں۔ سمندر کے ہٹنے پر وہ پانی کے مواقع پانی سے بھرے رہتے ہیں۔ ایسا ہی اُس وقت ہوا۔ بنی اسرائیل


کے ایک طرف سمندر تھا اور ایک طرف وہ چھوٹی چھوٹی جھیلیں جو سمندر کے کنارے پر واقع تھیں۔ اور جیسا کہ قاعدہ ہے درمیان میں گزرنے والوں کو وہ اٹھی ہوئی نظر آتی تھیں۔ چنانچہ بحیرہ احمر کے نقشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کنارے پر بہت سی جھیلیں ہیں جو پرانے زمانہ میں اور بھی زیادہ تھیں۔ جیسا کہ پرانے نقشہ جات سے ثابت ہے۔

آیت وَإِذْ قَرَفْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ... الخ کے متعلق سابق مفسرین کے خیالات جو معنی اس آیت کے

میرے نزدیک ہیں انہیں لکھنے کے بعد میں سابق مفسرین کے خیالات بھی لکھ دینے مناسب سمجھتا ہوں۔ سابق مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے نیل کا دریا پار کیا تھا۔ اور اس معجزہ کے بارہ میں انکا مزید خیال یہ ہے کہ دریا بارہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ یہ استدلال وہ سورہ شعراء کی آیت فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالضَّوَادِ الْعَظِيمِ (الشعراء: ۶۴) سے کرتے ہیں۔ ان بارہ ٹکڑوں سے اُن کے نزدیک یہ فائدہ تھا کہ بارہ قبائل الگ الگ گزر جائیں۔ اس بارہ میں انہوں نے اس قدر زور دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دریا میں سے گزرنے لگے تو چونکہ ہر دو فریق کے درمیان پانی کی دیوار حاصل تھی۔ بنی اسرائیل نے دریا میں سے گزرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک دوسرے گروہ ہم کو نظر نہ آئیں گے ہم دریا میں سے نہ گزریں گے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور خدا تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ پانی کی دیوار میں سونٹا داخل کرو۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ اور وہ سب ایک دوسرے کی آوازیں سننے لگے اور صورتیں دیکھنے لگے۔ (کشاف زیر آیت ہذا شعراء ۶۳) گو پانی اس طرح بستہ ہو گیا تھا کہ اس میں قائم رہنے والا سوراخ ہو سکتا تھا۔ اور پھر موسیٰ کا سونٹا اس قدر لمبا ہو گیا کہ وہ بارہ سڑکیں جس پر یہود کے بارہ قبیلے گزر رہے تھے۔ اُن سب کو ایک ہی وار میں وہ سونٹا چیر گیا۔ اور سب میں ایک ہی وقت میں سوراخ کر گیا۔ اس سوال پر کسی مفسر نے روشنی نہیں ڈالی کہ جن بنی اسرائیل میں اس قدر محبت تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہ پاتے تھے اور ایک دوسرے کے متعلق تسلی پائے بغیر موسیٰ جیسے نبی کے ساتھ بھی دریا پار ہونے کے لئے تیار نہ تھے۔ اُن کے لئے بارہ راستے الگ الگ کیوں بنائے گئے تھے؟ وہ ایک ہی راستہ پر سے سب کے سب کیوں نہ گزر سکتے تھے؟

جس پانی سے حضرت موسیٰؑ اپنی قوم کو لے کر گزرے وہ نیل کا پانی نہیں تھا اصل بات یہ ہے کہ مفسرین ایک خطرناک غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں کہ وہ اس پانی کو جس میں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گزرے تھے نیل کا پانی سمجھتے ہیں لیکن یہ امر واقعات سے درست ثابت نہیں ہوتا۔ تاریخ اور آثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جیسا کہ آج کل بھی ہے۔ صدر مقام کی آبادی نیل کے مشرق کی

طرف تھی۔ نہ کہ مغرب کی طرف۔ ایک مختصر نقشہ اس وقت کی آبادی کا نیچے دیا جاتا ہے۔



اس نقشہ سے اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے کہ کنعان جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گئی تھی نیل کے شمال مشرق کی طرف ہے اور جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے۔ فراعنہ کے وقت میں ان کا صدر مقام گوشن کے علاقہ میں تھا جسے وادی شمیلات بھی کہتے ہیں۔ (انسائیکلو پیڈیا بلیکا زیر لفظ عمسیس) اور یہ وادی دریائے نیل کے مشرق میں ہے اور اس جگہ سے جو شخص کنعان کو جائے اسے دریائے نیل سے گزرنا ہی نہیں پڑتا نیل اس کے مغرب میں رہ جاتا ہے۔ پس اس آیت میں دریائے نیل کے گزرنے کا ذکر نہیں بلکہ کسی دوسرے پانی سے گزرنے کا سوال ہے۔ اور چونکہ اس مقام سے لے کر قادس تک جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوئی دریا واقع نہیں (جیسا کہ نقشہ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے)

جہاں سے حضرت موسیٰ مع ساتھیوں کے گزرے تھے وہ سمندر یا اس کا کوئی بڑھا ہوا حصہ تھا اس لئے وہ جگہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی بہر حال سمندر یا اس کا کوئی بڑھا ہوا حصہ تھا۔ پس یہ معنی کہ ایک بہتا ہوا دریا عصائے موسیٰ کی ضرب سے رک گیا تھا اور اس کے ایک طرف کا پانی ایک طرف نہج ہو کر رہ گیا تھا اور دوسری طرف کا پانی دوسری طرف نہج ہو کر رہ گیا تھا اور اس میں سونٹا مار کر سوراخ کر دیا گیا تھا۔ یہ سب لغو قصے ہیں۔ قرآن کریم ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ قرآن کریم بحجور اور یحیٰ کا لفظ بولتا ہے جو گودریا کے لئے بھی بول لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا استعمال سمندر یا نمکین پانی کی جھیل کے لئے زیادہ تر ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کے رہنے کے مقام اور کنعان کے درمیان سمندر یا اس کے ٹکڑے ہی آتے ہیں۔ بہنے والا دریا کوئی نہیں آتا۔ پس جس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے وہ سمندر یا اس کا کوئی بڑھا ہوا ٹکڑا تھا۔

حضرت موسیٰؑ ایسے وقت میں سمندر سے گزرے جبکہ جزر کا وقت تھا میں اوپر بتا آیا ہوں کہ سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت میں پانی کنارے پر سے بہت دور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسرے وقتوں میں وہ خشکی پر اور آگے آ جاتا ہے۔ سمندر پھاڑنے کے واقعہ کا اسی مد و جزر کی کیفیت سے تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں سمندر سے گزرے جبکہ جزر کا وقت تھا اور سمندر پیچھے ہٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد فرعون پہنچا۔ وہ بوجہ اس کے کہ کم سے کم ایک دن بعد حضرت موسیٰؑ کے چلا تھا وہ مارا مار کرتا ہوا جس وقت سمندر پر پہنچا ہے اُس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس خشک ٹکڑے کا جس سے وہ گزر رہے تھے۔ اکثر حصہ طے کر چکے تھے۔ فرعون کی غرقابی کی وقت سمندر کی مد کی حالت تھی فرعون نے ان کو پار ہوتے دیکھ کر جلدی سے اس میں اپنی رتھیں ڈال دیں۔ مگر سمندر کی ریت جو گیلی تھی اس کی رتھوں کے لئے مہلک ثابت ہوئی اور اس کی رتھیں اس میں پھنسنے لگیں اور اس قدر دیر ہو گئی کہ مد کا وقت آ گیا اور پانی بڑھنے لگا۔ اب اس کے لئے دونوں باتیں مشکل تھیں۔ نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر نے اسے درمیان میں آ لیا۔ اور وہ اور اس کے بہت سے ساتھی سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور چونکہ مد کا وقت تھا سمندر کا پانی جو کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے ان کی لاشوں کو خشکی کی طرف لاپھونکا۔

اس سوال کا جواب کہ فرعون نے بنی اسرائیل کا تعاقب خشکی کے راستہ سے ہو کر کیوں نہ کیا؟ اس امر کا جواب کہ اگر صرف مد و جزر سے فائدہ اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے تو اس میں معجزہ کیا ہوا اوپر گزر چکا ہے۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں فرعون اوپر کی طرف سے ہو کر خشکی کے راستہ نہ گیا اور کیوں اس نے سمندر کی خشک جگہ میں سے ہو کر بنی اسرائیل کا تعاقب کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سمندر کے اس مقام کے پاس جو غالباً سویز شہر کے پاس تھا (یہاں سمندر کی چوڑائی صرف ۲ میل ہے۔ دیکھو انسائیکلو پیڈیا ہبلیکا زیر لفظ Exodus)۔ بہت سی جھیلیں ہیں اور دل لیس بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جیسا کہ بائبل سے ثابت ہے۔ پہلے اوپر کی طرف گئے تھے مگر آگے جھیلوں کو راستہ میں دیکھ کر اور راستہ بند پا کر واپس سمندر کی طرف لوٹے۔ بائبل میں لکھا۔ ”خدا نے انہیں یہ رہبری نہ کی کہ وہ فلسطین کی راہ سے جاویں اگرچہ وہ نزدیک کی راہ تھی۔ کیونکہ خدا نے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لڑائی دیکھ کے پچھتاویں اور مصر کو پھر جاویں۔ بلکہ خدا نے ان لوگوں کو دریائے قلزم کے بیابان کی طرف پھیرا“۔ (خروج باب ۱۳ آیت ۱۷، ۱۸) اگر فرعون اوپر جاتا تو اسے اُور بھی چکر کاٹ کر جھیلوں کے اوپر سے ہو کر جانا پڑتا اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس وقت تک بہت دور نکل چکے ہوتے۔ اور اس کی مملکت سے باہر چلے گئے ہوتے۔ اس لئے اس نے ان کے پکڑنے کی ایک ہی صورت ممکن دیکھی کہ وہ سمندر کے خشک شدہ حصہ میں سے ان کا تعاقب کرے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوں کے بیلوں کو ڈرایا اور تھوں کے راستہ میں مشکلات پیدا کر دیں جس کی وجہ سے اس کے سفر میں دیر ہوتی گئی اور مدد کا وقت آ گیا۔ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کے لئے دیکھو خروج باب ۱۳ آیت ۱۷ سے آخر تک اور پھر باب ۱۴۔ اس بیان میں بہت سی غلطیاں اور مبالغہ ہے مگر اجمالی طور پر اس سفر کا نقشہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے)۔

جدید مؤرخین میں بنی اسرائیل کے گزرنے کے مقام میں اختلاف جدید مؤرخین میں یہ بحث ہے کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کا واقعہ صحیح ہے تو اس کا مقام کون سا ہے؟ بائبل میں چونکہ ایک دریا کا بھی ذکر آتا ہے۔ بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام جھیل تمساح کے پاس سے گزرے ہیں۔ جس کا پانی ان کے نزدیک گزشتہ زمانہ میں ایک نالہ کے ذریعہ سے سمندر سے ملتا تھا۔ (ڈوبائے آمی سٹیکل اور کنوبل کی بھی یہی رائے ہے) دیکھو انسائیکلو پیڈیا ہبلیکا اسوڈس Exodus (خروج) کا لم ۸، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹۔ اور مقام کے لئے دیکھو اوپر کا نقشہ)۔

بعض کے نزدیک وہ بحیرہ قلزم کے پاس سے نہیں گزرے بلکہ رُوان کے پاس سے ہوتے ہوئے (دیکھو اوپر کا نقشہ) بحیرہ روم کے پاس سے گزرے ہیں۔ (بقول علامہ نیڈن اور برگش انسائیکلو پیڈیا ہبلیکا زیر لفظ Exodus) بعض کے نزدیک وہ ان علاقوں میں سے کسی علاقہ میں سے بھی نہیں گزرے بلکہ وہ شمالی افریقی مصر میں رہتے ہی نہ

تھے بلکہ وہ اُس مصر میں رہتے تھے جو شمالی عرب میں واقع تھا اور ان کے نزدیک مُصر سے غلطی کھا کر بنی اسرائیل نے بائبل میں مصر لکھ دیا۔ (انسائیکلو پیڈیا بلیکا زیر لفظ Exodus) اس تھیوری کے مطابق اگر سمندر کے عبور کرنے کا واقعہ صحیح تسلیم کیا جائے تو بنی اسرائیل مغرب سے مشرق کو نہیں بلکہ مشرق سے مغرب کی طرف گئے تھے اور خلیج سویز نہیں بلکہ خلیج عقبہ کو۔ سویز کے پاس سے نہیں بلکہ عقبہ کے پاس سے انہوں نے عبور کیا تھا۔ اگر عربی مصر کا جائے وقوع اس مقام سے اوپر سمجھا جائے تو پھر سمندر عبور کرنے کا واقعہ ان لوگوں کے نزدیک سراسر فرضی قرار پائے گا۔

آثار قدیمہ سے مصر نامی علاقہ کا شمالی افریقہ، شمالی شام اور شمالی عرب میں پائے جانے کا ثبوت

اور مغربی مصنفوں کے لئے تعیین مقام، عبور میں مشکل اور اس کا حل آثار قدیمہ کی تحقیق اور پرانی

تاریخوں سے یہ امر پوری طرح ثابت ہو چکا ہے کہ مصر نامی علاقہ بہ تغیر اشکال شمالی افریقہ۔ شمالی شام اور شمالی عرب میں پایا جاتا تھا۔ بلکہ ان تین علاقوں کے علاوہ اور مقامات بھی مصر یا مصران یا مصرام یا مصرانیم یا مُصری کہلاتے تھے۔ اور اسی وجہ سے بائبل کی بیان کردہ تفصیلات میں سے بعض کو شمالی افریقہ کے ملک مصر پر منطبق نہ دیکھتے ہوئے بائبل کے علوم کے جدید محققین میں سے بعض نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افریقیوی مصر نہیں بلکہ اگر یہ واقعات گزرے ہیں تو عربی مصر میں گزرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مدائن جانے کو وہ اس کی دلیل قرار دیتے ہیں کیونکہ مدائن شمالی عرب کے مصر کے ساتھ ملتا تھا۔

یہ امر کہ کئی علاقے مصر کہلاتے تھے مغربی مصنفوں کے لئے حیرت انگیز ہے لیکن عربی دانوں کے لئے نہیں۔ مصر کے معنی عربی زبان میں شہر کے ہیں جن لوگوں کو کسی بڑے شہر کے پاس رہنے کا یا وہاں جانے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ بڑے شہروں کے ارد گرد کے علاقے بعض دفعہ بیسیوں میل تک اپنے علاقہ کے شہر کا نام لے کر نہیں بلاتے بلکہ صرف شہر کہتے ہیں۔ لاہور کے ارد گرد کے دیہات میں جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص شہر گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ لاہور گیا ہے۔ انگریزی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ انگلستان میں بھی City یعنی شہر کے لفظ سے انگلینڈ کے باشندے لندن مراد لیتے ہیں۔ پس عرب لوگ اور عربی سے ملتی جلتی زبانیں بولنے والے اُس زمانہ میں کہ جب بڑے شہروں کا رواج کم تھا۔ اگر کسی بڑے بڑے قصبات پر مشتمل علاقہ کو مصر کہتے تھے۔ خواہ وہ شام میں ہو خواہ عرب میں خواہ افریقہ میں تو اس میں تعجب کی کونسی بات ہے۔ مُصری یا مصرام یا مصران یا مصرانیم سے ان کی مراد صرف یہ ہوتی کہ وہ شہروں والا علاقہ ہے۔ عرب جیسی صحرا نورد قوم کے لئے شہروں میں بسنا ایک عجوبہ

سے کم نہ تھا۔ اور جس علاقہ میں کثرت سے بڑے بڑے شہر اور قصبات ہوں وہ ان کے لئے ایسا حیرت انگیز امر تھا کہ اس علاقہ کا نام شہری ملک رکھ دینا ان کے لئے ایک طبعی امر تھا۔ پس صرف مصر کے لفظ سے بنی اسرائیل کے جلا وطنی کے واقعات کو افریقی مصر کے علاقہ سے بدلانا نہیں جاسکتا۔ راستہ کی جزئیات میں مشکلات کی وجہ سے اس اصولی سوال کو نظر انداز کر دینا کہ بائبل اور قرآن کریم دونوں کے نزدیک اس مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے اور قرآن کریم کے اس بیان کی روشنی میں کہ اس مصر میں مُردوں کی لاشوں کو دیر تک قائم رکھنے کا رواج تھا۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی شخص کی شناخت کو اس لئے مشتبہ کر دیا جائے کہ گو اس کا خلیہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام تو مذکورہ علامات کے مطابق ہے لیکن اس کے رومال کا رنگ وہ نہیں جو بتایا گیا تھا۔ پرانے زمانہ کے حالات اس طرح محفوظ نہیں کہ ہم اُس زمانہ کے حالات کو سو فیصدی درست معلوم کر سکیں۔ پس ہمیں ستر فیصدی اتفاق کو مشعل راہ سمجھتے ہوئے تیس فیصدی اختلاف کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اور تیس فیصدی اختلاف پر ستر فیصدی اتفاق کو قربان کر دینے کی حماقت سے بچنا چاہیے۔

بنی اسرائیل کے متعلق بعض لوگوں کا خیال کہ وہ مصر کی طرف نہیں گئے اور اس کے تین دلائل۔
بعض لوگ تاریخ کی منفی یا مثبت شہادت سے اس امر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر کی طرف نہیں گئے۔
ان کے استدلال کی وجوہ یہ ہیں:-

(۱) مصری آثار قدیمہ میں بنی اسرائیل کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ (اسرائیل مصفّہ اڈولف لاڈز صفحہ ۱۶۷)

(۲) مِنْفَتَّاح جس کے زمانہ میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے۔ اس کے زمانہ کے ایک پرانے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حکومت کے پانچویں سال میں بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کنعان میں بس رہے تھے۔ اور بائبل بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل اس کے زمانہ میں وہاں سے نکلے اور کوئی ۵۰ سال میں جا کر کنعان میں داخل ہوئے۔ (۳) بیشک مصر میں بعض ایشیائی قبائل کے ورود کا پتہ ملتا ہے۔ لیکن ان واقعات کو اگر بنی اسرائیل پر چسپاں کیا جائے تو کبھی واقعات ملتے جلتے ہیں مگر تاریخیں ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ اور کبھی تاریخیں ٹھیک بیٹھتی ہیں تو واقعات مطابقت نہیں کھاتے پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بناوٹی کہانی ہے۔

بنی اسرائیل کے مصر کی طرف نہ جانے کے دلائل کا ردّ چونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل کے مصر میں جانے اور وہاں سے آنے کا ذکر کرتا ہے۔ ہم اس اعتراض کی طرف توجہ کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ (۱) یہ ضروری نہیں کہ ہر امر کا آثار قدیمہ سے حال معلوم ہو جائے۔ کیا اگر آج تہذیب کی ترقی کے زمانہ میں کسی

متمدن ملک کی تاریخ کو مٹا دیا جائے تو کیا اس کی پوری تاریخ اس کے آثار سے معلوم ہو سکتی گی۔ کیا مثلاً انگلستان یا یونائیٹڈ سٹیٹس امریکہ یا جرمنی یا فرانس کی مکمل تاریخ تمام قوموں کے اعداد و شمار، مذاہب اور ان کے فرقوں کا حال اور ان کے علوم و فنون کا پورا پورا پتہ کسی ایک یا دو شہروں کے نشانات سے لگایا جاسکتا ہے۔ اگر موجودہ زمانہ کے صحیح حالات مکمل طور پر موجودہ زمانہ کے آثار سے بھی معلوم نہیں ہو سکتے تو اس سے زیادہ غیر معقول خیال کیا ہوگا کہ گزشتہ زمانہ کے تفصیلی حالات چند ہزار سال پہلے کے دو یا چار قصابات کے کھودنے سے معلوم ہو سکیں گے۔ یہ تو ایسی خلاف عقل بات ہے کہ اس پر کسی علم کی بنیاد رکھنی علم سے تمسخر کرنا ہے۔ مثبت شہادت تو خیر کچھ قیمت بھی رکھتی ہے۔ گو اس میں بھی بہت سی غلطیوں کا امکان ہے مگر یہ کہنا کہ چونکہ فلاں قوم کا ذکر نہیں ملا اس لئے وہ وہاں نہ تھی۔ ایسا خلاف عقل خیال ہے کہ اسے علمی کتب میں پیش کرنے سے مصنفین کو خود ہی رکنا چاہیے تھا۔ آخر بنی اسرائیل کی مصر میں حیثیت کیا تھی۔ غلاموں کی طرح وہ رہتے تھے۔ کوئی ایسے بڑے کام ان کے سپرد نہ تھے کہ ان کا ذکر تاریخی آثار میں آتا۔ ان کی اہمیت کا باعث غالباً صرف یہ تھا کہ وہ ایک منفرد مذہب رکھتے تھے۔ اور یا یہ کہ غالباً ان کے زمانہ کے مصری بادشاہ خالص مصری قوم سے نہ تھے اور وہ بنی اسرائیل سے ڈرتے تھے کہ یہ کسی دوسری قوم سے مل کر ہماری حکومت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان حالات میں آثار قدیمہ میں ان کے نام آنے کی ضرورت ہی نہیں معلوم ہوتی۔ اور اگر نام آتا بھی تو آثار قدیمہ سے صرف تاریخی ٹکڑے معلوم ہو سکتے ہیں پوری تاریخ معلوم نہیں ہو سکتی کہ ان کی خاموشی کوئی دلیل سمجھی جائے۔

دوسری دلیل کہ کسی فرعون یا اثر سے معلوم ہوتا ہے جو غالباً مَفْتَحِ فرعون مصر کا اثر ہے یا اس سے پہلے کے کسی بادشاہ کا کہ اس زمانہ میں بنی اسرائیل کنعان میں بستے تھے کوئی قابل توجہ جرح نہیں کیونکہ اگر یہ اثر جس کی تاریخ معین نہیں حضرت یوسفؑ کے بعد کے زمانہ کا ہے اور خروج موسیٰؑ سے پہلے کا ہے۔ تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا کچھ حصہ خروج موسیٰؑ سے پہلے بھی کنعان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اور اگر یہ اثر یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے پہلے کا ہے یا ہجرت موسوی کے بعد کا۔ تو اس سے کوئی خلاف نتیجہ نکلتا ہی نہیں۔

تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ پیشک بعض ایشیائی اقوام کا مصر میں ورود تاریخوں سے ملتا ہے مگر انہیں بنی اسرائیل سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک خالص منفی دلیل ہے۔ اور منفی دلیل ناقص آثار کی بناء پر کوئی بھی دلیل نہیں۔ ایک کتاب جس کے آدھے ورق پھٹے ہوئے ہوں۔ ان کی بناء پر کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں مضمون اس کتاب میں نہیں کیونکہ وہ ان ورقوں میں نہیں جو میرے پاس ہیں۔

بنی اسرائیل کے مصر میں ورود کے چار قیاسی دلائل ان تینوں قسم کے دلائل کو رد کرنے کے بعد میں بعض قیاسی دلائل اس امر کی تائید میں دیتا ہوں جو بنی اسرائیل کے مصر میں ورود کے ثبوت میں ہیں۔

(۱) یہی لوگ جو بنی اسرائیل کے مصر سے آنے کے خلاف ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ کا نام خود مصری زبان میں ہے۔ ان کے نزدیک موسیٰ "موسیٰ" تھا۔ جس کے معنی "میٹھے" کے ہیں۔ (مؤزنا ایڈمانٹوئی ازم۔ مصنفہ سگنڈ فراند Sigmund Freud زیر عنوان Moses and Egyptian) اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہے تو پھر یہ اس امر کا ثبوت بھی ہے کہ اسرائیلی افریقی مصر میں تھے۔ اور وہاں ان کی رہائش اس قدر لمبی تھی کہ انہوں نے مصری زبان کے نام بھی رکھنے شروع کر دئے تھے۔ یہ لوگ اس امر کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کے بعض دوسرے ساتھیوں کے نام حور وغیرہ بھی جو بائبل میں آتے ہیں مصری ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو بنی اسرائیل کے مصر میں رہنے اور وہاں سے نکلنے کا یہ مزید ثبوت ہے۔

(۲) بائبل مصر میں اپنے باپ دادوں کو بادشاہ اور حاکم قرار نہیں دیتی۔ کہ سمجھا جائے انہوں نے اپنی شان بڑھانے کے لئے یہ قصہ گھڑ لیا۔ بائبل تو ان کو وہاں غلاموں کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ اور اس قسم کے قصہ بنانے کا کوئی محرک نظر نہیں آتا۔ پس اسے بناوٹی قرار دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔

(۳) بائبل میں جو تفصیلات ہیں وہ سب افریقی مصر پر صادق آتی ہیں۔ فرعون کا ذکر ان کے بعض بادشاہوں کے نام جو تاریخ سے ثابت ہو گئے ہیں۔ افریقی مصر کے بعض شہروں کا نام جو گوٹ چکے تھے مگر اب پرانی جگہوں کی کھدائیوں سے ان کی تصدیق ہو گئی ہے۔ فرعونوں کے قوانین اور آداب کے متعلق جو بائبل میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب تفصیلات آثارِ قدیمہ سے سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ اسی طرح مثلاً یہ کہ انہوں نے غلہ کے لئے خاص گودام مقرر کر چھوڑے تھے۔ پرانے آثار سے ایسے کئی گوداموں کا پتہ چلا ہے۔ (ضمناً یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم نے مصریوں کے مذہب کے متعلق بھی روشنی ڈالی ہے کہ وہ بادشاہ میں خدا کی صفات تسلیم کرتے تھے۔ اور یہ امر بھی آثارِ قدیمہ سے ثابت ہو گیا ہے) اسی طرح مصر کے جغرافیہ کے متعلق بائبل کی معلومات بہت حد تک درست ہیں۔ پس یہ سب غالب طور پر درست تفصیلات جو بعض ایسے امور کے متعلق ہیں جو امتدادِ زمانہ کی وجہ سے مخفی ہو گئے تھے۔ اور اب آثارِ قدیمہ سے ان کا پتہ چلا ہے۔ بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کا گہرا تعلق اس زمانہ کے مصر کے ساتھ تھا اور جو شبہات اب پیدا کئے جا رہے ہیں محض اس وجہ سے ہیں کہ کیوں سو فیصدی تطابق نہیں ان واقعات سے نہیں جو نامکمل آثارِ قدیمہ سے یا نامکمل تاریخوں سے ان معترضین کو معلوم ہوئے ہیں۔ اور یہ

مطالبہ خلاف عقل ہے۔

(۴) قدیم یونانی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر کے لوگ بھی اس امر کو تسلیم کرتے تھے کہ اسرائیلی وہاں سے نکل کر گئے ہیں گو وہ روایات بے سرو پا ہیں۔ مثلاً ان میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی مصر کے کوڑھیوں کی اولاد ہیں۔ اور چونکہ ان کو دوسروں سے الگ رکھا گیا۔ اور چونکہ وہ مصری خداؤں کا انکار کرنے لگے تھے۔ انہوں نے بغاوت کی اور اس لئے انہیں وہاں سے نکالا گیا۔ (یہ روایات علاوہ اور مصنفوں کی آبدلیزیا کے ہیجکائیٹیس نے جو سکندر رومی کا ہم عصر تھا اور مینتھو نے جو باشندہ ہلیوپول کا تھا لکھی ہیں۔) (دیکھو اسرائیل مصنفہ اڈولف لاڈر صفحہ ۱۶۷-۱۶۸) اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ روایات بائبل کی روایات کے کلی طور پر خلاف ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل مصر میں نہ گئے تھے اور نہ وہاں سے نکلے تھے تو پھر یہ روایات مصر والوں نے بنائیں کیوں؟ روایات میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ تو سمجھ میں آسکتی ہے کہ مصری اسرائیلیوں کے دشمن تھے۔ ان کا بادشاہ موسیٰؑ کے مقابلہ میں ذلیل ہو کر مرا۔ اس لئے انہوں نے یہ روایات گھڑ لیں کہ یہ کوڑھی تھے اور ہم نے ان کو مار کر نکال دیا۔ لیکن اس کی غرض کیا ہو سکتی تھی کہ نہ اسرائیلی ان کے ملک میں آئے نہ وہاں سے نکلے مگر مصری خود بخود قصے بنانے لگ گئے کہ اسرائیلی ہمارے ملک میں آئے تھے اور ہم نے ان کو نکال دیا۔ اور ادھر خود اسرائیلیوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم وہاں گئے تھے اور انہوں نے ہمیں نکال دیا۔ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے اور بائبل اور قرآن کریم کا بیان کہ بنی اسرائیل مصر گئے تھے اور وہاں سے خدا تعالیٰ کی مدد سے نکلے بالکل درست ہے۔

بنی اسرائیل کے سمندر سے گزرنے کے مقام کی تفصیل اس امر کے واضح ہو جانے کے بعد کہ مصر سے مراد افریقی مصر ہی تھا یہ تو یقین ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل افریقی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ شمال کی طرف سے گئے یا وسط سے یا جنوب سے۔ مذہبی نقطہ نگاہ سے کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا۔ مگر جہاں تک معلومہ تحقیق کا تعلق ہے اور بائبل اور قرآن کریم کی بتائی ہوئی مدد جزر کی کیفیات سے نتیجہ نکلتا ہے یہی بات قرین قیاس ہے کہ بنو اسرائیل تل ابی سلیمان کے مقام سے (دیکھو نقشہ اس جگہ فرعون موسیٰ کا پایہ تخت ہوتا تھا) پہلے وسط یعنی جمیل تمساح کی طرف گئے جہاں سے کنعان نزدیک پڑتا ہے (دیکھو نقشہ) پھر وہاں سے جھیلوں کی روک دیکھ کر جنوب کی طرف لوٹے۔ اور سویز کے مقام کے پاس سے سمندر میں سے جزر کے وقت پار ہوئے اور وہاں سے قادم کی طرف روانہ ہو گئے۔

جہاں سے بنی اسرائیل سمندر پار ہوئے وہاں کا فاصلہ صرف ۲، ۳ میل تھا وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ

اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ سے بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کیا تھا وہ بہت چھوٹا علاقہ تھا۔ کیونکہ اگر وہ لمبا علاقہ ہوتا تو ایک طرف کھڑے ہوئے درمیان میں ہونے والے واقعہ کو وہ دیکھ نہ سکتے تھے اور یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ خلیج سوز کے انتہائی شمالی حصہ کا پھیلاؤ کل ۲، ۳ میل ہے۔ اگر اس کے نصف میں فرعون کی غرقابی کا مقام تصور کیا جائے تو صرف چھ سات سو گز پر بنی اسرائیل کھڑے تھے اور ان کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے فرعون اور اس کے کچھ ساتھی تیرنا نہ جانتے تھے۔ یا یہ کہ شام کا وقت تھا جلد ہی اندھیرا ہو گیا اور وہ راستہ بھول کر کھلے سمندر کی طرف بڑھنے لگ گئے اور اس میں غرق ہو گئے۔ نیولین کے محولہ بالا واقعہ میں بھی اسی طرح ہوا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا۔ جب وہ اور اس کے ساتھی سمندر کے خشک شدہ حصہ میں داخل ہوئے۔ ابھی پھر ہی رہے تھے کہ مد کا وقت آ گیا۔ اور چونکہ خشکی کی طرف جھیلیں تھیں۔ سمندر کا پانی جھیلوں کے پانی سے مل گیا اور جہت کا اچھی طرح معلوم کرنا مشکل ہو گیا اور اس امر کا خوف پیدا ہو گیا کہ بجائے کنارے کی طرف جانے کے نیولین اور اس کے ہمراہی گہرے سمندر میں جا کر غرق ہو جائیں۔ اس پر نیولین نے اپنے ہمراہیوں کو اس + شکل پر چلنے کا حکم دیا۔ جس طرف کے آدمی پانی گہرا پاتے وہ اس طرف سمٹ آتے تھے جدھر کے لوگ پانی تھوڑا بتاتے تھے اور پھر نئی جگہ پر یہی شکل بنا لیتے تھے اسی طرح کرتے کرتے آخر انہیں کنارہ مل گیا۔ نیولین ریت پر آ کر لیٹ گیا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ اگر آج میں غرق ہو جاتا تو ساری عیسائی دنیا شور مچا دیتی کہ یہ بھی ایک فرعون تھا جو سمندر میں غرق ہو گیا۔

وَ اِذْ وَاَعَدْنَا مُوسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے چلے جانے کے بعد

الْعَجَلَ مِنْۢ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۵۲﴾

ظلم سے کام لیتے ہوئے بچھڑے کو (معبود) بنا لیا۔

حَلَّ لُغَاتٍ - ظَلِمُونَ ظَلَمَ سے اسم فاعل ظَالِمٌ آتا ہے۔ الظالمون اور الظالمین اس کی جمع

ہیں۔ ظَلَمَ فَلَانَ ظَلَمًا وَظَلَمًا کے معنی ہیں وَضَعَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ کسی چیز کا بے محل اور بے موقع

استعمال کیا نیز ظَلَمَ فَلَانًا کے معنی ہیں فَعَلَ لَهُ الظُّلْمَ اس پر ظلم کیا۔ ظَلَمَ فَلَانَ حَقًّا: نَقَصَهُ إِنَاءً اُس کو

اُس کا حق پورا نہ دیا (اقرب) نیز حد سے بڑھ جانے اور دوسرے کی ملکیت پر دست درازی کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ (اقرب)

مفردات میں ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں (۱) ظَلَمَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ظلم۔ یعنی جو حقوق اللہ تعالیٰ کے بندے کے ذمہ ہیں وہ اس کو دینے کی بجائے دوسروں کو دینے جائیں وَأَعْظَمَهُ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ وَالتَّفَاقُ اور ان معنوں کے لحاظ سے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کیا جائے۔ اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے اور نفاق سے کام لیا جائے حالانکہ مناسب تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو مانا جائے اور اس کی توحید کا اقرار کیا جائے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: ۱۳) کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے (۲) ظَلَمَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ (۳) ظَلَمَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا چنانچہ آیت فَبِمَنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ (فاطر: ۳۳) میں یہی ظلم مراد ہے۔ (مفردات) پس ظالم کے معنی ہوں گے (۱) بے محل و بے موقع کام کرنے والا۔ (۲) کسی کے حق کو کم دینے والا۔ (۳) حد سے بڑھ جانے اور دوسرے کی ملکیت پر دست درازی کرنے والا۔ (۴) شرک کرنے والا۔ (۵) ظلم کرنے والا۔

تفسیر۔ بنی اسرائیل اور چھڑے کی پرستش کا واقعہ اس آیت میں ایک اور احسان کا ذکر ہے جس کی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ناقدری کی اور احسان کو عذاب میں بدلنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک پہاڑ پر جو ان کے سفر کے راستہ میں تھا۔ کچھ دن الگ عبادت کریں اور خدا تعالیٰ کے خاص ارشادات سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کے ماتحت پہاڑ پر گئے۔ بنی اسرائیل نے کچھ دنوں کے بعد محسوس کیا کہ انہیں دیر ہو گئی ہے اور سمجھے کہ موسیٰؑ یا فوت ہو گئے ہیں یا کوئی اور ناگوار واقعہ ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے ان زیورات سے جو ان کے پاس تھے ایک سونے کا چھڑا بنایا اور کہا یہ چھڑا ان کا معبود ہے۔ اور اس کی پرستش میں لگ گئے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی اور واپس جانے کا حکم دیا۔ بائبل میں اس واقعہ کا یوں ذکر آتا ہے۔

”اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ خداوند پاس چڑھ آ۔ تو اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں سے ستر شخص۔ تم دور سے سجدہ کرو اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آوے پر وہ نزدیک نہ آویں۔ اور لوگ اس کے ساتھ نہ چڑھیں۔“ (خروج باب ۲۴ آیت ۱، ۲)۔ پھر لکھا ہے۔ اس پر عمل کرتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے اپنی قوم کے بزرگوں سے کہا۔ ”تم ہمارے لئے یہاں جب تک کہ ہم تم پاس پھر آویں ٹھہرو۔ اور دیکھو کہ ہارون اور حور تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر کسی کو کچھ کام ہو تو وہ ان کے پاس جاوے۔“ (باب ۲۴ آیت ۱۴) پھر لکھا ہے۔ ”اور موسیٰ بدلی کے درمیان چلا گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور موسیٰ پہاڑ پر چالیس دن رات رہا۔“ باب ۲۴ آیت ۱۸۔

بنی اسرائیل کے بچھڑا بنانے کا واقعہ بائبل میں پھر لکھا ہے۔ ”جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ پہاڑ سے اترنے میں دیر کرتا ہے تو وہ ہارون کے پاس جمع ہوئے اور اسے کہا کہ اٹھ ہمارے لئے معبود بنا کہ ہمارے آگے چلیں۔ کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں مصر کے ملک سے نکال لایا۔ ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔ ہارون نے انہیں کہا کہ زیور سونے کے جو تمہاری جوڑوں اور تمہارے بیٹوں کے اور تمہاری بیٹیوں کے کانوں میں ہیں توڑو توڑ کر مجھ پاس لاؤ۔ چنانچہ سب لوگ سونے کے زیور جو ان کے کانوں میں تھے توڑو توڑ کر ہارون کے پاس لائے اور اس نے ان کے ہاتھوں سے لیا اور ایک بچھڑا ڈھال کر اس کی صورت جگا کی کے ہتھیار سے درست کی اور انہوں نے کہا کہ اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں مصر کے ملک سے نکال لایا اور جب ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے ایک قربانگاہ بنائی اور ہارون نے یہ کہہ کے منادی کی کہ کل خداوند کے لئے عید ہے۔ اور وہ صبح کو اٹھے اور سوختی قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزرائیں۔ اور لوگ کھانے پینے کو بیٹھے اور کھینے کو اٹھے۔“ (خروج باب ۳۲ آیت ۶ تا ۱۰)

اوپر کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر کچھ دن بسر کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے بعد ہارون اور حور کی اطاعت کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد بنی اسرائیل نے خیال کیا کہ شاید موسیٰ مر گئے ہیں کہ واپس نہیں لوٹے۔ اور ہارون نے کہا کہ ہمارے لئے کچھ بت بناؤ۔ انہوں نے فوراً اس پر آمادگی ظاہر کی اور انہیں اپنے زیورات لانے کو کہا۔ جو وہ لے آئے۔ اور ان زیورات سے ہارون نے ان کے لئے ایک بچھڑا بنایا۔ جس کے آگے ہارون کی مدد اور اعانت سے ان لوگوں نے قربانیاں گزرائیں۔

بنی اسرائیل کے بچھڑا بنانے کا ذکر قرآن مجید میں قرآن کریم میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے:-
 ”اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور پھر ان تیس راتوں کو دس راتیں اور بڑھا کر مکمل کر دیا اس طرح اس کے رب کا وعدہ چالیس راتوں کی صورت میں مکمل ہو گیا۔“ (الاعراف: ۱۴۳)

”اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا جو محض بیجان وجود تھا اور صرف اس میں سے آواز پیدا ہوتی تھی بنا لیا۔ اور اتنا بھی غور نہیں کیا کہ وہ بولتا نہیں اور نہ انہیں کوئی ہدایت کی بات بتاتا ہے مگر بہر حال انہوں نے اسے اختیار کر لیا اور مشرک ہو گئے۔“ (الاعراف: ۱۳۹)۔

”اور اس سے (یعنی موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے) پہلے ہارون نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اس بچھڑے کے ذریعہ سے تمہارے ایمان کی آزمائش کی گئی ہے۔ اور تمہارا رب تو رحمن ہے۔ (یعنی کلام ہدایت نازل کرتا ہے حالانکہ یہ بچھڑا تو تم کو کوئی ہدایت نہیں دیتا) پس میری فرمانبرداری کرو اور جو میں تم کو کہتا ہوں اس پر عمل کرو (شرک نہ کرو) اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو جب تک موسیٰ واپس نہ آجائیں اس بچھڑے کی عبادت میں مشغول رہیں گے۔“ (طہ: ۹۱، ۹۲)

بچھڑے کے بنانے کے متعلق بائبل اور قرآن مجید کے بیان کا فرق بائبل اور قرآن کریم کے اس بیان میں بہت بڑا فرق ہے۔ اول تو قرآن کریم بنی اسرائیل کی گھبراہٹ کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتداءً پہاڑ پر تیس رات رہنے کا حکم دیا گیا تھا (لازمًا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس کا ذکر کر دیا ہوگا) پھر خدا تعالیٰ نے اپنے احسان کو مکمل کرنے کے لئے اس وعدہ کو چالیس رات تک بڑھا دیا (چالیس کا عدد روحانی دنیا میں تکمیل کا عدد ہے) اس مدت کے فرق کی وجہ سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو موسیٰؑ کے واپس نہ آنے پر گھبراہٹ پیدا ہونے لگ گئی ہوگی۔ کوئی خیال کرنے لگا ہوگا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ کوئی سمجھنے لگا ہوگا کہ شاید راستہ کی مشکلات کو دیکھ کر موسیٰؑ دھوکا دے کر ہمیں درمیان ہی میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ تب انہوں نے بوجہ ایمان میں حدیث العہد ہونے کے اپنے لئے ارد گرد کی مشرک قوموں کی طرح بت بنانے کی طرف توجہ کی۔ بائبل کے بیان سے اس گھبراہٹ کی وجہ پر کوئی روشنی نہیں پڑتی۔

بائبل کے بیان کے خلاف قرآن مجید کا حضرت ہارونؑ کو شرک سے پاک قرار دینا دوسرے قرآن کریم وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ شرک دوسرے اسرائیلیوں نے کیا۔ ہارون علیہ السلام اس الزام سے کٹے طور پر پاک تھے بلکہ انہوں نے اسرائیلیوں کو شرک سے روکنے کے لئے پوری کوشش کی۔ بائبل اس کے برخلاف ہارونؑ کو جو ایک نبی تھے شرک میں نہ صرف شریک بتاتی ہے بلکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیلیوں کے کہنے پر بلا تردید انہوں نے بت بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی اور نہ صرف بچھڑا بنایا بلکہ ساری قوم کو اس کی عبادت کی دعوت

دی۔ لَّا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

بائبل کا یہ بیان ایسا خلاف عقل ہے کہ کوئی عقلمند اسے ایک منٹ کے لئے بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا ایک نبی جو خدا تعالیٰ کا کلام سننے کا عادی تھا وہ ایک بے جان۔ بے اثر۔ بیفائدہ مورت بنا کر اسے خدا قرار دیتا ہے اور خود بھی اس کی عبادت کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اس کی عبادت کرواتا ہے۔ سوائے پادریوں اور یہودی راہبوں کے جو بائبل کی رطب و یابس تحریرات کو ماننے کیلئے عقل کے کانوں میں سیسہ ڈالے بیٹھے ہیں کون اس غیر معقول بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟

دس دن کے اندر بچھڑا کس طرح بن گیا؟ بعض لوگ اس واقعہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دس دن کے وقفہ کے اندر بچھڑا کیونکر بن گیا؟ ان کے اس اعتراض سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے وہ بچھڑا دیکھا ہے اور اس کی صنعت انہیں ایسی اعلیٰ معلوم ہوئی ہے کہ اُس کے بنانے کے لئے بڑے بڑے کارخانوں اور کامل الصناعت انجینئروں کی ضرورت تھی۔ سونے کو پگھلا کر مٹی کے ایک سانچے میں ڈال کر اس سے ایک بھدّہ اسابت بنا دینا کونسا بڑا کام ہے جس شخص نے وہ بت بنایا تھا وہ دل سے مشرک تھا اور اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح بنی اسرائیل میں پھر شرک جاری ہو جائے۔ پس اس نے گھنٹوں محنت کر کے ایک بھدّہ اسابت بنا دیا تو اس میں کیا تعجب ہے؟ ایسے بت کا بنانا سادہ کڑوں کے بنانے سے زیادہ مشکل نہیں جو چند گھنٹوں میں سنار تیار کر لیتے ہیں۔

باقی رہا یہ سوال کہ ہارون کو یفرن کہاں سے آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب یہودی یا عیسائی دیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اس مشرکانہ فعل سے بری تھے۔ اس کا بنانے والا ایک اور شخص سامری نام تھا۔ ممکن ہے وہ خود سنار ہو یا ممکن ہے اُس نے اپنے ہم خیال سناروں کی مدد سے بچھڑا بنایا ہو۔

تیس راتوں کی بجائے چالیس راتوں کا وعدہ احسان تھا نہ کہ وعدہ خلائی بعض لوگ اعتراض کرتے کہ پہلے تیس راتوں کا وعدہ کرنا پھر چالیس راتیں کر دینا کیا وعدہ خلائی نہیں؟ یہ ایسا ہی اعتراض ہے۔ جیسے کسی کو تیس روپے دینے کا وعدہ کر کے چالیس دئے جائیں تو اسے وعدہ خلائی کہا جائے۔ خدا کا کلام ایک نعمت ہے۔ تیس رات کلام کی جگہ چالیس رات کلام کر کے نعمت کو مکمل کیا گیا ہے اور نعمت کی تکمیل وعدہ خلائی نہیں کہلاتی بلکہ انعام اور احسان کہلاتی ہے۔

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۳﴾

پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ **ثُمَّ** حرفِ عطف ہے جو ترتیب اور ترتیبی کے لئے آتا ہے یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ معطوف اپنے معطوفِ علیہ کے بعد ترتیباً اور کچھ دیر کے بعد واقع ہوا ہے اُردو زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے ”پھر“ ”تب“ ”بعد ازاں“ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات **ثُمَّ** کے آخر میں تا بھی لے آتے ہیں جیسے کہ اس شعر میں اسے لایا گیا ہے۔

وَلَقَدْ أَمَرْتُ عَلَى اللَّيْمِ بِسُبْحٰنِي

فَمَضَيْتُ مُمْتًا قُلْتُ لَا يَعْزِبُنِي (اقرب)

یعنی میں جب کبھی گالیاں دینے والے ایک کمینے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں۔ تو خاموشی سے گزر جاتا ہوں اور اپنے نفس میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے مخاطب نہیں کرتا۔

عَفَوْنَا عَنِّي سے **مُتَّكَمٌ** مع الغیر کا صیغہ ہے۔ اور **عَفَى عَنَّهُ** وَلَهُ ذَنْبُهُ وَعَنْ ذَنْبِهِ (يَعْفُو) کے معنی ہیں صَفَحَ عَنَّهُ وَتَرَكَ عَفْوَبَتَهُ وَهُوَ يَسْتَحِقُّهَا وَأَعْرَضَ عَنْهُوَ أَخَذَتْهُ کہ اس کے قصور سے درگزر کیا اور اس کی سزا کو معاف کیا اور اس کی غلطی پر مؤاخذہ نہ کیا در آنحالیکہ وہ سزا کا مستحق تھا۔ جب **عَفَى اللهُ عَنْ فُلَانٍ** کا فقرہ کہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ **هَلَى ذُنُوبُهُ اللهُ تَعَالَى** نے اس کے گناہ کو مٹا دیا۔ اور **عَفَى عَنِ الشَّيْءِ** کے معنی ہیں **أَمْسَكَ عَنَّهُ وَتَرَكَ عَنْ ظَلَمِهِ** کسی چیز سے رُکار با اور اس کی طلب سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا۔ (اقرب)

پس **عَفَوْنَا** کے معنی ہوں گے کہ باوجود اس کے کہ تمہارا گناہ اس قابل تھا کہ ضرور سزا دی جاتی۔ لیکن پھر بھی ہم نے مواخذہ نہ کیا اور معاف کر دیا۔ (۲) ہم تم کو سزا دینے سے رُکے رہے۔

لَعَلَّ حروفِ مشبہ بالفعل میں سے ہے اس کے ساتھ **يَاءٌ مُتَّكَمٌ** بھی لگائی جاتی ہے جیسے **لَعَلَّيْ** اور کبھی **لَعَلَّ** اور **يَاءٌ مُتَّكَمٌ** کے درمیان **نُونٌ** زائد کیا جاتا ہے جسے **نُونٌ** وقایہ کہتے ہیں جیسے **لَعَلَّيْ**۔ **نُونٌ** کے بغیر استعمال زیادہ ہے یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے جیسے **لَعَلَّ زَيْدًا أَقَانِمًا**۔ لیکن **فَوَازٍ** اور بعض دیگر نحو یوں کے نزدیک اسم اور خبر دونوں کو نصب دیتا ہے جیسے **لَعَلَّ زَيْدًا أَقَانِمًا**۔

لَعَلَّ کے کئی معنی ہیں (۱) پسندیدہ شے کی توقع اور ناپسندیدہ شے سے خوف ان معنوں میں یہ ایسے امر کے لئے

استعمال ہوتا ہے جس کا حصول ممکن ہو گا مشکل ہو۔ قرآن کریم میں جو فرعون کا قول نقل ہے۔ لَعَلَّيْ أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ (المؤمن: ۷، ۳۸) اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں یہ اس کی جہالت پر دلالت کرتا ہے وہ اپنی نادانی سے یہی سمجھتا ہو گا کہ میں اونچے مکان پر سے خدا تک پہنچنے کا راستہ پا لوں گا مگر میرے نزدیک یہ درست نہیں۔ میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ یا تو وہ یہ کہتا ہے کہ علم ہیئت کے ذریعہ سے موسیٰ کے مستقبل کو معلوم کر کے اس کا مقابلہ کروں گا اور یہ عقیدہ گو باطل ہے مگر کثرت سے رائج ہے۔ یا پھر اس کا قول بطور تمسخر ہے۔ چونکہ موسیٰ بار بار خدا کو آسمان پر بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا اور فرشتے مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ اس پر وہ تمسخر سے کہتا ہے کہ لاؤ ایک مکان بناؤ شاید اس طرح ہم موسیٰ کے خدا کو پہنچ جائیں اور ہم بھی اس سے باتیں کر کے دیکھیں۔ مطلب یہ کہ ایک طرف خدا کو آسمان پر ماننا اور دوسری طرف اس سے باتیں کرنے کا دعویٰ یہ خلاف عقل ہے الہی علوم سے ناواقف انسانوں کے لئے اس مسئلہ کو نہ سمجھ سکتا قابلِ تعجب نہیں (۲) اس کے معنی محض تعلیل کے بھی ہوتے ہیں جیسے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (طه: ۴۵) یہی معنی ترجمہ میں استعمال کئے گئے ہیں (۳) کو فیوں کے نزدیک کبھی اس کے معنوں میں استفہام کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کلیات ابی البقاء میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ یعنی لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (الشعراء: ۱۳۰) کے سوا جہاں کہیں بھی لَعَلَّ استعمال ہوا ہے توقع کے معنوں میں نہیں بلکہ تعلیل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی ”تا کہ“ یا ”تا“ کے معنوں میں (۴) کلامِ ملوک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی بادشاہ کے لئے کوئی اور یا بادشاہ اپنی نسبت خود امید اور توقع کے الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن مراد اس سے یقینی بات یا حکم کے ہوتے ہیں۔

تَشْكُرُونَ شَكَرَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور شَكَرَ کبھی بغیر صلہ اور کبھی ل کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی شَكَرَ شَكَرَ شَكَرَ لَهٗ ہر دو طرح استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر شَكَرَ کا صلہ لام آئے تو یہ زیادہ فصیح سمجھا جاتا ہے۔ شَكَرَ شَكَرَ لَهٗ کے معنی ہیں اَثْنَى عَلَيْهِ يَمُنَا أَوْلَادُهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ کسی کے احسان کے باعث اس کی تعریف کی۔ گویا محسن کی تعریف کے ساتھ اقرار احسان شکر کہلاتا ہے۔ (اقرب)

تفسیر - خروج باب ۳۲ آیت ۱۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بچھڑا بنا یا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اُن پر بھڑک اٹھا اور اس نے موسیٰ سے کہا ”کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک گردن کش قوم ہے اب تو مجھ کو چھوڑ کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں انہیں بھسم کروں۔“

پھر آیت ۱۴ میں ہے۔ ”اس پر حضرت موسیٰؑ نے ان کے لئے دعا کی اور مطابق توریت تب خداوند نے اس بدی سے، جو چاہتا تھا، کہ اپنے لوگوں سے کرے پچھتایا۔“ یعنی انہیں سزا نہ دی بلکہ درگزر فرمایا۔ (آیت ۱۱-۱۴)

عَفَوْنَا عَنْكُمْ سے مراد قومی سزا کی معافی ہے نہ کہ تمام قوم کی۔ اس جگہ عَفَوْنَا عَنْكُمْ سے مراد قومی سزا کی معافی ہے نہ کہ تمام قوم کی معافی۔ قومی جرائم کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شق اُس کی تمام قوم سے بحیثیت مجموعی تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک شق اس کے افراد سے تعلق رکھتی ہے۔ قومی جرائم میں کچھ اشخاص شرارت میں زیادہ حصہ لینے والے ہوتے ہیں۔ کچھ کم حصہ لینے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ حصہ تو نہیں لیتے مگر دل میں ساتھ ہوتے ہیں اور زبان سے بھی ساتھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ زبان سے تو ساتھ نہیں دیتے مگر دل سے ساتھ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل میں بھی شامل ہو جاتے ہیں مگر دل میں مخالف ہوتے ہیں۔ صرف بزدلی کی وجہ سے اشتراک کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل میں شریک نہیں ہوتے صرف زبان سے تائید کر دیتے ہیں مگر دل سے اُس بدی کے مخالف ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ عمل سے شامل ہوتے ہیں، نہ زبان سے شامل ہوتے ہیں، نہ دل سے شامل ہوتے ہیں لیکن وہ مقابلہ بھی نہیں کرتے خاموش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدی کے خلاف اظہار ناراضگی بھی کر دیتے ہیں لیکن پوری کوشش اس کو روکنے کیلئے نہیں کرتے۔ قومی سزا میں یہ سارے کے سارے شریک ہو جاتے ہیں لیکن جو سزا شخصی ہوتی ہے اس میں ہر ایک کے سلوک میں فرق کیا جاتا ہے۔

اس جگہ عَفَوْنَا عَنْكُمْ سے مراد قومی سزا ہی ہے۔ یعنی اس جرم کی بنی اسرائیل کو بحیثیت قوم جو سزا ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ روک دی گئی۔ افراد کے شخصی جرم جس کا اس میں ذکر نہیں۔ جیسا کہ ایک آیت چھوڑ کر بعد کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شخصی طور پر جو لوگ بڑے مجرم تھے ان کو سزا دی گئی تھی۔

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کی تشریح لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یعنی یہ فضل ہم نے اس لئے کیا ہے تاکہ تم ہماری رحمت کے قدردان بن جاؤ اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسار رحیم ہے اور اس کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر تم بار بار اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۴﴾

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ کو کتاب (یعنی تورات) اور فرقان دیئے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ الْفُرْقَانَ فُرْقَانٌ دراصل فَرَقَ کا مصدر ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں فَرَقَ بَيْنَهُمَا

فُرْقَانًا أَمْيَ فَصَلِّ ابْعَاضَهُمَا یعنی دو چیزوں کے حصول کو جدا جدا کر دیا اور جب فَرَقَ لِفُلَانٍ أَمْرًا أَوْ رَأَىٰ كَيْفِيَّةً تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بَيِّنٌ وَاتَّضَحَ فُلَانٌ کے لئے اس کی رائے اور معاملہ کی حقیقت واضح اور اچھی طرح ظاہر ہوگئی۔ نیز کہتے ہیں۔ فَرَقَ لَهُ عَيْنِ الشَّيْءِ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ بَيِّنَةٌ اس کے سامنے کسی بات کو اچھی طرح بیان کر دیا۔ علاوہ ازیں الْفُرْقَانُ کے معنی ہیں الْقُرْآنُ قرآن مجید۔ كُلُّ مَا فُرِقَ بِهِ بَيِّنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ہر وہ بات جس سے حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو جائے۔ النَّصْرُ۔ مَدَدُ الْكُفْرَانِ۔ دَلِيلُ الْبُاطِلِ أَوْ السَّحَرِ صَحِّحٌ یا سحری کا وقت۔ اِنْفِرَاقُ الْبَحْرِ سمندر کا دو ٹکڑے ہونا۔ التَّوْرَةُ تورات کو بھی فرقان کہتے ہیں۔ نیز بدر کی جنگ کو بھی یَوْمَ الْفُرْقَانِ کے نام سے موسوم کرتے ہیں (اقرب) فُرْقَانُ کے اصل معنی تو کُلُّ مَا فُرِقَ بِهِ بَيِّنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ کے ہیں۔ لیکن لغت والوں نے اس لفظ کے ذیل میں قرآن مجید۔ تورات اور سمندر کے دو ٹکڑے ہونے کے بھی معنی کئے ہیں۔ یہ استنباطی معنی ہیں نہ کہ لغوی۔ کیونکہ مذکورہ اشیاء کے ذریعے سے مختلف مذاہب والوں کے نزدیک حق و باطل میں تمیز ہوگئی۔ اس لئے ان کو فرقان کہا گیا۔

يَهْتَدُونَ اِهْتَدَى سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور اِهْتَدَى هَدَى سے باب اِنْتَعَالَ ہے۔ هَدَاكَ اِلَى الطَّرِيقِ بَيِّنَةً لَهُ اسے رستہ بتایا۔ هَدَى الْعُرْوَةَ اِلَى بَعْلِهَا اَزْفَهَا اِلَيْهِ وَلِهَذَا كَوْنِهَا اِلَى خَاوندِكَ لَغِيَا۔ هَدَى فُلَانًا: تَقَدَّمَ اس کے آگے آگے چلا۔ کہتے ہیں جَاءَتْ الْخَيْلُ يَهْدِيهَا فَرَسٌ اَشْفَقَ اَمْيَ يَتَقَدَّمُهَا۔ گھوڑے آئے جبکہ ان کے آگے آگے ایک سرخ رنگ کا گھوڑا دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ (اقرب) پس هَدَى کے تین معنی ہیں راستہ دکھانا۔ راستہ تک پہنچانا اور آگے آگے چل کر منزل مقصود تک لئے جانا۔

قرآن کریم میں بھی هَدَايَةَ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی اس کے کام کی طاقتیں پیدا کر کے کام پر لگا دینے کے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں آتا ہے اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طہ: ۵۱) یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب حال کچھ طاقتیں پیدا کیں پھر اسے اس کے مفوضہ کام پر لگا دیا۔ دوسرے معنی ہدایت کے قرآن کریم سے ہدایت کی طرف بلانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً فرمایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰيَةً يَهْتَدُونَ بِاَمْرِنَا (السجدة: ۲۵) اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو تورات کی طرف بلاتے تھے۔ تیسرے معنی ہدایت کے قرآن کریم سے چلاتے لئے آنے کے ہیں جیسے کہ جنٹیوں کی نسبت آتا ہے کہ وہ کہیں گے۔ اَحْسَنُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا (الاعراف: ۴۴) سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو ہمیں جنت کی طرف چلاتا لایا اور جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح ہدایت کے معنی سیدھے راستہ کے ساتھ موانست پیدا

کرنے کے بھی ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ (التغابن: ۱۲) جو اللہ پر کامل ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت سے موافقت پیدا کر دیتا ہے اور اچھی باتوں سے اسے رغبت ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں راہ دکھانے کے معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو ایمان لاتا ہے اسے راہ تو پہلے ہی مل چکا۔ ہدایت کے معنی کامیابی کے بھی قرآن کریم میں آتے ہیں سورہ نور میں منافقوں کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ انہیں جنگ کا حکم دیا جائے تو وہ ضرور اس کے لئے نکل کھڑے ہوں گے لیکن عمل ان کا کمزور ہے۔ فرماتا ہے قسمیں نہ کھاؤ عملاً اطاعت کرو۔ کیونکہ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ پھر فرماتا ہے اے رسول! ان سے کہہ دے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر اس حکم کے باوجود تم پھر گئے تو رسول پر اس کی ذمہ داری ہے۔ تم پر تمہاری۔ اور یاد رکھو کہ إِنَّ يُطِيعُوا تَهْتِكُوا (التنوير: ۵۵) اگر تم رسول کی بات اس بارہ میں مان لو گے تو نقصان نہ ہوگا بلکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فتح پاؤ گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے الَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى (محمد: ۱۸) جو لوگ اس ہدایت کو جو انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اپنے نفس میں جذب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہدایت عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ اس کے بے انتہا مدارج ہیں۔ ہدایت کے ایک درجہ سے اوپر دوسرا درجہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے جاذب ہو جاتے ہیں انہیں ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ هُدًى - الْرَّشَادُ - سیدھے راستہ پر ہونا۔ الْبَيَانُ بیان کرنا۔ الدَّلَالَةُ - کسی امر کی طرف رہبری کرنا (اقرب) الْهَدَايَةُ - الدَّلَالَةُ بِالطَّلْفِ یعنی ہدایت (جو هُدًى کا ہم معنی دوسرا مصدر ہے) کے معنی محبت اور نرمی سے کسی امر کی طرف رہبری کرنے کے ہیں۔ (مفردات) امام راغب کے نزدیک ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں مندرجہ ذیل چار معنوں میں آتا ہے (۱) ہر عقل یا سمجھ یا ضروری جزوی ادراک کی طاقت رکھنے والی شے (جیسے حیوانات وغیرہ کہ ادراک کامل ان کو حاصل نہیں ہوتا صرف جزوی یا سطحی ادراک ایسے ضروری امور کا جو ان کی حیات اور محدود عمل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو حاصل ہوتا ہے) کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام کا طریق بتانا۔ اس کی مثال قرآن کریم میں یہ ہے۔ رَبُّنَا أَخْلَقَهُ فَتَحْنَاهُ هُدًى (طہ: ۵۱) یعنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی عقل یا سمجھ یا اس کے ضروری تقاضوں کے مطابق اسے رہنمائی کی (میرے نزدیک اس جگہ هُدًى کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے میں مناسب قوتیں پیدا کر کے پھر انہیں کام پر لگا دیا کیونکہ صرف قوتوں کا موجود ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ انہیں ابتدائی حرکت دے کر کام پر لگانا ان کی حیات کے شروع کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گو پیدائش سے پہلے آلات تنفس کامل طور پر موجود ہوتے ہیں مگر باہر نکلنے

کے بعد جب تنفس کے آلات کو ہوا لگنے یا پانی کا چھینٹا دینے سے ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے بچہ کی عملی زندگی درحقیقت اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جس طرح ایک گھڑی کے اندر سب ہی پُرزے موجود ہوتے ہیں مگر جب تک اُسے کُنجی دے کر حرکت نہ دی جائے پُرزے کام کرنا شروع نہیں کرتے غرض حیات کو شروع کرنے سے پہلے ایک ابتدائی دھکے کی ہر شے کو ضرورت ہوتی ہے اور ہدایت سے مراد وہی حرکت اُولیٰ ہے اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو مناسب قویٰ کے ساتھ پیدا کیا ہے اور پھر حرکت اُولیٰ دے کر اسے مفوضہ کام پر لگا دیا ہے (علامہ راغب کے نزدیک ہدایت کے دوسرے معنی اس ارشاد کے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے بندوں تک پہنچاتا ہے اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَاتًا لِّيهْتَدُوا وَيَهْتَدُوا بِآيَاتِنَا (سجدة: ۲۵) ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے امام مقرر کئے جو ہمارے الہام سے لوگوں کو ہماری طرف بلاتے تھے۔ ہدایت کے تیسرے معنی ان کے نزدیک اس توفیق کے ہیں جو ہدایت پانے والوں کو ملتی ہے یعنی ہدایت ملنے کے بعد جو عمل کی توفیق یا فکر کی بلندی پیدا ہوتی ہے یا مزید ہدایت کے حصول کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہدایت کہلاتی ہے اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے اَلَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى (محمد: ۱۸) جو لوگ ہدایت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے (یعنی عمل کی توفیق اور ہدایت کے سلسلہ میں مزید فکر کر کے اور علوم حاصل کرنے کا موقع عطا کرتا ہے)۔ چوتھے معنی ہدایت کے انجام بخیر کے اور جنت کو پالینے کے ہیں۔ اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ (محمد: ۶) اللہ تعالیٰ ان کا انجام بخیر کر کے انہیں جنت تک پہنچا دے گا اور ان کے حالات کو درست کر دے گا اور قرآن کریم میں جہاں یہ آتا ہے۔ يَهْدُوْنَ بِآيَاتِنَا (الانبیاء: ۷۴) وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت دیتے تھے یا لِحٰثِ قَوْمٍ هٰذَا (الرعد: ۸) ہر قوم میں ہادی آیا ہے اس جگہ ہدایت سے مراد لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینے کے ہیں اور ایسی آیات جیسے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اٰجَبْتَبَّ (القصص: ۵۷) اور ایسی آیات جن میں یہ ذکر ہے کہ کافروں اور ظالموں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس سے مراد تیسری اور چوتھی قسم کی ہدایتیں ہیں یعنی ہدایت پا جانے کے بعد توفیق عمل کا ملنا یا نورا ایمان کا عطا ہونا یا جنت میں داخلہ کی نعمت کا حصول۔ پس ان آیات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کفار کو مذکورہ بالا انعامات نہیں مل سکتے (اور یہ ظاہر ہے کہ جو دوسری قسم کی ہدایت یعنی دعوت انبیاء کو قبول نہیں کرتا۔ وہ تیسری اور چوتھی قسم کی ہدایتوں کو جو دوسری قسم کی ہدایتوں کے نتائج ہیں حاصل نہیں کر سکتا) (مذکورہ بالا تمام مضمون سوائے ان عبارتوں کے جو خطوط و حدانی میں ہیں عربی کی مشہور لغت کی کتاب مفردات راغب سے لیا گیا ہے)

اِهْتَدَىٰ کے ایک معنی سب سے آگے ہو جانے کے بھی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں اِهْتَدَىٰ الْفَرَسُ الْحَيْلُ صَارَ فِيْ اَوَائِلِهَا کہ فلاں گھوڑا باقی قافلہ کے گھوڑوں کے آگے آگے چلا (اقرب) پس تَهْتَدُوْنَ کے معنی ہدایت پانے کے علاوہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تمام سب لوگوں سے آگے نکل جاؤ۔ ان کے پیش رو ہو جاؤ۔

تفسیر۔ آیت وَ اِذْ اَتَيْنَا... الخ میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور بنی اسرائیل کے فعل کے

تقابل کی طرف اشارہ اس آیت میں ضمنی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان چالیس راتوں میں جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ کیا کچھ دیا گیا تھا اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے اتنا کام کر رہے تھے اور ان کی ترقی کے سامان پیدا کر رہے تھے۔ اور یہ لوگ ایک زندہ خدا اور محسن خدا کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پرستش میں مشغول تھے۔ یہ تقابل اللہ تعالیٰ کے فعل کا اور بنی اسرائیل کے فعل کا بنی اسرائیل کے جرم کو ایسا واضح کر دیتا ہے کہ کوئی عقلمند اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُوْنَ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہم تمہاری ہدایت کے سامان کر رہے تھے اور تم اپنی گمراہی کے سامان کر رہے تھے۔ کتاب اور فرقان جو اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دئے گئے۔ ان کی غرض تو یہ تھی کہ وہ اجمالی ایمان جو بنی اسرائیل کو حاصل تھا اسے تفصیلی ایمان سے بدل دیا جائے۔ مگر بنی اسرائیل نے ان ایام میں اس اجمالی ایمان کو بھی کھو دیا۔ اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلی دفعہ آیا ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس

جگہ بعض امور بیان کر دینے ضروری ہیں۔

حضرت موسیٰؑ کے بنی اسرائیل میں سے ہونے کا ثبوت قرآن کریم سے قرآن کریم سے معلوم

ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی تھے۔ جس کی آخری کڑی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کے ساتھیوں نے کہا۔ اَتَّكِدُ مَوْسَىٰ وَ قَوْمَهُ لِيُقْبِلُوا فِي الْاَرْضِ (الاعراف: ۱۲۸) اے فرعون! کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ ملک میں فساد کریں۔ اسی طرح ایک درجن سے بھی زیادہ مواقع پر قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قرار دیا گیا ہے۔ گو اس کی یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ قوم سے ان کے ماننے والے لوگ مراد لئے جائیں لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ پس آپ کو ماننے والے بھی سوائے شاذ و نادر کے بنی اسرائیل ہی ہوں گے۔

پس قوم سے مراد اس صورت میں بھی بنی اسرائیل ہی بنتے ہیں۔ مگر ایک آیت قرآن کریم میں ایسی ہے جو قوم کے لفظ کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ فَمَا أَمَّنَ لِمَوْلَانِي (الْكَذِبِيَّةُ مِنْ قَوْمِهِ) (یونس: ۸۴) حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ اس جگہ قوم سے مراد بہر حال بنی اسرائیل ہی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ فرمایا کہ ان کی قوم کے تھوڑے آدمی ان پر ایمان لائے تھے۔ تو قوم سے مراد مومن نہیں ہو سکتے بلکہ قوم سے مراد نسلی قوم ہی لی جاسکتی ہے۔

نئے محققین کی اس بات کو ثابت کرنے کی چھ دلیلیں کہ حضرت موسیٰؑ بنی اسرائیل میں سے نہ تھے آج کل کے نئے محقق اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ وہ کسی مصری قوم میں سے تھے اور وہ اس کے مندرجہ ذیل دلائل دیتے ہیں:-

اول موسیٰ کا نام مصری زبان میں ہے۔ چنانچہ مصری زبان میں ”موسے“ بچے کو کہتے ہیں۔ بریٹڈ اپنی کتاب ”ڈان آف کائنات“ میں لکھتا ہے کہ مصریوں میں ”آمن موسے“ اور ”پٹاموسے“ قسم کے نام پائے جاتے ہیں جن کے معنی ہیں۔ امون (ایک مصری دیوتا) کا بچہ۔ پٹا (ایک مصری دیوتا) کا بچہ۔

پروفیسر سگمنڈ فرائیڈ اپنی کتاب ”موزرز اینڈ مانتھی ازم“۔ Moses and Monotheism

میں لکھتے ہیں کہ ان ناموں کے علاوہ مصری بادشاہوں کے نام بھی اس رنگ کے پائے جاتے ہیں۔ جیسے ”آہ موسے“۔ ”ٹھٹ موسے“۔ ”راموسے“۔ صفحہ ۱۴۔ یہ ”راموسے“ وہی ہے جس کے نام کو بائبل میں ”رع مسیس لکھا گیا ہے۔ راموسے کا دیوتا تھا۔ پس ”راموسے“ کے معنی ہوئے۔ سورج دیوتا کا دیا ہوا بیٹا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ”موسے“ کے ساتھ جو نام تھا وہ گر گیا اور ”موسیٰ“ خالی موسیٰ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

دوسری دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ توحید کنعانی قبائل میں نہیں پائی جاتی۔ توحید کا عقیدہ مصر کے ایک بادشاہ نے ایجاد کیا تھا۔ اس بادشاہ کا نام ”عمون ہوتپ چہارم“ بتایا جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے ایک خدا کی جس کا نام وہ ”اتون“ بتاتا تھا پرستش کی اور لوگوں سے کروائی۔ اتون کا لفظ پرانی کتب میں سورج دیوتا کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہلبو پولس کے مقام پر سورج دیوتا کا ایک بڑا مندر تھا جس میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس مندر کے ساتھ تعلق رکھنے والے بہت سے عجباری فلسفیانہ خیالات کے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سورج دیوتا کو ایک مادی دیوتا سے اخلاقی دیوتا کی شکل میں بدلنا شروع کر دیا۔ اسی تصور کو ”عمون ہوتپ“ نے واحد خدا کے تصور کا جامہ پہنایا اور مصر میں اس کو رائج کیا۔ اُس کا ایک فقرہ نقل کیا جاتا ہے جسے بریٹڈ نے اپنی تاریخ مصر

(History of Egypt) میں درج کیا ہے اور وہ یہ ہے ”اے یکہ و تنہا خدا تیرے سوا اور کوئی نہیں۔“ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ توحید کے خیال کا بانی وہی تھا اور اس نے ملک میں جبراً اس خیال کی اشاعت کی۔ اس بادشاہ نے بت خانے بھی جوڑوائے۔ چونکہ ”عمون ہوتپ“ مشرکانہ نام تھا اس لئے اس بادشاہ نے اپنا نام بھی ”اختاتون“ رکھا گویا اپنے آپ کو ”اتون“ یعنی واحد خدا کی طرف منسوب کیا۔

تیسری دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں ختنہ رائج کیا اور ختنہ کا دستور مصری ہے۔ پس معلوم ہوا کہ موسیٰ مصری تھے۔

چوتھی دلیل یہ دی گئی ہے کہ اس اختاتون بادشاہ یا عمون ہوتپ بادشاہ کی تعلیم میں کہیں بعث بعد الموت کا ذکر نہیں کیا گیا ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں کہیں بعث بعد الموت کا ذکر نہیں۔

پانچویں دلیل یہ دی گئی ہے کہ مصری سؤر سے نفرت کرتے تھے ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے سؤر سے نفرت دلائی گئی ہے۔ چھٹی دلیل یہ دی گئی ہے کہ موسیٰ کی نسبت آتا ہے کہ وہ اچھی طرح اپنے خیالات ظاہر نہ کر سکتے تھے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصری تھے۔ اور عبرانی زبان اچھی طرح نہ بول سکتے تھے۔

پس معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری تھے اور ان لوگوں کے خیال میں وہ عمون ہوتپ المعروف بہ اختاتون بادشاہ کے تبعین میں سے تھے۔ اختاتون کے بعد پھر دوبارہ مصری مذہب قائم ہو گیا اور شرک نے جگہ لے لی تب ان میں اختاتون کی موخداۃ تعلیم کے پھیلنے کا کوئی امکان نہ رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک غیر قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف توجہ کی جو مصریوں کے ظلم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی اور عام مصری خیالات کو اپنی منافرت کی وجہ سے چھوڑنے پر آمادہ کی جاسکتی تھی۔ اسرائیلیوں نے اس وجہ سے کہ وہ موسیٰ مصری کے خیالات کو مان کر مصری قوم کے خیالات کی تردید کرنے والے ہو جاتے تھے جو ان کی دشمن تھی جلدی سے اس دین کو قبول کر لیا اور جب اس دین کو قبول کرنے کی وجہ سے مصر میں ان کے لئے کوئی جگہ نہ رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اس ملک سے ہجرت کی اور کنعان کی طرف آ گئے۔

اب میں ان چھ دلیلوں کا جو پیش کی جاتی ہیں مختصراً جواب دیتا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی مصری قوم میں سے ثابت کرنے کے دلائل کا رد پہلی دلیل یہ دی گئی ہے کہ موسیٰ کا نام مصری ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری ہیں۔ یہ دلیل نہایت ہی مضحکہ خیز ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور ادنیٰ حیثیت میں رہتے تھے اس لئے لازمی طور پر انہیں مصری تہذیب اور مصری

اقوام کے اثر سے متاثر ہونا چاہیے تھا۔ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے انگریز ہیں۔ ہزار میں سے ایک بھی انگریز آبادی کے لحاظ سے نہیں لیکن باوجود اس کے ہندوستان میں ہزاروں آدمی جمیز (James) جونز (Jones) اور ٹامس (Thomas) وغیرہ ناموں سے اپنے خیال میں اپنی عزت افزائی کر رہے ہیں ان کے رنگ کونلوں کی طرح کالے ہیں نسلاً وہ چوہڑوں چماروں میں سے ہیں۔ زبان انگریزی جاننا تو الگ رہا۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ لفظ عیسائی یا انگریزی بھی نہیں بول سکتے۔ عیسائی کو ”ہسائی“ کہتے اور انگریز کو ”گریج“ کہتے ہیں مگر پھر بھی ٹامس، جونز اور اس قسم کے اور نام انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان ناموں کو دیکھ کر کوئی مؤرخ یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب سمجھا جائے گا کہ وہ انگریزی نسل کے آدمی ہیں۔ آخر انسانی استدلال کی کوئی نہ کوئی قیمت چاہیے۔ ایک مؤرخ کو رائے قائم کرنے سے پہلے ہر قسم کے حالات کو سوچ کر رائے قائم کرنی چاہیے۔ میں حیران ہوں یہ یورپین مؤرخ آخر کس بناء پر ایسی جلدی نتائج نکالنے کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ وہ موسیٰؑ اور ان کے چند ساتھیوں کے ناموں پر حیران ہیں۔ وہ ہندوستان میں آئیں ہم ان کو ہزاروں کالے کلوٹے نسلاً چوہڑے اور چمار زبان انگریزی سے نابلد ٹامس (Thomas) جمیز اور جونز دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا حال ہے سینکڑوں عورتیں ایسی ہیں جو عیسائی تو نہیں لیکن کسی کان ونٹ (Convent) میں پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام یا اپنے بچوں کے نام انگریزی طرز پر رکھ لئے ہیں اور بعض جگہ پر ایک ایک انگریزی نام ہے اور ایک ایک اسلامی یا ہندوانہ نام اور وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں میں اسی انگریزی نام سے مشہور ہوتی ہیں کوئی ثریا ہے اور وہ اپنی ہجولیوں میں ڈالی (Dolly) کہلاتی ہے کوئی رام کول ہے اور وہ اپنی سہیلیوں میں جین (Jane) کہلاتی ہے کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ وہ انگریز ہیں پھر ان سینکڑوں اور ہزاروں مثالوں کو دیکھ کر کیوں نہ یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اگر موسیٰ ایک مصری نام ہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے والدین نے یا جس نے بھی یہ نام رکھا اس نے مصری اثر کے نیچے اس بچے کو ایک مصری نام دے دیا اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل اور قرآن کریم کے رو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیدائش پر فرعون کی سختی سے بچانے کے لئے ان کی والدہ نے خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک ٹوکڑے میں ڈال کر دریا میں چھینک دیا تھا اور ان کو مصری شاہی خاندان کی ایک عورت نے وہاں سے اٹھایا اور پالاتو اس میں کونسے تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام مصری تھا۔ آخر جو بچہ دریا کے کنارے پڑا ہوا پایا گیا تھا۔ اس کا نام کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا اگر اسے اٹھانے والوں نے اس کا نام اپنی زبان میں رکھا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مصری زبان میں ہونا ان کے مصری قوم میں سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ پس فرض کرو یہ مصری نام ہے تو بھی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات میں ایک ایسی کڑی موجود ہے جو ان کے نام کے مصری ہونے کے امکان کو ثابت کرتی ہے تو پھر اس نام سے ان کی مصری قومیت کا نتیجہ نکالنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ غرض مصری نام کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصری ہونے کا استدلال نہایت ہی کمزور ہے اور اس استدلال سے زیادہ بود اور کمزور استدلال کم ہی ہو سکتا ہے۔ بائبل کا بیان اس واقعہ کے متعلق مندرجہ ذیل ہے۔

بنو لوی میں سے ایک مرد نے اپنے قبیلہ کی عورت سے شادی کی ”وہ عورت حاملہ ہوئی اور بیٹا جنی اور اس نے اسے خوبصورت دیکھ کر تین مہینے تک چھپا رکھا اور جب آگے کو چھپانہ سکی تو اُس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اُس پر لاسا اور رال لگایا اور لڑکے کو اُس میں رکھا اور اُس نے اسے دریا کے کنارے پر جھاؤ میں رکھ دیا اور اس کی بہن دُور سے کھڑی دیکھتی تھی کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تب فرعون کی بیٹی غسل کرنے کو دریا پر اُتری اور اُس کی سہیلیاں دریا کے کنارے پر پھرنے لگیں اس نے جھاؤ میں ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اُسے اٹھالے۔ جب اُس نے اُسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ روتا ہے اُسے اُس پر رحم آیا اور بولی یہ کسی عبرانی کا لڑکا ہے تب اس (یعنی موسیٰ) کی بہن نے فرعون کی بیٹی کو کہا کہ بتیو میں جا کے عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تجھ پاس لے آؤں تاکہ وہ تیرے لئے اس لڑکے کو دودھ پلائے۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا کہ جا، وہ چھو کر مگی اور لڑکے کی ماں کو بلا لیا۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا کہ اس لڑکے کو لے اور میرے لئے دودھ پلا۔ میں تجھے دو ماہہ دوں گی۔ اُس عورت نے لڑکے کو لیا اور دودھ پلا لیا۔ جب لڑکا بڑھا وہ اسے فرعون کی بیٹی پاس لائی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا۔ اس نے اس کا نام موسیٰ رکھا اور کہا اس سبب سے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔“ (خروج باب ۲ آیت ۱۰ تا ۲۲)

قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے۔ وَ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اِمْرٍ مُّوسَىٰ اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا اخْفَيْتْ عَلَيْهِ فَالْقَيْدُ فِي الْيَمِّ ۗ وَلَا تَحْزَنْ ۗ اِنَّا رَاٰدُوْهُ اِلَيْكَ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۗ فَالْتَقَطَتْ اَنْ فِرْعَوْنُ لَيْسُوْنَ لَهُمْ عُدُوًّا وَّ حَرَدًا ۗ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ۗ وَ قَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنٌ لِّيْ وَ لَكَ ۗ لَا تَقْتُلُوْهُ ۗ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ يَتَّخِذَ اٰوْكَدًا ۗ وَ كَدًّا ۗ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۗ (القصص: ۱۰ تا ۱۸) یعنی موسیٰؑ کی پیدائش پر ہم نے موسیٰؑ کی والدہ کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلا۔ پھر جب تجھے ڈر ہو کہ بچے کی پیدائش کا راز فاش ہو جائے گا تو تو اس کو دریا میں ڈال دیجیو اور ڈر نہیں اور نہ ہی غم کیجیو (سورہ طہ ع ۲ میں دریا میں ڈالنے کے متعلق یہ بیان کیا

گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہا گیا تھا کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈالا جائے، ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے اور اس کو اپنا رسول بنائیں گے۔ پھر اُس کو آل فرعون نے دریا کے پاس سے اٹھا لیا تاکہ وہ اُن کا دشمن ہو اور غم کا موجب ہو۔ فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر یقیناً خطا کار تھے اور فرعون کے خاندان کی ایک عورت نے فرعون سے کہا یہ میرے لئے اور تیرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اس کو مارو نہیں ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے (اچھا غلام ثابت ہو) یا (اگر بہت ذہین نکلے) تو ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ حقیقت کو جانتے نہیں تھے۔ ان حوالوں سے ثابت ہے کہ قرآن کریم اور بائبل کے رو سے فرعون کے گھر کی ایک عورت نے جو بائبل کے بیان کے مطابق فرعون کی بیٹی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا یا اور پالا۔ اور بائبل صاف کہتی ہے کہ اس فرعون کی بیٹی نے ہی موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا تھا اور اگر ایسا ہوا تو فرعون کی بیٹی نے آخر اپنا مصری نام ہی رکھا ہوگا۔ پس مصری نام کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری قرار دینا بالکل خلاف عقل ہے۔ پنجاب میں اس قسم کی کم از کم دو مثالیں پائی جاتی ہیں۔ دو مشہور انگریزوں نے دو ہندوستانی لڑکے پالے اور ان کے انگریزی نام رکھے اور وہ لڑکے انہی انگریزی ناموں سے اب تک مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واربرٹن خاندان کی طرف منسوب ہے اور دوسرا ہندوستانی نوجوان ڈاکٹر مارٹن کے خاندان کی طرف منسوب تھا جس خاندان کا ایک فرد ابی سینیا میں وزیر کے عہدہ پر بھی متمکن رہا ہے۔ وہ افراد جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں خالص ہندوستانی الاصل ہیں مگر چونکہ انگریزوں نے ان کو پالا تھا اور انگریزوں نے ہی اُن کا اپنی طرز پر نام رکھا اس لئے وہ انگریزی ناموں سے ہی مشہور ہیں۔

علاوہ ازیں میرے نزدیک اس امر کا بھی کوئی کافی ثبوت پیش نہیں کیا گیا کہ موسیٰ واقعہ میں مصری نام ہے اور نہ اس امر کا کوئی کافی ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ موسیٰ عبرانی نام نہیں ہے۔ جو لوگ موسیٰ کو مصری نام قرار دیتے ہیں وہ بعض مصری ناموں سے استدلال کرتے ہیں کہ اُن کا ایک حصہ موسیٰ کے نام پر مشتمل ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محققین زبان کا اس میں اختلاف ہے بلکہ ایک بھی محقق ایسا نہیں جو اس لفظ کا تلفظ جسے موسیٰ قرار دیا گیا ہے موسیٰ بتاتا ہو بلکہ کوئی اسے ”مؤسے“ پڑھتا ہے اور کوئی اسے ”میس“ اور کوئی ”میسو“ بتاتا ہے جس کے معنی بچے کے ہیں اور یہ نام کبھی اکیلا ہوتا ہے اور کبھی کسی اور نام کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ مصری شاہی خاندان کے مندرجہ ذیل ناموں کا یہ حصہ ہے۔

تھاٹ میس (Thothmes)۔ آہ میس (Ahmes)۔ رامیسو (Ramessu)

اب یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ کے تلفظ اور اس تلفظ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اوتل موسیٰ میں حروف علت میں سے واؤ

استعمال ہوئی ہے اور ”میسو“ یا ”میس“ میں یاء استعمال ہوئی ہے دوسرے موسیٰؑ میں حرفِ علت کی آواز لمبی ہے لیکن ”میس“ یا ”میسو“ میں وہ اتنی چھوٹی ہے کہ حرفِ علت کی بجائے اسے خالی حرکت کہنا زیادہ درست ہوگا۔ پھر موسیٰؑ کے آخر میں الف آتا ہے اور ”میسو“ کے آخر میں واؤ آتی ہے اور ”میس“ کے آخر میں کچھ بھی نہیں آتا۔ چوتھے یہ کہ بائبل میں لکھا ہے فرعون کی بیٹی نے موسیٰؑ نام سے بچے کو پکارتے ہوئے کہا کیونکہ ہم نے اسے پانی سے بچایا ہے لیکن مصری زبان میں پانی سے نکالنے کے معنوں میں موسیٰ یا اس کے مشابہ کوئی لفظ نہیں پایا جاتا۔ ہاں عبرانی زبان میں اس سے ملتے جلتے معنے ہو سکتے ہیں چنانچہ عبرانی زبان میں موسیٰ کا نام ”مؤشے“ آتا ہے اور اگر ”موشے“ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ ”مؤ“ بنے گا جس کے معنے پانی کے ہوں گے اور دوسرا حصہ ”شے“ بنے گا جس کے معنے چیز کے ہوں گے۔ عربی اور عبرانی زبانیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ عربی میں پانی کے لئے ماء کا لفظ ہے اور چیز کے لئے شئی ؑ۔ اگر عربی میں یہ نام رکھا جائے تو یہ ”ماء شئی ؑ“ بنے گا۔ بگڑی ہوئی عربی میں بھی پانی کے لئے ”مؤ“ کا لفظ بولتے ہیں چنانچہ جو لوگ حج کے لئے گئے ہیں انہوں نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ ایک شخص دوسرے سے سوال کرتا ہے مؤشے فیئہ جس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ پانی ہے۔ صحیح عربی میں درحقیقت یہ فقرہ یوں بنتا ہے هل شئی ؑ من الماء فیئہ لیکن جاہل لوگ مختصر کر کے اسے ”مؤشے فیئہ“ کہہ دیتے ہیں ماء کی جگہ مؤ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور شئی ؑ کی جگہ ”شے“ کا۔ عبرانی زبان بھی درحقیقت عربی کی ایک بگڑی ہوئی قسم ہے پس اس زبان کے لحاظ سے ”مؤشے“ کے معنے ہوئے پانی کی چیز اور مطلب یہ ہوا کہ پانی میں سے نکالا ہوا بچہ۔ عربی میں آ کر اسے موسیٰ بنا دیا گیا جیسے یشوع کا عربی تلفظ ”عیسیٰ“ ہے اور جیسے ”یشعیسیٰ“ کا عربی تلفظ اسماعیل ہے۔ پس نہایت قوی قرینہ اس بات کا موجود ہے کہ موسیٰ کا نام عبرانی ہی ہے اور بائبل کا بیان اس بارہ میں کمزور ہے۔ یہ خیال کرنا بھی قرین قیاس نہیں کہ کئی سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے اور ان کا کوئی نام ہی نہیں تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خاندان سے اُن کی والدہ دودھ پلانے کے لئے لائیں تو انہوں نے اس خیال سے کہ یہ پانی سے بچا ہے اس کا نام ”مؤشے“ رکھا کہ پانی کی چیز۔ جس نام کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا وہ معجزہ ہمیشہ ان کے سامنے تازہ رہتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے جب وہ اس بچے کو واپس لے کر فرعون کے گھر گئی ہیں تو وہاں انہوں نے یہ نام لیا ہے اور اس کی وجہ بتائی۔ تو وہ نام فرعون کے گھر والوں کو بھی پسند آ گیا اور انہوں نے کہا ہم اس نام سے اسے بلایا کریں گے۔ یہ حقیقت کے قریب ترین تشریح ہے کیونکہ اول مصری زبان میں ”موشے“ کی طرز کا کوئی مصری لفظ نہیں جس کے معنی پانی سے بچانے کے ہوں۔

دوسرے یہ خیال کرنا بعید از قیاس ہے کہ ساہا سال ایک بچہ کا کوئی نام ہی نہ رکھا گیا ہو۔ اگر ہم عربی زبان پر غور کریں تو اس سے بھی موسیٰ کے نام کی تصدیق ہوتی ہے۔ کیونکہ عربی زبان کے رو سے موسیٰ کے لفظ کے معنی کٹے ہوئے کے ہوں گے اور اس نام کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ گویا وہ اپنے خاندان سے کٹ کر فرعونوں میں پالا گیا۔ اگر عبرانی تلفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ”موشے“ ہے دیکھا جائے تو ”موشی“ کے معنی عربی زبان میں نکالے ہوئے کے ہیں چنانچہ عربی میں کہتے ہیں اَوْشَى الشَّيْءُ - اِسْتَخْرَجَهُ - اَوْشَى كَالِاسْمِ فاعِلٌ بِنِ - اَوْشَى (نکالنے والا) اور اسم مفعول بِنِ كَالْمَوْشَى (یعنی نکالا ہوا) پس موشی کے معنی نہیں گے نکالا ہوا۔ اور یہ معنی بابل کے اس فقرہ سے بالکل ملتے ہیں جو کہا گیا کہ ”اس سبب سے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا“ پس میرے نزدیک درحقیقت موسیٰ موشی تھا جس کا عبرانی تلفظ ”موشے“ ہے اور اس کے لفظی معنی صرف نکالے ہوئے کے ہیں۔

سب سے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ جدید محقق اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہ بنی اسرائیل مصر میں گئے اور نہ مصر سے واپس آئے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں گئے اور ان کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام خود مصری تھے اور ان کا مذہب بھی مصری ہے۔ اس تضاد سے ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان محققین کی باتوں کی بنیاد کتنی کمزور ہے۔ حق یہ ہے کہ ان لوگوں نے بعض اچھی تحقیقاتیں کی ہیں لیکن اس شوق نے ان کو خراب کیا ہے کہ ہر تحقیق کے نتیجہ کو اس مسئلہ تک محدود رکھنے کی بجائے اس کو سب مسائل پر حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح وہ ٹھوکر کھا گئے ہیں۔ اُن کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص آبخورا بنائے اور ساری دنیا کی پیدائش کا دعویٰ کرنے لگ جائے۔ آبخورا بنانا خود ایک اچھا کام ہے مگر آبخورے کے بنانے سے کوئی شخص دنیا کا خالق نہیں بن سکتا۔ اگر یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے تو یقیناً اُن کے کام کی دنیا میں بہت زیادہ قدر کی جاتی۔

اس دلیل کا ردّ کہ توحید کا خیال مصری ہے اور حضرت موسیٰ کا توحید کے خیالات پھیلا نا ان کے مصری ہونے کی دلیل ہے دوسری دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ توحید کا خیال مصری ہے چونکہ یہ خیال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں میں پھیلا یا ہے اس لئے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مصری تھے۔ اس کے مندرجہ ذیل جواب ہیں۔

اول یہ خیال کر لینا کہ کوئی عقلی خیال محض کسی ایک قوم میں نشوونما پاتا ہے عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ہم اس خیال کو درست تسلیم کر لیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ دنیا کی تمام علمی ترقی صرف چار یا پانچ اشخاص کے دماغوں میں

ہوئی ہے اور باقی دنیا نے اُس کی نقل کی ہے اور یہ خیال بالبداہت باطل ہے۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں مختلف افراد اپنے گرد و پیش کے حالات پر غور کر کے کچھ نتائج نکالتے رہے ہیں اور مختلف ممالک کے سینکڑوں آدمیوں کے خیالات میں تو ارد ہوتا رہا ہے اصولی خیال ایک رہا ہے۔ ماحول کے ماتحت کچھ کچھ تبدیلیاں مختلف ملکوں میں ہوتی رہی ہیں۔ توحید کا سوال تو ایک ایسا سوال ہے جس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایک ملک کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا۔ ہم تو دیکھتے ہیں سائنس کے جزوی مسائل کے بارہ میں بھی ایک ایک وقت میں کئی ممالک کے سائنسدانوں نے آزادانہ طور پر تحقیقات کر کے ایک قسم کے نتائج معلوم کئے ہیں اور کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے ایک دوسرے کی چوری کی ہے بلکہ دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ یہ تو ارد ہوا ہے۔ بے تار برقی کے متعلق ہی ایک وقت میں مارکونی کے علاوہ اور سائنسدان بھی توجہ کر رہے تھے اور وہ اپنے طور پر اس بارہ میں کئی حقائق کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پس یہ خیال کرنا بالکل درست نہیں کہ چونکہ مصریوں میں توحید کا خیال پایا جاتا تھا اس لئے یہ خیال کسی اور قوم میں نہیں ہو سکتا تھا اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری توحید کو پھیلاتے تھے اس لئے وہ مصری تھے۔

ایک لحظہ کے لئے فرض کر لو کہ یہ اصول بھی درست ہے تو پھر بھی اس سے یہ نتیجہ کیونکر نکلا کہ موسیٰ مصری تھے۔ کیا قانون قدرت کا یہ بھی کوئی قاعدہ ہے کہ مصری خیال کو مصری ہی پھیلا سکتا ہے کوئی اسرائیلی نہ اُس خیال کو تسلیم کر سکتا ہے اور نہ اس کو پھیلا سکتا ہے۔ اگر یہ درست بھی ہے کہ توحید صرف مصر میں ہی پائی جاتی تھی تو کیا اس بات کا تسلیم کرنا ناممکن ہے کہ اسرائیلی نسل کے ایک شخص موسیٰ کو یہ خیال بھایا اور اُس نے یہ خیال اپنی قوم میں پھیلا دیا۔

میرے یہ جوابات اس مسئلہ پر صرف علمی تنقید کا رنگ رکھتے ہیں ورنہ حق یہ ہے کہ نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے توحید کا خیال ایجاد کیا اور نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خیال کو ایجاد کیا۔ تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء اپنے خیالات نہیں پھیلاتے بلکہ خدا تعالیٰ کی وحی کو پھیلاتے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ توحید کا خیال ابتدائے عالم سے دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا گیا ہے۔ اگر خدا ایک ہے اور اگر وہ شروع سے الہام کرتا چلا آیا ہے تو یہ سیدھی سادی بات ہے کہ وہ اپنے نبی کو یہی کہے گا کہ میں ایک ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک خدا پہلے نبیوں سے تو یہ کہتا رہے کہ میں دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں لیکن ”عمون ہوتپ“ کو آ کر یہ کہے کہ میں ایک ہوں۔ یہ سارا دھوکا الہام اور اس کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مذہب کی تو بنیاد ہی الہام پر ہے۔ اگر الہام نہیں تو مذہب صرف ایک ڈھکوسلا رہ جاتا ہے۔ پھر موسیٰ اسرائیلی ہوں مصری ہوں یا کچھ ہوں اُن کی ذات بالکل بے حقیقت رہ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان

تو خدائی الہام کی وجہ سے ہے اور اگر خدائی الہام کو تسلیم کیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ توحید تمام انبیاء کی تعلیم کا جزو اعظم رہا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لئے ”عمون ہوتپ“ کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم مکہ کے رہنے والوں کے سامنے متواتر یہ بات پیش کرتا ہے کہ تمہارا دادا ابراہیمؑ موحد تھا اور حضرت ابراہیمؑ یقیناً حضرت موسیٰؑ سے پہلے کے آدمی ہیں۔ مکہ کے لوگ خود مشرک تھے لیکن ان کو اس بات کی تردید کی جرأت کبھی نہ ہوئی اور ایک قول بھی کسی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ مکہ کے لوگوں نے آگے سے جھوٹے طور پر بھی کہا ہو کہ ابراہیمؑ مشرک تھا۔ پس یہ ایک تاریخی شہادت اس بات کی ہے کہ قریش جو اسرائیلیوں سے دُور بستے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے قرار دیتے تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خدا کے ماننے والا قرار دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگر توحید ”عمون ہوتپ“ سے سیکھی تھی تو مکہ کے ان اُن پڑھ لوگوں نے توحید کا علم کس سے حاصل کیا۔ کیا یہ بھی مصر سے سیکھ کر آئے تھے۔ وہ تو خود مشرک تھے ان کا تو فائدہ اس میں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک قرار دیتے مگر باوجود اس کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موحد ہونے کا کبھی انکار نہیں کیا۔ پس یہ کہنا کہ ”عمون ہوتپ“ سے توحید شروع ہوئی ہے بالکل درست نہیں۔ دنیا کی مختلف تاریخیں ایک خدا کا خیال قدیم زمانہ سے پیش کرتی چلی آئی ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کے الہام نے دنیا کے ہر گوشہ میں توحید کے خیال کو زندہ اور قائم رکھا ہے۔ شرک سے توحید پیدا نہیں ہوئی بلکہ توحید کے بعد کمزوری اور ضعف کے دنوں میں شرک کے خیالات پیدا ہوئے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ختنہ کی رسم جاری کرنا ان کو مصری ثابت نہیں کرتا تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ ختنہ مصریوں میں رائج تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی تعلیم دی۔ پس معلوم ہوا کہ وہ مصری تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

اول تو یہ استدلال غلط ہے کہ ختنہ کی رسم کے جاری کرنے کی وجہ سے موسیٰ مصری ثابت ہوتے ہیں کیونکہ فرض کرو ختنہ مصر ہی میں رائج تھا تو کیوں یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ بنی اسرائیل نے مصر کی رہائش کے دنوں میں مصریوں کے اثر کے ماتحت ختنہ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے یہ بات بھی غلط ہے کہ ختنہ مصریوں میں ہی رائج تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے خدا تعالیٰ کے حکم سے کروایا اور اپنی اولاد کے لئے ختنہ کرنا ضروری قرار دیا اور نہ صرف خود اپنا ختنہ کرایا بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاقؑ کا بھی ختنہ کرایا۔ اس بات کا ثبوت کہ بائبل کا یہ بیان درست ہے یہ ہے کہ عرب جن کے سوشل تعلقات اسرائیلیوں

سے اچھے نہیں تھے اور جو کبھی مصر نہیں گئے اُن میں بھی ختنہ کی رسم پائی جاتی ہے اور اُن کی روایات کے مطابق بھی حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کے ذریعہ سے یہ رسم اُن میں قائم ہوئی۔ بائبل کے متعلق تو یہ جدید محقق کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰؑ نے اُن کو ختنہ کی تعلیم دی کیونکہ وہ مصری تھے اور جب ختنہ کی تعلیم ان میں آگئی تب بنی اسرائیل نے اس تعلیم کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کر دیا۔ مگر یہ لوگ عرب کے متعلق کیا کہیں گے۔ عربوں کو تو نہ اسرائیلیوں کی تاریخ سے کوئی دلچسپی تھی نہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کو کوئی ہمدردی تھی بلکہ وہ تو اسماعیل علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے اسرائیلیوں سے عناد رکھتے تھے اور اسرائیلی اُن سے خار کھاتے تھے۔ اُن میں بھی اس رسم کا ہونا اور اُن کا بھی اس رسم کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی طرف منسوب کرنا صاف بتاتا ہے کہ ختنہ کی رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت چلی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری قرار دینے والے محقق درحقیقت ایک خطرناک غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عربوں میں ختنہ کا رواج مدت سے چلا آتا ہے۔ چنانچہ اس کی شہادت ”فلاس ٹارگی اس“ بھی دیتا ہے جو مسیح سے ۳۴۲ سال پہلے گزرا ہے (دیکھو جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Circumcision in Ethnography) مگر سب سے بڑی شہادت خود عربوں کی قومی شہادت ہے خواہ وہ مسلم تھے یا غیر مسلم۔ علاوہ ازیں جیوش انسائیکلو پیڈیا والا لکھتا ہے کہ ختنہ کی رسم علاوہ یہودیوں اور مسلمانوں کے اور قوموں میں بھی پائی جاتی تھی اور پائی جاتی ہے چنانچہ ایسے سینین عیسائی بھی ختنہ کراتے ہیں۔ افریقہ کے وحشی قبائل میں تو یہ رسم اتنی وسیع ہے کہ جیوش انسائیکلو پیڈیا کے بیان کے مطابق اُن قبائل کا نام لینا آسان ہے جو ختنہ نہیں کراتے بہ نسبت اُن قبائل کے جو ختنہ کراتے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا کے پُرانے قبائل بھی ختنہ کراتے تھے جن کا کوئی تعلق مصر سے ثابت نہیں ہو سکتا۔

(دیکھو ٹراہز آف سنٹرل آسٹریلیا مصنفہ پنرا اینڈ گلن صفحہ ۳۲۳)

امریکہ میں بھی کیا شمالی اور کیا جنوبی اور کیا وسطی یہ رسم پائی جاتی تھی (جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Circumcision)

ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مصریوں میں اس رسم کا پایا جانا غلط خیال ہے اگر باوجود مصر سے تعلق نہ رکھنے کے افریقہ کے اکثر قبائل میں۔ آسٹریلیا کے قبائل میں۔ شمالی جنوبی اور وسطی امریکہ کے قبائل میں اور عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا تو اس بات کے ماننے میں کیا مشکل ہے کہ اسرائیلی بھی ختنہ کرایا کرتے تھے۔

حق یہ ہے کہ مصر میں ختنہ کا پرانے سے پرانا ثبوت ایک مصری بادشاہ کی مومی سے جس کا نام ایمین

این ہب Amen-En-Heb تھا ملتا ہے۔ اس بادشاہ کا زمانہ ۱۶۱۴ قبل مسیح سے ۱۵۵۵ قبل مسیح تک تھا۔

(دیکھو جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Circumcision بحوالہ آرچائو فور انٹر Archivfur Anther صفحہ ۱۲۳) اور یہ زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان کی مصر میں ہجرت کے بعد کا ہے۔ غرض چونکہ اس حوالہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مصر میں ختنے کا قدیمی ثبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صرف دو سو سال قبل ملتا ہے، ہم آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہوں کا خاص قرب حاصل ہو گیا تھا ان کی تعلیم کے ماتحت مصر کے بادشاہوں اور ان کے گرد و پیش کے اُمراء میں ختنہ کار و اج شروع ہو گیا تھا چنانچہ مصری علوم کے محققین کی عام رائے بھی یہی ہے کہ مصر میں ختنے کا رواج زیادہ تر بادشاہوں اور پادریوں میں تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری ثابت کرنے کی چوتھی دلیل کارڈ کہ آپ کے مذہب میں بعث بعد الموت کا ذکر نہیں اس لئے آپ مصری ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصری ہونے کے حق میں چوتھی دلیل یہ دی گئی ہے کہ عمون ہوتپ کے مذہب میں بعث بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بھی بعث بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں۔

اس دلیل میں دو بڑی خامیاں ہیں۔ اول خامی تو یہ ہے کہ عمون ہوتپ کا سارا مذہب معلوم نہیں۔ اس نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی۔ اگر چھوڑی ہے تو وہ موجود نہیں اور نہ اُس نے کوئی جماعت چھوڑی ہے پھر یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ عمون ہوتپ کے مذہب میں اس تعلیم کا ذکر نہیں۔ جب عمون ہوتپ نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی تو کیونکر معلوم ہوا کہ اس کی تعلیم میں بعث بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ کتاب نہ چھوڑی ہوتی جماعت ہی چھوڑی ہوتی تو ہم اس جماعت کے اقوال سے اس کا اندازہ لگا سکتے مگر ایسی کوئی جماعت بھی عمون ہوتپ نے نہیں چھوڑی۔ پس یہ کہنا کہ اس کی تعلیم میں یہ بات نہ تھی ایک غیر معقول بات ہے۔

دوسرے ان لوگوں نے یہ بھی ثابت نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں بعث بعد الموت کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں یہ ذکر پایا جاتا ہے اسی طرح اُن کے تابع نبیوں کی تعلیم میں بھی یہ ذکر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ذیل میں دو حوالے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درج کئے جاتے ہیں۔

تورات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔

”اور اس پہاڑ پر جس پر تو جاتا ہے مرجا اور اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی ہارون حور

(استثباب ۳۲-آیت ۵۰)

کے پہاڑ پر مر گیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔“

اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”اُن لوگوں سے اے خداوند جو تیرے ہاتھ میں دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرہ اسی زندگانی میں ہے اور جن کے پیٹ تو اپنی نہانی چیزوں سے بھرتا ہے ان کی اولاد بھی سیر ہوتی اور وے اپنی باقی دولت اپنے بال بچوں کے لئے چھوڑ جاتے ہیں۔ پر میں جو ہوں صداقت میں تیرا منہ دیکھوں گا اور جب میں تیری صورت پر ہو کے جاؤں گا تو میں سیر ہوؤں گا۔“ (زبور باب ۷ آیت ۱۵۱۴)

ان حوالوں سے صاف ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعث بعد الموت کے قائل تھے اور تورات میں

اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس کے قائل تھے اور زبور میں اس کا ذکر موجود ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عہد نامہ قدیم میں بعث بعد الموت پر اس قدر زور نہیں دیا گیا جیسا کہ زرتشتی مذہب یا اسلام میں دیا گیا ہے یا ہندو مذہب میں دیا گیا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی لوگ بہت ہی دنیا دار تھے۔ جب تورات حوادثِ زمانہ سے مٹی اور یہودیوں نے پھر دوبارہ اُس کو جمع کیا تو انہوں نے تعہد کر کے اُن پیشگوئیوں کو تو جمع کر لیا جو دنیوی ترقی کے متعلق تھیں لیکن اُن امور کی چنداں پروا نہ کی جن سے اُن کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس طرح کئی حصے رہ گئے جن میں سے ایک بعث بعد الموت کا بھی حصہ تھا مگر باوجود اس کے جیسا کہ میں نے بتایا ہے اب بھی بعث بعد الموت کا ذکر تورات اور دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں پایا جاتا ہے۔

کیا موسیٰ علیہ السلام کا سؤر کو حرام قرار دینا مصری تعلیم کے زیر اثر تھا؟ پانچویں دلیل یہ دی گئی ہے کہ سؤر بنی اسرائیل میں حرام ہے اور یہی بات مصری تعلیم میں پائی جاتی ہے اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ یہ استدلال ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ خیال کہ مصری لوگوں میں سؤر حرام تھا درست نہیں۔ جو کچھ مصری تعلیم کے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مصری لوگ سؤر کے گوشت کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے لیکن اس کی حرمت کا ثبوت نہیں ملتا۔ (انسا نیکیو پیڈیا بلیکا زیر لفظ Swine a scared animal بحوالہ کتاب ایجیپٹ (Egypt) صفحہ

۴۴۱ مصنفہ ارمن (Erman) بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ بات ہے کہ مصر میں بعض جگہ پر سؤر پالے جاتے تھے چنانچہ انسا نیکیو پیڈیا بلیکا کے اسی صفحہ پر رینی (Renni) کے متعلق لکھا ہے کہ اُس کے مال میں تین سوسو رہتی تھی اور یہ رینی الکاب (El-Kab) کے مندر کے دیوما کا کاہن تھا اور ہیروڈوٹس (Herodotus) لکھتا ہے کہ سی لین (Salene) اور ڈیونیسس (Dionysus) یعنی اوسی رس (Osiris) کے ناموں پر سؤروں کی قربانی کی جاتی تھی اسی طرح پاہیری (Paheri) جو شاہان مصری کے اٹھارویں حاکم خاندان کا بادشاہ تھا اس کی قبر پر سؤروں کی

تصویریں بنی ہوئی تھیں۔

(یہ تمام حوالے انسائیکلو پیڈیا بھلیکا زیر لفظ Swine a scared animal پر دیکھیں)

اسی طرح پروفیسر اڈولف لاڈز (Adolphelods) جو پیرس کی ساربان (Sorbonne) یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اپنی کتاب اسرائیل میں لکھتے ہیں کہ مصر میں عام طور پر تو سوؤر کے گوشت سے پرہیز کیا جاتا تھا لیکن خاص چاندوں کی چودھویں تاریخوں پر ”سی لین“ اور ”ڈاؤنٹیسس“ کے مندروں پر اُس کی قربانی کی جاتی تھی اور اُن کے پجاری اُسے کھاتے تھے (کتاب اسرائیل صفحہ ۲۴۸)۔ پس یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ سوؤر کے کھانے سے روکا اس لئے وہ مصری تھے درست نہ ہوا کیونکہ خود مصریوں میں سوؤر کی پوری ممانعت نہیں اور جن قبائل میں ممانعت ہے ان میں بھی اس کو گندہ قرار دے کر ممانعت نہیں بلکہ ایک مقدس جانور قرار دے کر ممانعت ہے تھی تو خاص خاص تہواروں پر مندروں میں اس کی قربانی کی جاتی تھی اور پجاری لوگ اس کو کھاتے تھے۔

سوؤر کو پاکیزہ جانور قرار دینا صرف میرا قیاس نہیں بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے چنانچہ انسائیکلو پیڈیا بھلیکا والا لکھتا ہے کہ ایشیائے کوچک۔ یونان اور اٹلی میں سوؤر کو خاص عزت حاصل تھی۔ اسی طرح پروفیسر لاڈز (Lords) لکھتے ہیں کہ سوؤر بنی اسرائیل کے بہت سے ہمسائیوں کے نزدیک ایک مقدس جانور تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس پر خدا تعالیٰ کی تقدیس نازل ہوئی ہے بابل کے لوگوں میں نینیب (Ninib) کی وجہ سے اور شامی لوگوں میں تموز (Tammuz) کی وجہ سے یہ مقدس سمجھا جاتا تھا چنانچہ شامیوں میں تموز کے نام جو مہینہ مقرر کیا گیا تھا اس کا نام خَنْزِيرٌ یعنی خنزیر (سوؤر) تھا (دیکھو کتاب اسرائیل صفحہ ۲۴۸ بحوالہ ڈی کالمن ٹرفنن اُنڈ ڈاس آٹے ٹیٹامینت مصنفہ ہائین رچ زمرن اور ہیوگو ونکر) ان حوالوں سے مزید تقویت اس خیال کو پہنچتی ہے کہ مصری لوگوں میں خنزیر کے ذبیحہ سے اجتناب اُس کی تقدیس کی وجہ سے تھا نہ کہ اُسے برا سمجھنے کی وجہ سے لیکن جیسا کہ بائبل سے ظاہر ہے یہود میں اُسے بُرا اور گندہ قرار دیا گیا ہے پس سوؤر کی حرمت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری تھے کسی صورت میں بھی درست نہیں ہو سکتا۔

اس دلیل کا ردّ کہ چونکہ حضرت موسیٰ اچھی طرح کلام نہیں کر سکتے تھے اس لئے آپ مصری تھے چھٹی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصری نسل ہونے کی تائید میں یہ دی جاتی ہے کہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح کلام نہیں کر سکتے تھے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ غیر نسل سے تھے اور یہود یوں کی زبان میں اُن سے کلام نہیں کر سکتے تھے۔

جہاں تک اس امر کا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صفائی کے ساتھ کلام نہیں کر سکتے تھے وہ تو ایک حد تک درست ہے بائبل میں بھی یہ ذکر ہے اور قرآن کریم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے خروج باب ۳ میں لکھا ہے۔

”پس اب تو جا میں تجھے فرعون پاس بھیجتا ہوں۔ میرے لوگوں کو جو بنی اسرائیل ہیں مصر سے نکال۔ موسیٰ نے خدا کو کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالوں۔“ (خروج باب ۳ آیت ۱۰، ۱۱)

اس کے بعد ان مختلف ہدایتوں کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملیں پھر اس سلسلہ کلام کے آخر پر یوں کہا گیا ہے کہ:-

”تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ اے میرے خداوند میں فصاحت نہیں رکھتا نہ تو آگے سے اور نہ جب سے کہ تو نے اپنے بندے سے کلام کیا اور میری زبان اور باتوں میں لکنت ہے تب خداوند نے اُسے کہا۔ کہ آدمی کو زبان کس نے دی اور کون گونگا یا بہرا یا پینا یا اندھا کرتا ہے کیا میں نہیں کرتا جو خداوند ہوں۔ پس اب تو جا اور میں تیری بات کے ساتھ ہوں اور تجھ کو سکھاؤں گا جو کچھ تو کہے گا۔“

(خروج باب ۴ آیت ۱۰ تا ۱۲)

قرآن کریم میں آتا ہے وَ اِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ اِنَّ اَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ۔ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُوْنَ۔ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُوْنِ۔ وَ يَصْنَعُوْا صَدْرِيْ وَ لَا يَنْطَلِقُ لِسانِيْ فَاَرْسِلْ اِلَىْ هٰرُونَ۔ (الشعراء: ۱۱، ۱۲ تا ۱۴)

یعنی یاد کرو جبکہ تیرے رب نے موسیٰ سے کہا کہ ظالموں کی قوم یعنی فرعون کی قوم کے پاس جا اور انہیں کہہ کہ کیا وہ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اے میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے اور اُن کی تکذیب کے خیال سے میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان چلتی نہیں۔ پس نبوت کو ہاروں کی طرف بھیجئے۔

بائبل اور قرآن کے ان حوالوں سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی نقص تھا اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ میری زبان نہیں چلتی اس لئے میری جگہ کسی اور کو بھیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بائبل اور قرآن دونوں کے حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان نہ چلنے کا عذر اس وقت کیا ہے جب انہیں فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عذر کے یہ معنی کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی یا اعصابی طور پر کچھ ایسی کمزوری تھی کہ جب انہیں جوش آجاتا تھا تو وہ صفائی سے اپنا مافی الضمیر ادا نہیں کر سکتے تھے اور

الفاظ یا حروف کو حذف کر دیتے تھے اور یا ہم یہ معنی کریں کہ جس قوم کو مخاطب کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا اس کی زبان میں وہ اچھی طرح کلام نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اوّل الذکر معنی لئے جائیں تو پھر یہ استدلال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری تھے بالبداهت باطل ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ زبان میں لکنت کا ہونا یا کسی شخص میں ایسی اعصابی کمزوری کا پایا جانا کہ جوش والی تقریر میں عبارت اُس کے قابو میں نہ رہے۔ یہ مصریوں کا خاصہ نہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ مرض ایسی ہی پائی جاسکتی ہے جیسا کہ مصریوں یا کسی اور قوم میں۔ اور اگر دوسرے معنی کئے جائیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عذر سے مراد زبان کا نہ جاننا ہے تو پھر تو یہ اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری نہ تھے کیونکہ بائبل بھی یہی بیان کرتی ہے اور قرآن کریم بھی یہی بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عذر اُس وقت پیش کیا ہے جب انہیں فرعون کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا کوئی عقلمند یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ مصری موسیٰ فرعون کو تبلیغ کرنے کا حکم سن کر یہ عذر کرے گا کہ مجھے مصری زبان نہیں آتی۔ اگر وہ مصری تھے تو اُن کو تو وہ زبان آتی تھی جو فرعون بولتا تھا۔ پس اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عذر کی یہ تشریح کی جائے کہ وہ اُس زبان کے نہ جاننے کا عذر کرتے ہیں جس سے اُن کا مخاطب واقف ہے تو پھر اس سے یقینی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اسرائیلی تھے۔ چونکہ فرعون کو تبلیغ کرنے کا انہیں حکم دیا گیا اور وہ فرعون کی زبان کو اچھی طرح نہ سمجھتے تھے انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ عذر کیا کہ جس شخص کو تبلیغ کرنے کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں اُس کی زبان اچھی طرح نہیں جانتا یعنی میں عبرانی زبان کا ماہر ہوں اور وہ مصری زبان بولنے والا ہے۔ پس یہ استدلال نہایت ہی بودہ، نہایت ہی کمزور اور قلتِ تدبّر کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم اور بائبل کا دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے صحیح اور محققین جدید کا یہ دعویٰ کہ وہ مصری تھے نہایت غلط اور خلافِ عقل ہے۔ حق یہ ہے کہ کوئی ثبوت اس بات کی تائید میں نہیں ملتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی نہ تھے لیکن بیسیوں ثبوت اس بات کی تائید میں ہیں اور پیش کئے جاسکتے ہیں اور بعض اوپر پیش کئے گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی تھے۔

الْكِتَابَ - وَ إِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ..... الخ کی تشریح فرماتا ہے ہم نے اس جگہ پر موسیٰ کو

کچھ احکام دیئے۔ کتاب کے معنی جیسا کہ حل لغات سورہ بقرہ آیت نمبر ۳ میں بتایا گیا ہے مفروضات کے ہوتے ہیں یعنی فرض کی گئی باتیں۔ پس اَلْكِتَاب سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بعض نہایت ہی تاکیدی احکام عطا فرمائے۔

قرآن مجید کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیئے جانے پر رورنڈ ویری کا

اعتراض اور اس کا جواب ریورنڈ ویری نے اپنی تفسیر میں اس آیت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہاں ہمیں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی یہودی تاریخ سے ناواقفیت کی ایک مثال ملتی ہے جیسا کہ اور بھی کئی مثالیں اس سورۃ میں ہمیں ملتی ہیں اور وہ مثال یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اس پہاڑ پر دی گئی تھی۔ حالانکہ وہاں ان کو صرف الواح ملی تھیں پس قرآن کریم کا بیان ایک اسرائیلی تاریخ سے ناواقف انسان کا بیان ہے۔

میرے نزدیک پادری صاحب کو (اول) بائبل پر حد سے زیادہ حسن ظنی معلوم ہوتی ہے جس کی وہ مستحق نہیں (دوم) قرآن کریم سے اُن کو اتنی دشمنی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اُس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ وہ اپنی نجات کے لئے اُس پر اعتراض کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اُن کا بغیر کسی بیرونی شہادت کے بائبل کے بیان کو صحیح قرار دینا نہایت خلاف عقل بات ہے۔ بائبل کے تو باب باب کی خود عیسائی مصنفین نے ایسی دھجیاں اڑائی ہیں کہ اس کی کسی بات کی تصدیق بیرونی شہادت کے بغیر ناممکن ہے۔ پادری صاحب کہتے ہیں بائبل سے ثابت ہے کہ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح ملی تھیں۔ چونکہ قرآن اس کے خلاف کہتا ہے اس لئے قرآن جھوٹا ہے اور وہ (نعوذ باللہ) ایک جاہل انسان کی تصنیف ہے مگر پادری ویری صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ خود اُن کے ہم مذہب جیسا کہ ہم اوپر بتائے ہیں اوّل تو موسیٰ علیہ السلام کے ہی منکر ہیں۔ پھر اگر موسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں تو وہ اسے ایک مصری نثر انسان بتاتے ہیں اور بعض اُن میں سے بنی اسرائیل کے مصر جانے کے ہی قائل نہیں گجایا کہ وہاں سے خروج کے قائل ہوں۔ پھر جس طور کے متعلق پادری ویری صاحب کا خیال ہے کہ وہاں دو الواح ملی تھیں۔ محققین جدید اوّل تو اس طور کے ہی منکر ہیں اور اگر اسے مانتے ہیں تو مصر اور عرب اور شام کے درمیانی علاقہ میں مختلف مقامات پر اس کی تعیین کرنا چاہتے ہیں۔ بائبل کے جو بیانات تاریخ کے رو سے اتنے مجروح ہیں اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناواقفیت ہے کہ انہوں نے بائبل کے خلاف بات لکھ دی صرف اتنا ہی ظاہر کرتا ہے کہ پادری ویری صاحب کو نہ بائبل کا علم ہے اور نہ اُن تاریخوں کا جو بائبل کے متعلق نئے انکشاف کی بناء پر لکھی گئی ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ طور پر ملا وہ صرف دس احکام تھے قرآن کریم کے متعلق اُن کو جو تعصب ہے اُس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ قرآن کریم میں طور پر ساری بائبل کے اُترنے کا کہیں ذکر نہیں بلکہ بائبل کے بیان کے موافق جسے ویری صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے بعض احکام اور الواح کے اُترنے کا ہی ذکر ہے۔

سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكُنْتُمْ لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَمْعُودَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُلِّدْنَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرٍ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُوذِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (الاعراف: ۱۳۶) یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے الواح میں ہر ایک ضروری امر کے متعلق نصیحت لکھ دی اور ہر ایک ضروری امر کی تفصیل بیان کر دی اور اسے کہا کہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوم سے کہو کہ وہ اس کے احکام کی اچھی طرح نگہداشت رکھیں۔ میں تم کو بدکاروں کا انجام دکھاؤں گا۔ ان آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر الواح دی تھیں لیکن نہ قرآن اس کو تسلیم کرتا ہے اور نہ بائبل یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوائے الواح کے اور کچھ نہیں ملا۔ پس ایک پادری کے قلم سے یہ لکھا جانا کہ ”بائبل صرف اتنا بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دو الواح ملی تھیں جن میں دس احکام تھے“ ایک نہایت ہی تعجب انگیز امر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ اس موقع پر دیا گیا تھا جبکہ بنی اسرائیل نے گوسالہ سامری کی پوجا شروع کر دی تھی اس کا خروج باب ۲۰ سے شروع کر کے خروج باب اکتیس ۳۱ تک ذکر کیا گیا ہے۔ اتنے بابوں کو یہاں درج تو نہیں کیا جا سکتا صرف خلاصہ اس جگہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ باب ۲۰ میں اُن دس احکام کا ذکر کیا گیا ہے جو اس پہاڑ پر دئے گئے تھے۔ باب ۲۱ میں غلاموں کے متعلق۔ اُس کے متعلق جس کا کان چھیدا گیا ہو۔ لونڈیوں کے متعلق۔ قتل کے متعلق۔ بردہ فروشوں کے متعلق۔ ماں باپ کو کوسنے والوں کے متعلق۔ مار پیٹ کرنے والوں کے متعلق۔ اتفاقی چوٹ کے متعلق۔ سینگ مارنے والے بیل کے متعلق۔ اور اس شخص کے متعلق جس سے لوگوں کو اتفاقی نقصان پہنچ جائے احکام بیان کئے گئے ہیں۔ باب ۲۲ میں چوری۔ نقصان دہی۔ امانت۔ قرض۔ زنا کاری۔ جادو۔ حیوانات سے بد صحبت کرنے والوں۔ بُت پرستی۔ پردیسیوں۔ بیواؤں۔ لاوارثوں۔ سُود خوری۔ رہن۔ حاکم کی تعظیم اور پہلے پھلوں کی بابت احکام دیئے گئے ہیں۔ باب ۲۳ میں تہمت۔ جھوٹی گواہی۔ انصاف۔ خیر خواہی صدقہ کے طور پر رکھیت چھوڑنے۔ سبت۔ بُت پرستی۔ تین عیدوں۔ قربانی کے لہو اور چربی اور فرشتہ کے بھیجنے کے متعلق احکام اور وعدے بیان کئے گئے ہیں۔ باب ۲۴ میں پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کا ذکر ہے اور باب ۲۵ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عبادت گاہ کے بناتے وقت بنی اسرائیل کیا کیا نذریں گزرائیں۔ عہد کے صندوق کا ڈول کس طرح بنایا جائے۔ کفارے کا سرپوش مع کروبیوں کے کس طرح بنایا جائے۔ میز اور اس کے ظروف کس طرح بنائے جائیں۔ شمعدان اور اُس کے آلات کس طرح بنائے جائیں۔ باب ۲۶ میں خیمے کے دس پردوں۔ بکری کے بال سے گیارہ پردوں۔ اور بکروں کی کھال سے بالا پوش بنانے۔ خیمے کے تختوں چولہوں اور بینڈوں۔ نیز صندوق کے

پردوں اور دروازوں کے پردوں کے بنائے جانے کے متعلق تعلیم ہے۔ باب ۲۷ میں سوختنی قربانی کا مَدَبَج اور اس کے اسباب۔ مسکن کے صحن۔ اس کے پردوں اور ستونوں اور چراغ کے تیل کی بابت احکام دیئے گئے ہیں۔ باب ۲۸ میں ہارون علیہ السلام اور اُس کے بیٹوں کو کہانت کے لئے مخصوص کئے جانے۔ پاک لباس بنانے کا حکم دیئے جانے۔ افودہ عدل کی چپراس۔ اور یَمِّ و تمیم کے متعلق احکام اور پگڑیوں اور منقش کُرتوں اور ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے لباس کے متعلق احکام دیئے گئے ہیں۔ باب ۲۹ میں کاہن کے مقدس کرنے کے متعلق قربانی کی رسوم۔ دائیم سوختنی قربانی کی رسوم۔ اور خدا کا بنی اسرائیل کے درمیان رہنے کا وعدہ بیان کیا گیا ہے۔ باب ۳۰ میں بَعُور کے مَدَبَج خانوں کے فدیہ۔ برنجی حوض۔ مساحت کے مقدس تیل اور بخور کے بنانے کی ترکیبیں بیان کی گئی ہیں اور باب ۳۱ میں کچھ اور ہدایتیں دینے کے بعد ان کے ساتھ دو لوہیں سپرد کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اتنے بابوں کی تعلیم کو پادری ویری صاحب کس طرح بھول گئے۔ بارہ بابوں میں ان احکام کا ذکر ہے جو طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے اور ان میں سے صرف نصف میں (دس احکام) اور لوہوں کا ذکر ہے۔ مگر باوجود اس کے پادری صاحب کہتے ہیں کہ وہاں لوہوں کے سوا کچھ نہیں ملا اور قرآن کریم کا یہ کہنا کہ وہاں لوہوں کے سوا کچھ اور بھی ملا تھا قرآن کریم کی ناواقفیت کا ثبوت ہے۔

الکتاب کے معنی باقی رہا پادری صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن کریم کے نزدیک ساری تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر دی گئی تھی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اَلْكِتَاب کے معنی ساری کتاب کے نہیں بلکہ الکتاب کے معنی کچھ حصہ کتاب کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں ایک معمولی خط کا نام بھی کتاب رکھا گیا ہے۔

سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کی ملکہ کو ایک خط لکھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پیغامبر کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا۔ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَاَلْقِهْ لِیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ۔ قَالَتْ یَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اِیْ اِنِّیْ اَلْقِیْتُ اِلَیْكَ کِتَابَ کَرِیْمٍ۔ اِنَّهُ مِنْ سُلَیْمٰنٍ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلَا تَعْلَمُوْا عَلَیَّ وَاَنْتُوْنِیْ مُسْلِمٰیْنِ۔ (النمل: ۲۹-۳۲) یعنی تو یہ میری کتاب لے جا اور سب کے لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دے۔ پھر پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائیو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب پیغامبر نے اس کے مطابق عمل کیا اور وہ خط سب والوں کے سامنے پیش کر دیا تو سب کی ملکہ نے کہا اے میرے سردار و میرے سامنے ایک معزز کتاب پیش کی گئی ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مجھ پر ظلم نہ کرو۔ اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہاں کتاب صرف

ڈیڑھ یا دو سطر کے ایک خط کا نام رکھا گیا ہے۔ پس محض کتاب کے لفظ سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس سے مراد ساری تورات ہے صرف اس خواہش کا نتیجہ ہے کہ کسی طرح قرآن کریم پر اعتراض کیا جائے خواہ سچائی کو فائدہ پہنچتا ہو یا نقصان۔

الْفُرْقَانُ کے متعلق ریورنڈ ویری کا اعتراض کہ یہ لفظ شامی ہے فرقان کے متعلق ریورنڈ ویری نے اپنی تفسیر میں رومن اُردو قرآن کے حوالہ سے جو ایک عیسائی کی مختصر تفسیر ہے لکھا ہے کہ یہ لفظ شامی زبان سے مستعار لیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) افرانیم شامی کی تفسیر بائبل سے واقف تھے جس میں متواتر بائبل کو فرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ پادری ویری صاحب اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ لفظ شامی زبان سے لیا گیا ہے لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شامی یا عبرانی عیسائی کتاب کی واقفیت تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کردہ واقعات تاریخ کلیسیا کے واقعات سے نہایت ہی مختلف ہیں پس وہ صرف سُنی سنائی حکایات پر مبنی کہے جاسکتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی شامی کتاب سے واقف ہونا یا نہ ہونا تو ایک ایسا سوال ہے جس کا اس موقع سے کوئی تعلق نہیں اور نہ کوئی معقول آدمی اس کو تسلیم کر سکتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند ہفتوں کے لئے شام میں ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ گئے تھے۔ اس عرصہ میں آپ کا شامی زبان سیکھ جانا اور اس کے لٹریچر کا مطالعہ کر لینا یہ صرف ایک فائر عقل انسان کا ہی خیال ہو سکتا ہے کوئی معقول آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ انگریز چالیس سال تک ہندوستان میں رہتے ہیں مگر پھر بھی ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو اُردو زبان کو پڑھ سکتا ہو۔ ورنہ تحریری زبان تو الگ رہی بولنے والی زبان سے بھی وہ بالکل کورے ہوتے ہیں پھر اس تجربہ کے ہوتے ہوئے کسی مصنف کا یہ کہنا کہ صرف چند ہفتوں کے اندر اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تجارتی کاموں کے علاوہ شامی زبان بھی سیکھ لی تھی اور نہ صرف شامی زبان سیکھ لی تھی بلکہ شامی زبان کے لٹریچر سے بھی واقفیت حاصل کر لی تھی صرف اُس تعصب کو ظاہر کرتا ہے جو مسیحی اقوام کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیدا ہو چکا ہے۔

اس بات کا رد کہ فرقان شامی لفظ نہیں باقی رہا فرقان کا شامی لفظ ہونا یہ بھی عربی زبان سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ تعجب ہے کہ وہ لوگ جو عربی زبان سے کوئی مَس نہیں رکھتے وہ قرآن کریم کی تفسیریں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں جو عربی زبان کا بہترین نمونہ اور اُس کی تمام خوبیوں کا حامل ہے۔

اس بات کا ثبوت کہ فرقان عربی لفظ ہے فُرْقَان کا لفظ درحقیقت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بہت

دیتے ہیں مثلاً حَطُّن ہے کہ اس کے معنی شک کے بھی ہیں اور یقین کے بھی۔ اسی طرح رَجَاءٌ کا لفظ ہے اس کے معنی امید کے بھی ہیں اور خوف کے بھی ہیں۔ ایسے الفاظ کے لئے اصطلاحاً اضداد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس لفظ میں ایک دوسرے کے ضد معنی پائے جاتے ہیں۔ بعض عربی زبان کے ماہروں نے عربی زبان کے اضداد پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور بعض نے اس قسم کے الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں ان کو یکجائی طور پر پیش کیا ہے۔

اشتقاق سے اس بات کا ثبوت کہ فرقان عربی لفظ ہے مثلاً اسی لفظ فُرْقَان کو لے لویہ فرق سے بنا ہے اگر عربی زبان میں ان تین حرفوں کو آگے پیچھے کر کے اور الفاظ بنے ہوں تو فرق کے اندر جو اصولی معنی پائے جاتے ہیں وہی ان میں بھی پائے جائیں گے۔ مثلاً اگرف پہلے آجائے اور ق پیچھے چلے جائیں یعنی فُقْر بن جائے یا ر پہلے آجائے اور ف پیچھے جائیں یعنی رِفْق بن جائے یا ر پہلے آجائے اور ق پیچھے چلے جائیں اور رقف بن جائے۔ یاق پہلے آجائے اور ف پیچھے چلے جائیں یعنی یاقِ قَفْر بن جائے یا ق پہلے آجائے اور ف پیچھے چلے جائیں یعنی قَرَف بن جائے تو ان سب الفاظ کے گویا ہری معنی مختلف ہوں گے مگر سب میں مشارکت خواہ موافقت کے لحاظ سے ہو خواہ مخالفت کے لحاظ سے ضرور پائی جائے گی۔ پس جب کوئی لفظ عربی زبان کا ایسا ہو کہ جس کے ساتھ اس کے مشابہ الفاظ کے معنوں میں بھی مشارکت پائی جائے تو وہ یقیناً عربی کا ہی ہو سکتا ہے مستعار نہیں کہلا سکتا کیونکہ مستعار لفظ تو ایک لیا جاتا ہے مگر جس لفظ کی جڑیں تک عربی زبان میں نظر آ رہی ہوں اسے مستعار کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ اسی مشارکت کو اصطلاحی طور پر اشتقاق کبیر کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فُرْقَان کے لفظ کے عربی ہونے پر اشتقاق کبیر شہادت دے رہا ہے مثلاً فَرَق کے معنی عربی زبان میں جدائی اور ڈر کے ہیں چنانچہ فَرَق کے معنی ہیں دو چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور فَرَق کے معنی ہیں ڈر گیا (اور ڈرنا بھی جدائی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ڈر کر انسان دُور بھاگتا ہے) اور فُرْقَان فَرَق کا مصدر ہے چنانچہ اقرب الموارد جو ایک عیسائی کی لکھی ہوئی لغت ہے اُس میں لکھا ہے فَرَقٌ یَفْرُقُ فَرَقًا وَفُرْقَانًا یعنی عربی کے لفظ فَرَق کا مصدر فَرَقٌ بھی آتا ہے اور فُرْقَانٌ بھی آتا ہے۔ اب ہم اشتقاق کبیر کے ماتحت فرق کے دوسرے مجموعوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا مادہ اس کے مشارک حروف کا فُقْر ہے فُقْر کے معنی غربت کے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ غریب آدمی امیروں سے جدا ہو جاتا ہے پس یہاں بھی جدائی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جدائی کا ضد اتصال ہے یہ معنی بھی فرق کے اجتماع میں پائے جاتے ہیں چنانچہ فقر کے معنی آپس میں ملا دینے کے بھی ہیں چنانچہ ہار میں تاگا پرونے کو بھی فُقْر کہتے ہیں۔ اسی طرح ریڑھ کی ہڈی بھی

فَقَرَّاتٍ ظَهَرَ کہلاتی ہے کیونکہ وہ بھی ہار کی شکل کی ہی ہوتی ہے یعنی الگ الگ ٹکڑوں کے اندر ایک سفید تاگا گزرتا ہے پھر دوسرا اجتماع فرق کا قَرَف اور قَفَر کی شکل میں ہو سکتا ہے ان میں بھی وہی دونوں معنی پائے جاتے ہیں یعنی جدائی اور اتصال کے معنی چنانچہ قَفْرُف کے معنی چھلکے اُتارنے کے ہوتے ہیں جس میں جدائی کا مفہوم پایا جاتا ہے اسی طرح قَفْرُف کے معنی زخم کو چھیلنے کے ہوتے ہیں۔ قَفْرُف کے معنی عیب لگانے کے ہوتے ہیں اور عیب گیری بھی تفرقہ پیدا کرتی ہے اسی طرح اور بھی چند معنی اس کے ہوتے ہیں۔ مثلاً رشتہ داروں کے لئے مال کمانا اور چیزوں کو آپس میں ملا دینا اور قَارَف کے معنی قریب ہو جانے کے ہوتے ہیں گویا ان معنوں میں بھی افتراق اور اتصال دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح قَفْرُف کے معنی کسی کے پیچھے چلنے کے ہوتے ہیں تَفَقَّر کے معنی جمع کرنے اور اَقْفَر کے معنی خالی ہو جانے کے ہوتے ہیں اور قَفْرُف کے معنی جنگل کے ہوتے ہیں۔ جو آبادیوں میں فاصلہ پیدا کر دیتا ہے اور قَفَارُ اُس روٹی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سالن نہ ہو۔ اب رہی فرق کے اجتماع کی تیسری شکل۔ سو وہ رَفْع اور رَقْف ہے یعنی ر پہلے ہے اور فرق یاق ف بعد میں آتے ہیں۔ رَفْع کے معنی زمی کے ہیں جو اجتماع کا ذریعہ ہوتا ہے رَفْع کے معنی باندھ لینے کے بھی ہوتے ہیں اور رَفْع کے معنی ساتھی کے ہوتے ہیں اور رَفَاعَت کے معنی دوستی کے ہوتے ہیں اسی طرح مِرْفَع کہنی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دو ہڈیوں کو ملاتی ہے۔ رَقْف کا نپنے کو کہتے ہیں جو ڈر کا نتیجہ ہوتا ہے اور قَرَق کے ایک معنی بھی ڈر کے بتائے جا چکے ہیں پس فرق سے جتنے الفاظ عربی زبان میں بنتے ہیں ان سب میں اتصال یا افتراق کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ فرقان کا لفظ غیر زبان سے آیا ہے عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ میں تو یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ اشتقاقِ اکبر کے لحاظ سے بھی فرقان کا لفظ عربی ہی ثابت ہوتا ہے یعنی فرق کے مجموعہ میں ہی معنوں کا اشتراک نہیں پایا جاتا بلکہ اُن کے قریب الخارج الفاظ کے معنوں میں بھی فرقان کے ساتھ اشتراک پایا جاتا ہے مثلاً ف کی جگہ وا اور کھ دیں کی جگہ ل رکھ دیں کی جگہ ک رکھ دیں تب بھی بہت سے الفاظ میں معنوں کا اشتراک پایا جائے گا مگر چونکہ یہ تفسیر کی کتاب ہے ادبی کتاب نہیں اس لئے میں اس تفصیل میں پڑنا مناسب نہیں سمجھتا۔

فرقان کے معنی جیسا کہ محلِّ لَعَات میں بتایا جا چکا ہے فُرْقَان کے اصلی معنی توفیق کر دینے یا دو چیزوں میں امتیاز کر دینے کے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس جگہ پر اسلامی اصطلاح میں فُرْقَان کے کیا معنی ہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ مختلف مفسرین نے اس کے مختلف معنی کئے ہیں۔ تفسیر جریر، طبری جلد اول میں ابو العالیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا فُرْقَان کے معنی ہیں بِمَافْرِقٍ يَهَبُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ یعنی ایسی چیز جس کے ذریعہ حق اور باطل

میں فرق کر دیا گیا ہو۔ مجاہد کا قول ابن جریر نے یہ لکھا ہے کہ فُرْقَان سے مراد کتاب ہی ہے اور اس کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے کے ہیں۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کا یہ قول لکھا ہے کہ فُرْقَان مجموعی نام ہے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کا۔ ابن زید سے ابن جریر نے یہ روایت کی ہے کہ فُرْقَان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا۔ بدر کے موقع پر خدا تعالیٰ نے مشرکوں اور مسلمانوں میں امتیاز کر کے دکھا دیا اور واقعہ سمندر کے رو سے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دشمنوں میں فرق کر کے دکھا دیا۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں بعض لوگوں نے اس آیت کے معنی یہ کئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرقان دیا۔ اختصار کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بیان نہیں کیا لیکن یہ معنی بالبداهت غلط ہیں اسی طرح وہ لکھتے ہیں جن لوگوں نے فرقان کے معنی کتاب کے کئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتاب کے بعد فرقان کا لفظ تاکید کے لئے استعمال کیا گیا ہے چنانچہ زَجَّاج کا یہی قول ہے اور یہی فَرَّاء نے بھی بیان کیا ہے۔ بعضوں نے فُرْقَانَ کے معنی مصیبت سے نجات کے کئے ہیں۔ اور اس سے مراد مصر سے نکلنے کو لیا ہے اور ابن بجر نے کہا ہے کہ حجت اور بیان اس کے معنی ہیں۔ بعض نے کہا ہے واؤزاند ہے۔ اور فُرْقَانَ کتاب کی صفت ہے۔ (تفسیر القرطبی زیر آیت هذا)

کتاب اور فرقان دونوں ایک نہیں ہو سکتے خلاصہ ان حوالوں کا یہ ہے کہ فُرْقَانَ کے معنی حق و باطل میں تمیز کرنے کے ہیں۔ آگے اس بات کی تعیین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس چیز کو خدا تعالیٰ نے حق و باطل میں تمیز کرنے والی قرار دیا ہے۔ اس کے متعلق بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ہی فرقان قرار دیا گیا ہے۔ بعض نے غرق فرعون کو اور بعض نے مصر سے اُن کے بچ کر نکل آنے کو اس لفظ کا مستحق بتایا ہے۔ لیکن میرے نزدیک کتاب اور فرقان کو ایک قرار دینا قرآن کریم کے دوسرے مقامات کو مد نظر رکھ کر کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَاءً وَ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ (الانبیاء: ۴۹) یعنی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور متقیوں کے لئے نصیحت عطا فرمائی تھی۔ اس آیت میں فُرْقَانَ کے دینے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ پس فرقان کے معنی تورات کے نہیں لئے جاسکتے۔

قرآن کریم میں فرقان کے لفظ کا استعمال مختلف معنوں میں قرآن کریم میں فُرْقَانَ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) فُرْقَانَ کا لفظ قرآن کریم کی نسبت بھی استعمال ہوا ہے جیسے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے۔ تَبْرَأَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (الفرقان: ۲) برکت والا ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فُرْقَانَ اُتارنا تاکہ وہ ساری دنیا کے لئے نذیر بنے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ فُرْقَانَ قرآن کریم کا نام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعلق سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (البقرہ: ۱۸۶) یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم اُتارا ہے جس قرآن میں ایک تو لوگوں کے لئے ہدایت ہے دوسرے اس میں دلائل ہیں ہدایت کے اور دلائل ہیں فُرْقَانَ والے۔ یعنی ایسے دلائل جو حق اور باطل میں تمیز کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعہ قرآن کریم کو فُرْقَانَ پر مشتمل بتایا گیا ہے قرآن کریم میں فرقان کے ایک معنی مصیبت اور مشکل سے نجات کے بھی آتے ہیں چنانچہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (الانفال: ۳۰) اے مومنو اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ہر مصیبت اور مشکل سے بچنے کا راستہ نکالتا رہے گا۔ ان آیات پر غور کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ درحقیقت فُرْقَانَ کے معنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز کے ہی ہیں۔

ہر نبی کو فرقان دیا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے فُرْقَانَ کا وعدہ کیا ہے تو اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ مشکلات کے وقت ان کو ایسی تمیز بخش دے گا کہ وہ صحیح راستہ معلوم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فُرْقَانَ ملا تھا تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ انہیں کوئی ایسی چیز ملی تھی جس سے وہ اپنے دوست اور دشمن اور حق اور باطل میں تمیز کر سکتے تھے اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز ایسی ملی تھی جس کو ہم فُرْقَانَ کہہ سکتے ہیں تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ کو ایسی چیز ملی تھی جس سے آپ اور آپ کے اتباع حق اور باطل میں تمیز کر لیتے تھے اور آپ کے مخالف اگر چاہتے تو اس کی مدد سے حق کو سمجھ سکتے تھے۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ فُرْقَانَ کے معنی محدود کئے جائیں اور اسے بدر کی جنگ یا سمندر سے بچ نکلنے کے معجزوں تک محدود کیا جائے۔ بیشک بدر کی جنگ کو بھی فرقان کہا گیا ہے اور بیشک سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچنا بھی ایک فرقان تھا مگر صرف یہی دو چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملیں۔ ان کے علاوہ بیسیوں معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہزاروں معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے تھے۔ پس جہاں کسی خاص معجزے کا نام قرآن کریم نے فُرْقَانَ رکھا ہے (جیسے بدر کے معجزہ کا) وہاں تو ہم اُس کے وہ خاص معنی کریں گے لیکن جہاں کسی خاص معجزے کا ذکر نہیں کیا وہاں ہم فُرْقَانَ کے معنوں کو محدود نہیں کر سکتے۔ اصل

بات یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی شریعت دی جاتی ہے خواہ وہ نئی ہو یا پرانی (یعنی سابق نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے) اسی طرح فُرْقَان دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسے نشانات دیئے جاتے ہیں جن کے ذریعہ حق اور باطل میں تمیز ہو سکے اور یہ فرقان ہی ان کی سچائی کو پہچاننے کا حقیقی ذریعہ ہوتا ہے۔ ہر زمانہ میں لوگوں نے اس نکتہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سچے نبیوں کو ماننے سے انکار کیا ہے یا جھوٹے نبیوں کے فریب میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی صداقت کسی ایک چیز پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ انہیں بیسیوں قسم کے دلائل دیئے جاتے ہیں جو بحیثیت مجموعی ان کی سچائی یا ان کے درجہ کی بلندی پر گواہ ہوتے ہیں بعض لوگ صرف چند خواب یا الہام دیکھ کر اپنے آپ کو مامور قرار دینے لگ جاتے ہیں حالانکہ خوابیں اور الہام خیالی بھی ہو سکتے ہیں بیماریوں کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ طبعی بھی ہو سکتے ہیں۔ شیطانی بھی ہو سکتے ہیں اور رحمانی بھی ہو سکتے ہیں۔ صرف کسی خواب یا الہام کا سچا ہونا بھی اُس کے رحمانی ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا کیونکہ طبعی اور خیالی باتیں بھی کئی دفعہ پوری ہو جاتی ہیں۔ انبیاء کے الہام تو اپنے اندر ایک خاص شان رکھتے ہیں۔ ان کے اندر وسعت ہوتی ہے۔ زمانہ کے مفاسد کا علاج ہوتا ہے اور زمانہ کے حالات پر وہ حاوی ہوتے ہیں۔ پس خالی الہام بعض کمزور طبائع کے لئے امتیاز کا موجب نہیں ہوتے مگر الہام کے علاوہ انبیاء کو اپنے دعویٰ سے پہلے ایک پاکیزہ اور ممتاز زندگی ملا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

فَقَدْ كَلَّمْنَا فِيكَ عَمْرًا مِّن قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس: ۱۷) الہام میں غلطی دماغی کمزوری کا نتیجہ کہلا سکتی ہے لیکن اس شان کے انسان کی طرف دماغی کمزوری کا منسوب کرنا مشکل ہو جاتا ہے پس گواہی کی سچائی بھی ایک دلیل ہے۔ گودعوے سے پہلے کی زندگی کی پاکیزگی بھی ایک دلیل ہے مگر یہ دونوں دلیلیں مل کر ایک تیسری دلیل سچائی کی پیدا کر دیتی ہیں جو اپنی ذات میں بہت بڑی شان رکھتی ہے اور یہ فُرْقَان ہے۔ پھر قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا ایک ثبوت یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اُن لوگوں کو تو دیکھو جو اس پر ایمان لائے ہیں وہ خود اپنی ذات میں ایک بھاری ثبوت ہیں۔ آخر انسان مختلف درجات اور طبقتوں کے ہوتے ہیں۔ کوئی بد اخلاق اور طامع لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی جاہل اور جلدی فریب میں آ جانے والے ہوتے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے بعض تو وہ تھے جنہوں نے خود اپنے ملک میں اپنے فن اور اپنی عقل اور اپنے علم کی وجہ سے خاص مرتبہ حاصل کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کا آپ پر ایمان لانا خود اپنی ذات میں آپ کی صداقت کی ایک بڑی بھاری دلیل تھی۔ وہ آدمی جو نہ جذباتی تھے نہ جاہل تھے نہ بد عمل تھے۔ دلیل اور عقل کے پیچھے چلنے والے، علم رکھنے والے، قربانیاں کرنے والے، غرباء کی امداد کرنے والے اور مختلف فنون

کے ماہر تھے آخر انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنی قوم میں اپنے آپ کو ذلیل کر کے ایک ایسے شخص کے پیچھے چلتے جو اپنے اندر سچائی کی علامتیں نہ رکھتا تھا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی دلیل خدا تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اُن کے دشمن تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اپنی ذات میں ایک زبردست دلیل ہے مگر جس وقت یہ پچھلی تین دلیلوں سے مل جائے تو یہ اور زیادہ شان پیدا کر دیتی ہے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی ایک یہ بھی دلیل دی گئی ہے کہ موجودہ زمانہ میں جو مفساد پیدا ہو رہے ہیں ان کو یہ دُور کرتا ہے۔ لوگوں کی علمی، اعتقادی اور عملی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ بات بھی اپنی ذات میں ایک بڑی بھاری دلیل ہے لیکن جس وقت یہ اُن دوسری دلیلوں کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ اور بھی زیادہ شان پیدا کر دیتی ہے۔ ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ بعض الہام طبعی بھی ہوتے ہیں اور خیالی بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ طبعی اور خیالی الہام بعض دفعہ سچے بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ماننا ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ خیالی اور طبعی الہام جو دماغی کمزوری کا نتیجہ ہوتے ہیں اور شیطانی الہام جو دماغی اور اخلاقی کمزوری کا نتیجہ ہوتے ہیں انہوں نے اس شخص کو اپنے لئے منتخب کیا جس کی زندگی کی پاکیزگی کا سارا ملک شاہد تھا۔ چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ایسے طبعی یا خیالی یا شیطانی الہام ایک ایسے شخص کو ہو گئے جس کی پاکیزہ زندگی کا سارا ملک شاہد تھا لیکن ہمارے لئے یہ ماننا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک راستباز تھا اس کا دماغ بگڑ گیا لیکن باوجود اس کے ملک کے نہایت سمجھدار طبقہ کا ایک حصہ جنہوں نے اسے قریب سے دیکھا تھا اور جن کی اپنی عقل کا ملک گواہ تھا اس کی سچائی پر گواہی دینے لگا پھر چلو ہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ غلطی بھی ہو گئی مگر یہ بات ہمارے لئے ماننی کتنی ناممکن ہو جاتی ہے کہ اس زمانہ کے غلط خیالات خواہ عقیدہ کے لحاظ سے ہوں یا علمی لحاظ سے ہوں یا عمل کے لحاظ سے ہوں ان کی اصلاح بھی اس شخص سے ہوئی۔ معترض مانتا ہے کہ شرک بُرا ہے اور معترض مانتا ہے کہ اس شرک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دُور کیا۔ پھر وہ یہ بھی مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہام کے مدعی تھے اور اُس کے نزدیک اُن میں سے بعض اتفاقی طور پر پورے بھی ہو جاتے تھے۔ وہ مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دعوے سے پہلے بڑی پاکیزہ تھی۔ وہ مانتا ہے کہ ان کے ماننے والے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کی زندگی کا قریب سے مطالعہ کیا تھا اور وہ خود بھی اپنی عقل اور اپنے علم اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے ملک میں مشہور تھے۔ وہ مانتا تھا کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا وہ اتفاقی طور پر حیرت گئے اور ان کے دشمن اتفاقی طور پر ہار گئے اور پھر وہ یہ بھی مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک کے دُور کرنے کی بھی توفیق ملی۔ جس کی غلطی کو وہ خود بھی تسلیم کرنے والا ہے اسی طرح اور بیسیوں عقائد کی اصلاح کی توفیق

آپؐ کو ملی جن میں سے بعض اصلاحات کے صحیح ہونے کو دشمنوں میں سے ایک فریق اور بعض کے صحیح ہونے کو دوسرا فریق مانتا ہے۔ اب اس سارے مجموعہ کو دیکھتے ہوئے کون شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ فاتر العقل تھے یا دماغ کی کمزوری کے مریض تھے یا نعوذ باللہ شیطان سے تعلق رکھتے تھے۔

انبیاء میں کثرت سے ایسے دلائل کا جمع ہو جانا جو ان کی صداقت کو پوری طرح واضح کر دیں

فرقان کہلاتا ہے ایک ایک دلیل میں الگ الگ تو شبہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ایک ایک دلیل کو الگ الگ تو

اتفاقی قرار دیا جاسکتا ہے مگر ان سب امور اور ایسے ہی اور سینکڑوں امور کے ایک شخص کی ذات میں جمع ہو جانے کو

تو کسی صورت میں بھی اتفاق نہیں کہا جاسکتا۔ اگر اس اجتماع کے ہوتے ہوئے بھی شبہ باقی رہ سکتا ہے تو پھر دنیا کی کسی

بات کو بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔ اسی مجموعے کا نام میرے نزدیک فُرْقَان ہے۔ یہی مجموعہ حضرت موسیٰ

علیہ السلام کو ملا۔ یہی مجموعہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا۔ یہی مجموعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ یہی مجموعہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا اور یہی مجموعہ آج بانی سلسلہ احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملا ہے۔

انبیاء کو فرقان کا ملنا ان کے صادق ہونے کی زبردست دلیل ہے دشمن ہمیشہ ایک ایک چیز کو لے کر

اعتراض کرنے لگ جاتا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اعتراض تو ہر چیز پر ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ بیسیوں قسم

کے دلائل کا مجموعہ اس میں کس طرح جمع ہو گیا ہے۔ اگر ایسا مجموعہ کسی میں جمع ہو تو یقیناً یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسے

فُرْقَان ملا ہے اور یقیناً وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ یہ فُرْقَان کبھی کسی جھوٹے آدمی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہاں

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے نبیوں سے ایک امتیاز حاصل ہے اور وہ یہ کہ دوسرے نبیوں کو کتاب اور

اس کے علاوہ فُرْقَان ملا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرقان الگ بھی ملا۔

قرآن کریم کو فرقان کہے جانے کی وجہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی

اسے بھی فُرْقَان بنا یا گیا۔ تورات اپنی سچائی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزات کی تائید کی محتاج

تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہامات دوسرے معجزات کی تصدیق کے محتاج تھے۔ ویدا اور ژند کا بھی یہی حال

ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اپنی ذات میں بھی فُرْقَان ہے یعنی وہ ایک زندہ کتاب ہے اور

اگر دوسرے معجزات لوگوں کو بھول بھی جائیں تب بھی وہ اپنی سچائی کا ثبوت اپنے اندر شامل رکھتی ہے اسی وجہ سے اس

کا نام فُرْقَان رکھا گیا ہے اور کسی سابق الہامی کتاب کا نام فُرْقَان نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ اپنی سچائی ثابت کرنے

کے لئے دوسرے دلائل کی محتاج ہیں مگر قرآن کریم اپنی سچائی کا ثبوت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم

کو ماننے والوں کی نسبت **يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا** (الانفال: ۳۰) فرمایا گیا ہے یعنی یہ کتاب چونکہ خود **فُرْقَان** ہے اس لئے اس پر ایمان لانے والوں کو بھی اگر وہ درجہ کمال تک ایمان لائیں **فُرْقَان** ملتا ہے۔ یہ دلیل انبیاء علیہم السلام کی صداقت پہچاننے کی ایک ایسی زبردست اور جامع دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص اس دلیل کو سمجھ کر انبیاء کی شناخت کی کوشش کرے تو اس کے لئے اپنے زمانہ کے مامور کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کی تشریح **لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** فرماتا ہے یہ کتاب اور فرقان ہم نے موسیٰ کو اس لئے دیئے تھے تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پائیں مگر انہوں نے نہ کتاب سے فائدہ اٹھایا اور نہ فرقان سے فائدہ اٹھایا۔ **لَعَلَّ** کے لفظ سے اس جگہ شک کا مفہوم نہیں سمجھنا چاہیے یہ شاہانہ کلام ہے اور لغوی لحاظ سے اس لفظ میں قطعیت نہ پائی جاتی ہو لیکن شاہی کلام میں جب اس قسم کے الفاظ آئیں تو ان میں قطعیت کا مفہوم ہی پایا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے فرامین میں ہمیشہ لکھتے ہیں کہ ہم فلاں قوم سے یہ امید کرتے ہیں حالانکہ اس سے مراد حکم ہوتا ہے۔ یہاں بھی **لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** کے یہی معنی ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں دیں اور ہم بنی اسرائیل سے توقع رکھتے تھے کہ وہ ہدایت پائیں یعنی ہمارے احسان کا تقاضا تھا کہ وہ ہدایت پائیں اور اس کا طبعی نتیجہ یہی نکلنا چاہیے تھا کہ وہ ہدایت پا جائے لیکن انہوں نے ہمارے احسان کی قدر نہ کی اور اپنی فطرت کو بھی ایسا مسخ کر دیا کہ طبعی نتیجہ یعنی ہدایت سے محروم ہو گئے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم (کے لوگو) تم نے بچھڑے کو (معبود)

بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا

بنا کر یقیناً اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اس لئے تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکو اس طرح سے کہ اپنے (آدمیوں) کو

أَنفُسَكُمْ ^ط **ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ** ^ط **فَتَابَ**

(آپ) قتل کرو۔ یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہت اچھی ہے۔ تب اس نے

عَلَيْكُمْ ^ط **إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ**

تمہاری طرف فضل کے ساتھ پھر توجہ کی۔ وہ یقیناً (اپنے بندوں کی طرف) بہت توجہ کرنے والا (اور)

الرَّحِيمِ ﴿۵۵﴾

بار بار رحم کرنے والا ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - ظَلَمْتُمْ ظَلَمَ سے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور ظَلَمَ کے لئے دیکھو

حَلَّ لُغَاتٍ سورہ ہذا ۵۲۔

أَنْفُسِكُمْ أَنْفُسُ نَفْسٍ کی جمع ہے اور النَّفْسُ کے معنے ہیں (۱) أَلْرُوحُ - رُوح (۲) أَلْجِسْمُ جسم۔ (۳) وَيَزِيدُ بِالنَّفْسِ الشَّخْصُ وَالْإِنْسَانُ بِجَمَلَتِهِ بعض اوقات نفس کا لفظ بول کر رُوح اور جسم کا مجموعہ انسان اور اس کا خاص تشخص مراد لیا جاتا ہے۔ (۴) الْعَظْمَةُ - عَظْمَتٌ (۵) الْعِزَّةُ - عِزَّتٌ (۶) أَلْهَيْمَةُ - هَيْمَةٌ (۷) أَلْزَادَةُ - ارادہ (۸) أَلْرَأْيُ - رَأْيٌ۔ (اقرب)

تُؤَبَّوْا امر جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ تَابَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ کے معنے ہیں رَجَعَ عَلَيْهِ بِفَضْلِهِ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ (اقرب)

بَارِئِكُمْ الْبَارِئُ بَرَأَ سے اسم فاعل ہے اور بَرَأَ اللہ الْخَلْقُ کے معنے ہیں خَلَقَهُمُ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور الْبَارِئُ کے معنے ہیں الْخَالِقُ پیدا کرنے والا۔ (اقرب)

أُقْتَلُوا أُقْتِلُوا امر مخاطب جمع کا صیغہ ہے اور قَتَلَهُ کے معنے ہیں أَمَاتَهُ بِضَرْبٍ أَوْ حَجْرٍ أَوْ سَيْمٍ أَوْ عِلَّةٍ۔ کسی قسم کی ضرب یا پتھر کے مارنے یا زہر دینے یا اور کسی وجہ سے اس کی رُوح کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا اور جب قَتَلَ الْجُوعَ وَالْبُرْدَ کہیں تو معنے ہوں گے كَسَرَ شِدَّتَهُ کہ اس نے بھوک کی تیزی اور سردی کی شدت کو دور کر دیا اور قَتَلَ اللہ الْإِنْسَانَ وَقَاتَلَهُ کے معنے ہیں لَعَنَهُ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص پر لعنت نازل کی اور اپنے سے دُور کر دیا۔ (اقرب)

مفردات راغب میں أُقْتَلُوا أَنْفُسِكُمْ کے ماتحت لکھا ہے لِيُقْتَلَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یعنی اس کے معنے یہ ہیں کہ تم میں سے غیر مشرک مشرک کو خود قتل کر دیں۔ وَقِيلَ عُنَى بِقَتْلِ النَّفْسِ إِمَاظَةُ الشَّهْوَاتِ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ قتلِ نَفْسٍ سے مراد خواہشاتِ نفسانیہ کو دُور کرنا ہے چنانچہ اسی معنے میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ قَتَلْتُ الْحَمْرَ بِالْمَاءِ أَيْ إِذَا مَرَّ جَنَّتُهُ یعنی شراب کو پانی کے ساتھ ملا کر قتل کر دیا یعنی اس کی شدت کو ہلکا کر دیا نیز کہتے ہیں قَتَلْتُ فَلَانًا وَقَتَلْتُهُ إِذَا دَلَّ لُغَتُهُ یعنی جب کسی کو عاجز اور ذلیل کر دیا جائے تو اس وقت بھی قتل کا لفظ استعمال

کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ لسان العرب میں قَتَلَ کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر جب خلافت کا انتخاب ہونے لگا تو بعض لوگوں نے اس وقت اختلاف کیا اور ان میں سے ایک سعد بھی تھے تو ان کے متعلق کہا گیا قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا فَإِنَّهُ صَاحِبُ فِتْنَةٍ وَ شَرٌّ کہ اللہ تعالیٰ سعد کو قتل کرے کیونکہ وہی فتنہ و فساد کی جڑ ہیں اور مطلب یہ تھا کہ دَفَعَ اللَّهُ شَرَّهُ یعنی اللہ تعالیٰ سعد کے شر کو دفع کرے اور اس کے ارادوں کو پورا نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ اُقْتُلُوا سَعْدًا قَتَلَهُ اللَّهُ کہ سعد کو قتل کرو اللہ تعالیٰ اسے قتل کرے۔ اور مطلب یہ تھا کہ اجْعَلُوهُ كَمَنْ قُتِلَ وَ احْسِبُوهُ فِي عِدَادِ مَنْ مَاتَ وَ هَلَكَ وَ لَا تَعْتَدُوا بِمَشْهَدِهِ وَ لَا تَعْرِجُوا عَلٰی قَوْلِهِ یعنی اے لوگو تم سعد کی طرف التفات نہ کرو بلکہ اپنی توجہ کو اس سے ہٹا کر اسے ایسا کر دو کہ گویا وہ مقتول ہے اور اس کو ان لوگوں میں شمار کرو جو مر چکے ہوں اور اس کو کسی گنتی میں نہ لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی اس سے ایسا ہی سلوک کرے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ سے ایک حدیث مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ مَنْ دُعيَ إِلَى امَارَةٍ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَأَقْبَلُوهَا أَمْ اجْعَلُوهَا كَمَنْ قُتِلَ وَ مَاتَ بِأَنَّ لَا تُقْبَلُ إِلَهَ قَوْلُهُ وَ لَا تُقْبَلُ إِلَهَ دَعْوَتُهُ یعنی جو شخص اپنی خلافت یا اور کسی کی خلافت کا پروپیگنڈا کرے اور لوگوں کو کہے کہ اسے یا فلاں شخص کو خلیفہ بناؤ۔ اس کو قتل کر دو یعنی اس کی بات کو قبول نہ کرو اور مکمل طور پر اس سے قطع تعلق کر لو اور اسے اس ذریعہ سے ایسا کر دو کہ گویا وہ مقتول ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْبَلُوا الْأَخْبَرَ مِنْهُمَا أَمْ أَبْطَلُوا دَعْوَتَهُ وَ اجْعَلُوهَا كَمَنْ مَاتَ کہ جب دو خلیفوں کی بیعت کی جاوے تو آخری کو قتل کر دو یعنی اس کی دعوت کی طرف کان نہ رکھو بلکہ اس سے قطع تعلق کر کے اسے قتل کئے جانے کے حکم میں کر دو۔ (لسان) پس قَتَلَ کے عام مشہور معنوں کے علاوہ اس کے معنی ذلیل کرنے اور قطع تعلق کرنے کے بھی ہیں۔

أَنْفُسَكُمْ أَنْفُسَكُمْ کے لئے دیکھو حَلِّ لُغَاتِ آیت ۲۵ سورہ ہذا۔

تَابَ تَابَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ کے معنی ہیں رَجَعَ عَلَيْهِ بِفَضْلِهِ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اس کی طرف

متوجہ ہوا۔ (اقرب)

التَّوَابُ تَوَابٌ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں فضل کے ساتھ بہت متوجہ ہونے والا۔

الرَّجِيمُ الرَّجِيمُ بھی رَجَمَ سے نکلا ہے اور فَعِيلٌ کے وزن پر ہے جس کے معنوں میں تکرار اور

استحقاق کے مطابق سلوک کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ (تفسیر البحر المحیط زیر تفسیر سورۃ الفاتحہ) پس

اس کے معنی ہوئے جو رحم کے حقدار کو اس کے کام کی اچھی جزاء دیتا ہے اور بار بار اس پر رحم نازل کرتا جاتا ہے۔

علم صرف کے زبردست امام ابوعلی فارسی کہتے ہیں۔ الرَّحْمَنُ اسْمٌ عَامٌّ فِي جَمِيعِ اَنْوَاعِ الرَّحْمَةِ يَخْتَصُّ بِهِ اللهُ تَعَالَى وَالرَّحِيمُ اَمَّا هُوَ فِي جِهَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ تَعَالَى كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (تفسیر فتح البیان زیر تفسیر سورة الفاتحة) یعنی الرَّحْمَنُ اسم عام ہے اور ہر قسم کی رحمتوں پر مشتمل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے اور الرَّحِيمُ مومنوں کی ذات سے تعلق رکھتا ہے یعنی الرَّحِيمُ کی رحمت نیکو کاروں سے مخصوص ہے۔ چنانچہ اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ہے۔ (الاحزاب: ۴۴)

ابن مسعودؓ اور ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنُ رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالرَّحِيمُ رَحِيمُ الْآخِرَةِ (تفسیر البحر المحیط زیر تفسیر سورة الفاتحة) رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ رَحْمَنُ دُنْيَا کی رحمتوں پر نظر رکھتے ہوئے ہے اور الرَّحِيمُ کا نام آخرت کی رحمتوں پر نظر کرتے ہوئے ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رَحْمَنُ کے معنی بلامبادلہ اور بغیر استحقاق رحم کے ہیں کیونکہ اس قسم کا رحم زیادہ تر اس دُنْيَا میں جاری ہے اور رحیم کے معنی نیک کاموں کے اعلیٰ بدلہ کے ہیں کیونکہ آخرت مقام جزا ہے۔

تفسیر - یہ بتانے کے بعد کہ بنی اسرائیل نے اس موقع پر بھی جبکہ عظیم ترین احسان ان پر ہو رہا تھا خدا تعالیٰ کی شدید ترین نافرمانی کی۔ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ائمہ الکفر کو اس موقع کے لحاظ سے سزا دینی ضروری تھی کیونکہ ایسے عظیم الشان موقع پر شرک کا جرم کُلّی طور پر معاف کر دینا گناہوں پر دلیر کرنے کا موجب ہو سکتا تھا۔ پس فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم نے اپنی جان پر شرک کر کے بڑا ظلم کیا ہے اس لئے اپنے باریؑ کے حضور بہت توبہ کرو۔ باریؑ کے معنی جیسا کہ حَلِّ لُغَات میں بتائے گئے ہیں پیدا کرنیوالے کے ہیں۔ لیکن حَالِقُ کے لفظ سے اس کے معنوں میں کچھ فرق ہے بَرَّءٌ كَالْفَرْعِ عَيْبٍ اور نقص سے پاک ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے اس لئے ائمہ زبان نے اس کے معنی نفائص سے پاک خلق کے کئے ہیں چنانچہ زہخشیری اپنی کتاب کشاف میں لکھتے ہیں اَلْبَارِئُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بَرِّيًّا مِّنَ التَّفَاوُتِ یعنی بَارِئٌ کے معنی ہیں وہ جس نے مخلوق کو اختلاف و نقصان سے پاک پیدا کیا ہو۔ علامہ ابوحنیفان نے بھی ان کے ان معنوں کی تعریف کی ہے اور علامہ ابوحنیفان علم نحو اور لغت کے ایک بہت بڑے ماہر ہیں اور ان کی تفسیر بحر المحیط چوٹی کی تفسیروں میں سے ہے وہ زہخشیری کے اس استدلال کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ یہ استدلال کلام حسن ہے یعنی بہت لطیف استدلال ہے۔ یہ استدلال علامہ زہخشیری کا

اس لفظ کے دوسرے الفاظ سے ہے۔ بَرَّءٌ کے معنی عربی زبان میں عیب و نقص سے پاک ہونے کے ہوتے ہیں۔
 لفظ بَرَّءٌ اور خَلَقٌ میں فرق لسان العرب میں بھی لکھا ہے کہ خَلَقٌ اور بَرَّءٌ میں یہ فرق ہے کہ خلق سب قسم کی مخلوق کے لئے آتا ہے لیکن بَرَّءٌ کا لفظ عموماً ذوی الارواح کی نسبت بولا جاتا ہے چنانچہ عرب کہتے ہیں بَرَّءُ اللّٰهِ النَّسِيْمَةُ وَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ یعنی ارواح کی پیدائش کے لئے بَرَّءٌ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش کے لئے خَلَقٌ کا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ نسبتاً کامل مخلوق کی پیدائش کے لئے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مصائب کی پیدائش کی نسبت بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے (الحديد: ۲۳) مگر وہاں بھی چونکہ ذوی الارواح کا ہی ذکر ہے یہ استعمال مشارکت کی وجہ سے ہوا ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ بَرَّءٌ کا عام استعمال غیر ذی الارواح کے لئے جائز ہے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ (الحشر: ۲۵) یعنی اللہ باری اور خالق ہے ایک جگہ دونوں لفظوں کا استعمال بتاتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک دونوں لفظ ہم معنی نہیں ہیں بلکہ دونوں الگ الگ خصوصیت کے حامل ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے بَرَّءٌ نام کے یہ معنی ہیں کہ نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ وہ خاص قسم کے اخلاق اور ترقی کرنے والی قوتیں بھی عطا فرماتا ہے پس اس جگہ پر بَرَّءٌ کا لفظ استعمال فرما کر ایک لطیف اشارہ شرک کی تردید کے متعلق کیا ہے اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے بھی گھڑ گھڑا کر ایک بت تیار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ خالق مخلوق سے اچھا ہوتا ہے اور گھڑنے والا گھڑی ہوئی چیز سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک تصویر بڑی اچھی چیز ہے مگر اس کا مصوّر اس سے بھی زیادہ قابلِ قدر ہے کیونکہ وہ ویسی ہی بلکہ اس سے بڑھ کر تصویریں بنانے کی قابلیت رکھتا ہے۔ تُوْبُوْا اِلٰی بَارِئِكُمْ کہہ کر فرمایا کہ اے نادانوں! تم اپنے ہاتھ کی ادنیٰ اور بے جان گھڑی ہوئی چیزوں کے آگے سجدہ کرنے لگ گئے۔ لیکن جس نے تم کو کامل طور پر جاندار بنا کر پیدا کیا تھا اس کو بھول گئے۔ اگر صنعت کوئی قابلِ قدر چیز ہے تو صنّاع اس سے بھی بڑھ کر قابلِ قدر ہے کیونکہ وہ صنعتوں کا منبع ہے۔ پس اگر کوئی اچھی صنعت تمہاری توجہ کو کھینچ لیتی ہے تو تمہیں صنعت سے صنّاع کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی اور شرک کی بجائے توحید کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ غرض تُوْبُوْا اِلٰی بَارِئِكُمْ کہہ کر توبہ کے مضمون کے علاوہ صرف اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کی ضرورت اور حقیقت پر ایسی روشنی ڈالی ہے کہ تین لفظوں میں ہزاروں الفاظ کا مضمون بیان کر دیا گیا ہے۔

اَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ میں قتل کے معنی حقیقتہً قتل کرنے کے بھی ہوتے ہیں فَاَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ قتل کے معنی جیسا کہ حِلِّ لغات سے ظاہر ہے قتل کے بھی ہوتے ہیں اور قتل تعلق کے بھی ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس جگہ پر قتل سے مراد اپنے نفس کو قتل کرنے یعنی اپنی خواہشات کو مارنے کے لئے ہیں لیکن بائبل سے ظاہر ہوتا

ہے کہ فی الواقع بعض آدمیوں کو قتل کی سزا دی گئی تھی اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ پہلے عفو کا اعلان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی شناخت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت بعض افراد کو قتل کی سزا بھی دی گئی تھی۔

بائبل میں بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کے قتل کئے جانے کا واقعہ بائبل میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے۔

”اور اُس (موسیٰ) نے اُنہیں (بنو لاوی کو) کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر مرد اپنی کمر پر تلوار باندھے اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک تمام لشکر گاہ میں گزرتے پھر داور ہر مرد تم میں سے اپنے بھائی کو۔ ہر ایک آدمی اپنے دوست کو اور ہر ایک آدمی اپنے قریب کو قتل کرے اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق کیا چنانچہ اُس دن لوگوں میں سے قریب تین ہزار مرد مارے پڑے۔“ (خروج باب ۳۲- آیت ۲-۲۸)

پھر آگے لکھا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر رحم کی درخواست کی اور کہا۔

”کاش کہ تو اُن کا گناہ معاف کرتا اگر نہیں تو میں تیری منّت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے اُس دفتر

سے جوتو نے لکھا ہے میٹ دے۔“ (خروج باب ۳۲ آیت ۳۲)

اس پر خدا تعالیٰ نے بحیثیت قوم تو گناہ معاف کر دیا لیکن من حیث الافراد معاف نہ کیا اور کہا کہ قیامت کو پُرسش ہوگی۔ (خروج باب ۳۲ آیت ۳۲)

بنی اسرائیل کو بچھڑا بنانے کے بعد قومی معافی اور فردی سزا دیئے جانے میں بائبل اور قرآن مجید کا

اختلاف اور اصل حقیقت بائبل کے ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ پہلے ان کو قتل کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر رحم کیا گیا اور قومی طور پر سزا اٹھادی گئی۔ لیکن قیامت کے دن کی پرسش کو قائم رکھا گیا۔ قرآن کریم اور بائبل کے اس بیان میں کچھ اختلاف ہے۔ قرآن کریم کے بیان کے رو سے قومی معافی پہلے ہوئی اور فردی سزا بعد میں دی گئی لیکن بائبل کے بیان کے مطابق فردی سزا پہلے دی گئی اور پھر قوم کو معافی ملی۔ جہاں تک الہامی شہادت کا سوال ہے لازماً یہودیوں اور عیسائیوں کو بائبل کے بیان پر اعتبار ہوگا اور ایک مسلمان کو قرآن کریم کے بیان پر اور جہاں تک تاریخ کا سوال ہے سوائے بائبل اور قرآن کریم کے بیان کے اور کوئی شہادت اس بارہ میں ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جن دوسرے مقامات پر بائبل اور قرآن کریم میں اختلاف

ہوا ہے اور جن کی نسبت آزاد تاریخی شہادت بھی موجود ہے ایسے مواقع پر نتیجہ ہمیشہ یہی نکلا ہے کہ قرآن کریم کی بات سچی اور بائبل کی بات غلط ثابت ہوئی ہے پس تاریخی لحاظ سے بھی قرآن کریم کے بیان کو بائبل کے بیان پر مقدم کرنا پڑے گا لیکن یہ واقعہ ایک حد تک نفسیاتی اصول سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک قوم جرم کرے تو سارے ہی جرم کرنے والوں کے خلاف یک دم قدم اٹھایا جاتا ہے پھر اگر معاف کرنا ہو تو عام قوم کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جو زیادہ مجرم ہوں ان کو سزا دے دی جاتی ہے پس اس نفسیاتی اصول کے لحاظ سے بھی قرآن کریم کی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور قوم میں ندامت پیدا ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لئے ان پر ظاہر کر دیا کہ ان کی قوم من حیث القوم تباہ نہیں کی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد جو ائمة الکفر تھے ان کے لئے سزا تجویز کر دی گئی لیکن بائبل کے بیان کے مطابق پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کے قتل کا حکم دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فریاد پر جو پہلے دن مارے گئے تھے ان کے سوا باقیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ ترتیب نہ صرف غیر طبعی ہے بلکہ ظالمانہ بھی ہے کیونکہ قرآنی بیان کے مطابق تو عام طور پر قوم کو معاف کر دیا گیا تھا اور ائمة الکفر کو سزا دی گئی تھی۔ لیکن بائبل کے بیان کے مطابق پہلے دن ایک دوسرے کو بنی اسرائیل نے مارا۔ اتفاقاً جو پہلے دن مر گئے وہ مر گئے اور جو بعد میں بچ گئے چاہے وہ ائمة الکفر تھے یا عوام۔ ان کو معاف کر دیا۔ گویا سزا میں جرم کی اہمیت کو بالکل مد نظر نہیں رکھا گیا صرف وقت کو مد نظر رکھا گیا کہ جو پہلے مارے گئے سوا مارے گئے اور جو بعد میں بچ گئے سو بچ گئے۔ حالانکہ جو سزا شرعی قانون کے مطابق دی جاتی ہے اس میں اہمیت جرم کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے ہاں قانون طبعیت کے اصول اور ہیں۔ پس قرآن کریم کا بیان ہی انصاف اور عدل کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی اور رعب کے ماتحت کام کیا تھا ان کو تو معاف کر دیا اور جو بڑے بڑے مجرم تھے ان کو سزا میں دے دیں۔

أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ میں **أَنْفُسَكُمْ** سے مراد بنی اسرائیل کے مخصوص افراد یا سردار ہیں یا درکھنا چاہیے کہ **فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ** سے مراد یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مار دو بلکہ مراد قوم کے مخصوص افراد یا سردار ہیں۔ قرآن کریم میں اسی سورۃ کی آیت نمبر ۸۵ میں آتا ہے۔ **وَلَا تُخْرَجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ** (البقرة: ۸۵) اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو حالانکہ مراد اپنی قوم کے لوگ ہیں کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکالنا نہیں کرتا۔ اسی طرح سورۃ توبہ آیت ۳۶ میں آتا ہے۔ **فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ** (التوبة: ۳۶) یعنی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ نور میں آتا ہے۔ **فَإِذَا**

دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً (النور: ۶۲) جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنی جانوں کو سلام کہو اور مراد یہ ہے کہ تمہارے وہ بھائی جو ان مکانوں میں رہتے ہیں ان کو سلام کہو۔ پس قَاتِلُوا أَنفُسَكُمْ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے امراء و اقرباء کو قتل کرو جیسا کہ بائبل میں بھی مذکور ہے۔

پچھڑے کی پرستش کی تحریک کے لیڈروں کو ان کے رشتہ داروں سے قتل کروانے کی حکمت معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ شرک کے سردار ثابت ہوئے تھے ان کے متعلق یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے بھائی یا دوست ہی ان کو قتل کریں۔ اس میں دو فائدے مد نظر تھے۔ ایک تو یہ کہ جو قتل ہوا اس کو تو قتل کی سزا مل گئی اور جس نے قتل کیا اس کو بھی ایک رنگ میں سزا مل گئی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی یا دوست کو مارنا پڑا اور اس کی موت کا نظارہ دیکھنا پڑا۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی بنیاد قبائل پر تھی اور جن قوموں کی بنیاد قبائلی زندگی پر ہوتی ہے ان میں رقابت بہت شدید ہوتی ہے اگر قتل کرنے والے غیر ہوتے تو بنی اسرائیل کے قبائل میں شدید دشمنی پیدا ہو جاتی اور وہ مقتول کی شرارت کو بھول جاتے اور یہی بات ان کے دل پر غالب رہتی کہ ان کے ایک بھائی یا دوست کو فلاں غیر شخص نے قتل کر دیا تھا اور اس کا کینہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے پس اللہ تعالیٰ نے مزید فتنہ سے بچانے کے لئے ان کو یہ حکم دیا کہ قریبی اپنے قریبی کو اور دوست اپنے دوست کو خود مارے تاکہ ایک طرف تو اس کے دل کو دکھ پہنچ کر اس کی روحانی اصلاح ہو اور دوسری طرف اس کا دل اپنے بھائیوں کے کینہ سے محفوظ رہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اور شاندا انہوں نے کرہا ہی اس پر عمل کیا ہوگا۔

آنحضرت صلعم کے صحابہ اور حضرت موسیٰ کے متبعین میں فرق لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے طوعاً اپنے آپ کو اس خدمت کے لئے پیش کیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی صحبت میں رہنے والے لوگ اخلاق کے نہایت ہی اعلیٰ معیار پر پہنچ چکے تھے۔ جنگ بنو المصطلق کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لارہے تھے تو ایک جگہ پر ایک ہی کنواں تھا اور پانی نکالنے والے زیادہ تھے۔ جلدی کی وجہ سے بعض لوگوں میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ اتفاق کی بات ہے یہ اختلاف ایک طرف انصار میں اور دوسری طرف مہاجرین میں ہوا اور بغیر کسی ارادے کے دو پارٹیاں سی بن گئیں۔ ایک طرف مہاجرین کا گروہ نظر آنے لگا اور ایک طرف انصار کا۔ منافقوں کے سردار عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے جب یہ حالت دیکھی تو اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا اور انصار کو مخاطب کر کے بڑے زور سے کہا تم نے خود ہی ان لوگوں کو سر پر چڑھا لیا ہے ورنہ ان کی حیثیت کیا تھی کہ ہمیں ذلیل کرتے۔ اب ذرا مدینے واپس پہنچ لینے دو لِيُخْرِجَنَّ الْأَعْدَىٰ

مِنْهَا الْأَذْكَالَ (المنافقون: ۹) مدینے کا سب سے بڑا معزز آدمی یعنی عبداللہ بن اُبی ابن سلول مدینہ کے سب سے ذلیل آدمی یعنی نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکال دے گا۔ یہی وہ معنی تھے جو صحابہؓ نے لئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی مراد یہ ہو کہ معزز قوم یعنی انصار ذلیل قوم یعنی مہاجرین کو نکال دے گی۔ مگر بات پھر بھی وہی آ جاتی ہے۔ صحابہؓ میں گو اس وقت اختلاف اور جوش پیدا تھا مگر عبداللہ بن اُبی ابن سلول کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اُن کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ انصار نے فوراً سمجھ لیا کہ ہمارے ایمان کی آزمائش کا وقت ہے انہوں نے جھگڑا وہیں ختم کر دیا اور مہاجرین کے لئے جگہ چھوڑ دی۔ مہاجرین نے تو اس وجہ سے کوئی جوش نہ دکھایا کہ خود اُن کے ساتھ جھگڑا تھا مگر انصار میں چپ مگیاں ہونے لگیں کہ اس فقرہ کے کہنے کے بعد عبداللہ بن اُبی ابن سلول زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ عبداللہ بن اُبی ابن سلول کے بیٹے کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے بھی اپنے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ میرا باپ اب زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو وہ بات پہنچی ہے جو میرے باپ نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں پہنچی ہے اس کے بعد اُس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کے اس جرم کی سزا سوائے قتل کے اور کیا ہو سکتی ہے مگر میں ایک عرض کرتا ہوں کہ جب آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دیں تو میرے ہاتھ سے اُس کو قتل کروائیں کیونکہ یا رسول اللہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی اور شخص کے ہاتھ سے وہ قتل ہو اور میرا نفس کسی وقت مجھے یہ جوش دلائے کہ وہ سامنے میرے باپ کا قاتل جاتا ہے اُس سے بدلہ لے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ میرے ہی ہاتھ سے قتل ہو جائے تاکہ کسی مسلمان کا بُغض میرے دل میں پیدا نہ ہو (السیرة النبویة لابن ہشام غزوۃ بنی المصطلق۔ طلب ابن عبد اللہ بن ابی انیتوئی ہو قتل ابیہ) دیکھو صحابہؓ کی نظر کیسی باریک بین تھی۔ عبداللہ بن اُبی ابن سلول کا بیٹا اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے اس لئے قتل نہیں کرنا چاہتا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتک کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جرم خواہ کتنا ہی بڑا ہو بہر حال وہ اس کا باپ ہے۔ پس وہ اس جوش کی وجہ سے اسے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کرنا چاہتا کہ اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیوں ہتک کی۔ وہ اُسے اس وجہ سے اپنے ہاتھ سے قتل کرنا چاہتا ہے تاکہ کسی اور مسلمان بھائی کا بُغض اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ گویا بنی اسرائیل کو جس حکمت کی طرف وحی جلی سے خدا تعالیٰ کو توجہ دلانی پڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہؓ آپ ہی آپ اپنے نور ایمان کی وجہ سے وَحی جلی کے بغیر وَحی حقیقی کی مدد سے اس نکتہ تک جا پہنچے۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِكِكُمْ اس میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔

یعنی ائمۃ الکفر کو سزا ملنا تمہاری قوم کے لئے بہتر ہے کیونکہ تمہاری قوم کی قلبی حالت ایسی ہے کہ عفو اس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ کسی قدر سزا اس کے ساتھ شامل ہونی چاہیے اور دوسرے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بھائیوں سے بھائیوں اور دوستوں سے دوستوں کو مروانے میں تمہارے لئے بہتری ہے ورنہ تمہاری قوم اتنی مغلوب الغضب ہے کہ اگر غیروں کے ہاتھ سے انہیں قتل کروایا گیا تو تمہارے اندر انتقام کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

فَتَابَ عَلَيْكُمْ پھر خدا تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل نازل کیا اور رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس جرم کو ان سزاؤں کے بعد بھلا دیا اور اگر تم مزید جرائم نہ کرتے تو خدا تعالیٰ تمہارے اس جرم کو کبھی یاد نہ دلاتا۔

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کی تشریح إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وہ یقیناً بہت ہی فضل اور رحمت نازل کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے یعنی بعد کے واقعات خود تمہارے پیدا کردہ ہیں ورنہ اتنے عظیم الشان احسان کے موقع پر بنی اسرائیل کا اتنا خطرناک جرم اُس نے پوری طرح معاف کر دیا تھا لیکن افسوس کہ انہوں نے جیسا کہ آئندہ واقعات ظاہر کریں گے خدا تعالیٰ کی اس عظیم الشان بخشش کی قدر نہ کی۔

بَابِلَ كَا بَجْهَرِ کی پرستش کے نتیجے میں مقتولین کی تعداد کو تین ہزار قرار دینا مبالغہ ہے جیسا کہ اوپر نوٹ میں خروج کے حوالہ سے بتایا جا چکا ہے بابل کے بیان کے مطابق تین ہزار آدمی تھے جو اُس دن مارے گئے مگر یہ بات عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اگر صرف أَيُّمَةُ الْكُفْرِ ہی اُن میں تین ہزار تھے تو قوم تو مالاکھوں کی چاہیے تھی لیکن اُس وقت کے بنی اسرائیل کالاکھوں کی تعداد میں ہونا نہ تو تاریخ سے ثابت ہوتا ہے اور نہ واقعات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ آج اتنے سامانوں کی موجودگی میں دشت سینا میں سے لاکھوں کی قوم آسانی سے نہیں گزر سکتی تو اُس زمانہ میں جبکہ کوئی سامان موجود نہیں تھے یہ لاکھوں کی جمعیت جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے کس طرح گزر سکتی تھی۔ جہاں تک قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور جہاں تک عقل شہادت دیتی ہے یہ ہجرت کرنے والے بنی اسرائیل صرف چند ہزار افراد تھے ممکن ہے تین قبائل میں سے چند آدمی مارے گئے ہوں اور بابل کے مبالغہ نویسوں نے اُن کو تین ہزار بنا دیا ہو۔

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو آمنے

جَهْرَةً فَآخَذَتْكُمْ الصُّعِقَةُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۶﴾

سائے نہ دیکھ لیں اس پر تمہیں ایک مہلک عذاب نے پکڑ لیا اور تم (اپنی آنکھوں سے اپنے نفل کا انجام) دیکھ رہے تھے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - جَهْرَةً الْجَهْرَةُ کے معنی ہیں مَا ظَهَرَ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہو اور آیت لَنْ نُّؤْمِنَ

..... الخ میں جَهْرَةً کے معنی ہیں عِبَانًا غَيْرَ مُسْتَدْرِعٍ یعنی کھلم کھلا۔ ظاہر۔ (اقرب)

الصَّاعِقَةُ الصَّاعِقَةُ کے معنی ہیں الْمَوْتُ - موت - كُلُّ عَذَابٍ مُّهِلِكٍ - ہر مہلک عذاب - صَيْحَةُ

الْعَذَابِ - عذاب کی آواز - تَارًا تَمْسُقُ مِنَ السَّمَاءِ فِي رَعْدٍ شَدِيدٍ لَا يَمُرُّ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَحْرَقَتْهُ وَهِيَ آتِيَةٌ

بادل سے کڑک کے ساتھ نازل ہوتی ہے اور جس چیز پر گرے اُسے جلا دیتی ہے (یعنی گرنے والی بجلی) (اقرب)

الصَّاعِقَةُ - هِيَ الصَّوْتُ الشَّدِيدُ مِنَ الْجَوِّ لَمَّا يَكُونُ مِنْهُ تَارٌ فَتَقْطَعُ أَوْ عَذَابٌ أَوْ مَوْتُ وَهِيَ فِي ذَاتِهَا شَيْ

ءٌ وَاحِدٌ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَأْتِي بِرَاتٍ مِنْهَا - صَاعِقَهُ اس ہولناک گرج اور آواز کو کہتے ہیں جو نفا سے پیدا ہوتی

ہے پھر اس سے کبھی تو آگ واقع ہوتی ہے یا عذاب یا موت نازل ہوتی ہے۔

تفسیر - یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ بعض ضدی لوگ جب دلائل اور براہین کا جواب نہیں دے سکتے تو ایسی

شرائط لگانے لگتے ہیں جو بے فائدہ ہوں اور جن سے سوائے بات ٹالنے کے اور کچھ مقصود نہ ہو۔ اس زمانہ میں بھی

بہت سے لوگ ہیں کہ جب ہستی باری تعالیٰ کو دلائل سے ثابت شدہ دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تب تک نہ

مانیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل میں سے بھی معلوم ہوتا ہے ایک جماعت نے حضرت موسیٰؑ سے

ایسا مطالبہ کیا گو بائبل میں اس کا ذکر نہیں لیکن یہ ایک ایسا عام سوال ہے جو قریباً ہر زمانہ میں صداقت کے مقابلہ میں

ہوتا آ رہا ہے اور اس بات کی صداقت میں قرآن کریم کے مخالف بھی شک نہیں کر سکتے چونکہ قرآن کریم خود الہی کلام

ہونے کا مدعی ہے اس لئے ضروری نہیں کہ بائبل کے بیان کردہ امور سے زائد کسی واقعہ کا ذکر نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ کی روایت کے متعلق ایک ہی قسم کے دو سوال اور ان میں فرق اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا

ہے کہ بنی اسرائیل کے اس مطالبہ پر کہ ہمیں خدا تعالیٰ دکھا دو عذاب نازل ہوا مگر حضرت موسیٰؑ نے بھی تو رَبِّ اَرِنِي

أَنْظُرُ إِلَيْكَ کہا تھا (الاعراف: ۱۴۳) یعنی اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا تا میں بھی تجھے دیکھوں لیکن اُن پر غضب نازل نہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے تو محبت کے تقاضے سے سوال کیا اور ان لوگوں نے یہ شرط لگا دی کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو دیکھ نہ لیں اور یہ گستاخی اور شرارت ہے اس لئے حَقْلٰی کا الہام ہوا۔ اگر حق کو قبول کر کے رویت کا سوال کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان پر بھی ناراضگی کا اظہار نہ کیا جاتا۔

أَخَذْنَاكُمْ الضِّعْفَةَ فِي صَاعِقَةٍ مِّنْ صَاعِقَةٍ سَعَمَةٍ مَّرَادٍ فَأَخَذْنَاكُمْ الضِّعْفَةَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صَاعِقَهُ کے معنی عربی زبان میں عذاب کے ہیں۔ لسان العرب میں لکھا ہے قَبِيلُ الضِّعْفَةِ۔ الْعَذَابُ یعنی اہل لغت کہتے ہیں کہ صَاعِقَهُ عذاب کو کہتے ہیں۔ اس لفظ کی باریک تحقیقات سے معلوم ہوتا کہ اس کا اطلاق خصوصاً ایسے عذابوں پر ہوتا ہے جن کے ساتھ سخت آواز ہو جیسے زلزلہ، بجلی یا بادِ شند کا عذاب۔ کبھی صَاعِقَهُ کے معنی موت یا غشی کے بھی ہوتے ہیں لیکن اصل معنی وہی ہیں جو اوپر لکھے گئے اور موت اور غشی کے معنی صرف اس لئے رواج پا گئے کہ اکثر خطرناک عذابوں کا نتیجہ موت یا غشی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں صَاعِقَهُ کا لفظ زیادہ تر عذاب کے ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ ضِغْفَةً فَسَلْ ضِغْفَةً عَادِيًّا وَ شَمُودَ (حم سجدہ: ۱۴) یعنی اگر یہ لوگ تیری باتوں سے اعراض کریں تو تُو اُن کو کہہ دے کہ میں تمہیں ایسے صَاعِقَهُ سے ڈراتا ہوں جو عاد و ثمود کے صَاعِقَهُ کی طرح ہوگا اور آگے چل کر عاد کے صَاعِقَهُ کی یہ تشریح کی ہے کہ انہیں ایک بادِ شند کے عذاب کے ساتھ سزا دی گئی تھی۔ اسی طرح ثمود کے صَاعِقَهُ کی تشریح سورہ اعراف آیت ۷۹ میں یوں بیان فرمائی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمُ الرَّجْفَةَ کہ ثمود کی قوم ایک سخت زلزلہ سے تباہ کی گئی تھی۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں صَاعِقَهُ بمعنی عذاب استعمال ہوتا ہے اور آیت زیر تفسیر میں بھی اس سے عذاب ہی مراد ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۷﴾

پھر ہم نے تمہاری ہلاکت کے بعد تمہیں اس لئے اٹھایا کہ تم شکر گزار بنو۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ بَعَثْنَا بَعَثَ سے متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور بَعَثَهُ (يَبْعَثُ) بَعَثًا کے معنی ہیں۔ اَرْسَلَهُ اس کو بھیجا نیز کہتے ہیں بَعَثَهُ بَعَثًا اور مطلب یہ ہوتا ہے اَنْزَلَهُ وَ هَيَّجَهُ اس کو برا بھیجنا کیا اور جوش دلا یا اور

جب بَعَثَهُ عَلَى الشَّيْءِ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے حَمَلَهُ عَلَى فِعْلِهِ اس کو کسی کام کے کرنے پر آمادہ کیا جب بَعَثَ کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں اور کہیں کہ بَعَثَ اللَّهُ الْمَوْتِي تو اس کے معنی ہوں گے اَحْيَاهُمْ اللہ تعالیٰ نے مُرَدُونَ کو زندہ کیا اور اَلْبَعُثُ کے معنی ہیں اَلنَّشْرُ اُثْمَانًا (اقرب) پس بَعَثْنَاكُمْ کے معنی ہوں گے ہم نے تم کو اُٹھایا۔

مَوْتِكُمْ اَلْمَوْتُ۔ زَوَالِ الْحَيَاةِ عَنْ مَنْ اِتَّصَفَ بِهَا۔ اس چیز سے زندگی کا علیحدہ ہو جانا جو زندگی کے ساتھ متصف ہو (اقرب) مفردات میں ہے۔ اَلْمَوْتُ زَوَالِ الْقُوَّةِ الْحَيَوَانِيَّةِ وَابَانَةُ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ۔ قوت حیوانیہ اور رُوح کا جسم سے علیحدہ ہو جانا موت کہلاتا ہے۔ اَنْوَاعُ الْمَوْتِ بِحَسَبِ الْحَيَوَةِ۔ موت کئی قسم کی ہوتی ہے جس قسم کی زندگی ہوگی اسی کے مطابق موت ہوگی۔ (۱) فَالْاَوَّلُ مَا هُوَ بِاَزَاءِ الْقُوَّةِ النَّامِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْاِنْسَانِ وَالْحَيَوَاتِ وَالنَّبَاتِ۔ انسان۔ حیوانات اور نباتات میں نشوونما کا رُک جانا موت کہلاتا ہے جیسے يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الزوم: ۲۰) میں اشارہ فرمایا ہے (۲) اَلثَّانِي، زَوَالِ الْقُوَّةِ الْحَاسَّةِ احساس کا زوال بھی موت کہلاتا ہے جیسے حضرت مریم علیہا السلام کا قول يَلَيَّتَنِي مِثَّ قَبْلِ هَذَا (مریم: ۲۴) ہے کہ اے کاش میں اس سے پہلے کی بے حس ہو چکی ہوتی (۳) زَوَالِ الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ زوال عقل یعنی جہالت بھی موت کہلاتی ہے جیسے اَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ (الانعام: ۱۲۳) (۴) اَلرَّابِعُ الْحُزْنُ الْمُكَدِّرُ لِلْحَيَوَةِ۔ ایسے غم جو زندگی کو دو بھر کر دیں جیسے فرمایا۔ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ (ابراہیم: ۱۸)۔ (۵) اَلْخَامِسُ۔ اَلْمَتَامُ نِنْد۔ لسان میں ہے وَقَدْ يُسْتَعَارُ الْمَوْتُ لِلْاَحْوَالِ الشَّقَاةِ كَالْفَقْرِ وَالذُّلِّ وَالسُّوَالِ وَالْهَرَمِ وَالْمَعْصِيَةِ۔ کبھی موت کا لفظ استعارہً تکلیفِ وہ حالتوں پر بھی جیسے فقر۔ ذلت۔ سوال۔ بڑھاپا اور معصیت ہیں بولا جاتا ہے۔

تَشْكُرُونَ شَكَرَ کے لئے دیکھیں حَلَّ لُغَاتِ آیت نمبر ۵۳ سورۃ ہذا۔

تَفْسِيرُ - ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ سے مراد جہالت کے بعد علم اور تلخ زندگی کے بعد

آرام مہیا کرنا ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ۔ آیت ما قبل کے ساتھ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے ذلت و تکلیف کے بعد تمہاری حالت کو ترقی دی اور تمہیں معزز بنایا۔ پہلی آیت کے الفاظ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ در آنحالیکہ تم دیکھتے تھے۔ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مُرَدے نہیں تھے۔ حَلَّ لُغَاتِ میں موت کے مندرجہ ذیل چھ معنی لغت سے بتائے جا چکے ہیں (۱) قوت نشوونما کا زائل ہو جانا (۲) قوت حس کا مرجانا (۳) قوت ادراک کا نہ ہونا یعنی جہالت

(۴) تکالیف اور دکھوں والی زندگی۔ تلخ زندگی (۵) نیند (۶) رُوح کا جسم عنصری سے جدا ہونا۔ ان مذکورہ معنوں میں سے یہاں صرف ۳، ۴، ۵ چسپاں ہوتے ہیں۔ یعنی قوتِ ادراک کا نہ ہونا اور زندگی کا تلخ ہو جانا۔ اور آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ حقیقی طور پر مر جانے کے بعد زندہ کئے گئے تھے بلکہ آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ پہلی آیت میں جس عذاب کا ذکر کیا گیا تھا ہم نے اسے دُور کر کے پھر تم پر فضل کرنا شروع کر دیا اور پہلے عذاب کی وجہ سے جو موت کی سی حالت تم پر طاری ہو گئی تھی اس کو ایک نئی روحانی اور دنیوی زندگی سے بدل دیا۔

بعض مسلمان مفسرین نے اس کے معنی رُوح کے جسم سے خارج کرنے کے لئے ہیں لیکن حقیقی موت انہوں نے بھی مراد نہیں لی چنانچہ اس آیت کے متعلق قتادہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں ان کا یہ قول قرطبی نے نقل کیا ہے کہ مَا تَوَاتُوا وَذَهَبَتْ آرْوَاهُمْ ثُمَّ رُدُّوا إِلَىٰ تَيْفَاءٍ أَسْفَلِهَا (تفسیر قرطبی زیر آیت ہذا) یعنی حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ مر گئے اور ان کی رُوحیں نکل گئیں پھر ان کی رُوحیں واپس لائی گئیں تاکہ وہ اپنی مقدر زندگی کے باقی دن اس دنیا میں پورے کریں۔ ابن کثیر نے ربیع ابن انس سے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ہذا) ان الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت قتادہ کے نزدیک وہ حقیقی موت نہیں تھی۔ کیونکہ حقیقی موت تو زندگی کے دن پورا کر لینے کے بعد آتی ہے۔ زندگی کے دن پورے ہونے سے پہلے جو رُوح نکلے گی وہ تو عارضی طور پر ہی نکلے گی۔ بعض نے کہا ہے کہ موت سے مراد حرکت کا بند ہونا ہے چنانچہ لکھا ہے وَقِيلَ مَا تَوَاتُوا مَوْتَهُمْ وَيَعْتَدِيهِمُ الْغَيْبُ ثُمَّ أُرْسِلُوا (تفسیر قرطبی زیر آیت ہذا) یعنی وہ اس طرح مر گئے کہ حرکت وغیرہ بند ہو گئی اور ایسی حالت اُن کی ہو گئی کہ اس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ پھر ان کو کھڑا کر دیا گیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ عَلَّمْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ جَهَنَّمَ (تفسیر قرطبی زیر آیت ہذا) اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہاری جہالت کے بعد تمہیں علم دیا۔ یعنی تم نے یہ جو جہلانہ سوال کیا تھا کہ خدا ہم کو سامنے نظر آ جائے اس سے تمہاری روحانیت مر گئی تھی اور تم پر خدا تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی تھی۔ ہم نے پھر اس ناراضگی کو دُور کر دیا اور تم کو صحیح رُوحانی علم عطا فرمایا جس کی وجہ سے تم کو ایک نئی روحانی زندگی مل گئی۔ یہ معنی ہمارے کئے ہوئے معنوں کے بہت قریب ہیں۔

بچھڑے کی پرستش کرنے والوں پر جو عذاب نازل ہوا اس سے وہ حقیقی موت نہ مرے بعض مفسرین نے اس عذاب کا تعلق پہلے بچھڑے کی پوجا سے قائم کیا ہے مگر یہ درست نہیں۔ یہاں واضح الفاظ میں بنی اسرائیل کا ایک اور جرم مذکور ہے یعنی ان کا یہ قول کہ ہم کبھی بھی موسیٰؑ کی بات نہیں مانیں گے جب تک خدا ہم کو سامنے نہ نظر آ جائے۔ دوسرے یہاں جو سزا مذکور ہوئی ہے وہ بچھڑے والی سزا سے مختلف ہے پس معلوم ہوا کہ وہ

واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً (البقرة: ۵۶) میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر ہے نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا۔ اور مراد یہ ہے کہ جب تک خدا ہمیں نظر نہ آجائے ہم تیری فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ پس وہ اس موقع پر موسیٰؑ کی نبوت میں شک نہیں کرتے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے اس وقت تک انکار کرتے ہیں جب تک کہ ان کو وہی درجہ نہ دے دیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ سے بالمشافہ گفتگو کرنے سے حاصل تھا۔ یہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ موت سے مراد درحقیقت حقیقی موت نہیں اور حق یہ ہے کہ اگر حقیقی موت مراد لی جائے تو اوّل تو قرآن کریم کی دوسری آیات کی تردید ہوتی ہے جن میں اس دنیا میں مردوں کے واپس آنے سے انکار کیا گیا ہے مثلاً سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ (المؤمنون: ۱۰۱، ۱۰۰) یعنی جب اُن میں سے کسی پر موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے لوٹا دے تاکہ میں دنیا میں واپس جا کر اپنے اموال و جائداد کے ذریعہ سے اچھے عمل کروں۔ فرماتا ہے ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں ایسا کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک بات ہے جو وہ منہ سے نکال رہا ہے یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ان مرنے والوں کے پیچھے تو ایک برزخ ہے جو قیامت کے دن تک چلی جائے گی۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ مرنے والا اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ جو حیات انسان کو ملے گی اس کی تکمیل اس دن ہوگی جبکہ اگلے جہان کی زندگی کا نیا دور شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ عقلی اعتراضات بھی اس دوبارہ زندگی پر پڑتے ہیں مثلاً ایک اعتراض یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مر کر دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کا ایمان طوعی نہیں ہوگا بلکہ اضطراری ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ایمان کے لئے ایک حد تک انخفاء کا ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے انبیاء کے معجزات میں ایک حد تک انخفاء کا پہلو قائم رکھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ انبیاء کے نہایت ہی کھلے اور ظاہر معجزات پر بھی اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر دنیا کی چیزوں کے مشاہدہ کی طرح ایمان کے معاملات بھی سائنٹفک تجربات کے اصول پر آجائیں تو اُن پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ رہے اور کافر و مومن ان کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور ایمان سے جو فائدہ مطلوب ہے وہ جاتا رہے۔ پس مُردے کا واپس دنیا میں آنا ایمان کی غرض کو باطل کرتا ہے اور کم سے کم اُس زندہ ہونے والے کے لئے تو ایمان کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ یہ شبہ پہلے مفسرین کے دلوں میں بھی پیدا ہوا ہے چنانچہ علامہ ماوردی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایسے مُردے جو واپس آئیں آیا وہ اعمال کے مکلف

ہوں گے یا نہیں کیونکہ وہ تو مر چکے اور حقیقت کا انکشاف ان پر ہو چکا چنانچہ وہ لکھتے ہیں **وَ اِخْتَلَفَ فِي بَقَاءِ تَكْلِيفِ مَنْ اَعْيَدَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ مُعَايِنَةِ الْاَحْوَالِ الْمُضْطَرَّةِ اِلَى الْمَعْرِفَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ اَحَدُهُمَا بَقَاءُ تَكْلِيفِهِمْ لِغَلَا يَخْلُو عَاقِلٌ مِنْ تَعَبُدٍ - الثَّانِي - سَقُوطُ تَكْلِيفِهِمْ مُعْتَبَرًا بِاِلْسْتِدْلَالِ دُونَ الْاِضْطِرَارِ** (قرطبی) زیر آیت ہذا) ماوردی کہتے ہیں کہ جو لوگ موت کے بعد زندہ ہوں اور ان حالات کو آنکھوں سے دیکھ لیں جو انسان کو معرفت پر مجبور کر دیتے ہیں تو ان کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا عبادت ان پر واجب رہتی ہے یا نہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان پر واجب رہتی ہے تاکہ کوئی عاقل بھی عبادت سے باہر نہ رہے یعنی جہاں تک ان کے نفس کا تعلق ہے جسمانی عبادت ان کو فائدہ نہیں دیتیں لیکن اس لئے کہ دوسرے لوگوں کو ٹھوکر نہ لگے ان کے لئے بھی عبادت کرتے رہنا ضروری ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان پر سے عبادت ساقط ہو جاتی ہیں کیونکہ اعمال کے لئے مکلف کیا جانا اسی وقت تک مفید ہو سکتا ہے جبکہ اعمال کی بنیاد استدلال پر ہو۔ نہ کہ ایسی حالت پیدا ہو جائے جو کہ مضطر اور مجبور کر کے ان پر عمل کروائے۔

اس شبہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پرانے مفسرین اور علماء کے دلوں میں بھی یہ شبہ موجود تھا کہ مردوں کا اس دنیا میں واپس آنا شریعت کے بعض اُور مسائل کو باطل کر دیتا ہے گواںہوں نے اس شبہ کے ازالہ کے لئے کوشش کی ہے مگر جیسا کہ ظاہر ہے وہ کوشش ناکام رہی ہے اور تسلی بخش نہیں۔ پس حقیقت یہی ہے کہ حقیقی مُردے اس دنیا میں زندہ ہو کر واپس نہیں آتے اور اس آیت میں یا اُور جس آیت میں بھی مُردوں کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اس کے معنی حقیقی احیاء موتی کے نہیں ہو سکتے بلکہ یا روحانی مُردے کا زندہ ہونا۔ یا مُردے جیسی حالت کو پُٹھنے ہوئے مریض کا اچھا ہونا۔ یا گری ہوئی قوم کا دوبارہ ترقی پانا یا کفر کی حالت کا ایمان کی حالت سے بدل جانا یا اور اسی قسم کے کسی تغیر کا پایا جانا ہی مراد ہے۔

وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ط

اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لئے من اور سلوی اتارے۔ (اور کہا کہ)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ط وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا

ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ۔ اور انہوں نے (نا فرمانی کر کے) ہمارا نقصان نہیں کیا

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥١﴾

بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔

حَلُّ لُغَاتٍ۔ ظَلَّلْنَا ظَلَّلَ سے متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور ظَلَّلَهُ تَظْلِيلًا کے معنی ہیں غَشِيَةً وَ الْفَى عَلَيْهِ ظَلَّلَهُ اس کو ڈھانپ لیا اور اس پر اپنا سایہ ڈال دیا اور جب ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ کہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ سَخَّرْنَا لَهُ لِيُظْلِمَهُمْ ہم نے بادل کو ان پر سایہ کرنے کی خدمت پر لگا دیا۔ (اقرب)

الْغَمَامُ الْغَمَامُ کے معنی السَّحَابُ بادل وَقَيْلَ الْاَبْيَضُ اور بعض نے کہا ہے کہ غمام سفید بادلوں کو ہی کہیں گے اور بادل کو غَمَام کہنے کی یہ وجہ ہے کہ غَمَمَ کے معنی ڈھانپنے کے ہیں اور بادل بھی آسمان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کی جمع غَمَائِمُ آتی ہے۔ (اقرب)

الْمَنُّ مَنْ يَمُنُّ کا مصدر ہے چنانچہ کہتے ہیں مَنْ عَلَيْهِ بِالْعَيْتِ وَ غَيْرِهِ يَمُنُّ مَمَّنًا اَمْحَى اَنْعَمَ عَلَيْهِ یہ مَنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَ اصْطَبَعَ عِنْدَهَا صَنِيعَةً وَ اِحْسَانًا کسی پر اس کی محنت و مشقت کے بغیر انعام کیا اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا احسان کیا نیز الْمَنُّ کے معنی ہیں كُلُّ مَا يَمُنُّ اللهُ بِهِ مِمَّا لَا تَعَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو محنت اور مشقت کے بغیر عطا فرماوے وہ مَنْ کہلاتی ہے كُلُّ ظَلٍّ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى شَجَرٍ اَوْ حَجْرٍ وَيَجْلُو وَيَنْعَقِدُ عَسَلًا وَيَجِفُّ جِفَانِ الصَّبْغِ كَالسَّيْرِ حُشْتٍ وَ التُّرْبُجِيَّيْنِ۔ ہر وہ شبنم جو آسمان سے درختوں اور پتھروں پر اترتی ہے اور وہ بیٹھی ہوتی ہے اور پھر شہد کی طرح گاڑھی ہو جاتی ہے اور گوند کی طرح سوکھ کر ایسی ہو جاتی ہے مثلاً شیر خشک اور ترنجبین۔ (اقرب)

السَّلْوَى السَّلْوَى کے معنی ہیں (۱) اَلْعَسَلُ شہد (۲) كُلُّ مَا سَلَكَ ہر وہ چیز جو تسلی کا موجب ہو۔ (۳) طَائِرٌ اَبْيَضٌ مِغْلُ السَّمَانِ بیٹر کی مانند سفید پرندے (مفرد سَلْوَاةٌ آتا ہے) وَقَيْلَ السَّلْوَى۔ اَللَّحْمُ اور بعض نے کہا ہے کہ سَلْوَى گوشت کو کہتے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے لِاِنَّهُ يُسَلَّى الْاِنْسَانَ عَنْ سَائِرِ الْاِذَاهِ کہ جب گوشت دسترخوان پر آئے تو یہ باقی سالنوں کی جگہ کافی ہو جاتا ہے اور دوسرے سالنوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی (اقرب) مفردات میں ہے کہ السَّلْوَى اَصْلُهَا مَا يُسَلَّى الْاِنْسَانَ۔ سَلْوَى کے اصل معنی تو اس چیز کے ہیں جو انسان کو تسلی دے۔ يُقَالُ سَلَيْتُ عَنْ كَذَا اِذَا زَالَ عَنْكَ حَاجَتُهُ چنانچہ سَلَيْتُ عَنْ كَذَا کے معنی ہیں کہ میں فلاں مرغوب چیز کو بھول گیا اور دل میں اس کی خواہش نہ رہی (مفردات) پس اقرب

والے نے جو گوشت کو سَلَوٰی کہا ہے وہ اس لئے ہے کہ گوشت کے ملنے کی وجہ سے دوسرے سالنوں کی طرف رغبت نہیں رہتی۔

طَيِّبَاتٌ طَيِّبَاتٌ۔ طَيِّبَةٌ کی جمع ہے اور طَيِّبَةٌ طَيِّبٌ سے مؤنث کا صیغہ ہے جو طاب سے بنا ہے اور طاب الشَّيْءُ کے معنی ہیں لَذًا وَرَکَاوًا وَحَسَنًا وَحَلَاوًا وَجَلًّا وَجَادًّا کہ کوئی چیز مرغوب، پاکیزہ، عمدہ، خوبصورت، دلربا اور دل بھانے والی ہوگی (اقرب) طَيِّبٌ کے معنی ہیں ذُو الطَّيِّبَةِ جس کے اندر لفظ طاب کے معنی کے ضمن میں بیان شدہ تمام صفات ہوں۔ خِلَافُ الْحَبِيْثِ جو گندہ، رڈی اور فاسدنہ ہو۔ اَلْحَلَالُ۔ حلال (اقرب)

مفردات میں ہے اَصْلُ الطَّيِّبِ مَا تَسْتَلِدُّهُ الْحَوَاسُ وَمَا تَسْتَلِدُّهُ النَّفْسُ کہ طیب کے اصل معنی تو یہ ہیں کہ جس سے حواس انسانی اور نفس انسانی لذت اٹھائے۔ وَالطَّعَامُ الطَّيِّبُ فِي الشَّرْعِ مَا كَانَ مُتَنَاوَلًا مِنْ حَيْثُ مَا يَجُوزُ وَبِقَدْرِ مَا يَجُوزُ وَمِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يَجُوزُ اور شریعت کی رو سے طیب اس چیز کو کہیں گے جو جائز طریقہ اور مناسب و جائز اندازے کے مطابق اور جائز جگہ سے حاصل کی جائے۔ (مفردات)

رَزَقْنَاكُمْ رَزَقًا رَزَقًا سے متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور الرِّزْقُ (جو رَزَقٌ کا مصدر ہے) کے معنی ہیں۔ اَلْعَطَاءُ۔ عطا کرنا۔ دینا۔ جیسے کہتے ہیں رَزَقْتُ عِيْلًا کہ مجھے علم دیا گیا ہے۔ اور اس کے ایک معنی حصہ کے بھی ہیں جیسے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنْكُمُ تَكْذِبُونَ (الواقعہ: ۸۳) کہ تم نے اپنے ذمہ یہ کام لگا لیا ہے کہ رسول اور خدا کی باتوں کا انکار کرتے ہو (مفردات) اقرب الموارد میں ہے۔ الرِّزْقُ۔ مَا يَنْتَفَعُ بِهٖ هَرُوهُ حَيْثُ جَسَّ نَفْعُ اُثْمَا ياجائے۔ اور رَزَقَهُ اللهُ (يَزُقُّ) رِزْقًا کے معنی ہیں اَوْصَلَ اِلَيْهِ رِزْقًا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے ایسی اشیاء عطا فرمائیں جن سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔ رزق اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو غذا کے طور پر استعمال کی جائے (مفردات)

ظَلَمُوْنَا ظَلَمًا کے لئے دیکھو حَلَّ لَعَاتِ سُوْرَةِ هٰذَا آيَتِ نُمْبَرِ ۵۲۔

تفسیر۔ بائبل میں بنی اسرائیل پر دشت میں بادلوں کے سایہ کرنے کا ذکر

گنتی باب ۹ آیت ۱۷ تا ۲۲ میں لکھا ہے۔ ”اور جب مسکن پر سے بدلی اٹھائی جاتی تھی تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے اور جہاں بدلی آ کے ٹھہرتی تھی وہاں بنی اسرائیل خیمے کھڑے کرتے تھے۔ خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے اور خداوند کے حکم سے مقام کرتے تھے۔ اور جب تک کہ بدلی مسکن پر ٹھہرتی تھی خیموں میں رہتے تھے اور جب بدلی مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہری رہی تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم پر لحاظ کرتے رہے اور کوچ نہ کیا اور ایسے ہی جب بدلی جب تھوڑے دنوں تک مسکن پر رہی وہے خداوند کے حکم سے اپنے خیموں میں رہے اور خداوند

کے حکم سے انہوں نے کوچ کیا۔ اور جب شام سے صبح تک بدلی ٹھہری رہی اور صبح ہوتے ہوئے بلند ہوئی تو وہیں انہوں نے کوچ کیا۔ جب بدلی بلند ہوتی خواہ دن ہوتا خواہ رات وے کوچ کرتے تھے اور جب بدلی مسکن پر ٹھہری رہتی خواہ دو دن، خواہ ایک مہینہ، خواہ ایک برس۔ بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچ نہ کرتے پر جب وہ بلند ہوتی تب وہ کوچ کرتے۔ نیز دیکھو۔ (گنتی باب ۱۰ آیت ۳۴ و خروج باب ۴۰ آیت ۳۴ تا ۳۸)

ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ بنی اسرائیل خیمہ زن ہوتے تھے وہاں بادل پھیل کر سایہ کر لیتے تھے۔ جب اُن کے سفر پر روانہ ہونے کا دن آتا تو پھر بادل اوپر چڑھ جاتے لیکن قرآن شریف کے الفاظ اور سیاق سے مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادلوں کے گھر آنے سے بارش ہونا مراد ہے کیونکہ عام طور پر برسنے والے بادل گھنے اور تاریک ہوتے ہیں۔ پس یا تو قرآن کریم اس جگہ بابتل کے بیان کی تردید کرتا ہے یا دوسرے واقعہ کا بیان کرتا ہے جس کا ذکر بابتل میں نہیں۔ میرے نزدیک اس جگہ تردید ہی ہے کیونکہ بابتل نے جس طرح بادلوں کا ذکر کیا ہے وہ غیر معقول اور ساتھ ہی غیر ضروری بھی ہے۔ بنی اسرائیل کو کسی جگہ ٹھہرانے کے لئے انہیں چاروں طرف سے بادلوں سے گھیر لینے کی کیا ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کو الہام ہو جانا کافی تھا۔

بادلوں سے سایہ کرنے سے مراد بنی اسرائیل کو بارش کے ذریعہ پانی مہیا کرنا بادلوں کے ساتھ قرآن شریف دو اور کھانے والی چیزوں مَنّ و سَلْوٰی کا بھی ذکر فرماتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ویرانے جنگل میں پانی کی طرح کھانے کی بھی قلت تھی۔ اللہ تعالیٰ گھنے بادل بھیج کر ان کی پیاس بجھاتا تھا اور مَنّ و سَلْوٰی سے اُن کی بھوک دور فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تکالیف دور کرنے اور ان کی آسائش و آرام بڑھانے کے لئے خاص انعامات ظاہر فرماتا ہے۔ یہ اُس کی عادت زمانہ گزشتہ ہی کے لئے نہ تھی بلکہ اس زمانہ میں بھی وہ اپنے مقبول بندوں کے لئے انعام و برکات اسی طرح نازل فرماتا ہے اس کے یہ معنی کرنے کہ ہر وقت ان پر بادلوں کا سایہ رہتا تھا درست نہیں کیونکہ ہر وقت ابر کا رہنا تو بجائے نعمت کے مصیبت ہے۔ بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر بادل برساتا تھا جس سے وہ پیاس بجھاتے تھے اور دوسری ضرورتیں پوری کرتے تھے۔

مَنّ کی تشریح مَنّ کے لغوی معنی اوپر لکھے جا چکے ہیں۔ ترنجبین یا ہر وہ چیز جو بغیر محنت کے ملے اُسے مَنّ کہتے ہیں۔ یہ اپنے مخصوص معنوں میں گوند کی قسم کی ایک چیز ہے جو بعض درختوں پر جم جاتی ہے اور مزے میں شیریں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ترنجبین ہے۔ ترنجبین کے نام پر جو دو اہندوستان میں ملتی ہے اُس میں سے اکثر

مصنوعی ہوتی ہے۔ اصل مَن دشتِ سیناء۔ شام اور عراق کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن ہوئے ایک دوست عراق سے میرے لئے مَن تحفہ لائے تھے۔ مصنوعی بھی اور اصلی بھی۔ مصنوعی تو ویسی ہی تھی جیسے ہندوستان میں ترنجبین ہوتی ہے لیکن اصلی مَن کائی کے پتوں کا ایک ڈلا سا معلوم ہوتا تھا۔ مجھے اس دوست نے بتایا کہ یہ رطوبت ان چھوٹے چھوٹے پتوں سے جو درختوں کی جڑوں پر اُگ آتے ہیں ملی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ ان پتوں سمیت اسے اکٹھا کر لیتے ہیں پھر گرم کر کے چھان لیتے ہیں اور پتوں کو پھینک دیتے ہیں۔ جو شیرینی ان میں سے نکلتی ہے اس میں بادام اور پستہ وغیرہ ڈال کر اُس کی مٹھائی بنانے کا عربوں میں رواج ہے۔ میں نے بھی اسے صاف کروایا تو اس میں سے شہد کی طرز کی ایک چیز نکلی۔ رنگ اس کا بھورا سا تھا۔

مَن ملنے کا ذکر بائبل میں مَن کا ذکر بائبل میں خروج باب ۱۶ آیت ۱۳ تا ۱۵ میں آتا ہے وہاں لکھا ہے۔

”اور صبح کو لشکر کے آس پاس اوس پڑی اور جب اوس پڑ چکی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک

چھوٹی چھوٹی گول چیز ایسی سفید جیسے برف کا چھوٹا ٹکڑا زمین پر پڑی ہے اور بنی اسرائیل نے دیکھ کے

آپس میں کہا کہ مَن ہے کیونکہ انہوں نے نہ جانا کہ وہ کیا ہے تب موسیٰ نے انہیں کہا کہ یہ روٹی ہے جو

خداوند نے کھانے کو تمہیں دی ہے۔“

اس حوالہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز زمین پر گری تھی لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے عرب اور شام کے لوگ جہاں یہ مَن پیدا ہوتی ہے اُن کی یہ گواہی ہے کہ یہ درختوں پر گری ہوئی یا درختوں سے نکلی ہوئی ایک رطوبت ہے جو شیریں ہوتی ہے۔ ممکن ہے دشتِ سیناء میں جن درختوں کی جڑوں میں سے یہ مَن نکلتی ہو یا جن کی جڑوں پر گرتی ہو اُن پر کائی نہ ہوتی ہو اور مصطفیٰ ڈلیاں الگ الگ جم جاتی ہوں بہر حال جو میں نے دیکھی ہے اور جو عراق میں پائی جاتی ہے وہ تو کائی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اسے گرم کر کے الگ کیا جاتا ہے۔

بنی اسرائیل کو مَن ملنے سے مراد مَن کے معنی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں بلامخت و مشقت ملنے والی

چیز کے بھی ہیں اور ان معنوں کے لحاظ سے اس لفظ کا تمام ایسی چیزوں پر اطلاق ہو سکتا ہے جو بغیر محنت کے مل

جاتی ہیں چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔ اَلْكَمَاءُ مَنَ الَّذِي اَنْزَلَ اللهُ عَلٰى مُوسٰى (مسلم کتاب الأشربة باب

فضل الكماء) یعنی کھمبی بھی مَن کی اُن اقسام میں سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ اس

حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ مَن کسی چیز کا نام نہیں بلکہ کئی ایسی چیزیں جو کھانے کے کام آتی ہیں اور جنگلوں میں خود رو

یا بغیر کوشش کے پڑی ہوئی مل جاتی ہیں اُن سب کو مَن کہتے ہیں۔ پس کھمبی بھی مَن کی قسموں میں سے ہے۔

ترنجبین بھی مَن کی قسموں میں ہے۔ اسی طرح بیر یا پیلو وغیرہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے کام میں آسکتی ہیں۔ پیٹ بھرتی ہیں۔ غذائیت کا کام دیتی ہیں۔ جہاں جہاں پائی جاتی ہیں کثرت سے مل جاتی ہیں اور جنگلوں میں چلنے والے قافلے بعض دفعہ ہفتوں ان پر گزارہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ہجرت کے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے یہ اشیاء جنگل میں پیدا کر دی تھیں جن کو بنی اسرائیل کھاتے تھے اور پیٹ بھر لیتے تھے۔ اسی طرح آٹا اور چاول وغیرہ جو خرید کرنے والی اشیاء ہیں ان کی انہیں بہت کم ضرورت پیش آتی تھی۔

سَلُّوْی۔ بنی اسرائیل کو سلوئی ملنے سے مراد **سَلُّوْی** کے معنے بھی مَن کی طرح ایک عام ہیں اور ایک خاص۔ اس کے عام معنے تو ہر اُس چیز کے ہیں جو تسلی دینے والی ہو اور خاص معنوں کے لحاظ سے وہ ایک پرندے کا بھی نام ہے جو بٹیر کے مشابہ ہوتا ہے اور شہد کو بھی سلوئی کہتے ہیں۔ بائبل میں اس کا ذکر گنتی باب ۱۱ آیت ۳۱ تا ۳۴ میں آتا ہے۔ وہاں لکھا ہے۔

”تب خداوند کی طرف سے ایک ہوا اُٹھی اور دریا سے بٹیر اُڑالائی اور انہیں خیمہ گاہ پر اور خیمہ گاہ کے گردا گرد ادھر ادھر ایک دن کی راہ تک پھیلا یا۔ ایسا کہ وہ زمین پر دو ہاتھ بلند ہوا تب لوگ اُس سارے دن اور اُس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی کھڑے رہے اور بٹیر جمع کیا کئے اور جس نے کم سے کم جمع کئے دس خومر (نصف من) تھے اور انہوں نے اپنے لئے خیمہ گاہ کے آس پاس انہیں پھیلا دیا اور ہنوز اُن کے دانوں تلے گوشت تھا پہلے اس سے کہ وہ اُسے چائیں خداوند کا غضب ان لوگوں پر بھڑکا اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی مری سے مارا اور اُس نے اس مقام کا نام **قَبْرَاتُ الشَّہَاوَاہ** (حرص کی قبریں) رکھا کیونکہ انہوں نے اُن لوگوں کو جنہوں نے حرص کی تھی وہیں گاڑا۔“

چونکہ بنی اسرائیل مدتوں تک فرعون مصر کی غلامی میں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں جنگل میں آزاد رکھ کر اُن میں جرات اور بہادری کے اخلاق پیدا کرے۔ اس لئے بجائے جلد سے جلد کنعان پہنچانے کے اُن کو ایک عرصہ تک دھت سینا اور اس کے ارد گرد کے علاقہ میں رکھا اور اُن کے لئے ایسی غذائیں جو بلا تعب اور بغیر محنت کے ملتی تھیں مہیا فرمادیں۔ کچھ شیریں، کچھ نمکس، کچھ ٹھوس، کچھ ہلکی، کچھ پکانے والی، کچھ کچی کھانے والی تاکہ ذوق کو بھی ان سے تسلی حاصل ہو اور معدہ بھی بھرے اور صحت کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری طرح میسر آجائیں۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں مَن میں پھل، کھمبیاں اور ترنجبین وغیرہ شامل ہیں۔ اور **سَلُّوْی** میں پرندے۔ شہد اور وہ تمام ایسی غذائیں جو کہ قلب کو تسکین دیتی ہیں شامل ہیں۔ پس بادل نازل کر کے پانی مہیا فرمادیا

گیا۔ مَنّ نازل کر کے پھل اور سبزی ترکاری کی قسم کی غذا میں مہینا کر دی گئیں اور سَلْوٰی نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے گوشت کی ضرورت کو مہینا کر دیا۔

مَنّ و سَلْوٰی کے دیئے جانے کے ساتھ لفظ نزول کا استعمال اور ایک مشکل کا حل یہاں اَنْزَلْنَا کا لفظ بھی غور کے قابل ہے۔ نَزُوْل کا لفظ اعزاز و احترام کے لئے یا غیر معمولی حالات کے مطابق کسی چیز کے مہینا کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ مَنّ اور سَلْوٰی آسمان سے نہیں اُترتے تھے۔ زمین کی ہی چیزیں تھیں اور زمین پر ہی پیدا ہوتی رہتی تھیں۔ ان کے لئے نزول کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے یہ چیزیں مہینا کر دی تھیں۔ جو لوگ آنے والے مسیح کے متعلق نزول کے الفاظ پڑھ کر قسم قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں انہیں قرآن کریم کے یہ محاورات بھی مد نظر رکھنے چاہئیں۔ اگر زمین میں پیدا ہو کر مَنّ و سَلْوٰی کے لئے نزول کا لفظ آ سکتا ہے تو زمین میں ہی پیدا ہو کر مسیح کے لئے نزول کا لفظ کیوں نہیں آ سکتا۔ جس طرح مَنّ و سَلْوٰی کا غیر معمولی حالات میں مہینا کر دینا قرآنی اصطلاح میں نزول کہلا یا ہے اسی طرح فسق و فجور کے زمانہ میں ایک پاکیزہ نفس مصلح کا پیدا ہو جانا خدائی اصطلاح میں نزول کہلاتا ہے اور مسیح موعود کے لئے بھی انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے۔ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ جو کچھ ہم نے تمہیں طیبات میں سے دیا ہے اسے کھاؤ یعنی اس زمانہ میں یہ غذائیں تمہارے لئے نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ ان کے استعمال سے وہ تمام ضرورتیں جو تمہیں لاحق ہیں پوری ہو جائیں گی۔

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ... الخ میں طیب کے معنی طَيِّب کے معنی لذیذ، پاکیزہ، خوبصورت، میٹھے اور شاندار کے ہوتے ہیں پس كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کے معنی یہ ہونے کہ یہ چیزیں اس وقت تمہاری لذت کے سامان بھی مہینا کرتی ہیں، تمہارے اخلاق کی درستی کا موجب بھی ہیں۔ ظاہری شکلوں میں بھی وہ اچھے کھانے ہیں۔ شیریں و لطیف بھی ہیں اور اپنے فوائد کی عظمت کے لحاظ سے بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہیں پس تم ان کو کھاؤ اور اخلاقِ حسنہ پیدا کر کے اُس عظیم الشان کام کے لئے تیار ہو جاؤ جو تمہارے لئے مقدر ہے۔

مَنّ و سَلْوٰی کے بطور انعام ملنے کے متعلق بائبل اور قرآن مجید کا اختلاف اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ مَنّ اور سَلْوٰی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملے تھے پس وہی طیبات ہیں بلکہ مدحیہ الفاظ ہوں یا ذمّ کے الفاظ سب کے سب نسبتی ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز ایک وقت میں اچھی ہوتی ہے یا ایک شخص کے لئے

اچھی ہوتی ہے لیکن وہی چیز دوسرے وقت میں بُری ہو جاتی یا دوسرے شخص کے لئے بُری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ہی چیز ایک وقت میں بُری ہوتی یا ایک شخص کے لئے بُری ہوتی ہے لیکن وہی چیز دوسرے وقت میں اچھی ہو جاتی یا دوسرے شخص کے لئے اچھی ہو جاتی ہے۔ جن چیزوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے گو وہ عام طور پر بھی اچھی ہیں لیکن بنی اسرائیل کے حالات کے مطابق وہ اس وقت ان کے لئے خاص طور پر طیب تھیں۔ ان غذاؤں کو چھوڑ کر دوسری غذاؤں کے پیچھے پڑنے سے وہ غرض فوت ہوتی تھی جس کے لئے بنی اسرائیل کو جنگل میں رکھا گیا تھا۔

بائبل میں سے اوپر گنتی باب ۱۱ آیت ۳۱ تا ۳۴ کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا آنا بطور عذاب کے تھا کیونکہ ان کے کھانے سے بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوا۔ قرآن کریم اس کے خلاف کہتا ہے۔ قرآن کریم اسے احسان بتاتا اور اپنا انعام قرار دیتا ہے اور قرآن کریم کا بیان ہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ جنگل میں غذا مہیا کر دینا اور پھر اس کے کھانے پر عذاب نازل کرنا یہ تو ایک ظلم ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا ہوتا کہ بیٹیوں کے تم انہیں نہ کھانا تب بھی کچھ بات تھی اور اگر بنی اسرائیل میں بیٹیوں کو حرام ہوتا تب بھی کچھ بات تھی مگر وہاں تو سرے سے بیٹیوں کی حرمت کا کوئی حکم ہی موجود نہیں۔ پھر ایک حلال چیز اگر بنی اسرائیل کو مل گئی اور انہوں نے اسے کھانے کا ارادہ کیا (بائبل میں لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے ہی ان پر عذاب آ گیا) تو اس پر ناراضگی کیسی اور ناراضگی بھی ایسی کہ جنگل کا جنگل قبروں سے بھر گیا۔ یہ تو ایک ظلم ہے اور خدا تعالیٰ ظالم نہیں۔ خود بائبل کے بعض حصے بھی اس خیال کو رد کرتے ہیں چنانچہ خروج باب ۱۶ میں لکھا ہے۔

”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا میں نے بنی اسرائیل کا جھنجھلانا سنا۔ انہیں کہہ کہ تم درمیان زوال اور غروب کے گوشت کھاؤ گے اور صبح کو روٹی سے سیر ہو گے اور تم جانوں گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور یوں ہوا کہ شام کو بیٹیوں اور پر آئیں اور پڑاؤ کو چھپا لیا اور صبح کو لشکر کے آس پاس اوس پڑی اور جب اوس پڑ چکی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز ایسی سفید جیسے برف کا چھوٹا ٹکڑا زمین پر پڑی ہے۔“ (خروج باب ۱۶ آیت ۱۱ تا ۱۳)

اس حوالہ سے پتہ لگتا ہے کہ بیٹیوں کے کھانے کی پیشگوئی کے مطابق آئے اور خدا تعالیٰ نے قبل از وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ان بیٹیوں کو کھانا اور انہیں انعام قرار دیا اور فرمایا کہ ان کے کھانے سے ”تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔“ اور بیٹیوں کے انعام کو صبح کے انعام کے ساتھ اکٹھا بیان کیا اور صبح کے انعام کو ساری بائبل میں انعام ہی قرار دیا گیا ہے کہیں اسے عذاب قرار نہیں دیا گیا۔ پس گنتی باب ۱۱ میں جو کچھ بیان ہوا ہے

وہ بعد کے کسی ناواقف مشنر تورات کی جہالت کا نمونہ ہے جس نے اپنے غلط خیالات کو تورات میں شامل کر دیا ورنہ بات وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کی یعنی من بھی بطور انعام کے تھا اور سَلْمُوٰی بھی بطور انعام کے تھا۔

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ -- الخ کی تشریح وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يُظَلِّمُونَ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ ان احسانات کی بھی انہوں نے ناقدری کی اور اس طرح ہمارے انعاموں کو ناشکری کے ذریعہ سے عذابوں کا موجب بنا لیا۔ فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل ہمارے انعاموں کی ناشکری کر کے یہ سمجھا کرتے تھے کہ گویا انہوں نے خدا تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے کیا نقصان پہنچانا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے وہ تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے اور جو اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے وہ خود اپنے لئے نعمتوں کے دروازے بند کرتا ہے۔

خدا تعالیٰ کے احکام کو چٹی سمجھنے کا نتیجہ یہ مصیبت دین کو سمجھ کر نہ ماننے والوں میں ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں پر بھی یہی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی جتنے احکام ہیں وہ انہیں چٹی سمجھتے ہیں اگر ان احکام کو پورا کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ پر احسان کر دیا اور اگر ان احکام کو پورا نہیں کرتے تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو خوب دھوکا دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ کسی کی نماز، کسی کے روزے، کسی کا حج، کسی کی زکوٰۃ اور کسی کی قربانی سے اسے کیا فائدہ۔ یہ ساری باتیں تو ہمارے ہی فائدہ کے لئے ہیں۔ نماز ہمارے فائدہ کے لئے ہے۔ روزہ ہمارے فائدہ کے لئے ہے۔ حج ہمارے فائدہ کے لئے ہے۔ زکوٰۃ ہمارے فائدہ کے لئے ہے۔ کسی چیز میں ہمارے قلب کی اصلاح ہے۔ کسی چیز میں ہمارے فکر کی اصلاح ہے۔ کسی چیز میں ہمارے جسم کی اصلاح ہے۔ کسی چیز میں ہمارے تمدن کی اصلاح ہے۔ کسی چیز میں ہماری قوم کی سیاست یا اقتصادیات کی اصلاح ہے۔ پس ان احکام کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں خدا تعالیٰ کا شکر پیدا ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور کامیابی کی ترکیبیں بتائیں۔ ہم مرتے اور تباہ ہوتے تو اُس کا کیا بگڑ جاتا۔ ہم بچ جائیں تو اس کا کیا سنور جاتا ہے مگر جہالت کا بُرا ہودہ انسان کو ایسے رستوں پر چلاتی ہے جو عقل کے اور دانائی کے مخالف ہوتے ہیں مگر پھر بھی انسان ہیں کہ اُس پر چلے جاتے ہیں۔

حصہ آیت وَمَا ظَلَمُونَا میں بنی اسرائیل کی من و سلویٰ کے متعلق نافرمانیاں کرنے کا ذکر اور

اس کی تائید بائبل سے اس حصہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے من و سلویٰ کے متعلق بھی کچھ نافرمانیاں کی تھیں۔ سلویٰ کا مضمون تو جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے بائبل میں بالکل خط ہو گیا ہے مگر من کے

متعلق ان کی نافرمانی کا پتہ لگتا ہے چنانچہ خروج باب ۱۶ آیت ۱۹، ۲۰ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ مَنْ کو جمع نہ کیا جائے لیکن وہ لوگ حرص کی وجہ سے اس کو جمع کرتے تھے۔ اسی طرح ان کو حکم تھا کہ وہ سبت کے دن مَنْ لینے کے لئے نہ نکلیں لیکن وہ پھر بھی گئے اور انہوں نے کوئی نہ پایا (خروج باب ۱۶ آیت ۲۵ تا ۲۹) ایسی ہی کوئی بے احتیاطی معلوم ہوتا ہے انہوں نے مسلولی کے متعلق بھی کی ہوگی۔ شائد اس کا جمع کرنا بھی منع ہو اور انہوں نے اسے جمع کر لیا ہو۔ بہر حال ان الفاظ سے کہ وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر نافرمانی انہوں نے ضرور کی یا کم سے کم انہوں نے اس بارہ میں ناشکری سے کام لیا چنانچہ قرآن کریم میں آگے چل کر اس بارہ میں ان کی ایک ناشکری کا ذکر آتا بھی ہے۔

وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو کہ) جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو

رَعَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ

با فراغت کھاؤ اور (اس کے) دروازے میں پوری فرمانبرداری کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا (کہ ہم) بوجھ ہا

خَطِيئَتِكُمْ ط وَ سَنَزِيدُ الْبُحْسَيْنِ ۝۹۹

کرنے کی التجا (کرتے ہیں) (تب) ہم تمہاری خطاؤں کو بالکل معاف کر دیں گے اور ہم محسنوں کو ضرور بڑھائیں گے۔

حَلَّ لُغَاتِ الْقَرْيَةِ الْقَرْيَةُ کے معنی ہیں اَلْطَّيْبَةُ جَائِدًا۔ اَلْبَصْرُ الْجَامِعُ بڑا شہر وَقِيلَ كُلُّ مَكَانٍ اِتَّصَلَتْ بِهِ اَلْاَبْدَانِيَّةُ وَ اَلْمُحَدَّ قَرَارًا۔ اور بعض کے نزدیک قَرْيَةٌ ہر اس جگہ پر بولیں گے جہاں چند گھر پاس پاس بنے ہوئے ہوں اور وہاں لوگوں کی رہائش بھی ہو۔ جَمْعُ النَّاسِ لوگوں کا گروہ (قَرْيَةٌ) کے معنی جمع کرنے کے بھی ہیں چنانچہ کہتے ہیں قَرْيَتُ الْمَاءِ فِي الْحَوْضِ کہ میں نے حوض میں پانی جمع کیا۔ ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر اس جگہ پر جہاں لوگوں کا جمع ہو اس پر قَرْيَةٌ کا لفظ بولا جائے گا نیز ان معنوں کو مد نظر رکھ کر خواہ کوئی شہر ہو یا بستی ہر ایک پر قَرْيَةٌ کا لفظ بول سکیں گے لیکن بعض نے قَرْيَةٌ اور مَدِينَةٌ میں فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ قَرْيَةٌ اس بستی کو کہیں گے جس کے ارد گرد فصیل نہ ہو اور مَدِينَةٌ اس کو کہیں گے جس

کے ارد گرد فیصل ہو)۔ (اقرب)

رَعَدًا رَعَدًا عَيْشُهُ رَعَدًا کے معنی ہیں طاب وَا تَسَعِ اس کے لئے زندگی کے سامان وسیع طور پر اور با فراغت مہیا ہو گئے۔ (اقرب) تاج العروس میں ہے۔ الرَّعْدُ۔ الْكَيْبُزُ الْوَالِيسُ الَّذِي لَا يُعِيْبِكَ مِنْ مَمَالٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ عَيْشٍ أَوْ كَلِّ زُرِّيَاتٍ زَنْدُكِي كَاسَهْلَتِ أَوْ كَثُرَتْ كَاسَاتِهِمْ جَانَا رَعْدًا كَهَلَاتِهِ۔ (تاج)

الْبَابُ الْمَدْخَلُ۔ الْبَابُ کے معنی ہیں کسی جگہ داخل ہونے کا رستہ نیز جس کے ذریعہ سے وہ رستہ بند کیا جائے اسے بھی باب کہتے ہیں۔ (اقرب)

سُجَّدًا سُجَّدًا سَاجِدًا کی جمع ہے جو سَجَدَ سے اسم فاعل ہے۔ أَسْجُدُوا۔ امر جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور الْأَسْجُودُ جو (سَجَدَ کا مصدر ہے) کے معنی ہیں الْتَدَلُّ عاجزی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ وَقَوْلُهُ أَسْجُدُوا الْإِدْمَ، قِيلَ أَمْرًا بِالْتَدَلُّ لَهُ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ وَمَصَالِحِ أَوْلَادِهِ یعنی آیت أَسْجُدُوا الْإِدْمَ الخ میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آدم کی فرمانبرداری کریں اور اس کے ماتحت چلیں (یعنی اصلاح کا وہ کام جو آدم دنیا میں کریں گے اس میں اس کی مدد کریں اور اس کی قبولیت لوگوں میں پھیلائیں) اور اس کی مدد کریں اور اس کی اولاد کے لئے نماز اور معاون بنیں أَوْ اسْجُدُوا الْأَجَلِ خَلْقِ إِدْمَ۔ نیز أَسْجُدُوا الْإِدْمَ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آدم کی پیدائش کی وجہ سے اللہ کے حضور سجدہ میں گرجاؤ۔ وَقَوْلُهُ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا أَمْ مُتَدَلِّينَ مُقَادِرِينَ اور قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ تم اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ تم فرمانبرداری کرتے ہوئے جاؤ۔ (مفردات)

سَجَدَ (يَسْجُدُ) سُجُودًا کے معنی ہیں خَضَعَ وَأُتْحَلَى أُسْ نے عاجزی کی اور عجز کا اظہار جھکنے سے کیا سَجَدَ الْبَعِيْرُ۔ خَفَضَ رَأْسَهُ اَوْنُثَ نے اپنا سر نیچا کیا۔ سَجَدَتِ السَّفِينَةُ الرِّيَاحَ؛ أَطَاعَتْهَا وَمَالَتْ بِمِيلِهَا کشتی نے ہوا کی پیروی کی اور جدھر کو ہوا اُسے لے گئی اُدھر چل پڑی۔ اہل عرب کہتے ہیں فُلَانٌ سَاجِدٌ الْبِنْعَرِ اور مراد یہ ہوتی ہے دَلِيلٌ خَاضِعٌ کہ فلاں شخص مطیع ہے اور عاجزی کرنے والا ہے۔ (اقرب) پس أَسْجُدُوا کے معنی ہوں گے اطاعت و فرمانبرداری کرو۔

حِطَّةٌ الْحِطَّةُ اسْتَحْطَّ کا اسم ہے اور اسْتَحْطَّ فُلَانًا وَزُرُّدًا کے معنی ہوتے ہیں سَأَلَهُ أَنْ يَحْطِلَهُ عَنْهُ کہ اس سے یہ خواہش کی کہ اس سے اس کے بوجھ کو اتار دے حِطَّةٌ مبتدا مخدوف کی خبر ہے جس کی تقدیر یوں ہوگی۔ أَمْرًا أَوْ مَسْئَلَةً حِطَّةٌ کہ ہماری دعا یہ ہے یا یہ کہ آپ کی شان کے شایان یہ بات ہے کہ آپ ہمارا

بوجھ ہلکا کر دیں۔ (اقرب) مفردات میں ہے کہ حِطَّةُ کے معنی ہیں حُطَّ عَنَّا ذُنُوبَنَا کہ ہمارے گناہوں اور قصوروں کو معاف کر کے ہمارے بوجھوں کو ہم سے اُتار دیجئے۔ (مفردات)

نَغْفِرُ غَفْرًا سے مضارع متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور غَفَرَ الشَّيْءَ غَفْرًا کے معنی ہیں سَسَدَہُ کسی چیز کو ڈھانپ دیا اور غَفَرَ اللهُ لَهُ ذَنْبَهُ کے معنی ہیں غَطَّى عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کی اور اس کے گناہوں سے تجاوز کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور جب غَفَرَ اللهُ الْاَقْرَبَ بِغُفْرَتِهِ کہیں گے تو معنی ہوں گے اَصْلَحَهُ يَمَانِيذِيغِي اَنْ يُصْلِحَ بِهِ کسی امر کی ان چیزوں سے اصلاح کی جن کے ذریعہ سے اس کی اصلاح ہو سکتی تھی۔ (اقرب)

خَطَايَا اَلْحَطِيئَةِ کی جمع ہے اور اَلْحَطِيئَةُ کے معنی ہیں اَلذَّنْبُ۔ جُرْم۔ قصور۔ وَقِيلَ الْمَتَعَمِدُ مِنْهُ بعض کے نزدیک خَطِيئَةُ اس قصور کو کہیں گے جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ خَطِيئَةُ كَالْفِظِ اِثْمٌ سے عام ہے کیونکہ اِثْمٌ عَمْدٌ ابی ہوتا ہے اور خَطِيئَةُ عَمْدٌ اور غیر عمد اہر دو طرح ہو سکتی ہے۔ (اقرب)

نَزِيْدٌ زَادَ سے مضارع متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور زَادَ لَازِمٌ اور مَتَعَمِدٌ ہر دو طرح استعمال ہوتا ہے چنانچہ زَادَ الشَّيْءَ کے معنی ہیں نَمَّا كُوْنِيْ حِيْزٌ بَرْهَكِيْ اور زَادَ الشَّيْءَ کے معنی ہیں کسی چیز کو بڑھایا۔ نِيْزًا اَدْفَلَانٌ کے معنی ہیں اَعْطَى الزِّيَادَةَ اس نے کسی کو حق سے زیادہ دیا (اقرب) پس نَزِيْدٌ کے معنی ہوں گے (۱) ہم بڑھائیں گے (۲) ہم زیادہ دیں گے۔

اَلْمُحْسِنِيْنَ اَحْسَنَ سے اسم فاعل مُحْسِنٌ آتا ہے۔ مُحْسِنُوْنَ اور مُحْسِنِيْنَ اس کی جمع ہے۔ اَحْسَنَ اِلَيْهِ وَبِهِ کے معنی ہیں عَمِلَ حَسَنًا وَاَعْطَا اَلْحَسَنَةَ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا نیز اس کے معنی ہیں آتی بِالْحَسَنِ نیک کام کیا اور جب اَحْسَنَ الشَّيْءَ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے جَعَلَهُ حَسَنًا کسی چیز کو خوبصورت بنایا۔ اَحْسَنَ کے ایک معنی عَلِمَهُ کے ہیں یعنی کسی چیز کو عمدگی سے جانا۔ چنانچہ کہتے ہیں فُلَانٌ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ کہ فلاں شخص اچھی طرح قراءت جانتا ہے۔ (اقرب)

تَفْسِيْرٌ اَدْخُلُوا الْبَابَ سُدْجًا۔ یعنی فرمانبرداری کی حالت میں شہر میں داخل ہو۔ اور ایسے اخلاق دکھاؤ جو ایک نبی کی امت کے مناسب حال ہوں تا ان لوگوں پر بڑا اثر نہ پڑے۔

قَوْلُوا حِطَّةً سے مراد قَوْلُوا حِطَّةً سے یہ مراد ہے کہ اپنی کمزوریوں کی معافی کے لئے دعائیں کرتے جاؤ تاکہ تمدنی زندگی کے بُرے اثرات تمہارے دلوں پر نہ پڑیں۔ حِطَّةً اِسْتَحْتِظَّ كَالاسْمِ ہے اور اِسْتَحْتِظَّ کے معنی

بوجھ کے گرائے جانے کی درخواست کرنے کے ہیں اور حِطَّةً اس جگہ خبر ہے ایک مبتدا کی جو مخدوف ہے اور وہ مبتدا نحو یوں کے نزدیک مَسْتَكْتَنًا ہے یعنی ہماری درخواست حِطَّةً کی ہے یا ہمارا سوال حِطَّةً کا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ اے خدا ہماری تجھ سے درخواست ہے کہ ہمارے گناہوں کے بوجھوں کو ہم سے گرا دے اور ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ کر۔

بنی اسرائیل جس وقت دشتِ سینا میں سے گزر کر کنعان کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بعض جگہ وہ ایسے قبائل کے پاس سے گزرے تھے جنہوں نے جنگل میں بعض قصبات اور شہر بنائے ہوئے تھے۔ (دیکھو اِنَّا نَبْلُو بِئِيَّا بِلَيْكَا زَيْر لَفْظ (Rephidim) بنی اسرائیل کی افسردگی و دور کرنے کے لئے ان شہروں میں تھوڑا سا وقت گزارنے کی ان کو اجازت بھی مل جاتی تھی ایسے ہی شہروں میں سے کسی ایک قصبہ یا شہر کا یہاں ذکر ہے۔ قرآن کریم نے اس قصبہ یا شہر کا نام نہیں لیا اور نہ اس کی ضرورت تھی کیونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل کے خروج کی تاریخ بیان نہیں کرتا وہ تو حوالے کے طور پر صرف ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو اس کے بیان کردہ مضامین کی تکمیل کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ پس اُسے تو اُس عبرت سے غرض ہے جو اس واقعہ سے نکلتی ہے نہ کہ ناموں اور تاریخوں سے۔ غرض فرماتا ہے ایک گاؤں تھا یا قصبہ یا شہر تھا جس میں داخل ہونے کی ہم نے تمہیں اجازت دی اور یہ کہہ دیا کہ اس شہر میں داخل ہو کر بافراغت کھاؤ یعنی کچھ دن تمدنی زندگی کے بھی لطف اٹھا لو ہاں ایک خیال رکھنا کہ شہر میں مومنانہ طور پر داخل ہونا وَتَوَلَّوْا حِطَّةً اور دعا میں اور استغفار کرتے جانا تاکہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے شہر کے باشندوں کے بد اخلاق سے متاثر نہ ہو جاؤ اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو چھپا دیں گے یعنی تمہارے دل کا میلان جو گناہوں کی طرف ہے اسے دبا دیں گے اور نیکی کی قوت عطا کر دیں گے۔

وَ سَكَرَيْدُ الْمُحْسِنِينَ کہہ کر بتا دیا کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے یہ ادنیٰ انعام ہے ورنہ اگر تم ہمارے حکم پر پوری طرح عمل کرو گے تو ہم تمہیں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر انعام دیں گے یعنی صرف تمہارے دل میں گناہ کے مقابلہ کی ہی طاقت نہیں پیدا ہو جائے گی بلکہ اعلیٰ درجہ کی نیکیوں کی قدرت بھی تم کو حاصل ہو جائے گی۔

زَيْدُ الْمُحْسِنِينَ کے دو معنی زَادَ کے معنی جیسا کہ حَلِّ لُغَاتٍ میں بتائے گئے ہیں زیادہ ہونے کے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی نسلی ترقی کے بھی ہو سکتے ہیں اور انعامات کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پس اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے اچھی طرح ہمارے احکام پر عمل کیا تو ہم تمہاری نسل کو اتنی ترقی دیں گے کہ تم سے بھی بڑے بڑے ملک بس جائیں گے اور تم بھی شہروں کے بانی ہو جاؤ گے اور یہ معنی بھی

ہو سکتے ہیں کہ تم شہر کے لوگوں کے اموال اور ان کی اشیاء کو لالچ سے نہ دیکھنا اگر تم نے فرمانبرداری اور استغفار سے کام لیا تو ہم ان قوموں سے بھی زیادہ اموال اور اشیاء تم کو عطا کریں گے۔

ریورنڈ ویری کا یہ اعتراض کہ سفر بنی اسرائیل کے واقعات قرآن مجید نے حقیقی ترتیب سے بیان نہیں کئے اور اس کا جواب ریورنڈ ویری اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ واقعات کا اس طرح ملا دینا جن میں سے بعض تو دشت میں واقع ہوئے تھے اور بعض ارض مقدسہ میں واقع ہوئے اور بعض کہیں بھی واقع نہیں ہوئے اور پھر مزید برآں واقعات کو ایک ایسی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا جو حقیقی ترتیب سے بالکل مختلف ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب کا نبی (تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ) بائبل کے واقعات سے بالکل ناواقف تھا۔

مجھے ریورنڈ ویری پر ہمیشہ رحم آتا ہے۔ اس بندہ خدا نے اپنی زندگی بالکل ہی برباد کر دی۔ ایک پادری ہونے کی حیثیت سے ان کا فرض تھا کہ وہ بائبل کا مطالعہ سب سے زیادہ کرتے مگر اس کتاب کا مطالعہ انہوں نے بہت کم کیا ہے۔ اگر وہ بائبل کا مطالعہ غور سے کرتے تو ایک منٹ کے لئے بھی وہ یہ تصور نہ کر سکتے کہ بائبل کوئی مستند تاریخی کتاب ہے اور واقعات کو صحیح پیرایہ میں بیان کرتی ہے۔

خود بائبل کا موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعات کو متضاد بیان کرنا بائبل کے بیانات تو آپس میں اتنے مختلف ہیں کہ کوئی شخص ان بیانات کی موجودگی میں خروج کی کوئی تاریخ لکھ ہی نہیں سکتا اور خود عیسائی مصنفین خروج کی بیان کردہ تاریخ کو ناقابل اعتبار اور ترتیب کے لحاظ سے غلط قرار دیتے ہیں چنانچہ پروفیسر جے۔ ایف۔ سٹیننگ (Stanning) ایم اے آکسفورڈ یونیورسٹی لیکچرار انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں لکھتے ہیں کہ خروج میں بعض ایسے واقعات جو موسیٰ کے سفر کے آخری حصہ کے ہیں شروع میں لکھ دیئے گئے ہیں۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں مارہ کے پانیوں کو میٹھا کرنے کا واقعہ اور منّ اور سلوی کے آنے کا واقعہ بھی اپنی اصل جگہ پر بیان نہیں کیا گیا۔ منّ کا واقعہ سینا سے جانے کے بعد ہوا ہے اور بیرون کے واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح گنتی میں بیرون کے واقعہ کو سفر کے آخر میں بیان کیا گیا ہے لیکن خروج میں شروع میں بیان کر دیا گیا ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Exodus incident in the wilderness) جیسا کہ میں اوپر نوٹوں میں ایک مثال دے چکا ہوں خروج باب ۱۶ آیت ۱۱، ۱۲ میں تو یہ لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم شام سے پہلے پہلے بیرون کا گوشت کھاؤ گے اور اسے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام قرار دیا ہے لیکن گنتی باب ۱۱ آیت ۳۳ میں یہ لکھا ہے کہ بیرون کے آنے پر ان کا گوشت چبانے سے پہلے بنی اسرائیل مر گئے اور تباہ ہو گئے۔ گویا کتاب خروج تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی کرتی ہے کہ وہ لوگ

بیڑوں کا گوشت کھائیں گے اور بیڑوں کا گوشت ملنے کو ایک انعام قرار دیتی ہے لیکن گنتی کی کتاب کہ وہ بھی موسیٰ کی ہی وحی کہلاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے گوشت نہیں کھایا بلکہ گوشت کھانے کا ارادہ کرنے پر ہی اُن پر عذاب آ گیا۔

اب ان بیانات میں کون تطبیق دے سکتا ہے اگر قرآن کریم خروج کے بیان کی تصدیق کرے تو پادری صاحبان کہیں گے کہ قرآن کریم نے چونکہ گنتی کے خلاف کہا ہے اس لئے قرآن کو تاریخ کا پتہ نہیں اور اگر وہ گنتی کے بیان کی تصدیق کرے تو پادری صاحبان کہیں گے کہ چونکہ قرآن نے خروج کے خلاف لکھا ہے اس لئے قرآن کو بائبل کی تاریخ کا پتہ نہیں۔ اور اگر وہ دونوں کے ہی مطابق بات کہے تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جیسی غیر معقول تاریخ بائبل کی ہے ویسی ہی غیر معقول تاریخ (نعوذ باللہ) قرآن کریم کی ہو جائے گی۔ پس قرآن کریم نے گنتی اور خروج کے جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو واقعات تھے وہ اس نے قرآن کریم میں بیان کر دیئے۔ اگر بائبل کے بتائے ہوئے واقعات صحیح ہیں تو اس نے بائبل کی تصدیق کر دی۔ اگر بائبل کے بتائے ہوئے واقعات غلط ہیں تو اس نے ان کی تردید کر دی اور اگر کوئی واقعہ عبرت کے لئے بیان کرنا ضروری تھا اور بائبل میں بیان نہیں ہوا تو اس نے بیان کر دیا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کو بائبل کے مصتفین کے تتبع کی ضرورت نہیں۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ

پھر (ان کی شرارت کو دیکھو کہ) ان ظالموں نے اس بات کے خلاف جو انہیں کہی گئی تھی ایک اور بات بدل

فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا

(کہ کہنی شروع کر) دی جس پر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے نافرمان ہونے کے

۱۱۵

كَانُوا يَفْسُقُونَ ٤٠

سب سے آسمان سے ایک عذاب نازل کیا۔

حَلِّ لُغَاتٍ - ظَلَمُوا ظَلَمَ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور **ظَلَمَ** کے لئے دیکھو **حَلِّ لُغَاتٍ** سورۃ

ہذا آیت نمبر ۵۲۔

رِجْزًا الرَّجْزُ کے معنی ہیں **الْقَدْرُ** گند۔ **عِبَادَةُ الْأَوْثَانِ** بتوں کی عبادت۔ **الْعَذَابُ**۔ عذاب۔

الشِّرْكُ - شرک۔ (اقرب) رَجُزُّ کے اصل لغوی معنی اضطراب اور پے در پے حرکت کرنے کے ہیں چنانچہ اسی بناء پر رَجُزُّ کے معنی زلزلہ کی قسم کے عذاب کے بھی کئے جاتے ہیں اور شرک اور بتوں کی عبادت کے معنی رَجُزُّ کے اس اعتبار سے ہیں کہ جو ایسا فعل کرتا ہے اس کے اعتقاد میں ایک قسم کا اضطراب ہوتا ہے۔

السَّمَاءُ آسَمَانٌ۔ كُلُّ مَا عَلَاكَ فَأَطَّلَكَ۔ ہر اوپر سے سایہ ڈالنے والی چیز۔ سَقْفٌ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيْتٌ حِجَّتٌ۔ رَوَاقُ الْبَيْتِ گھر کے سامنے کا تہجہ۔ ظَهْرُ الْفَرَسِ گھوڑے کی پیٹھ۔ السَّحَابُ بادل۔ الْمَطَرُ بارش۔ الْمَطَرُ الْجَدِيدُ ایک دفعہ کی برسی ہوئی عمدہ بارش۔ الْعُشْبُ سبزہ و گیاہ۔ (اقرب)

يَفْسُقُونَ فَسَقٌ سے مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے۔ فَسَقٌ سے اسم فاعل فَاسِقٌ آتا ہے اور فَاسِقُونَ۔ فَاسِقِينَ۔ فَسَقَةٌ۔ فَسَاقٌ فَاسِقٌ کی جمع ہیں۔ فَسَقٌ کے معنی ہیں (۱) تَرَكَ أَمْرَ اللَّهِ اللہ کے حکم کو رد کر دیا۔ (۲) عَطَى وَجَارَ عَنْ قَضِي السَّيِّئِ نافرمانی کی اور سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ چنانچہ کہتے ہیں فَسَقَتِ الرَّكَابُ عَنْ قَضِي السَّيِّئِ کہ قافلہ چلتے چلتے ٹھیک راستے سے ادھر ادھر ہو گیا۔ (۳) خَرَجَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ حق کے راستے سے نکل گیا۔ وَقِيلَ فَجَرَ اور بَعْضُ لُغَتِ کے ائمہ نے اس کے معنی بدکار ہو گیا کے کئے ہیں۔ نیز کہتے ہیں۔ فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ عَنْ قَشْرِهَا أَيْ خَرَجَتْ۔ کہ کھجور اپنے جھلکے سے باہر نکل آئی۔ اور جب فَسَقَ فُلَانٌ مَالَهُ کہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ اَهْلَكَهُ وَأَنْفَقَهُ اس نے مال کو ضائع کر دیا اور خرچ کر دیا۔

(اقرب)

لسان میں ہے الْفُسُوقُ۔ الْخُرُوجُ عَنِ الدِّينِ۔ یعنی فسوق دین سے خروج کرنے کا نام ہے اور الْفُسُوقُ کے معنی ہیں۔ الْعَصِيَانُ وَالْتَرُّكُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالْخُرُوجُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ یعنی نافرمانی اور خدا تعالیٰ کے حکم کو ترک کرنے اور سچے راستے سے خروج کا نام فسق ہے۔ الْمَيْلُ إِلَى الْمَعْصِيَةِ گناہ کی طرف میلان کو بھی فسق کہتے ہیں۔ نیز لکھا ہے وَتُسَمَّى الْفَارَةُ فَوْسِقَةً لِحُرُوجِهَا عَلَى النَّاسِ وَافْسَادِهَا یعنی چوہے کو فَوْسِقَةً اس لئے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھ دیتا ہے اور کام خراب کرتا ہے۔ (لسان)

امام راغب فاسق کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ أَكْثَرُ مَا يُقَالُ الْفَاسِقُ لِمَنِ التَّوَمَّ حُكْمَ الشَّرْعِ وَأَقْرَبُهُ ثُمَّ أَحَلَّ بِجَبِيحِ أَحْكَامِهِ أَوْ بَعْضِهِ کہ فاسق کا لفظ اکثر اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو پہلے تو شریعت کے احکام کی پابندی کرے اور ان احکام کو درست سمجھے مگر اقرار کرے لیکن بعد ازاں تمام احکام شریعت کو یا بعض احکام کو ترک کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لِلْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ فَاسِقٌ فَلِأَنَّهُ أَحَلَّ لِحُكْمِ مَا لَزَمَهُ

الْعَقْلُ وَاقْتَصَصَتْهُ الْفِطْرَةُ اور جب شریعت کے احکام کے منکر کے لئے فاسق کا لفظ استعمال کریں تو یہ مفہوم مد نظر ہوگا کہ اس نے ان احکام کو چھوڑ دیا اور ان کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جن کو عقل لینے کا فتویٰ دیتی تھی اور جن کو تسلیم کرنے کا فطرت تقاضا کرتی تھی۔ (مفردات)

پس فَايِسُّقُ کے معنی ہوئے (۱) نافرمان (۲) خدا تعالیٰ کے حکم کو ترک اور رد کرنے والا (۳) حق کو قبول کر کے پھر اُسے ترک کر دینے والا۔

تفسیر۔ بنی اسرائیل کا خدا تعالیٰ کے حکم قَوْلُوا حِطَّةً کے ساتھ تمسخر کرنا اور اس کا نتیجہ

فرماتا ہے دیکھو تم نے ہمارے اس انعام کی بھی ناقدری کی۔ ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ تم کچھ دن اپنی تھکان دور کر لو اور تمدنی زندگی کا لطف اٹھا لو لیکن تم نے اس احسان کے ساتھ بھی تمسخر کرنا شروع کر دیا اور ایک ایسی بات کہنی شروع کر دی جو تمہیں نہیں کہی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حِطَّةً کہنے کی بجائے جس کے معنی تھے کہ ہمارے گناہ بخش دیئے جائیں حِطَّةً۔ حِطَّةً کہنا شروع کر دیا یعنی ہمیں گندم مل جائے۔ گندم مل جائے (یہ مراد نہیں کہ حِطَّةً کا لفظ استعمال کیا۔ بلکہ جو عبرانی لفظ بھی گندم کے لئے ہے خواہ حِطَّةً ہو یا کوئی اور ہو وہ استعمال کیا) شہر کے اندر داخل ہونے کے خیال نے ان کے اندر گندم کے گرم گرم نانوں کی حرص پیدا کر دی اور گناہوں کی معافی کا خیال جاتا رہا اور مذاقاً انہوں نے حِطَّةً حِطَّةً کہنا شروع کر دیا کہ خدایا ہمیں گندم دلادے۔ فرماتا ہے اس کی وجہ سے اُن پر عذاب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے تمسخر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے احکام کی نافرمانی کی۔

دیکھو کتنی چھوٹی سی بات ہے مگر خدا تعالیٰ کے غضب کا موجب ہوگئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی میں انسان صرف سنجیدگی کی وجہ سے ترقی کر سکتا ہے۔ انسان کتنی ہی عبادتیں کرے، کتنی ہی قومی خدمت بجالائے لیکن اس کے اندر سنجیدگی نہ ہو تو وہ کبھی بھی روحانی ترقی نہیں کر سکتا اور نہ قوم کے لئے صحیح طور پر مفید ہو سکتا ہے بلکہ ایسے غیر سنجیدہ لوگ بعض دفعہ قوم کو خطرناک بنا ہی کے کڑھے میں دھکیل دیتے ہیں۔ بظاہر حِطَّةً کو حِطَّةً کہہ دینا ایک چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اگر غور کرو تو نہایت اہم بات ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ تمسخر کیا گیا ہے۔ اس قسم کا تمسخر وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں سنجیدگی نہ ہو اور جس کے دل میں سنجیدگی نہیں نہ وہ دین کے لئے مفید ہو سکتا ہے اور نہ دنیا کے لئے مفید ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اشتعال کے مواقع، چھوٹی چھوٹی حرص کے مواقع ایسے آدمیوں کو ملت اور نلک سے غداری کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔

قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث کو ہنسی اور تمسخر کے موقع پر استعمال کرنے کے متعلق نصیحت

آج مسلمانوں کی بھی یہی کیفیت ہے جو بے دین ہیں وہ تو بے دین ہیں ہی مگر جو دیندار کہلاتے ہیں علماء ہیں یا صوفیاء ہیں وہ بھی دین کی باتوں سے تمسخر کر لیتے ہیں۔ کہیں بے موقع قرآن کی آیت پڑھ دیں گے، کہیں ہنسی کے مواقع پر حدیث نبوی پڑھ دیں گے حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا مقام بہت بالا ہے۔ اُن کی باتوں کو ہنسی اور تمسخر کے موقع پر بیان کرنا نہایت خطرناک بات ہے۔ یہ چیز دل کو سیاہ کر دیتی، روحانیت کو ماردیتی اور تقویٰ کو کچل دیتی ہے۔ اس گناہ پر غالب آنے کے لئے کسی بڑی محنت کی بھی ضرورت نہیں۔ کسی لالچ کو دبانے کا یہاں سوال نہیں۔ ایک معمولی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں میں یہ مرض پائی جاتی ہے وہ ایک ذرا سی توجہ سے اس نقص کو دور کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ دل کی ایک ایسی اصلاح کر سکتے ہیں جو ان کو بڑے بڑے کاموں کے لئے تیار کر دے۔

پس خدا کی باتوں اور اس کے رسول کی باتوں میں ہنسی اور مذاق کو بالکل چھوڑ دو۔ یہ گناہ بے لذت ہے اور انسانی دل کو بالکل مردہ کر دیتا ہے۔ خدا اور اس کے رسول کا ذکر جب بھی آئے اس کے ساتھ دل میں خشیت پیدا ہونی چاہیے جس سے محبت ہوتی ہے اُس کا ذکر کبھی بھی توجہ کھینچے بغیر نہیں رہتا۔ اپنے ماں باپ سے کوئی شخص تمسخر نہیں کرتا۔ اپنے ماں باپ کی باتوں سے کوئی شخص تمسخر نہیں کرتا پھر کیوں خدا اور رسول کی باتوں کو ہنسی کے مواقع پر استعمال کیا جائے کیوں خدا اور رسول کے نام کو تمسخر کے طور پر استعمال کیا جائے اور ایک سکینڈ کے مذاق کے لئے عمر بھر کی عبادت کو ضائع کر دیا جائے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ۔

رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ میں رَجْز سے مراد طاعون یا اولیٰ رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ عذاب تو جو پیدا ہوا زمین سے ہی پیدا ہوا مگر کہا یہ گیا ہے کہ آسمان سے نازل کیا۔ یہ الفاظ اُن الفاظ سے بہت زیادہ زبردست ہیں جو مسیح کے نزول کے متعلق احادیث میں آئے ہیں کیونکہ مسیح موعود کے متعلق کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا بلکہ صرف نازل ہونے کے الفاظ ہیں مگر یہاں تو اس عذاب کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوا اور رجز سے صحابہ اور دیگر ائمہ نے عام عذاب یا طاعون یا اولوں کا عذاب مراد لیا ہے چنانچہ شعبی کا قول ہے۔ اَلرَّجْزُ اِمَّا الطَّاعُونُ وَاِمَّا الْبَرْدُ۔ رَجْز یا طاعون کو کہتے ہیں یا اولوں کے عذاب کو کہتے ہیں۔ اور سعید بن جبیر جو مشہور مفسر قرآن ہیں کہتے ہیں هُوَ الطَّاعُونُ اس سے مراد طاعون ہے اور ابن ابی حاتم نے سعد بن مالک سے اسامہ بن زید اور خزیمہ بن ثابت سے تین صحابہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اَلطَّاعُونُ رَجْزٌ طاعون ہی رجز ہے اور ابن جریر نے بھی اسامہ بن زید سے روایت

کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ هَذَا الْوَجْعُ وَالسَّقْمُ رَجْزٌ عَذِّبَ بِهِ بَعْضَ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ (ابن کثیر زیر آیت ہذا) یعنی یہ درد اور بیماری (طاعون) رجز ہے جس کے ذریعہ سے تم سے بعض پہلی قوموں کو عذاب دیا گیا۔

عذاب کے ساتھ لفظ نزول لگانے کی وجہ حالانکہ عذاب تو مادی بیماری سے تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ طاعون تو ایک مادی بیماری ہے۔ کٹلی جسم میں نکلتی ہے بخارجسم کو چڑھتا ہے اور اسکے سامان اسی طرح اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جس طرح اور بیماریوں اور چیزوں کے اسباب اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے ان کے لئے رجز اتارا۔

اگر کہا جائے کہ چونکہ طاعون کا حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس لئے طاعون کی نسبت یہ کہا گیا کہ وہ آسمان سے اتاری گئی تو میں کہتا ہوں کہ یہی مسیح کا حال سمجھنا چاہیے۔ کیا طاعون کا حکم آسمان سے اترتا ہے لیکن جس شخص کو مامور کیا جاتا ہے اس کا حکم آسمان سے نہیں اترتا۔ پس اگر طاعون آسمان سے اتری ہوئی کہلا سکتی ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے مامور آسمان سے اترے ہوئے نہیں کہلا سکتے باوجود اس کے کہ وہ زمین پر پیدا ہوں۔

وَ اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو جب) موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے (اسے) کہا کہ اپنا سونٹا فلاں پتھر

الْحَجَرَ ط فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ

پر مار۔ اس پر اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے (اور) ہر ایک گروہ نے اپنی

اَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط كَلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَ لَا

گھاٹ کو پہچان لیا (تب انہیں کہا گیا کہ) اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پو اور

تَعْتَوْنَ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦١﴾

مفسد بن کر زمین میں خرابی نہ پیدا کرو۔

حَلَّ لُغَاتٍ - اسْتَسْقَى (يَسْقَى) سے باب استفعال کا ماضی کا صیغہ ہے اور اسْتَسْقَى

کو ظاہر کرنے پر بھی قول کا لفظ بولتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ فُلَانٌ يُقُولُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ کہ فلاں شخص امام ابوحنیفہؒ کا عقیدہ رکھتا ہے۔ الرَّابِعُ يُقَالُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الشَّيْءِ (۴) اگر کسی چیز کی حالت کسی بات پر دلالت کرے تو اس وقت بھی قَوْل کا لفظ استعمال کرتے ہیں چنانچہ اِمْتِلَاءً اَلْحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي فِي مِثْلِ قَوْلِ ابْنِ مَعْنُوں میں استعمال ہوا ہے یعنی جب حوض پانی سے بھر گیا تو اس نے کہا بس! بس! اب زیادہ پانی نہ ڈالو (اس کا مطلب یہ نہیں کہ حوض زبان سے بولا۔ بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حوض کی حالت بزبان حال یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بھر گیا ہے اور اس میں مزید پانی کی گنجائش نہیں چنانچہ اس قسم کی مثالیں لغت کی کتب میں بکثرت ملتی ہیں۔ کہ کسی واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے قَوْل کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے چنانچہ مندرجہ ذیل اشعار بھی اس امر کی مثالیں ہیں۔

قَالَتْ لَهُ الْعَيْنَانِ سَمْعًا وَطَاعَةً

وَ حَدَرَتَا كَالدُّرِّ لَمَّا يُعْقَبُ (لسان)

یعنی اسے دونوں آنکھوں نے کہا کہ تمہارا کہنا سر آنکھوں پر اور پھر وہ ایسے موتیوں کی طرح بہہ پڑیں جن میں

ابھی چھید نہ ڈالا گیا ہو۔

قَالَتْ لَهُ الظُّيُورُ تَقَدَّمُوا رَاشِدًا

إِنَّكَ لَا تَرْجِعُ إِلَّا حَامِدًا (لسان)

یعنی پرندے نے اسے کہا کہ سیدھا راستہ اختیار کر کے آگے بڑھ اور تو واپس نہیں لوٹے گا مگر تعریف کرتا ہوا۔

ان اشعار میں قَوْل کے لفظ کی اضافت ایسی اشیاء کی طرف کی گئی ہے جو غیر ناطق ہیں یعنی پہلے شعر میں قول کا لفظ

آنکھوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ آنکھوں نے بزبان حال کہا اور دوسرے میں پرندے کی

طرف۔ اور مطلب یہ ہے کہ پرندہ بزبان حال کہہ رہا تھا۔ تو گویا ان ہر دو اشعار میں قَوْل کے لفظ کو ایک واقعہ پر

دلالت کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اَلْحَامِسُ يُقَالُ لِلْعَيْنَايَةِ الصَّادِقَةِ بِالشَّيْءِ (۵) اگر کسی چیز کی

طرف خاص توجہ ہو تو اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے بھی قَوْل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اَلسَّادِسُ فِي اَلِهَامِ

(۶) قَوْلٌ كَالْفَهَامِ كَالْمَعْنُوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْنَا

يٰۤاَيُّهَا الْقُرْآنُ نَبِّئِہِمۡ ذَوَا الْقُرْنَيْنِ كَوَالِهَامِ کرتے ہوئے کہا کہ اے ذواقرنین! (مفردات) پس قَوْل کے معنی

صرف یہ نہیں کہ انسان کسی کو مخاطب کرتے ہوئے منہ سے کوئی بات کہے بلکہ لفظ قَوْل مختلف معنوں میں استعمال

ہوتا ہے اور ہر مقام پر اس کے مناسب حال معنی ہوں گے۔

فَانْفَجَرَتْ انْفَجَرَتْ انْفَجَرَ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور انْفَجَرَ فَجَرَ سے بابِ انفعال ہے۔ فَجَرَ الْمَاءَ (يَفْجُرُ) کے معنے ہیں بَجَسَهُ و فَتَحَ لَهُ طَرِيقًا فَجَرَى پانی کو جاری کیا۔ پانی کو بہایا۔ پانی کے لئے راستہ کھول دیا اور وہ بہہ پڑا۔ اور فَجَرَ الْقَنَاةَ کے معنے ہیں شَقَّهَا وَقَيْلَ شَقًّا و اِسْعَا پانی کی نالی کو وسیع طور پر پھاڑ کر بنایا۔ اور جب انْفَجَرَ الْمَاءَ کہیں تو معنے ہوں گے سَالَ و جَرَى۔ پانی بہہ پڑا (اقرب) پس الْاِنْفِجَارُ کے معنی ہوں گے الْاِنْشِقَاقُ۔ التَّفْتُّحُ۔ پھوٹ پڑنا۔ بہہ پڑنا۔ اور انْفَجَرَتْ کے معنے ہوں گے۔ پھوٹ پڑے۔ بہہ پڑے۔

اِنَّا نَسُ الْاِنْسِ۔ الْاِنْسِ کی جمع ہے۔ اور الْاِنْسِ کے معنے ہیں الْبَشَرِ آدَمِ اَوْ غَيْرِ الْاِنْسِ وَالْمَلَائِكِ۔ جنوں اور فرشتوں کے سوا آدم زاد (اقرب) اِنَّا نَسُ بعض وقت قبیلہ اور گروہ کے معنے میں بھی آجاتا ہے۔ (تاج)

مَشَرَبَهُمُ الْمَشْرَبِ کے معنے ہیں الْمَاءِ۔ پانی۔ الْوَجْهَ الَّذِي يُشْرَبُ مِنْهُ پانی پینے کی جگہ شَرِبَتْ الْعَيْرُ۔ دریا کا گھاٹ۔ مَشْرَبِ کی جمع مَشَارِبُ آتی ہے۔ (اقرب)

لَا تَعْتَوُوا عَيْبِي يَعْنِي سے نبی مخاطب کا صیغہ ہے اور عَيْبِي کے معنے ہیں اَفْسَدَ اس نے فساد کیا بَالِغِ فِي الْفُسَادِ اَوْ الْكِبْرِ اَوْ الْكُفْرِ یعنی اس نے حد سے بڑھ کر فساد یا تکبر یا کفر کیا (اقرب) لسان میں لکھا ہے کہ عَيْبِي کے معنے ہیں اَفْسَدَ اَشَدَّ الْفُسَادِ سخت ترین فساد کیا اور الْعَتُوُّ کے معنی ہیں اَشَدُّ الْفُسَادِ۔ سخت ترین فساد (لسان)

امام راغب کہتے الْعَيْبُ مَا يُقَالُ فِي الْفُسَادِ الَّذِي يُدْرِكُ حَسًّا وَالْعَيْبُ فِي مَا يُدْرِكُ حَكْمًا کہ عَيْبِي کا لفظ عموماً ایسے فساد کے لئے استعمال ہوتا ہے جو غیر محسوس ہو اور عَيْبٌ کا لفظ محسوس فساد کے لئے بولا جاتا ہے (مفردات) پس لَا تَعْتَوُوا کے معنے ہوں گے (۱) سخت ترین فساد نہ کرو (۲) تم انتہائی طور پر فساد تکبر اور کفر نہ کرو۔

مُفْسِدِينَ اَفْسَدَ سے اسم فاعل مُفْسِدٌ آتا ہے اور مُفْسِدُونَ اور مُفْسِدِينَ اس کی جمع ہیں اَفْسَدَ کے معنے ہیں ضَدًّا اَصْلَحَهُ کسی چیز میں خرابی ڈال دی۔ اس میں فساد پیدا کر دیا اور جب اَفْسَدَ بَيْنَ الْقَوْمِ کہیں تو معنے ہوں گے لوگوں میں پھوٹ ڈال دی اور اَفْسَادُ کے معنے ہیں۔ جھگڑا۔ نقصان۔ خرابی۔ اَحْذِ الْمَالِ ظُلْمًا ظَلَمَ سے کسی کا مال لینا نیز فساد کے ایک معنی قحط کے بھی کئے گئے ہیں۔ (اقرب)

تفسیر۔ وَ اِذِ اسْتَسْقَى الْح میں بنی اسرائیل کی ایک اور ناشکری کا ذکر یہاں ایک اور ناشکری بنی اسرائیل کی بیان کی گئی ہے۔ کہیں پانی کی دھت ہوئی (معلوم ہوتا ہے یہ ایسا علاقہ تھا جہاں خدا تعالیٰ کی

طرف سے بادل نازل نہیں کئے جاتے تھے۔ بادلوں کے علاقہ کو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے (موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لئے دعا کی اور انہیں حکم ہوا کہ فلاں پتھر کو اپنے سونٹے سے مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس پتھر میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے اور ہر ایک جماعت نے اپنے لئے ایک گھاٹ تجویز کر لی۔

پادری صاحبان کا آیت اِذِ اسْتَسْقٰی پر اعتراض کہ ایسا واقعہ بائبل میں مذکور نہیں پادری صاحبان اس آیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ بائبل میں مذکور نہیں مگر جیسا کہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں بائبل میں کسی واقعہ کا بیان ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی اہم بات نہیں۔ بیشک ایک مؤرخ مجبور ہے کہ وہ انہی واقعات کو بیان کرے جو بائبل میں یا دوسری تاریخوں میں بنی اسرائیل کے متعلق مذکور ہیں لیکن جو کلام اس بات کا مدعی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ اس بات پر مجبور نہیں ہے کہ وہ بائبل یا تاریخ کے حوالوں کو بیان کرے۔ جو باتیں بائبل اور تاریخ میں بیان ہوئی ہیں کیا ان کے سوا دنیا میں اور کوئی واقعہ نہیں ہوا اور کیا پھر ایسے واقعات کو بیان کرنا خدا تعالیٰ کے لئے ممنوع ہے۔ قرآن خدا کی کتاب ہے اور خدا تعالیٰ کے علم کو تاریخ دانوں کا علم نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کا منکر ہم سے اس بات کا مطالبہ تو کر سکتا ہے کہ ثابت کرو قرآن خدا کی کتاب ہے لیکن جب ہم ثابت کر دیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے تو اس کے بعد قرآن کی گواہی ہر مؤرخ کی گواہی سے اور ہر منسوخ یا منسوخ کتاب کی گواہی سے یقیناً زیادہ معتبر سمجھی جائے گی مگر اس کے یہ بھی معنی نہیں کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ کے وہ معنی کریں جو قرآن کریم کے رو سے ناجائز ہوں یا خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ عقل کے خلاف ہوں یا لغت کے خلاف ہوں۔

بعض مفسرین کا اِذِ اسْتَسْقٰی کی تفسیر میں غلطی کرنا اس آیت پر جہاں پادریوں نے یہ غلط اعتراض کیا ہے کہ چونکہ یہ واقعہ بائبل میں بیان نہیں اس لئے اسے درست تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ وہاں ہمارے بعض مفسروں نے بھی اس میں غلطی کی ہے چنانچہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھائے پھرتے تھے اور جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ اس پتھر کو مار کر اس میں سے بارہ چشمے پھوڑ لیا کرتے تھے یہ معجزہ نہیں یہ تو ایک تمسخر ہے۔ جب خدا تعالیٰ ایک علاقہ میں بادل لایا تھا اور دوسرے علاقہ میں اُس نے ایک پتھر پر سونٹا مارنے کا حکم دیا تو یہ معجزہ بھی خدا تعالیٰ کے طبعی قانون کے مطابق ہی ہونا چاہیے اس آیت کے صرف اتنے معنی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر سونٹا مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس سونٹے کے مارنے سے وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے جن لوگوں کو پہاڑوں پر جانے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض جگہ پر پہاڑوں کی چوٹیوں کا ہر فون کا پانی جو کہ زمین کی سطح کے نیچے بہ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ سطح زمین کے اتنے قریب آجاتا

ہے کہ معمولی سوٹی مارنے سے ہی وہاں سے پانی نکل آتا ہے اور ایسے چشمے صرف پہاڑوں پر ہی نہیں پائے جاتے، بعض دفعہ بیابانوں میں بھی خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ بعض طبعی قانونوں کے ماتحت سطح زمین کے قریب پانی آئے ہوئے ہوتے ہیں چنانچہ عرب کے ریگستانوں میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے نخلستان اور چشمے پائے جاتے ہیں۔ اُن پانی کی جگہوں کو جغرافیہ والوں کی اصطلاح میں اوسس (Oasis) کہتے ہیں۔ اسی طرح کے کسی مقام کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام سے خبر دے دی۔ جہاں پانی سب سے زیادہ سطح زمین کے قریب تھا اس کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر کو توڑ دو۔ اس کے نیچے سے پانی نکل آئے گا چنانچہ انہوں نے پتھر توڑ دیا اور پانی نکل آیا۔ معجزہ نہ اس میں ہے کہ پتھر میں سے پانی نکلا۔ نہ اس میں ہے کہ نئے سرے سے پانی پیدا کیا گیا۔ معجزہ اس امر میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام کے ساتھ خبر دی کہ فلاں پتھر کے نیچے پانی موجود ہے پس نہ تو اس واقعہ کے انکار کرنے کی کوئی وجہ ہے اور نہ قانون قدرت کے خلاف شکل دینے کی کوئی وجہ ہے۔ پانی اُس جگہ پر قانون قدرت کے مطابق موجود تھا مگر انسان نہیں جانتے تھے کہ اس جگہ پر پانی موجود ہے صرف خدا کو معلوم تھا کہ یہاں پانی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰؑ کو اس بات کا علم دیا اور موسیٰؑ کے پتھر توڑ دینے سے چشمے کا پانی جو پتھر کی وجہ سے بند تھا باہر کی طرف بہہ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کئے کہ وہ پتھر جو معلوم ہوتا ہے بہت ہی چھوٹی گہرائی کا تھا سونے کی ضرب سے بارہ جگہ سے ٹوٹا اور بارہ ہی اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے۔

پہاڑوں پر جانے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ایک جگہ سے بعض دفعہ متعدد چشمے پھوٹتے ہیں۔ کشمیر میں ایک جگہ گکڑ ناگ ہے جو جہلم کے منبع سے کوئی پندرہ سولہ میل کے فاصلہ پر ہے اور اسلام آباد کے شہر کے اوپر آٹھ دس میل پر ہے اس جگہ پر میں نے خود ایک چند گز کی جگہ کے اندر سے بہت سے چشمے پھوٹے ہوئے دیکھے جن کی تعداد غالباً درجن سے زیادہ تھی۔

موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے بارہ چشموں کے پھوٹنے کی وجہ بارہ چشمے پھوٹنے کی غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے کئی قبائل تھے اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ہر ایک کے لئے الگ الگ پانی میسر آ گیا یا ہو سکتا ہے کہ بارہ چشموں کا پھوٹنا ایک اتفاقی امر ہو اور بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کو مد نظر رکھ کر ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر محض اس لئے کر دیا کہ وافر پانی مل گیا اور بنی اسرائیل نے بغیر تکلیف کے پی لیا۔ ایک سیاح کی شہادت کہ حورب کی چٹان پر بارہ چشموں کا نشان ملتا تھا اس جگہ اس امر کا ذکر کر دینا

بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سیل اپنے ترجمہ قرآن کے نوٹوں میں لکھتا ہے کہ پندرہویں صدی کے ایک سیاح نے شہادت دی ہے کہ حُورب کی ایک چٹان میں سے اُس وقت بارہ چشموں کا نشان ملتا تھا گو وہ سارے چلتے نہ تھے۔

(القرآن مصنفہ سیل صفحہ ۸ - Al-Quran by Sale Page 8)

اس شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقہ میں بعض چٹانوں پر سے بارہ چشمے کسی زمانہ میں پھوٹا کرتے تھے۔ خروج باب ۱۷ میں حورب کی چٹان پر پانی کے لئے سونٹا مارنے کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن بارہ چشموں کا ذکر نہیں ملتا (آیت ۶) ہاں ایلیم ایک جگہ ہے جہاں بارہ چشموں کا ذکر ہے مگر وہاں سونٹا مارنے کا ذکر نہیں (خروج باب ۱۵ آیت ۲۷) لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس بارہ میں بائبل کی شہادت کو زیادہ وقعت نہیں دی جاسکتی۔ بہر حال پندرہویں صدی کے ایک عیسائی سیاح کی شہادت کہ حُورب کی چٹان پر بھی بارہ چشمے پائے جاتے تھے کم سے کم عیسائی معترضین کا مونہہ بند کر دینے کے لئے کافی ہے۔

قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ سے مراد قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ سے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ پانی الگ الگ قوم کے لئے مقرر کیا گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر قوم نے اپنے لئے الگ جگہ مقرر کر لی یعنی پانی اتنی کثرت سے تھا اور اتنی متفرق جگہوں سے پھوٹا تھا کہ بنی اسرائیل کو پانی ملنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی اور آپس میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہوا بلکہ ہر قوم آسانی سے اپنے لئے الگ گھاٹ تجویز کر کے اس سے پانی پینے لگ گئی۔

كُلُّ اُنَاسٍ کے معنی ہر ایک قوم یا ہر ایک گروہ کے ہیں۔ ہر انسان اس کے معنی نہیں۔

كُلُّوا وَاَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ سے یہ بتایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ہر جگہ کھانے اور پینے کی چیزیں مہیا کر رہا ہے۔ تم اس کے احسان کی قدر کرو، اس پر تو کھل کرو اور اپنی نظر اسباب پر نہ رکھو۔ جتنے فساد دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی زمین یا کسی مکان یا کسی جانور یا کسی دھات کے متعلق انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے نہ ملی تو میرا نقصان ہوگا اور وہ اپنے بھائی سے لڑ پڑتا ہے اور فساد کا ایک لانتا ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے اس وقت کے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں ان سب جھگڑوں سے آزاد کر دیا۔ نہ تمہیں کھانے کے لئے تلاش اور محنت کرنی پڑتی ہے، نہ تمہیں پانی کے لئے تلاش اور محنت کی ضرورت پیش آتی ہے پس جب ہم تمہاری سب ضروریات خود پورا کر رہے ہیں تو فساد کی کوئی وجہ نہیں۔ اب بھائی کو بھائی سے کیوں بغض ہو اور ہمسایہ ہمسایہ سے کیوں لڑے پس کم سے کم ان ایام میں تو تمہیں کوئی فساد نہیں کرنا چاہیے اور پھر ان ایام کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے تمہیں آئندہ بھی فساد نہیں کرنا چاہیے۔

عَلْفَى کے معنی عَلْفَى کے معنے جیسا کہ لغت میں بتائے جا چکے ہیں شدید فساد کے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کے معنے ہوئے زمین میں فساد کرتے ہوئے سخت فساد مت کرو۔ یہ عربی کا محاورہ ہے اور اس محاورہ کے رُو سے اس کے معنی یہ ہیں کہ جاننے بوجھتے ہوئے فساد مت کرو۔ بعض دفعہ انسان سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جو موجب فساد ہوتی ہے مگر اس کے پیچھے فساد کی نیت نہیں ہوتی۔ مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے مواقع سے بھی بچے لیکن کم سے کم اُسے ایسے کاموں سے تو ضرور بچنا چاہیے جن کے متعلق اسے معلوم ہو کہ اس کا نتیجہ فساد ہوگا اور یہی مفہوم اس آیت کا ہے۔

چونکہ اردو زبان میں اس کا لفظی ترجمہ یوں بنتا ہے ”فساد کرتے ہوئے زمین میں سخت فساد نہ کرو“ اور یہ اردو ترجمہ بے معنی سا ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے عربی محاورہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے ”اور مفسد بن کر زمین میں خرابی نہ پیدا کرو۔“

وَإِذْ قُلْتُمْ يُوسَىٰ كُنْ نَصِيرًا عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے اس لئے تو

لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَ

ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لئے بعض ایسی چیزیں جنہیں زمین اگاتی ہے پیدا کرے یعنی اس کی

قَتَائِبَهَا وَفُومَهَا وَعَدْسَهَا وَبَصِلَهَا ط قَالَ اسْتَبْدُونَ

سبزیاں، گلڑیاں، گیہوں، مسور اور پیاز۔ (اس پر اللہ نے) کہا کہ کیا تم اس چیز کی بجائے

الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالذِّئْبِ هُوَ خَيْرٌ ط اِهْبُطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ

جو اعلیٰ ہے اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو ادنیٰ ہے۔ کسی شہر میں چلے جاؤ (وہاں) جو کچھ تم نے

مَا سَأَلْتُمْ ط وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَ

مانگا ہے تمہیں ضرور مل جائے گا (تب) انہیں ہمیشہ کے لئے ذلیل اور بے بس کر دیا (گیا) اور وہ اللہ کے

بَاءٌ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ط ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ

غضب کا مورد بن گئے۔ یہ اس وجہ سے (ہوا) کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے

بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذَلِكِ بِمَا

اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا چاہتے تھے (اور) یہ (گناہ) ان کی نافرمانی کرنے اور حد سے بڑھے ہوئے ہونے

عَصَاوًا كَانُوا يَعْتَدُونَ ع

کے سب سے (ان میں پیدا ہو گیا) تھا۔

حَلَّ لُغَاتٍ - لَنْ نَصْبِرَ صَبْرًا (يَصْبِرُ) سے مضارع منفی متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے اور صَبْرًا تَفْسِيحًا عَلَى كَذَا کے معنی ہیں حَبَسَتْهَا کہ میں نے فلاں بات پر ثابت قدمی دکھائی (اقرّب) تاج العروس میں ہے کہ "بَصَائِر" کے مصنف کہتے ہیں - صَبْرًا کے لغوی معنی روکنے اور رکنے کے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے صبر کیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں حَبَسُ النَّفْسِ عَنِ الْجُرْعِ وَ حَبَسُ اللِّسَانِ عَنِ الشُّكْوَى وَ حَبَسُ الْجَوَارِحِ عَنِ التَّشْوِيْشِ نفس پر گھبراہٹ پیدا ہونے کے وقت قابو پائے رکھنا۔ زبان کو شکویٰ کرنے سے روکے رکھنا اور دیگر اعضاء سے تشویش کا اظہار نہ ہونے دینا (تاج) صَبْرًا کے معنی ہیں تَرَكْتُ الشُّكْوَى مِنْ أَلْمِ الْبَلْوَى لِغَيْرِ اللَّهِ لَا إِلَى اللَّهِ کہ مصیبت کے دکھ کا شکوہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہ کرنا فَإِذَا دَعَا اللَّهُ الْعَبْدَ فِي كَشْفِ الضَّرِّ لَا يَقْدَحُ فِي صَبْرِهِ اگر بندہ اپنی رفع مصیبت خدا تعالیٰ کے پاس فریاد کرے تو اس کے صبر پر اعتراض نہ کیا جائے۔ کلیات ابی البقاء میں لکھا ہے کہ الصَّبْرُ فِي الْمَصِيبَةِ کہ صبر مصیبت کے وقت ہوتا ہے وَ صَبْرَ الرَّجُلِ عَلَى الْأَمْرِ نَقِيضُ جَزَعِ أَمِي جَرَوْ وَ شَجَعٌ وَ تَجَلَّدٌ اور صبر جزع یعنی شکوہ کرنے اور گھبرانے کے مقابل کا لفظ ہے اور صبر کے معنی ہوتے ہیں دلیری دکھائی جرأت دکھائی ہمت دکھائی اور صَبْرًا عَنِ الشُّجِيِّ کے معنی ہیں اَمْسَكَ عَنْهُ کسی چیز سے رُکا رہا۔ صَبْرًا الدَّائِبَةُ حَبَسَهَا بِلا عَلفٍ اور جب صَبْرًا کا مفعول ذَابَةٌ کا لفظ ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جانور کو چارہ نہ دیا نیز کہتے ہیں صَبْرًا تَفْسِيحًا عَلَى كَذَا - حَبَسَتْهَا کہ میں نے فلاں بات پر ثابت قدمی دکھائی چنانچہ محاورہ ہے صَبْرًا عَلَى مَا أَكْرَهُ وَ صَبْرًا عَمَّا أُحِبُّ یعنی جب صَبْرًا کا صلہ

علیٰ ہو تو اس کے معنی کسی امر پر ثابت قدم رہنے کے ہوتے ہیں اور جب اس کا صلہ عنہ ہو تو اس کے معنی کسی چیز سے رُکنے یا کسی کو اس سے روک دینے کے ہوتے ہیں۔ (اقرب) پس صَبْرٌ کے معنی (۱) بدیوں سے رُکتے رہنا اور نیکیوں پر ثابت قدم رہنا۔ (۲) خدا تعالیٰ کے راستہ میں تکلیف پر جزع فزع نہ کرنا۔ پس لَنْ نَصْبِرَ کے معنی ہوں گے ہم ثابت قدمی نہیں دکھاسکیں گے۔

طَعَامٌ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ كَالشَّرَابِ لِمَا يُشْرَبُ عربی زبان میں ہر اس چیز کو جو خوراک کا کام دے، طعام کہتے ہیں جیسے ہر پینے کی چیز کو شَرَاب کہتے ہیں وَقَدْ غَلَبَ الطَّعَامُ عَلَى الدُّبِّ اور زیادہ تر طعام کا لفظ گندم پر بولا جاتا ہے۔ وَرَبَّمَا أُطْلِقَ عَلَى الْحُبُوبِ كُلِّهَا اور کئی دفعہ جملہ اقسام کے غلّوں پر طعام کا لفظ بول دیتے ہیں۔ طَعَامٌ کی جمع أَطْعِمَةٌ آتی ہے اور جمع الجمع أَطْعِمَاتٌ آتی ہے۔ (اقرب)

بَقْلٌ الْبَقْلُ: مَا يَنْبُتُ فِي بَرٍّ أَوْ فِي أَرْضٍ تَابِتَةٍ۔ بقل ان سبزیوں کو کہتے ہیں جو اپنے بیجوں میں نشوونما پاتی ہیں اور خوراک حاصل کرنے کے لئے ان کی لمبی چوڑی جڑھیں نہیں ہوتیں۔ وَقَالَ ابْنُ قَارِسٍ كُلُّ مَا اخْضَرَّتْ بِهِ الْأَرْضُ ابْنُ فَارِسٍ کہتے ہیں کہ ایسا سبزہ جس سے زمین ہری بھری نظر آتی ہے، بقل کہلاتا ہے۔ وَالْفَرْقُ مَا بَيْنَ الْبَقْلِ وَدِقِّ الشَّجَرِ أَنَّ الْبَقْلَ إِذَا رَعِيَ لَمْ يَبْقَ لَهُ سَائِقٌ وَالشَّجَرُ تَبْقَى لَهُ سُوقٌ وَإِنْ دَقَّتْ۔ اور بقل اور چھوٹے چھوٹے پودوں میں یہ فرق ہے کہ بقل کو جب جانور چر جائیں تو اس کی ٹہنی باقی نہیں رہتی لیکن پودوں کی ٹہنیاں کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتی ہیں (تاج) لسان میں ہے الْبَقْلُ مِنَ النَّبَاتِ مَا لَيْسَ بِشَجَرٍ دِقٌّ وَلَا جِلٌّ کہ چھوٹے یا بڑے درختوں کے علاوہ جو نباتات اور سبزی ہوتی ہے اس کو بقل کہتے ہیں۔ (لسان العرب)

قِثَاءٌ قِثَاءٌ نَوْعٌ مِنَ الْفَاكِهَةِ يُشْبِهُ الْحَيَارَ نَسَبِيَّهِ عَوَامًا بِالْمَقْبَعِيِّ لِعِنِّ قِثَاءٌ ایک پھل کا نام ہے جو کھیرے کی طرح ہوتا ہے عوام الناس اسے ککڑی کہتے ہیں۔ (اقرب)

فُومَهَا الْفُومُ لُغَةٌ فِي الثُّومِ۔ ثُومٌ جَسْمٌ أَرْدُوٌّ لِهَسَنِ كَقِتِّهِ هُنَّ اس کے مترادف لفظ عربی میں فُومُوم ہے اس کا مفرد فُومَةٌ آتا ہے۔ نِزَا الْفُومُوم کے معنی ہیں الْحِنْطَةُ گندم۔ الْحَمْصُوم چنے الْحَبُّوم رولنی وَسَائِرُ الْحَبُوبِ الَّتِي تُحْبَبُوم تمام غلّے جن سے رولنی بناتے ہیں۔ السُّبُلَةُ غلّہ کی بالی۔ (اقرب)

أَنْتَبِدُونَ أَنْتَبَدُوا لَوْنٌ اسْتَبَدَّال سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور اسْتَبَدَّالَهُوَ اسْتَبَدَّالَهُ یہ کے معنی ہیں ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لے لی لیکن جس لفظ پر ب آئے وہ دی جاتی ہے اور جس پر ب نہ آئے وہ لی جاتی ہے (اقرب) پس أَنْتَبَدُوا لَوْنٌ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ کے معنی ہوں گے کیا تم اچھی چیز

دے کر ادنیٰ چیز لیتے ہو۔

اَدْنٰی اَدْنٰی اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ بعض اسے دُنُو سے بناتے ہیں اور بعض دَنَاة سے۔ جو دَنَاة سے بناتے ہیں وہ اس کے معنی اَحْس کے کرتے ہیں یعنی رذیل چیز اور جو اَدْنٰی کو دُنُو سے بناتے ہیں وہ اس کے معنی اَقْرَب کے کرتے ہیں یعنی زیادہ قریب۔ لیکن پھر اس کے معنی یہ کرتے ہیں اَقْل قِيَمَةً کم قیمت (لسان)۔

مفردات راغب میں ہے۔ يُعَبَّرُ بِالْاَدْنٰی تَارَةً عَنِ الْاَصْغَرِ فَيَقَابِلُ بِالْاَكْبَرِ کہ کبھی اَدْنٰی سے مراد سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے اس وقت اس کے مقابل پر ”اَكْبَرُ“ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وَ تَارَةً عَنِ الْاَزْكَلِ فَيَقَابِلُ بِالْاَحْمَرِ اور کبھی اَدْنٰی سے مراد کسی ارذل (رذی) چیز کے ہوتے ہیں۔ اس وقت اس کے مقابل خَيْرٍ (یعنی بہتر چیز) کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وَ تَارَةً عَنِ الْاَوَّلِ فَيَقَابِلُ بِالْاٰخِرِ اور کبھی ادنیٰ سے مراد ابتدائی ہوتا ہے اور اس وقت اس کے مقابل آخر (بعد کی) کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وَ تَارَةً عَنِ الْاَقْرَبِ فَيَقَابِلُ بِالْاَقْصٰی اور کبھی اَدْنٰی (اقرب) یعنی قریب ترین کے معنوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت ادنیٰ کے مقابل اقصى یعنی دور کی چیز کا لفظ بولا جاتا ہے۔ (مفردات)

اِهْبِطُوْا اِهْبَطَ يَهْبِطُ يَهْبِطُ (سے) امر جمع کا صیغہ ہے۔ اِهْبِطُوْا امر مخاطب جمع کا صیغہ ہے اور هَبَطَهُ يَهْبِطُ هَبَطًا) مِنَ الْجَبَلِ کے معنی ہیں اَنْزَلَهُ اس کو پہاڑ سے اُتارا۔ هَبَطَ بَلَدًا كَذَا: دَخَلَهُ كَيْسِي شَهْرٍ مِيں داخل ہوا (یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ هَبَطَهُ بَلَدًا كَذَا کے معنی ہوں گے اَدْخَلَهُ اس کو فلاں شہر میں داخل کیا) هَبَطَ السُّوقَ: اَتَاهَا بَا زَارٍ مِيں آیا۔ هَبَطَ فُلَانٌ مِنَ الْجَبَلِ (يَهْبِطُ وَيَهْبِطُ هَبُوطًا) نَزَلَ پِهَاطٍ سے اُتْرَا۔ هَبَطَ الْوَادِي: نَزَلَهُ وَا دِي مِيں اُتْرَا۔ هَبَطَ مِنْ مَوْضِعٍ اِلَى مَوْضِعٍ اٰخَرَ: اِنْتَقَلَ اِيك جَلْه سے دوسری جگہ چلا گیا (اقرب) پس اِهْبِطُوْا کے معنی ہوں گے (۱) اپنی جائے قیام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ قیام پذیر ہو جاؤ (۲) نکل جاؤ۔

مِصْرًا الْمِصْرُ: الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ دو چیزوں کے درمیان کی روک۔ اَلْحُدُودُ بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ خَاصَّةً وَ قَبِيْلَ الْحُدُودِ كُلِّ شَيْءٍ دَوْلَتوں کے درمیان کی حد اور بعض ہر ایک چیز کی حد کو مصر کہہ دیتے ہیں۔ اَلْكُوْرَةُ اَي الْمَدِيْنَةُ وَ الصُّفْعُ اَوْ كُلُّ كُوْرَةٍ يُقْسَمُ فِيْهَا الْفَيْءُ وَ الصَّدَقَاتُ وہ جگہ جہاں کثرت سے مکانات اور محل ہوں یا وہ آبادی جہاں صدقات تقسیم کئے جائیں یعنی بڑا شہر۔ مصر۔ شہر مصر کو بھی کہا جاتا ہے۔ جسے آجکل قاہرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نیز کبھی مصر کے معنوں میں وسعت دے لی جاتی ہے اور ہر شہر پر یہ لفظ اطلاق پاتا ہے۔

(اقرب)

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ضَرْبَهُ بِيَدِهِ وَبِالْعَصَا كَعَصَا مُوسَى وَمَعَهُ يَدَا اس کو سونٹے کے ذریعہ سے یا ہاتھ سے مارا (اقرب) اور جب ضَرْبٌ عَلَى يَدَيْهِ کہیں تو معنی ہوں گے۔ اَمْسَكَ اس کو خرچ کرنے سے روک دیا اور ضَرْبُ الْقَاضِي عَلَى يَدِ فُلَانٍ کے معنی ہیں۔ حَجَرَ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ کہ قاضی نے کسی کو معاملات اور مال میں تصرف کرنے سے روک دیا۔ ضَرْبٌ عَلَيْهِمُ الْحِزْبَةَ کے معنی ہیں وَضَعَهَا وَأَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ وَأَلْزَمَهُمْ بِهَا۔ ان پر ٹیکس لگا دیا۔ جزیہ کا ادا کرنا لازم اور واجب کر دیا (اقرب) ذَلَّ کے معنی ہیں هَانَ ذَلِيلٌ وَحَقِيرٌ ہو گیا (اقرب) اور ذِلَّةٌ کے معنی حقارت والی حالت اور جب ضَرْبٌ عَلَيْهِ الذِّلَّةُ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اَذَلَّهُ اس کو ذلیل کر دیا (اقرب) امام راغب لکھتے ہیں کہ ضَرْبٌ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ کے معنی ہیں اَلتَّحَقُّفَةُمُ الذِّلَّةُ یعنی ذلت نے انہیں چاروں طرف سے لپیٹ لیا۔ (مفردات)

اَلْمَسْكَنَةُ اَلْفَقْرُ مَفْسَى اَلذُّلِّ ذَلَّتْ وَخَوَارَى۔ اَلضُّعْفُ كَزَوْرَى۔ (اقرب)

بَاءٌ وَبِغَضَبٍ بَاءٌ وَ: بَاءٌ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور بَاءٌ کے معنی ہیں رَجَعَ۔ لوٹا (اقرب) اور بَاءٌ یہ کے معنی ہیں اَرَجَعَهُ یعنی اس کو لوٹا لیا۔ (اقرب)

اَلْعَصَبُ کے اصلی معنی تَوْرَانٌ ذَمُّ الْقَلْبِ اِرَادَةُ اَلْاِنْتِقَامِ کے ہیں یعنی غضب جرم کی سزا دینے کے ارادہ پر دل میں خون کے جوش مارنے کو کہتے ہیں لیکن جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو اس کے معنی صرف جرم کی سزا دینے کے ہوتے ہیں۔ دوسری باتیں اس وقت مد نظر نہیں ہوتیں۔ (مفردات)

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِتَّقُوا الْعَصَبَ فَاِنَّهُ بَحْرَةٌ تُوَقَّدُ فِي قَلْبِ ابْنِ اَدَمَ اَلْمُ تَرَوَا اِلَى اِنْتِفَاحِ اَوْ دَاجِهٍ وَ حُمْرَةَ عَيْنَيْهِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غضب سے بچو کیونکہ وہ ایک چنگاری ہے جو ابن آدم کے دل میں سلگائی جاتی ہے پھر فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب کسی کو غضب آتا ہے تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ وَ اِذَا وُصِفَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ فَالْمُرَادُ اَلْاِنْتِقَامُ دُونَ غَيْرِهٖ اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو اس کے معنی صرف جرم کی سزا دینے کے ہوتے ہیں دوسری باتیں اس وقت مد نظر نہیں ہوتیں۔ (مفردات)

لسان میں ہے بَاءٌ بِذَنْبِهِ کے معنی ہیں اِحْتِمَالُهُ وَصَارَ الْمُنْدِيبُ مَا وى الذَّنْبِ اس نے گناہ کا بوجھ اٹھالیا اور گناہ کا مقام بن گیا یعنی گناہ اس سے چمٹ گیا۔ پھر لکھا ہے کہ نيز بَاءٌ بِذَنْبِهِ کے معنی ہیں۔ كَانِ

عَلَيْهِ عَقُوبَةُ ذُنُوبِهِ كَمَا اسْأَلُكَ اللَّهُ بِمَا كَفَرْتَ مِنْ أَنْ تَقُولَ مَا لَا تَعْلَمُ (لسان)

امام راغب بَاءٌ وَبِعَضَبٍ مِنَ اللَّهِ کے معنے کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اَمَى حَلَّ مَبِيَّوًّا وَمَعَهُ غَضَبُ اللَّهِ اَمَى عَقُوبَتُهُ کہ بَاءٌ بِعَضَبٍ مِنَ اللَّهِ کے معنے ہیں وہ اپنی جائے رہائش پر اس طرح ٹھہرا کہ اس کے ساتھ اللہ کا غضب تھا۔ وَبِعَضَبٍ فِي مَوْضِعِ حَالٍ اَمَى رَجَعَ وَجَاءَ وَحَالُهُ اَنَّهُ مَغْضُوبٌ۔ یعنی بِعَضَبٍ پر باجوائی ہے وہ حالت کے اظہار کے لئے آئی ہے یعنی بَاءٌ بِعَضَبٍ کہیں گے تو اس کے معنے ہوں گے وہ لوٹا در آنحالیکہ وہ غضب کا مورد ہو رہا تھا۔ پھر لکھا ہے وَاسْتَعْمَالَ بَاتِنَبِيَّهَا عَلَى اَنَّ مَكَانَهُ الْمُوَافِقَ يَلْزُمُهُ فِيهِ غَضَبُ اللَّهِ۔ فَكَيْفَ عَزَبُوا مِنَ الْاَمْكِنَةِ اور بَاءٌ فَعَلٌ کے بعد لفظ بَا کا صلہ لانا ان معنوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے گھر میں ان پر غضب نازل ہو رہا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ ہوں تو نہ معلوم ان کا کیا حال ہو۔ (مفردات) پس بَاءٌ وَبِعَضَبٍ کے ایک معنے ہوں گے۔ وہ غضب کا مورد بن گئے۔ ان کے گھروں میں غضب نے اپنا گھر بنا لیا۔

يَكْفُرُونَ كَفَرَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ کے معنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ كَفَرَ الرَّجُلُ (يَكْفُرُ كُفْرًا) کے معنے ہیں ضِدًّا اَمِنَ کسی چیز کا انکار کیا۔ كَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ وَبِنِعْمَتِهِ بِحَدِّهَا وَسَتَرَهَا۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور ناشکری کی (اقرب) اَلْكَفْرُ فِي اللُّغَةِ سَتَرُ الشَّيْءِ ء۔ کفر کے لغوی معنے کسی چیز کو ڈھانپنے کے ہیں۔ وَ كُفْرًا بِنِعْمَةٍ وَ كُفْرًا بِهَا سَتَرُهَا بِتَرْكِ اَدَاءِ الشُّكْرِ اور کفرانِ نعمت کے معنے ہیں نعمت کا شکر ادا نہ کیا۔ وَلَمَّا كَانَ الْكُفْرَانُ يَفْتَتِحُ مَجُودَ النِّعْمَةِ صَارَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْجُحُودِ اور کفرانِ نعمت میں نعمت کا شکر یہ ادا نہ کرنا ایک طرح پر اس نعمت کا انکار تھا اس لئے کفر کا لفظ صرف انکار کے معنے میں مستعمل ہونے لگا۔ وَالْكَافِرُ عَلَى الْاِطْلَاقِ مُتَعَارِفٌ فِيهِمْ يَجْعَدُ الْوَحْدَ نِيَّةً اَوْ النُّبُوَّةَ اَوْ الشَّرِيْعَةَ اَوْ تِلَاثَهَا اور کافر کا لفظ جب اکیلا استعمال ہوتا اس کے معروف معنے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا آنحضرتؐ کی نبوت اور شریعت یا ان تینوں کا منکر ہو (مفردات) پس كَفَرُوا کے معنے ہوں گے جنہوں نے انکار کیا۔ کفر کیا۔ حق پوشی کی۔ یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یا آنحضرتؐ صلعم کی نبوت کا یا شریعت کا یا ان تینوں کا انکار کیا۔

اِيْتٌ اِيْتٌ اِيْتَةٌ کی جمع ہے اور اِيْتَةٌ کے معنے علامت، نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں نیز قرآن کریم کے ہر ایسے ٹکڑے کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہو اِيْتَةٌ کہتے ہیں۔ (تاج)

يَقْتُلُونَ قَتِيلًا سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور قَتِيلٌ کے معنی حَلِّ لُغَاتٍ سورہ ہذا ۵۵ میں مندرجہ ذیل لکھے جا چکے ہیں (۱) کسی کو قتل کر دیا (۲) کسی سے قطع تعلق کر لیا (۳) کسی کو ذلیل کر دیا (۴) کسی کے کام کو باطل کرنے کی کوشش کی۔ علاوہ ازیں کہتے ہیں هُوَ قَاتِلُ الشَّتَوَاتِ آئی يُطْعِمُهُمْ فِيهَا وَيُدْفِعُ یعنی جب کسی کے متعلق قَاتِلُ الشَّتَوَاتِ کا فقرہ کہیں تو اس سے یہ مراد ہوگی کہ وہ غرباء کو سردیوں میں کپڑے اور کھانا کھلا کر سردی کے اثر سے بچاتا ہے (لسان) نیز کہتے ہیں قَتَلَهُ اور مطلب ہوتا ہے أَصَابَ قَتَالَهُ کہ اس کے جسم کو چھوا یعنی مارا (مفردات) پس يَقْتُلُونَ النَّبِيَّ کے معنی ہوں گے (۱) انہوں نے نبیوں کو مارا (۲) ان سے بے تعلقی کا برتاؤ کیا (۳) ان کے کام کو باطل کرنے کی کوشش کی (۴) نبیوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔

الْحَقُّ حَقُّهُ (يُحَقُّ) حَقًّا کے معنی ہیں غَلَبَتْهُ عَلَى الْحَقِّ اس پر حق میں غالب آیا۔ راستی میں غالب آیا۔ اور حَقُّ الْأَمْرِ کے معنی ہیں أَثْبَتَتْهُ وَأَوْجَبَتْهُ کسی امر کو ثابت کیا اور اس کو لازم کیا۔ وَكَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنْهُ کسی معاملہ کے متعلق یقینی خبر معلوم کر لی اور جب حَقُّ الْحَبْرِ کہیں تو اس وقت معنی ہوں گے وَقَفَّ عَلَى حَقِّقَتِهِ خبر کی حقیقت کو معلوم کر لیا اور حَقُّ الْأَمْرِ کے معنی ہیں وَجَبَتْ وَثَبَّتْ کوئی امر ثابت ہو گیا اور واجب ہو گیا۔ الْحَقُّ ضِدُّ الْبَاطِلِ جھوٹ کے خلاف چیز یعنی سچ۔ الْأَمْرُ الْمَقْضِيُّ ہو کر رہنے والی بات۔ الْعَدْلُ انصاف۔ الْمِلْكُ مالکیت۔ الْمَوْجُودُ الثَّابِتُ یعنی ثابت رہنے والی چیز۔ الْيَقِينُ بَعْدَ الشَّكِّ شک کے بعد یقین کا آنا۔ (اقرب) امام راغب کہتے ہیں کہ الْحَقُّ کا مفہوم کئی طرح ادا کیا جاتا ہے جن میں سے ایک یہ ہے۔ يُقَالُ فِي الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ الْوَاقِعُ بِحَسَبِ مَا يَجِبُ وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجِبُ کہ کسی فعل یا بات کا بائبل۔ مناسب حال اور با موقع کرنے کا نام الْحَقُّ ہے۔ (مفردات)

عَصَوْا عَصِيًّا سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور عَصَاةٌ (يَعْصِيهِ) کے معنی ہیں خَرَجَ عَنِ طَاعَتِهِ وَخَالَفَ أَمْرَهُ وَعَادَاهُ اس کی اطاعت سے نکل گیا اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کی دشمنی کی ٹھان لی (اقرب) پس عَصَوْا کے معنی ہوں گے انہوں نے نافرمانی کی۔ اطاعت سے نکل گئے۔

يَعْتَدُونَ إِعْتَدَى سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور إِعْتَدَى عَلَيْهِ کے معنی ہیں ظَلَمَهُ اس پر ظلم کیا۔ (اقرب) الْإِعْتِدَاءُ۔ عُجَاوَزَةُ الْحَقِّ یعنی اپنے حق سے تجاوز کرنے کا نام إِعْتَدَاءٌ ہے۔ (مفردات) لسان میں ہے الْإِعْتِدَاءُ اور الْعُدَاوَانُ کے معنی ہیں الظُّلْمُ ظلم اور جب إِعْتَدَى فَلَانٌ عَنِ الْحَقِّ یا إِعْتَدَى فَوْقَ الْحَقِّ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے جَاوَزَ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الظُّلْمِ کہ حق سے تجاوز کرتے ہوئے ظلم کو

اختیار کر لیا۔ (لسان) پس یَعْتَلُونَ کے معنی ہوں گے (۱) وہ حق سے تجاوز کرتے تھے (۲) وہ ظلم کرتے تھے۔

تفسیر - **وَإِذْ قُلْتُمْ لِيُؤْتِنَا مِنَّا مِثْرًا لَّعَلَّ نَحْنُ مُشْكِرُونَ** اور ناشکری

کا ذکر اس آیت میں بنی اسرائیل کی پھر ایک اور ناشکری کا ذکر کیا گیا ہے جو مَنّ و سَلْوٰی کے انعام کے متعلق معلوم ہوتی ہے۔ ایک لمبے عرصہ تک بنی اسرائیل کو مَنّ و سَلْوٰی ملتا رہا۔ کبھی کبھی درمیان میں شہروں میں جانے اور وہاں رہائش اختیار کرنے کا موقع بھی مل جاتا تھا مگر معلوم ہوتا ہے وہ ایک ہی قسم کی غذا دیر تک کھانے کی برداشت نہ کر سکے گو حق یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی تھی اس میں بھی تنوع موجود تھا مگر بنی اسرائیل مصر میں رہ کر شہری زندگی کے عادی ہو چکے تھے وہ بھی ہوئی اور تلی ہوئی اور دم پخت چیزوں کے شوقین تھے پس وہ جنگلی غذاؤں پر مطمئن نہ تھے اور ان جنگلی غذاؤں کے پیچھے جو حکمت تھی اس کی قدر نہ کرتے تھے آخر ایک دن تک آ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ ہم ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ ہماری برداشت سے یہ بات بڑھ گئی ہے بیشک تجھ میں طاقت ہوگی کہ ایک قسم کے کھانے پر صبر کرے اور تجھے اس کے بدلنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی ہوگی مگر تو ہماری خاطر (یہ مفہوم اُدْعُ لَنَا کے الفاظ سے نکلتا ہے جس کے معنی ہیں خدا تعالیٰ سے ہماری خاطر دعا کر) اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ وہ ہمارے لئے زمین کی ہر قسم کی ترکاریاں نکالے یعنی ہمیں کسی ایسی جگہ پر ٹک کر رہنے کی اجازت دی جائے جہاں کھیتی باڑی ہو سکتی ہو اور ہر قسم کے غلّے اور دالیں اور ترکاریاں اور سبزیاں ہم کو میسر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان سے فرمایا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں ایک ادنیٰ چیز کو لینا چاہتے ہو۔ عربی کا محاورہ ہے کہتے ہیں اِسْتَبَدَلَهُ بِهٖ: اَخَذَهُ مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ لِيُؤْتِنَا مِثْرًا لَّعَلَّ نَحْنُ مُشْكِرُونَ اور جو بغیر ب کے مفعول ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے پس اَنْسَتَبَدَلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ کے معنی ہوں گے کہ خیر کو چھوڑ کر ادنیٰ لینا چاہتے ہو۔

اب رہا یہ سوال کہ خیر کیا ہے اور ادنیٰ کیا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ خیر سے مراد گوشت ہے اور ادنیٰ سے مراد ترکاریاں ہیں لیکن یہ درست نہیں۔ ترکاریاں بھی خیر ہیں اور گوشت بھی خیر ہے۔ اور نہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کھانا ملتا ہو تو دوسرا نہ کھاؤ۔ بسا اوقات انسان کا دل پلاؤ کو نہیں کرتا دال کو کرتا ہے اور یہ بات خدا تعالیٰ کے عذاب یا اس کی ناراضگی کا موجب نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ اُن غذاؤں کا جو جنگل میں بغیر محنت کے ملتی ہیں اُن غذاؤں سے مقابلہ کیا گیا ہے جو شہروں میں محنت و مشقت کے بعد ملتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان جنگلوں میں اس لئے رکھا تھا تا غلامی کا اثر دُور ہو جائے اور مصریوں کی صحبت میں جن گناہوں کی عادت انہیں

پڑ گئی تھی ان کا ازالہ ہو جائے اسی طرح غیر قوموں سے مل کر ان کے مشرکانہ جذبات بار بار نہ بھڑکتے رہیں۔ بلکہ موسیٰؑ کی صحبت میں مستقل طور پر رہ کر توحید کو وہ اپنے اندر جذب کر لیں۔ جنگل میں آخر وہی غذا اسیں مل سکتی ہیں جو جنگل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مہیا کر دیں۔ سبزیاں، ترکاریاں اور تمدنی طور پر پکائے ہوئے کھانے تو آبادیوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور وہیں میسر آ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے مطالبہ سے بھی یہ مراد نہ تھی کہ ان کو کھڑیاں اور ترکاریاں ملیں بلکہ ان کا بھی یہ مطلب تھا کہ ہم کو آبادیوں میں رہنے کی اجازت دی جائے ہم اس بدوی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ کیا تم اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنیٰ کو لینا چاہتے ہو تو اس سے بھی یہ مراد نہیں کہ تزنجبین یا شہد یا کھمبیوں یا بٹیروں کو چھوڑ کر تم گندم اور ترکاریوں کو کیوں لینا چاہتے ہو بلکہ اس سے بھی یہ مراد ہے کہ کیوں تم اس اچھی زندگی کو چھوڑ کر جو تمہیں حکومت اور آسندہ فاتحانہ زندگی بسر کرنے کے قابل بنا رہی ہے اس زندگی کو قبول کرنا چاہتے ہو جو تمہاری حیثیت کو معمولی زمینداروں کی حیثیت میں تبدیل کر دے گی۔ تمہارا ایسا مطالبہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ تم بالکل کم عقل ہو اور اس زندگی کی قدر کو نہیں سمجھتے جو خدا تمہیں دینے والا ہے اور یا پھر تم کو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان نہیں۔ تم سمجھتے ہو موسیٰؑ کی اونہی جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہت ہمیں کہاں ملنی ہے کیوں زمیندارے کی زندگی سے بھی محروم رہیں اور یہ دونوں باتیں چونکہ بے ایمانی اور دنائت پر دلالت کرتی تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا اور ان پر ناراضگی کا اظہار کیا۔

بنی اسرائیل کے ایک کھانے پر تسلی نہ پانے کا ذکر بائبل میں بنی اسرائیل کا ایک کھانے پر تسلی نہ پانے کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے چنانچہ گنتی باب ۱۱ آیت ۵ میں لکھا ہے۔

”ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مفت مصر میں کھاتے تھے اور وہ کبیرے اور وہ خربوزے اور وہ

گندنا اور وہ پیاز اور وہ لہسن۔“

إِهْطُوا وَمِصْرًا سے مراد ملک مصر کا دار الخلافہ نہیں إِهْطُوا وَمِصْرًا بعض مفسرین نے ناواقفی سے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ مصر جو ملک مصر کا دار الخلافہ ہے اُس میں ان کو جانے کا حکم دیا گیا تھا اور عیسائی مصنفین نے ان معنوں کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اس پر خوب بغلیں بجائی ہیں اور قرآن کریم کی ناواقفیت پر ہنسی اڑائی ہے حالانکہ ناواقف مفسرین کا یہ بیان بھی غلط ہے اور معترضین کا یہ اعتراض بھی درست نہیں۔ ملک مصر کا دار الخلافہ مصر تو غیر منصرف ہے یعنی اس پر تنوین نہیں آ سکتی چنانچہ قرآن کریم میں دیکھ لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَدْخُلُوا وَمِصْرًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَوْنَيْنَ (یوسف: ۱۰۰) اسی طرح فرماتا ہے۔ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ وَمِصْرَ (الزخرف: ۵۲) لیکن اس آیت میں تو مِصْرًا

فرمایا ہے نہ کہ مِصْرَ۔ اور جب مِصْرَ مصر آئے تو اس کے معنی محض شہر کے ہوتے ہیں نہ کہ ملک مصر کے دار الخلافہ کے۔ اور ملک مصر کا دار الخلافہ مصر اس سے مراد نہیں ہوتا۔ پس یہ اعتراض عربی زبان سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر صرف یہ اجازت دی ہے کہ کسی شہر میں چلے جاؤ تمہیں وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی۔

وَ حُضِرَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمُسْكِنَةُ اس میں یہ بتایا ہے کہ چونکہ انہوں نے زمیندارے کو ترجیح دی اور بادشاہت کے رستوں کو اپنے لئے بند کرنا چاہا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُن پر ذلّت اور مسکنت نازل فرمادی۔ خدا کی قدرت ہے گو پیشگوئیوں کے ماتحت اس کے بعد بنی اسرائیل کو حکومت تو ملی لیکن ان کا خدا تعالیٰ کے وعدوں سے بار بار منہ پھیرنا ان کے لئے کچھ ایسا وبال جان بن گیا کہ اب دو ہزار سال سے وہ بادشاہت سے محروم ہیں اور تجارت اور زمیندارہ کے سوا اُن کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔

بَاءٌ وَ يَغْضَبُ كَا مَطْلَب وَ بَاءٌ وَ يَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ۔ بَاءٌ کے معنی اوپر بتائے جا چکے ہیں یعنی اُٹھالینا اور ایسی طرح اُٹھانا کہ وہ اُس چیز کا مستقل محل بن جائے۔ پس بَاءٌ وَ يَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خدا کے غضب کو لے کر اپنے شہروں میں اُترے۔ گویا اپنا وطن اور اپنا ٹھکانا جو سب سے زیادہ امن کی جگہ ہوتی ہے وہی ان کے لئے عذاب اور تکلیف کی جگہ بن گئی۔ یوں بھی آئندہ زمانہ کے واقعات نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کا وطن کنعان ہمیشہ مصائب کی آماجگاہ بنا رہا۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان کی کمی نتیجہ تھا، نبیوں کے مقابلہ کا۔ جب انہوں نے نبیوں کا ادب نہ کیا تو رفتہ رفتہ اُس کلام کا ادب اور اس پر ایمان بھی جاتا رہا جو وہ لائے تھے اور نبیوں کا مقابلہ انہوں نے اس لئے کیا کہ وہ بدکار اور گنہگار تھے۔ نبیوں نے ان کو ہدایت کی تعلیم دی جو انہیں ناپسند معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ عِلّت و معلول کے اصل پر غور کرنے والے لوگ اس بات سے اُطفہ اُٹھا سکتے ہیں کہ کس طرح قرآن کریم ہر ایک بدی یا نیکی کی جڑ اور پھراُس کی جڑ بتاتا ہے تاکہ انسان کسی بدی سے بچنے کے لئے پہلے اس کی جڑ کو کاٹے تا ایسا نہ ہو کہ کچھ مدت کے بعد وہ بدی پھر عود کر آئے۔

بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يُكْفِرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ قتل کے معنی اس جگہ قتل کے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اُس وقت تک کسی نبی کو بنی اسرائیل نے قتل نہیں کیا تھا۔

قَتَلَ قَتْلَ كَا جَان سَا مَارْنِي کے علاوہ اور کئی معانی پر اطلاق پانا قَتَلَ کے معنی لغت میں علاوہ قتل

کرنے کے یہ بھی ہیں اَوَّلَ قَتَلَهُ اللهُ التَّعَالَى نے اس پر لعنت کی۔ (لسان)

دوم۔ اُقْتُلُوا اَفْلاَكًا۔ اس سے اعراض کرو۔ (لسان)

سوم۔ فُلَانٌ قَتَلَهُ۔ مِنَ الْقَتَالِ۔ قَتَالٌ سے نکلا ہے جس کے معنی اَلْجِسْمُ کے ہیں اور مراد یہ ہے کہ

اَصَابَ قَتَالَهُ اس کے جسم کو چھو یعنی مارا۔ (اقرب)

چہارم۔ کہتے ہیں فُلَانٌ قَاتِلُ الشَّيْءِ ایت (لسان) فلاں شخص سردیوں کا قتل کرنے والا ہے یعنی غریبوں کو

کپڑے دے کر سردی کا اثر دُور کرتا ہے۔

پانچویں کہتے ہیں قَتَلَهُ الْعِشْقُ۔ عشق نے اس کو مار ڈالا۔ یعنی اس کی زندگی خراب کر دی اور اس کو دکھ میں

ڈال دیا (لسان) پس آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ نبیوں کو تلوار سے قتل کرتے تھے کیونکہ موسیٰؑ کے زمانہ تک کسی

نبی کو بنی اسرائیل نے قتل نہیں کیا تھا۔ پس اس جگہ پر قتل کرنے سے مراد یہ ہوگی کہ وہ نبیوں کو پیٹتے تھے یا ان

سے بے تعلقی کا اظہار کرتے تھے یا یہ کہ ان کے کام کو باطل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن شریف میں بھی قتل کا

لفظ مار دینے کے سوا اور معنوں میں استعمال ہوا ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے۔ اِنَّ

الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۗ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ لَبِئْسَ لَهُمْ

بِعَذَابٍ اَلِيْمًا۔ (آل عمران: ۲۲) چونکہ یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے اس لئے اس کے

بہی معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کرتے تھے یا قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے یا آپؐ

کے کام میں روک ڈالتے تھے کیونکہ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے قتل کیا اور نہ وہ ایسا کر سکتے تھے۔

ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اٰيٰتِنَاۤ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا

اَنْ يَقُوْلَ رَبِّيْ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَبِّكُمْ (المومن: ۲۹) یعنی آل فرعون میں سے ایک ایسا شخص جو

موسیٰؑ پر ایمان لایا تھا لیکن اپنا ایمان چھپا کر رکھتا تھا اُس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے کہا۔ کیا تم ایک

ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے بڑے بڑے نشانات

لایا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرعون یا اس کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ

سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔

يَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ کے معنی پس يَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ کے معنی قتل کا ارادہ کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور آیت کا

مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں موسیٰؑ اور ہارونؑ کو قتل

کرنے کا ارادہ کرتے یا اُن سے قطع تعلق کرتے یا اُن سے لڑتے جھگڑتے یا اُن کی تعلیم کے پھیلنے میں روک بنتے تھے اس وجہ سے وہ نیکی سے محروم ہوتے جاتے تھے اور گناہوں میں ترقی کرتے جاتے تھے اور یہ انبیاء کے مقابلہ کرنے کا گناہ ان سے اس لئے صادر ہوتا تھا کہ اُن کی طبیعتوں میں سے اعتدال کا مادہ جاتا رہا تھا۔ جو شیلی طبیعتیں تھیں اور ہر بات میں حد سے نکل جانے کے عادی تھے۔ جس کی طبیعت میں غصہ اور جوش پیدا ہو جاتا ہے وہ بڑی سے بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتا اور بڑے سے بڑے گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرِي وَالصَّبِيْنَ

جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور جو یہودی ہیں۔ نیز نصاریٰ اور صابی (ان میں سے) جو (فریق) بھی اللہ پر

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

اور آخرت کے دن پر (کامل) ایمان لایا ہے اور اس نے نیک عمل کئے ہیں یقیناً ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان

عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۱﴾

کا (مناسب) اجر ہے اور انہیں نہ (تو مستقبل کے متعلق) کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ (ماضی پر) وہ غمگین ہوں گے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - آمَنُوا امن سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اَمَنَهُ اِيْمَانًا کے معنی ہیں اَمَنَهُ: اس کو

امن دیا اور جب اس کا صلہ حرف باء ہو یعنی اَمَنَ بِهِ کہیں تو معنی ہوں گے صَدَّقَهُ وَوَقَّعَ بِهِ۔ اس کی تصدیق کی اور

اس پر اعتماد کیا اور جب اَمَنَ کے بعد لام صلہ ہو یعنی اَمَنَ لَهُ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے خَضَعَ وَانْقَادَ یعنی

فرمانبرداری اختیار کی۔ مطیع ہو گیا اور کہنا مان لیا (اقرب) اَلْاِيْمَانُ: اَلتَّصَدِيْقُ - ایمان جو اَمَنَ کا مصدر ہے اس

کے معنی تصدیق کرنے کے ہیں۔ (اقرب) تاج العروس میں ہے۔ اَلْاِيْمَانُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ كَصَدَّقَ وَبِاللَّامِ

يَاَعْتَبَارِ مَعْنَى اَلْدُّعَانِ وَبِالْبَاءِ يَاَعْتَبَارِ مَعْنَى اَلْاِعْتِرَافِ اِشَارَةٌ اِلَى اَنَّ التَّصَدِيْقَ لَا يُعْتَبَرُ بِدُونِ

اِعْتِرَافٍ - کہ لفظ ایمان کبھی بغیر صلہ کے استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس کا صلہ لام آتا ہے اور اس میں اذعان یعنی

فرمانبرداری کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں۔ اور جب باء کے صلہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس وقت اس طرف اشارہ ہوتا

ہے کہ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں اور تصدیق کے ساتھ اعتراف بھی ہوتا ہے اس لئے اس کو اعتراف کے معنی

میں استعمال کر لیتے ہیں۔ پس یَوْمُنَّوْنَ کے تین معنی ہوں گے (۱) تصدیق کرتے ہیں (۲) اعتراف کرتے ہیں (۳) پختہ یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔

امام راغب ایمان کی تشریح کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ:- ”الْإِيمَانُ يُسْتَعْمَلُ تَأْرَةً إِسْمًا لِلشَّرِّ يَعْنِي الَّتِي جَاءَ بِهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَ يُوصَفُ بِهِ كُلُّ مَنْ دَخَلَ فِي شَرِّ يَعْنِيهِ مُقِرًّا بِاللَّهِ وَ بِذُبُوتِهِ“۔ یعنی ایمان کبھی اُس شریعت کے لئے بطور نام استعمال کیا جاتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آنحضرت صلعم کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے شریعت محمدیہ میں داخل ہو، ایمان کے ساتھ موصوف کرتے ہوئے مومن کہتے ہیں۔ (یعنی لفظ مومن بولنے سے فوراً ذہن میں اس شخص کا تصور آتا ہے جو آنحضرت پر ایمان رکھنے والا ہو) ”وَتَأْرَةً يُسْتَعْمَلُ عَلَى سَبِيلِ الْمَدْحِ وَ يُرَادُ بِهِ إِدْعَانُ النَّفْسِ لِلْحَقِّ عَلَى سَبِيلِ التَّصْدِيقِ وَ ذَلِكَ بِاجْتِمَاعِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ تَحْقِيقًا بِالْقَلْبِ وَ اِقْرَارًا بِاللِّسَانِ وَ عَمَلًا بِحَسَبِ ذَلِكَ بِالْجَوَارِحِ“۔ نیز کبھی لفظ ایمان بطور مدح استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تصدیق کے ساتھ ساتھ نفس نے حق کی پوری اطاعت بھی کر لی ہے اور حق کے پوری طرح تابع ہو جانے کا اظہار تین چیزوں کے جمع ہونے سے ہوتا ہے (۱) دل سے صداقت کو حق قرار دینا (۲) زبان سے اس کا اقرار کرنا (۳) اعضاء سے اس کے مطابق عمل کر کے پوری طرح صداقت کے تابع ہو جانے کا اظہار کرنا۔ گویا امام راغب نے اسی شخص کو حقیقی مومن قرار دیا ہے جس کے اندر تینوں مذکورہ بالا باتیں پائی جائیں۔ اگر کسی میں ان میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تصریح فرمادی ہے کہ محض زبان سے اقرار یا صرف دل سے یقین کر لینا اور زبان سے اقرار نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ یہ اکٹھے نہ ہوں چنانچہ فرمایا۔ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَتَأْيِدَ خَلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات: ۱۵) یعنی اعراب نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ یہ درست نہیں۔ کیونکہ انہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے لیکن ان کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا اور چونکہ ایسے لوگ مومن نہیں ہوتے اس لئے ان کے ایمان لانے کا دعویٰ غلط ہے۔ ایک اور جگہ آل فرعون کی نسبت فرمایا۔ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَبَقَتْهَا أَنْفُسُهُمْ (النمل: ۱۵) کہ انہوں نے ظاہر میں اور عمل سے اللہ تعالیٰ کے نشانات کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کے دل ان نشانوں کے سچے ہونے کا اقرار کر چکے تھے۔ الغرض ایمان صرف منہ سے کسی بات کے اقرار کر لینے یا دل سے کسی کے سچا ہونے کا یقین کر لینے کا نام نہیں بلکہ جب تک (۱) دل سے صداقت کو حق قرار نہ دیا

جائے (۲) اور پھر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہوئے (۳) اعضاء سے اس کے مطابق عمل کا اظہار نہ کیا جائے اس وقت تک مومن کہلانا درست نہیں۔

هَادُوا هَادَ (يَهُودُهُودًا) سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور هَادَا الرَّجُلُ کے معنی ہیں تَابَ وَرَجَعَ إِلَى الْحَقِّ اس نے توبہ کی اور حق کی طرف رجوع کیا۔ چنانچہ جب کوئی شخص غلطی کر کے اس سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس وقت کہتے ہیں هَادَ الْمُنْدِيبَ إِلَى اللَّهِ کہ تصور وار نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نیز کہتے ہیں هَادَا الرَّجُلُ اور مطلب یہ ہوتا ہے دَخَلَ فِي الْيَهُودِيَّةِ کہ فلاں شخص نے یہودی مذہب اختیار کر لیا جب هَادَ فِي الْمَنْطِقِ کا فقرہ بولیں تو اس کے معنی ہوں گے اَدَاكَ بِسَكُونٍ وَرَفِقٍ کہ اس نے نرمی سے کلام کیا۔ هَادَا سے اسم فاعل هَادٍ بے گاہ۔ اور هَادِيٌّ کی جمع هُوْدٌ ہوگی (اقرب) پس الَّذِينَ هَادُوا کے معنی ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کیا۔

الْغَصَارِيُّ تَبِعَ الْمَسِيحَ یعنی مسیح علیہ السلام کے پیروؤں کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ نَصَارَى جمع ہے بعض نے اس کا مفرد نَصْرَانِيٌّ لکھا ہے۔ یعنی ناصرہ بستی کی طرف منسوب ہونے والا۔ بعض کا خیال ہے کہ نَصَارَى نَصْرَانٍ کی جمع ہے (یعنی نَصْرَان بستی کی طرف منسوب ہونے والا) اور بعض نے اس کو نَصْرِيٌّ کی جمع بتایا ہے یعنی نَصْرَا بستی کی طرف منسوب ہونے والا (اقرب) امام راغب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کے پیروؤں کا نام اس واسطے نصاریٰ رکھا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مَنْ اَنْصَارِجِي اِلَى اللّٰهِ کہ اللہ کے کام میں میرا کون مددگار ہوگا تو انہوں نے جواباً کہا اَنْصَارُ اللّٰهِ یعنی ہم مدد کرنے کے لئے تیار ہیں۔ چونکہ وہ مدد کے لئے تیار ہو گئے اس لئے اُن کو نَصَارَى کہا گیا (مفردات) لیکن یہ معنی درست نہیں۔ حق یہی ہے کہ نصرانی کا لفظ ناصرہ سے نکلا ہے دیکھو تفسیری نوٹ۔

الصَّابِئِينَ الصَّابِئُونَ اور الصَّابِئِينَ صَابِئِيٌّ کی جمع ہے جو صَبَأً کا اسم فاعل ہے۔ کہتے ہیں صَبَأً الرَّجُلُ صَبَأً اور مراد یہ ہوتی ہے خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ اٰخَرَ کہ اس نے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا (اقرب) نیز لکھا ہے الصَّابِئُونَ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ النُّجُومَ وَقَبِيلٌ قَوْمٌ يَزْعُمُونَ اَنْهُمْ عَلَى دِينٍ نُّوحٍ قَبْلَتَهُمْ مَهَبَتِ الشَّمَالِ عِنْدَكَ مُنْتَصِفِ النَّهَارِ کہ صَابِئُونَ ایک قوم ہے جو ستاروں کی پرستش کرتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صَابِئُونَ وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب پر چلتے ہیں اور ان کا قبلہ بادشمال کے چلنے کے رُخ پر ہے۔ (اقرب)

حَمَلٌ صَالِحًا صَالِحٌ کے معنے وہ عمل جو فساد سے پاک ہو اور با مصلحت اور مناسب حال ہو۔ صَلَحَ الشَّيْءُ کے معنے ہیں ضِدًّا فَسَادًا کوئی چیز فساد سے پاک ہوگئی نیز کہتے ہیں هَذَا يَصْلُحُ لَكَ اسی من بابینک یعنی یہ تیرے مناسب حال ہے اور صَالِحُهُ کے معنے ہیں وَافَقَهُ اس سے موافقت کی۔ الصَّالِحُ کے معنے ہیں ضِدًّا الْقَائِدِ فساد سے پاک وَالصَّلَاحِيَّةُ حَالَةٌ يَكُونُ فِيهَا الشَّيْءُ صَالِحًا وہ حالت جس سے کوئی چیز مناسب و موزوں ہو جائے (اقرب) پس صَالِحَاتٌ کے معنے ہوں گے وہ اعمال جو فساد سے پاک اور با مصلحت اور مناسب حال ہوں۔

أَجْرُهُمْ الْأَجْرُ۔ الْثَّوَابُ بدلہ (اقرب) الْأَجْرُ وَالْأَجْرَةُ مَآيَعُوذُ مِنْ ثَوَابِ الْعَمَلِ دُنْيَوِيًّا كَانَ أَوْ أُخْرَوِيًّا جو کسی کام کا بدلہ ملتا ہے خواہ وہ دنیوی ہو یا اخروی اُسے أَجْر کہتے ہیں۔ (مفردات)

رَبِّهِمْ رَبٌّ کے معنی إِنْشَاءُ الشَّيْءِ حَالًا فَحَالًا اِلَى حَدِّ الشَّمَامِ کے ہیں (مفردات امام راغب) یعنی کسی چیز کو پیدا کر کے تدریجی طور پر کمال تک پہنچانا۔ خالی تربیت کے معنی بھی یہ دیتا ہے۔ خصوصاً جبکہ انسان کی طرف منسوب ہو۔ مثلاً قرآن کریم میں ماں باپ کی نسبت آتا ہے۔ كَبَّارَ بَيْبُوتِي صَغِيرًا (بنی اسرائیل: ۲۵) یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے اس وقت میری تربیت کی جبکہ میں چھوٹا تھا۔ رب کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں۔ (اقرب) اسی طرح سردار اور مطاع کے بھی (اقرب) جیسے قرآن کریم میں حضرت یوسف کا قول ہے أَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ (یوسف: ۴۳) اور مصلح کے بھی معنی ہیں (اقرب) ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن بغیر اضافت کے مطلق رب کا لفظ کبھی غیر اللہ کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا۔ مثلاً رَبُّ الدَّارِ۔ گھر کا مالک یا رَبُّ الْفَرَسِ۔ گھوڑے کا مالک تو انسان کو کہہ سکتے ہیں مگر جب خالی یہ کہیں کہ رب نے یوں کہا ہے یا کیا ہے تو اس کے معنے صرف اللہ تعالیٰ کے ہوں گے (مفردات) رب کے معنے مفسرین نے خالق کے بھی کئے ہیں۔

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خَوْفٌ اور حُزْنٌ کے معنے مفصل طور پر حَلِّ لُغَاتِ سورہ بقرہ آیت نمبر ۳۹ میں بتائے جا چکے ہیں۔ خَوْفٌ اور حُزْنٌ میں یہ فرق ہے کہ خوف آئندہ زمانے کے متعلق ہوتا ہے اور حُزْنٌ کسی واقعہ گزشتہ کی بناء پر ہوتا ہے اسی لئے ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ انہیں نہ تو (مستقبل کے متعلق) کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ (ماضی پر) وہ غمگین ہوں گے۔

تفسیر۔ یہود کا نام یہود رکھے جانے کی وجہ هَادُوا ہادآ جیسا کہ لغت میں بتایا جا چکا ہے یہودی

ہونے کو کہتے ہیں گو حَلِّ لُغَاتٍ میں هَاذَ کے اور معنی بھی بتائے جا چکے ہیں لیکن یہ تو ارد ہے کہ عبرانی کا ایک لفظ عربی کے ایک لفظ کے مشابہ ہو گیا ہے ان معنوں کو دیکھتے ہوئے یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ یہودی کو اس لئے یہودی کہتے ہیں کہ اس میں هَاذَ والے معنی پائے جاتے ہیں بلکہ عربی هَاذَ اور ہے اور یہ هَاذَ يَهُودٌ جو یہودی قوم کے نام کو بتانے کے لئے ہے اور ہے۔ یہ لفظ درحقیقت اُس نام کا معرب ہے جو بنی اسرائیل کے لئے ہجرت بائبل کے بعد خود یہود میں اور اردگرد کے لوگوں میں رائج ہو گیا تھا چنانچہ عبرانی میں اسے ”يَهُودِي“ کہتے ہیں اور ارمی زبان میں ”یہودائی“ کہتے ہیں اور پُرانی بائبل زبان میں اسے ”یا اودائی“ کہتے ہیں اور یہ لفظ ”يَهُودَا“ سے بنا ہے جو اُس علاقہ کا نام جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل اور قبیلے کے لوگ حکومت کرتے رہے ہیں اور جس کا دار الخلافہ یروشلم تھا (انسائیکلو پیڈیا بلیکا کا وجوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Jew) درحقیقت اس علاقہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہود کی نسل کا زور تھا جس کا عبرانی تلفظ سیہودا ہے اس لئے اُس علاقہ کا نام ہی ”سیہودا“ ہو گیا اور پھر اس علاقہ میں رہنے والوں کو یہودی نام مل گیا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بغاوت ہو گئی تھی اس لئے بنو یہود اور بنو بن یا مین حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹوں کی اولاد تو اس علاقہ میں رہ گئی اور باقی دس قبائل نے شمال میں اپنی الگ حکومت قائم کر لی اور اُن لوگوں کے مذہب میں کچھ خرابیاں واقع ہو گئیں۔ نبیوں کی بعثت بھی زیادہ تر اسی علاقہ میں ہوتی رہی جس میں بنو یہود رہتے تھے۔ پس آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے دوفرقوں میں امتیاز کرنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ یروشلم کے علاقہ کے باشندوں کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط۔ یہودی کا لفظ ایک نئی اصطلاح بن گیا اور اس کے یہ معنی کئے جانے لگے کہ وہ جو موسوی شریعت کا سچا پابند ہے۔ اس یہودی کے لفظ کو عربوں نے اپنی زبان میں استعمال کیا اور چونکہ یہود کا لفظ عربی کے مضارع کے صیغہ سے مشابہ تھا انہوں نے اس سے ماضی کا صیغہ هَاذَ بنا لیا۔ مگر ایک مستقل لفظ هَاذَ بھی عربی میں ہے وہ لفظ یہودیوں یا ان کے قبیلوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ اس کے معنی بالکل اور ہیں جیسا کہ حَلِّ لُغَاتٍ میں بتائے جا چکے ہیں۔

پس ان معنوں کے رُو سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ هَاذَ کا جو لفظ ہے یہ عربی ہے بلکہ هَاذَ کا لفظ یہودی لفظ سے ماضی کا صیغہ بنا یا گیا ہے اور یہودی کا لفظ یہودا سے بنا ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں ”یہودا“ کے علاقہ میں رہنے والا اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا متبع۔

قرآن مجید کا بنی اسرائیل اور یہود ہر دو الفاظ کو مختلف مفہوموں میں استعمال کرنا اور اہل یورپ کا غلط اعتراض تجربہ ہے کہ قرآن کریم جہاں کہیں مذہب کی طرف اشارہ کرتا ہے وہاں یہودی لفظ کا استعمال کرتا ہے اور جہاں قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے وہاں بنو اسرائیل کا لفظ استعمال کرتا ہے اور قرآن کریم پر عیسائی مصنف یہ الزام دھرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی تاریخ سے واقف نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے اسرائیل اور یہود کے لفظ کا بالکل صحیح استعمال کیا ہے جبکہ خود انجیل میں اس لفظ کا غلط استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی اسرائیلی نسل کے آدمیوں کے لئے گئے ہیں اور آج بھی یورپ کے لوگ اس لفظ کو غلط استعمال کرتے رہتے ہیں (اس کے لئے دیکھو نوٹ ۴۱ سورہ بقرہ زیر آیت ۱۱۱ اِسْرَائِیلَ اَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اَلْح)

مسیحیوں کا نام نصاریٰ رکھے جانے کی وجہ - نَصَارَى - نَصْرَ اِنِّیْ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں ناصیہ سے تعلق رکھنے والے یہود اور ممالک عربیہ کے لوگ اس نام سے مسیحیوں کو یاد کرتے تھے۔

ناصیہ جس سے یہ لفظ نکلا ہے جلیل کا ایک گاؤں تھا اور پرانے زمانہ میں مسیح کے اپنے ملک کے نام سے مشہور تھا کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لینے سے پہلے حضرت مسیح اپنے خاندان سمیت وہیں رہا کرتے تھے۔ (دیکھو متی باب ۴ آیت ۱۳ - مرقس باب ۱ آیت ۹ - لوقا باب ۲۶ آیت ۲۶ - یوحنا باب ۱ آیت ۳۶ - اعمال باب ۱۰ آیت ۳۸) اسی گاؤں کے نام کی وجہ سے ابتدائی یہودی مذہبی کتب میں حضرت مسیح کے ماننے والوں کو نصرانی لکھا جاتا تھا ان سے عربوں نے اس کو اخذ کیا اور آج تک ان میں یہی نام مشہور ہے۔

مسیح محمدی کے اتباع کی مسیح ناصری کے اتباع سے ایک مشابہت (خدا کی قدرت ہے کہ اس زمانہ میں امت محمدیہ کے مسیح موعود کے اتباع کو بھی ان کے مخالف قادیانی کہتے ہیں یعنی امام کی قائم کی طرف انہیں منسوب کرتے ہیں۔ یہ مشابہت بھی نہایت عجیب ہے) رومی لوگ بھی ابتدائی زمانہ سے مسیحی لوگوں کو نصرانی کہنے لگے تھے (دیکھو اعمال باب ۲۴ آیت ۵) لیکن باوجود اس کے یہ عجیب بات ہے کہ ناصرہ جس کے نام پر مسیح علیہ السلام کے اتباع نے نام پایا ایک لمبے عرصہ تک اس میں یہودی ہی بستے تھے۔ مسیحی صدیوں سال بعد جا کر اس میں بسے (انسائیکلو پیڈیا بلیکا زیر لفظ Nazareth) متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیحؑ کے مجازی والد یوسف نجار اس جگہ ایک خواب کی بناء پر جا کر رہتے تھے۔ لکھا ہے ”اور خواب میں آگا ہی پا کر جلیل کی اطراف میں روانہ ہوا اور ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا جا کے رہا کہ وہ جو نبیوں نے کہا تھا پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا (متی ۲ آیت ۲۲، ۲۳) لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بائبل میں کہیں بھی اس پیشگوئی کا ذکر نہیں۔ سو یا تو یہ الہام کسی قریب کے

زمانہ کے صوفی یا دیو کا ہوگا یا کسی اعتراض سے بچنے کے لئے انجیل نویسوں نے اس قسم کی تعبیر نصرانی کے لفظ کی کر لی۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ -

الصّٰبِیُّیْنِ۔ صابی قوم کون تھی؟ صابی قوم اس وقت مفقود ہے گو بعض تو میں عراق میں ایسی پائی جاتی ہیں جن کے متعلق شبہ کیا جاتا ہے کہ وہ صابی الاصل ہیں۔ گزشتہ زمانہ میں عیسائیوں کا ایک فرقہ جو علاقہ بابل میں رہتا تھا صابی کہلاتا تھا اور اُن کو الکز ائٹس (Elkesaites) بھی کہتے تھے۔ وہ مذہباً یوحنا بہتسمہ دینے والے کے متبعین کے ساتھ زیادہ ملتے تھے (انسا نیکو پیڈیا بلیکا زیر لفظ Sabians) اسی طرح صابی بعض ستارہ پرست اقوام کو بھی کہتے ہیں جو عراق، عرب وغیرہ میں کسی وقت پائی جاتی تھیں اور حران اُن کا صدر مقام تھا (انسا نیکو پیڈیا بلیکا زیر لفظ Sabians) درحقیقت یہ لوگ سباء کے رہنے والے تھے لیکن آہستہ آہستہ اُن کا نام صابی بجائے 'س' کے 'ص' سے استعمال ہونے لگ گیا۔ یہ لوگ ستارہ پرست تھے اور ایک الہامی قانون کے ماننے والے تھے۔ تاریخ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ لوگ اپنے آپ کو صابی کہتے تھے یا لوگوں نے ان کا نام صابی رکھ دیا تھا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ مامون کے وقت میں بھی اس قبیلہ کے کچھ لوگ ابھی موجود تھے۔ کیونکہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مامون نے رومی حکومت پر حملہ کرتے وقت اپنے رستہ میں اُن لوگوں کو دیکھا۔ اُن کے لمبے لمبے بالوں اور عجیب قسم کے لباس اور غیر معروف مذہبی رسوم کو دیکھ کر اُس نے حکم دیا کہ یا تو تم اپنے آپ کو کسی اہل کتاب مذہب سے وابستہ کرو ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے مسلمان فقہاء سے مشورہ کیا اور ان کے مشورہ کے مطابق اپنا نام صابی رکھ لیا (انسا نیکو پیڈیا بلیکا زیر لفظ Sabians) میرے نزدیک یہ بات کہ انہوں نے بعد میں اپنا نام صابی رکھا غلط ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی اُن کا چھوٹا سا قبیلہ لگ پڑا ہو اور وہ اپنا نام بھی بھول گئے ہوں پھر انہوں نے مسلمان علماء کے مشورہ سے اپنا نام صابی بتایا ہو۔ کیونکہ اسلامی تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ حران کے لوگوں کا تعلق مامون کے زمانہ سے بہت پہلے اسلامی حکومت سے قائم ہو چکا تھا۔

صابی کے معنی اہل کتاب کے یہ کہ قرآن شریف میں صابی کے لفظ سے کون صابی مراد ہیں تعین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا لیکن میرے نزدیک چونکہ صابی کا نام کئی اہل کتاب تو میں اپنی طرف منسوب کرتی تھیں عربی زبان میں صابی کے معنی اہل کتاب کے ہو گئے۔ یہود اور نصاریٰ کو تو وہ جانتے تھے اس لئے انہیں تو وہ خاص نام سے یاد کر لیتے تھے۔ ان کے سوا باقی تمام تو میں جنکی نسبت عرب سمجھتے تھے کہ یہ الہامی کتاب کے قائل ہیں انہیں وہ صابی کے نام سے یاد کر لیتے تھے پس گو صابی کا نام کسی وجہ سے کسی ایک نے یا دوسری وجہ سے بعض اور قبائل نے اپنے لئے

استعمال کیا تھا لیکن عربوں کے نزدیک اس کے معنی ہر ایسی قوم کے تھے جو اہل کتاب ہو اور یہودیوں اور نصاریٰ کے علاوہ ہو چنانچہ جب اسلام نیا دنیا نکلا تو جب تک عرب کے لوگ اسلام کے نام اور اسلام کے مذہب سے مانوس نہیں ہوئے مسلمانوں کو بھی وہ صابی کہا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو کہتے صَبًا فُلَانٌ فلاں شخص صابی ہو گیا۔ میرے نزدیک کوئی حرج نہیں کہ ہم قرآن شریف میں بھی اس لفظ کے یہی معنی سمجھیں یعنی قرآن شریف نے بھی عربی محاورہ کے مطابق صابی سے مراد اہل کتاب کے لئے ہوں اور اس آیت سے مراد یہ ہو کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا اور کسی الہامی کتاب کی طرف منسوب ہونے والا ہو ہر ایک قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر سچا ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔

آیت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا... الخ کا گزشتہ آیات سے تعلق جیسا کہ اوپر کی آیات کی تفسیر سے ظاہر ہے چوتھے رکوع سے یہ مضمون پیش کیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت نئی نہیں بلکہ نبوت کا سلسلہ قدیم سے چلا آیا ہے چنانچہ پہلا انسان کامل بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ اور پھر پانچویں رکوع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ آدم پر ہی ختم نہیں ہو گیا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین زمانہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں چنانچہ عرب کے جواریں رہنے والی اسرائیلی قوم میں ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا چلا جس کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پڑی۔ اسی ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے یہ خبر دی گئی تھی کہ ان کے دونوں لڑکوں اسماعیل اور اسحاق کے ذریعہ سے روحانیت کے عظیم الشان سلسلے چلیں گے۔ پس جبکہ نبوت کا سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے شروع کیا گیا اور جاری رکھا گیا اور سابق انبیاء کی پیشگوئیوں نے بنو اسماعیل میں آنے والے ایک عظیم الشان نبی کی خبر دے رکھی ہے تو پھر ایک مدعی نبوت کے دعوے پر استعجاب کیوں ہو۔

دوسرا مضمون چوتھے رکوع سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی کے زمانہ میں اُس کی مخالفت کی گئی۔ آدم علیہ السلام پر بھی اعتراض ہوئے چنانچہ شیطان اور اُس کی ذریت نے خوب بڑھ بڑھ کر اعتراض کئے۔ فرشتوں نے گواہی نہیں کیا مگر اُس کی پیدائش پر تعجب اور حیرت کا اظہار ضرور کیا۔ پھر اس کے بعد نبی پر نبی آیا اور یہ سبق دہرایا گیا مگر اسلام کے قریب ترین روحانی سلسلہ کے نبیوں پر پھر اسی طرح اعتراضات ہوئے جیسے پہلے نبیوں پر اعتراضات ہوئے تھے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان اعتراضوں سے نہ بچے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکا رخص اس وجہ سے کہ اُن کی بعض باتوں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ درست ہو سکتا ہے۔

تیسرا سلسلہ مضمون ان رکوعوں میں یہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو چنتا ہے تو اپنے فضل کو کمال تک پہنچا دیتا ہے لیکن جب وہ قوم ناشکری میں بڑھ جاتی ہے تو وہ فضل کسی دوسری قوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ آدمؑ کی وسیع اولاد میں سے منتقل ہوتے ہوتے فضل الہی بنی اسرائیل میں آیا۔ اب بنی اسرائیل کی متواتر اور ایک لمبے عرصہ تک کی مسلسل ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے وہ فضل ایک دوسرے خاندان کی طرف منتقل ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کو اب غصہ کیوں آتا ہے اور مکہ کے لوگ ناراض کیوں ہیں۔ نہ بنی اسرائیل کی خفگی کی کوئی وجہ ہے کہ انہوں نے خود دھکے دے دے کر خدا تعالیٰ کے فضل کو اپنے گھر سے نکالا اور نہ مکہ والوں کے لئے شور مچانے کی کوئی وجہ ہے کہ ان کے تاریک گھروں میں خدا تعالیٰ کے نور کا دیا جلا یا جا رہا ہے۔ ان کے افسردہ دلوں پر خدا تعالیٰ کی رحمت کی بارش نازل کی جا رہی ہے۔ ان کے لئے تو خوش ہونے کا مقام ہے نہ کہ رنجیدہ ہونے کا۔

یہ تین سلسلہ مضامین چوتھے رکوع سے شروع ہو کر اس جگہ تک آ رہے ہیں اور کچھ دُور تک آگے بھی جائیں گے چنانچہ اس آیت سے آگلی آیت میں پھر وہی مضمون جاری ہو جائے گا لیکن اس سلسلہ مضمون میں یہ آیت جس پر نوٹ لکھا جا رہا ہے بظاہر بے جوڑی معلوم ہوتی ہے۔ کہاں یہودیوں کا ذکر اور وہ بھی پرانے زمانے کے یہودیوں کا۔ پھر اس آیت کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ہی ذکر ہے درمیان میں یہ آیت کیسی آگئی کہ جس میں مسلمانوں یا عام مومنوں کا بھی اور نصاریٰ کا بھی اور صابئین کا بھی ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں یہودیوں کے اوپر مستقل طور پر غضب الہی نازل ہونے کا ذکر تھا اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ وہ انبیاء کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا مضمون ہے کہ انسانی فطرت اس جگہ پر اپنی مشکلات کا حل کر دینے بغیر آگے جانے دینا پسند نہیں کرتی۔ جس وقت انسان اس مضمون کو پڑھتا ہے کہ ایک قوم پر خدا تعالیٰ کا فضل نازل ہوا اور فضل پر فضل نازل ہوا مگر اس نے نافرمانی پر نافرمانی کی اور نبیوں کا مقابلہ کیا تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے اس خطرناک حالت سے میں بچ سکتا ہوں۔ اس فطری سوال کا جو ضمنی طور پر اس دل دہلا دینے والے مضمون کے موقع پر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس آیت میں جواب دے دیا گیا ہے۔ فرماتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان کے مدعی ہیں خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا صابی ہیں جو بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائیں اور مناسب حال عمل کریں ان کو ان کے رب کی طرف سے اجر ملتا ہے یعنی جو چیز انسان کے امن کو دوام بخشتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ مت سمجھو کہ باوجود ایمان کے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جب حقیقی ایمان نصیب ہوتا تو اس وقت انسان ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ بنی اسرائیل

نے اگر ٹھوکریں کھائیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایمان کے ہوتے ہوئے وہ ٹھوکریں کھاتے تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایمان میں کمزوری تھی ورنہ جو شخص خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاتا ہے اور بعثت بعد الموت پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مناسب حال عمل کرتا ہے وہ کبھی خدا تعالیٰ کے غضب کا مستحق نہیں ہوتا۔ پس اگر یہودیوں کو ٹھوکریں لگیں، اگر ان کے بعد نصاریٰ کو ٹھوکریں لگیں اور اگر ان کی ہمسایہ قوم صابین کو ٹھوکریں لگیں تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ یا تو ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا یا یوم آخر پر ایمان نہیں تھا یا مناسب حال عمل ان کے نہیں تھے چنانچہ دیکھ لو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں تھا یہی تو انہوں نے کھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اسی طرح یوم آخر پر ایمان نہیں تھا یہی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں سے چُن چُن کر یوم آخر کے متعلق حوالے نکال پھینکے۔ یہی حال نصاریٰ کا ہے۔ نصاریٰ کو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا۔ اگر ایمان ہوتا تو وہ خدا تعالیٰ کے ایک بندے کو اس کا بیٹا کیوں بنا دیتے اور عمل صالح کا تو کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ کفارہ نے عمل کی ضرورت کو باطل کر دیا ہے۔ پس فرماتا ہے۔ یہودیوں کی اس متزلزل حالت کو دیکھ کر اور ان کے بارہ میں خدا تعالیٰ کے غضب کی پیشگوئیوں کو پڑھ کر گھبراؤ نہیں اور یہ نہ سمجھو کہ جب یہودی جیسی قوم جس میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے نبی آئے اُس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تو اور کسی شخص کو اپنے رُوحانی انجام پر کس طرح اطمینان ہو سکتا ہے کیونکہ روحانی انجام کی درستی یقیناً ہو سکتی ہے۔ تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان درست کرو اور عمل صالح کرو۔ پھر کوئی چیز تم کو جاہِ اعتدال سے پھرا نہیں سکتی۔ پھر کوئی چیز تم کو خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔

نہ ایسے شخصوں کے لئے سابق کا کوئی غم رہتا ہے اور نہ آئندہ کے لئے کوئی ڈر رہتا ہے۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ مِّنْهُمْ اُولُوْا السُّبُوْحٰتِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ مِّنْهُمْ اُولُوْا السُّبُوْحٰتِ
یاد رہے کہ اس آیت میں اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا میں تمام اقوامِ عالم کا ذکر ہے اور اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا میں زور دینے کے لئے خصوصیت سے یہودیوں، نصرا نیوں اور صابیوں کا الگ ذکر کر دیا گیا ہے۔ گویا تفصیلی طور پر اس آیت کے معنی یوں ہو سکتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ خاص طور پر ہم اس جگہ نام لے کر ذکر کر دیتے ہیں۔ یہودیوں، نصرا نیوں اور صابیوں کا کہ خواہ یہ ہوں یا کوئی اور قوم ہو، جو لوگ بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائیں اور مناسب حال عمل کریں انہیں ان کے رب کی طرف سے اجر ملے گا اور نہ انہیں آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ گزشتہ باتوں پر کوئی غم ہوگا۔

ان معنوں کی رو سے اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سے مراد مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے بلکہ دنیا کی ہر قوم کے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں، زرتشتی ہوں، یونانی ہوں، کنفیوشس مذہب والے ہوں، یہودی ہوں، نصرا نی ہوں، صابی ہوں، ساری ہی وہ قومیں جن کو دعویٰ ایمان ہے اس میں شامل ہیں اور اَمَنُوْا کے اجمالی معنوں کی

تشریح کرنے کے لئے الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَ الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ کہہ کر تین ایسی مثالیں دے دی گئی ہیں جو عرب کے اردگرد رہنے والے مذاہب کی ہیں اور اس آیت سے اُس مایوسی کو دُور کیا گیا ہے جو گذشتہ آیات میں یہودیوں کے حالات کو پڑھ کر ایک مومن کے دل میں پیدا ہو سکتی تھی اور بتایا ہے کہ ایمان کا رستہ ایسا مخدوش نہیں جیسا کہ یہودیوں کی حالت سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے خود اپنی حالت مخدوش بنالی ورنہ روحانی رستہ تو بالکل کھلا اور صاف ہے۔ اللہ پر انسان ایمان لے آئے۔ یومِ آخر پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق عمل کرے ساری مشکلیں آپ ہی دُور ہو جاتی ہیں۔ سارے مسائل آپ ہی حل ہو جاتے ہیں۔ نہ نبیوں کے پہچاننے میں کوئی دقت رہتی ہے، نہ دوسرے مسائل روحانیہ کی سچائی کے سمجھنے میں کوئی مشکل رہ جاتی ہے، نہ اخلاقی مسائل کی الجھنیں باقی رہتی ہیں، نہ عبادات کے ادا کرنے میں کوئی ٹکناں پیدا ہوتی ہے اور نہ حقوق العباد کے ادا کرنے میں کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔

قرآن کریم کا یہ ایک کمال ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا مضمون ہو جس سے مایوسی پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو وہ دوسرا پہلو امید کا بھی ساتھ ہی پیش کر دیتا ہے اور جہاں کہیں امید اور خوشی کا مضمون ایسا زور دار ہو کہ اس سے غفلت اور سُستی پیدا ہونے کا احتمال ہو جائے تو وہ خوفِ خدا اور خشیت کا مضمون بھی مناسب طریقہ سے اس جگہ پر بیان کر دیتا ہے تاکہ ایمان کی حالت وسط میں رہے اور مسلم کا دل کسی ایک کیفیت کی طرف منتقل ہو کر جادہ اعتدال سے ہٹ نہ جائے۔ دوسری کتابوں کا یہ حال نہیں وہاں محبت کا ذکر ہے تو محبت کا ذکر ہی ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دل میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ عذابِ الہی کا ذکر ہو تو عذابِ الہی پر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ انجیل اور تورات اور دوسری تمام مذہبی کتابوں میں اس توازن کو مد نظر نہیں رکھا گیا صرف اور صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اس توازن کو مد نظر رکھتی اور ایسی حالت پیدا ہونے نہیں دیتی جو نامناسب امیدوں یا خطرناک مایوسیوں کی طرف انسان کو لے جائے۔

اس آیت کا تعلق پہلی آیات سے ایک اور رنگ میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ چونکہ گذشتہ آیات میں بار بار بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیاں یاد دلائی گئی تھیں۔ شریف الطبع اور خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے بنی اسرائیل ان واقعات کو یکجا ہی طور پر دیکھ کر یقیناً متاثر ہو سکتے تھے اور ڈر ہو سکتا تھا کہ وہ مایوس ہو جائیں اور سمجھیں کہ ہماری قوم کے لئے تو اب بخشش کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ اس لئے اس آیت میں اس مایوسی کی حالت کو دُور کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آج اسلام کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے پھر رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں۔ خواہ مسلمان کہلانے والے لوگ ہوں، خواہ یہودی، عیسائی یا اور کسی کتاب کو ماننے والے ہوں اگر وہ آج بھی

اسلامی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو درست کریں اور مناسب حال اعمال بجالائیں تو ان کی روحانی ترقیات کے سامان پھر پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ پھر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ان کی قوم کی گذشتہ بد اعمالیاں ان کے رستہ میں حائل نہیں ہوں گی۔ روک نہیں بنیں گی۔

اس جگہ ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ اگر بنی اسرائیل کی ایمانی حالت اس درجہ تک گرمی ہوئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص فضیلت کیوں دی، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی قوم کی حالت کا اندازہ صرف اس کے عوام کی حالت سے نہیں لگایا جاتا بعض دفعہ اس کی قیمت کا اندازہ اس کے خاص افراد کی حالت سے بھی لگایا جاتا ہے اور کبھی اس کی فطری قابلیت سے لگایا جاتا ہے۔ بنو اسرائیل کو دیکھو باوجود نبوت سے اس قدر دُور ہو جانے اور ہر قسم کے مظالم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہونے کے اپنی ذہانت اور عقل سے اب بھی وہ دنیا پر اقتصادی طور پر حکومت کر رہے ہیں اور ہر قسم کے علمی انکشافات میں پیش پیش ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم قابلیت میں دوسری بہت سی اقوام سے ممتاز ہے۔ یہ تو ان کی فطری قابلیت کی دلیل ہے۔ ان کے خاص افراد کی قابلیت کا ثبوت یہ ہے کہ جس قدر انبیاء اس قوم میں آئے ہیں اور کسی قوم میں نہیں آئے۔ اس قدر افراد کا جوہر خالص رکھنا اور خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنا بھی یقیناً اس قوم کی فضیلت کا ثبوت ہے پس اس قوم کا خاص فضلوں کے لئے چُننا جانا غلط نہ تھا۔ نہ تحملاً نہ فعل تھا۔ یہ قوم واقعہ میں ان فضلوں کی مستحق تھی مگر اس میں جہاں خاص لوگوں کی بہتات اور فطری نور کی حدت کی خوبی تھی وہاں یہ بھی نقص تھا کہ یہ اپنے فطری نور سے دنیوی ترقی کے حصول کے لئے مدد لیتے تھے نہ دینی ترقی کے لئے اور بوجہ عام طور پر ذہن رسا حاصل ہونے کے اپنے انبیاء سے حسد کرتے تھے اور ان کو خاص درجہ دینے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ ان دونوں نقائص نے آخر ان کو روحانی میدان سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور یہ لوگ نبوت کا انعام کھو بیٹھے۔ خلاصہ یہ کہ یہود کا ایک ہی وقت میں خاص فضلوں کا وارث ہونا اور پھر خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو بار بار اپنے پر نازل کرنا دو متضاد امور نہیں ہیں۔ ایک ہی وقت میں یہ دونوں امور جمع ہو سکتے ہیں اور بنی اسرائیل کے وجود میں جمع بھی ہوئے۔

آیت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا کے معنی منفردانہ حیثیت سے یہ معنی تو قرآن کریم کی آیات کی ترتیب کے لحاظ سے ہیں لیکن اگر اس آیت کے مضمون پر منفردانہ نگاہ ڈالی جائے تو پھر الَّذِينَ آمَنُوا کے معنی مخصوص طور پر مسلمانوں کے بھی کئے جاسکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ آیت ایک عظیم الشان پیشگوئی پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف مذاہب کے فیصلہ کی ایک آسان راہ بتائی گئی ہے اور وہ یہ کہ کوئی شخص اپنے پیاروں کو تباہ اور برباد نہیں

ہونے دیتا نہ اُن کو دکھ میں دیکھ سکتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کب اپنے پیارے بندوں کو ذلیل اور رُسوا کرے گا۔ پس مختلف مذاہب کے فیصلہ کے لئے یہ طریق اختیار کیا جائے کہ جس مذہب کو الہی نصرت اور مدد ملے وہ الہی مذہب ہو گا اور جو خدا تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو وہ خدا تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ اس طریق کے مطابق اس وقت کے بعض مذاہب کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اُن لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ لوگ جو مومن ہیں یعنی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی سچے مومن ہیں اور وہ جو یہودی ہیں اور نصاریٰ اور صابئین۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کے بھی مدعی ہیں کہ جو اعمال ان کی قوم کرتی ہے وہی سچے اور خدا تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ اب اُن کی اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ اُن میں سے کون واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا اور سچا مومن ہے۔ ہم یہ طریق بتاتے ہیں کہ ان میں سے جو شخص واقعہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور یومِ آخر پر یقین رکھتا ہے اور وہ اعمال کرتا ہے جو واقعی اچھے ہیں وہ ضرور خوف و حُزن کی حالت سے نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر طرح کا آرام اُسے حاصل ہو جائے گا۔

آیت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا... الخ میں اسلام کی ترقی کی طرف اشارہ یہ معیار جس حالت میں پیش کیا گیا ہے اُس کا علم اس بات کے جاننے سے ہو سکتا ہے کہ سورہ بقرہ ہجرت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے اور اُن دنوں میں اسلام نہایت کمزور حالت میں تھا۔ خود اہل عرب مخالف تھے اور جان کے دشمن تھے۔ اہل مدینہ میں سے ایک زبردست جماعت صرف منافقانہ طور پر اسلام لے آئی تھی اور درپردہ اسلام کی تباہی کے لئے کوشاں تھی۔ یہود کے تین قبیلے مدینہ میں رہتے تھے اور تینوں اسلام کے سخت دشمن اور اسلام کے مٹانے کے درپے تھے۔ مسیحیوں کے مختلف قبائل مدینہ کے قُرب و جوار میں بستے تھے اور شام کی سرحد مدینہ سے چند منزل پر ہی تھی۔ اور وہاں کے باشندوں کے سینے اسلام کی عداوت سے لبریز تھے۔ مسلمانوں کی تعداد عورتیں اور بچے ملا کر تین چار ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ ایسے وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے اللہ تعالیٰ یہ کلمات نکلواتا ہے اور کل مخالفین کو جو نہ صرف تعداد میں ہی ہزاروں گنا زیادہ تھے بلکہ مال، دنیاوی رُعب و داب اور حکومت اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھی آپ پر لاکھوں درجہ فضیلت رکھتے تھے۔ یہ پیغام دلواتا ہے کہ ہم سب اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور یومِ آخر پر ایمان رکھتے اور خدا تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کرتے ہیں پس اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جو لوگ واقعہ میں ایسے ہیں ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ اُن کی مدد کرے۔ پس باوجود اس کے کہ تم زیادہ ہو اور ہر طرح امن و امان میں ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ دُکھوں اور تکلیفوں سے نجات دے دے وہ سچا اور واقعہ میں

خدا تعالیٰ کا پیارا ہے اور جو خوف و حُزن سے محفوظ ہوتے ہوئے اس میں پڑ جائے وہ ضرور غلطی پر ہے۔
 مسیحی حکومتوں کا غلبہ اُن کے مذہب کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا اس معیار پر کس مذہب کی صداقت ثابت ہوئی؟ اس کے جواب کے لئے ہمیں خود کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے مخالفین کی لکھی ہوئی تاریخیں ہی اس بات پر کافی روشنی ڈال رہی ہیں کہ ہجرت کے پہلے ایک دو سال کے اندر کہ جب یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسلام کی کیا حالت تھی اور اس کے بعد چند سال میں ہی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور وہ مسلمان جو چاروں طرف سے دشمنوں کے زرعہ میں گھرے ہوئے تھے سطح زمین پر ٹڈی دل کی طرح پھیل گئے اور اُن کا خوف و حُزن امید اور خوشی سے بدل گیا اور ان کے دشمن جو پہلے سگھ کی نیند سوتے تھے اور ملکوں کے حاکم تھے خوف و حُزن میں مُبتلا ہو گئے اور اس طرح خدا تعالیٰ کے فعل نے اس بات کی شہادت دے دی کہ مسلمانوں کی جماعت ہی وہ جماعت تھی جو واقعہ میں اللہ تعالیٰ اور یومِ آخر پر ایمان رکھتی تھی اور اعمالِ صالحہ بجالاتی تھی ورنہ دوسرے مذاہب کے پیروؤں کا ایمان ایک رسمی ایمان تھا اور اُن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہ تھے۔

اس معیار پر یہ اعتراض کرنا درست نہ ہوگا کہ اس زمانہ میں مسیحی حکومتیں مسلمانوں پر غالب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مذہبی مقابلہ کے وقت اُس قوم کے خوف و حُزن سے نکلنے کا وعدہ کیا ہے جو واقعہ میں مومن اور اعمالِ صالحہ کو بجالانے والی ہو اور اس زمانہ کے مسلمان بموجب حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم پر عمل چھوڑ دیا ہے اور ان کی اس وقت وہی حالت ہو رہی ہے جو بنی اسرائیل کی مسیحِ ناصریؑ کے وقت میں تھی۔ پس ان کا خوف و حُزن میں مبتلا ہونا بطور سزا ہے اور پیشگوئی کے مطابق ہے۔ ہاں یہ بھی وعدہ ہے کہ جب یہ لوگ مسیح موعود کو قبول کر کے پھر اس آیت کا مصداق بن جائیں گے تو ہر قسم کے خوف و حُزن سے بچ جائیں گے اور اُن کے دشمن ان کے مقابلہ میں ذلیل ہوں گے لیکن یہ غلبہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی اسباب سے حاصل ہوگا اور تلوار کی بجائے دلائل و براہین سے اسلام کو غالب کیا جائے گا چنانچہ وہ مسیح موعود پیدا ہو چکا ہے اور اُسے اور اس کے پیروؤں کو اللہ تعالیٰ خارق عادت نشانات سے خوف و حُزن سے بچاتا اور ان کے دشمنوں کو ان کے مقابلہ میں شرمسار کرتا ہے۔

اس استدلال کا ردّ کہ صرف ایمان باللہ اور ایمانِ بیومِ آخر سے نجات ہو سکتی ہے اس آیت کے معنی کرنے میں بعض لوگوں کو یہ دھوکا لگا ہے کہ چونکہ اس جگہ صرف ایمان باللہ اور ایمانِ بیومِ آخر کے ساتھ خوف و حُزن سے نجات کو وابستہ کیا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس قوم کو جو اللہ اور یومِ آخر پر ایمان لانے

والی ہو۔ نجات یافتہ قرار دیتا ہے مگر یہ درست نہیں۔ ایمان باللہ و یوم آخر میں اسلام کے سب اصول شامل ہیں چنانچہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔** اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا (النساء: ۱۵۱-۱۵۲) یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اُس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی اور راستہ بنا لیں۔ یہ لوگ ہی پکے کافر ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اندر ہی رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے اور رسولوں پر ایمان لانے میں اگر وہ کوئی کتاب لایا ہو تو اس پر ایمان لانا بھی داخل ہوگا۔

اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا ہے۔ **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ** (الانعام: ۹۳) یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر (یعنی قرآن کریم پر) بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ یوم آخر پر ایمان میں قرآن کریم پر ایمان لانا اور عبادت کا بجا لانا بھی شامل ہے پس اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانا صرف ہستی باری اور یوم آخر کا اقرار کرنا نہیں بلکہ اس کے اندر تمام وہ فروع بھی شامل ہیں جو ان سے مستفوع ہوتے ہیں۔

عَمَلٍ صَالِحًا عمل صالح کے معنی ہیں وہ عمل جو مناسب حال ہو۔ **صَلَحَ** کے معنی عربی زبان میں مناسب کے ہوتے ہیں یعنی جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ کہتے ہیں **صَالِحَةٌ وَافَقَةٌ** اُس کے موافق ہو گیا۔ اور کہتے ہیں **هَذَا يَصْلُحُ لَكَ**۔ یہ کام تیرے مناسب حال ہے اور کہتے ہیں۔ **أَصْلَحَ بَيْنَ الْقَوْمِ** اُس نے قوم کی آپس میں موافقت کرا دی۔ اعمال صالحہ سے مراد مناسب حال اعمال پس عمل صالح کے معنی اُس کام کے ہیں جو ضرورت اور وقت کے مطابق ہو اور ایسا ہی کام فساد اور خرابی کو دور کر سکتا ہے جو کام ضرورت اور وقت کے مطابق نہ ہو۔ اس سے فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے خواہ بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو۔ جہاد کے وقت میں اگر کوئی نماز شروع کر دے یا نماز کے وقت میں صدقہ و خیرات بانٹنے لگ جائے یا رمضان کے ایام میں ایسے کاموں میں مشغول ہو جائے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں مثلاً ارد گرد کے علاقوں میں تبلیغ کے لئے جانا شروع کر دے اور سفر کے عذر سے روزہ نہ رکھے تو ایسے شخص کے اعمال گو وہ تمام کے تمام اچھے ہی ہوں عمل صالح نہیں کہلائیں گے اور اُن کا نیک نتیجہ پیدا نہیں ہوگا۔

قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کا مل انسان کا ذکر ہے، وہاں عمل صالح کی ہی شرط رکھی گئی ہے اور کسی جگہ بھی

عمل خیر کی شرط نہیں رکھی، کیونکہ کوئی عمل خیر بغیر عمل صالح ہونے کے نفع نہیں دیتا۔ ہاں بعض بظاہر بُرے نظر آنے والے عمل صالح ہونے کی وجہ سے نفع دے جاتے ہیں مثلاً کسی شخص کے سر پر بچھو نظر آ جائے یا پگڑی میں کہیں سانپ بیٹھا ہوا دکھائی دے تو گو مارنا اور پیٹنا عمل شر میں سے ہے لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی زور سے ہاتھ مارے یا زور سے جوتی ہی مار دے اس خیال سے کہ اگر آہستہ سے اس چیز کے قریب گئے یا اس شخص کو بتایا جس کے سر پر وہ چیز بیٹھی ہے تو وہ زہریلا کیڑا اُسے ڈس لے گا۔ تو یہ عمل گویا بظاہر بُرا ہوگا مگر عمل صالح ہوگا اور اس لئے کرنے والے کو ثواب کا مستحق بنا دے گا۔ کوئی شخص کسی گڑھے کے پاس کھڑا ہوا اور دوسرے شخص کو معلوم ہو جائے کہ اُس پر کوئی شخص فائر کرنے لگا ہے اور وہ اسے دھکا دیکر گڑھے میں پھینک دے تو اگر گڑھے میں گرنا بندوق کا نشانہ بننے سے کم ضرر رکھتا ہو تو یہ گڑھے میں گرنا دیکر عمل صالح کہلائے گا گو عام حالات میں یہ نیک کاموں میں سے نہیں۔

پس حقیقت یہی ہے کہ جو چیز انسان کو ثواب کا مستحق بناتی ہے وہ عمل صالح ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر اوقات عمل خیر ہی عمل صالح ہوتے ہیں لیکن بعض وقت انسان عمل خیر کو عمل غیر صالح بنا دیتا ہے اُس وقت وہ عمل خیر ثواب کا موجب نہیں رہتا۔ اسی طرح بعض دفعہ ضرورت کے ماتحت عمل شر عمل صالح بن جاتا ہے بشرطیکہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اس وقت اسی پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جہاد کے لئے تشریف لے گئے بعض صحابہؓ نے روزے رکھے ہوئے تھے وہ منزل مقصود پر پہنچ کر چُور ہو کر گر گئے۔ مگر جو بے روزہ تھے۔ انہوں نے خیمے لگانے شروع کئے۔ کھائیاں کھوئی شروع کیں۔ لکڑیاں جمع کرنی شروع کیں اور وضو کے لئے پانی لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا۔ آج بے روزہ روزہ داروں سے بڑھ گئے۔ اس واقعہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ گوروزہ ایک اچھا عمل ہے مگر ایسے وقت میں کہ اسلام کو انسان کی طاقت کی ضرورت ہو اُس وقت یہی روزہ ناجائز ہو جائے گا یا ادنیٰ عمل بن جائے گا (یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روزے نقلی تھے فرضی نہ تھے فرضی روزہ سفر میں منع ہے)۔

آج کل بد قسمتی سے مسلمانوں میں یہی خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ بظاہر عمل خیر کرنے والے تو ان میں بہت نظر آتے ہیں مگر عمل صالح کرنے والے بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام مصیبت میں ہے۔ چاروں طرف سے اُس پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس گھرے ہوئے زمانہ میں بھی لاکھوں مسلمان نماز اور اذکار الہی کے پابند ہیں لیکن وہ اپنا سارا وقت ذکر اور نماز میں ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ اُن کے مصلے تو پیشک آباد ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اُجڑنے کی اُن کو کوئی فکر نہیں۔ یقیناً یہ نمازیں اور یہ ذکر اُن کے مُنہ پر مارے جاتے ہیں اور چونکہ وہ اسلام کے گھر کی

آبادی کا فکر نہیں کرتے۔ خدا اُن کے دلوں کو بھی اپنے جلوے سے آباد نہیں فرماتا۔

پھر لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بظاہر مسلمانوں کی تعلیم اور مسلمانوں کی اقتصادی یا سیاسی حالت کی درستی میں لگے ہوئے ہیں لیکن نماز اور روزے سے غافل ہیں اس لئے اُن کے یہ کام محض سیاسی ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دین کی چاشنی ملی ہوئی نہیں اور جسم کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے اور رُوح کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے پس یہ کام بھی عملِ صالح نہیں رہے۔ مناسب حال کام وہی ہوتا ہے جس میں چاروں کونوں کا خیال رکھ لیا جاتا ہے۔ وہ مکان جس کی تین دیواریں ہوں اور ایک نہ ہو حفاظت کا ذریعہ نہیں ہو سکتا گنجائش یہ کہ ایک دیوار ہو اور تین نہ ہوں ضرورت تھی کہ ایک طرف اپنے عمل اور اپنے فعل سے اسلامی تعلیم کی خوبی کو دنیا پر ظاہر کیا جاتا تو دوسری طرف دلائل اور براہین کی تلواروں سے اسلام کی حفاظت کی جاتی۔ اگر یہ دونوں پہلو مد نظر رکھ لئے جاتے تو اسلام کبھی کمزور نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ مسلمان باغی بنتے نہ بزدل اور جھگڑے ہوتے بلکہ اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ قربانیاں کرنے والے، شریف، متواضع، دلیر اور بہادر بیک وقت سب اخلاق کے مالک ہوتے اور دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکتی۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صلح کا لفظ عربی زبان میں کبھی بُرے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا پس جھوٹ، چوری ڈاکہ وغیرہ قسم کے افعال پر وہ خواہ کسی مصلحت کے لئے ہی کیوں نہ ہوں اور کسی کے فائدہ ہی کے لئے کیوں نہ کئے جائیں عملِ صالح نہیں کہلا سکتے۔

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ ط خُذُوا

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کیا تھا (اور کہا تھا کہ) جو

مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾

(کچھ) ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

حَلَّ لُغَاتٍ - مِيثَاقٌ الْبَيْتَاقُ عَقْدٌ مُؤَكَّدٌ بَيْنَيْنِ وَعَهْدٌ - مِيثَاقٌ کے معنی ہیں ایسا عہد کرنا

جو قسم سے مُؤكَّد ہو۔ (مفردات)

رَفَعْنَا رَفَعَ سے متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے۔ رَفَعَهُ رَفَعًا کے معنی ہیں ضَمًّا وَصَعَةً۔ اس کو اوپر اٹھایا بلند

کیا۔ نیز کہتے ہیں۔ رَفَعَ لَهُ الشَّيْءُ اور مراد یہ ہوتی اَبْصَرَ لَعْنٌ بَعِيدًا اس نے فلاں چیز کو دور سے دیکھا۔ (اقرب)

الطُّورُ الْجَبَلُ طُورُ کے معنی پہاڑ کے ہیں جَبَلٌ قُرْبٌ آيَلَةٌ يُضَافُ إِلَى سَيِّئَةٍ نِزَايِكٌ مَخْصُوصٌ پھاڑ کا نام بھی طور ہے جو طور سیناء کے نام سے مشہور ہے۔ (اقرب)

أَذْكُرُوا امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اور ذَكَرَ الشَّيْءَ کے معنی ہیں حَفِظَهُ فِي ذَهْنِهِ کسی چیز کو اپنے ذہن میں یاد کر لیا۔ أَذْكُرُوا امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اور ذَكَرَ الشَّيْءَ (يَذْكُرُ ذِكْرًا وَتَذَكَّرًا) کے معنی ہیں حَفِظَهُ فِي ذَهْنِهِ کسی چیز کو اپنے ذہن میں یاد کر لیا اور جب ذَكَرَ الشَّيْءَ بِلِسَانِهِ کہیں تو معنی ہوں گے قَالَ فِيهِ شَيْئًا کہ اس نے کسی بات کے متعلق اپنی زبان سے کچھ کہا۔ اور ذَكَرَ لِفُلَانٍ حَدِيثًا کے معنی ہیں قَالَ لَهُ كَوْنِي بَات بیان کی جب ذَكَرَ مَا كَانَ قَدْ نَبِي کا فقرہ بولیں تو اس کے معنی ہوں گے فَطَنَ بِهِ کسی بھولی ہوئی بات کی یاد تازہ ہو گئی۔ (اقرب)

امام راغب لکھتے ہیں الذِّكْرُ تَارَةٌ يُقَالُ وَذُرُّهُ هَيْئَةٌ لِلتَّقْسِمْ بِهَا يُجْمَعُ لِلنَّاسِ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَفْتَنِيهِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ کہ ذکر کا لفظ بول کر کبھی نفس کی وہ ہیئت مراد لی جاتی ہے جس کے ذریعہ سے انسان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ معلوم شدہ باتوں کو یاد رکھ سکے وَهُوَ كَالْحِفْظِ إِلَّا أَنَّ الْحِفْظَ يُقَالُ إِعْتِبَارًا بِأَحْزَانِهِ وَالذِّكْرُ يُقَالُ إِعْتِبَارًا بِإِسْتِحْضَارِهِ۔ اور ان مذکورہ بالا معنوں میں ذکر کا لفظ حفظ کے لفظ کے ہم معنی ہے۔ ہاں حفظ اور ذکر ہر دو کے مفہوم میں ٹھوڑا سا امتیاز ہے۔ حفظ کسی شخص کے یاد کرنے پر اس وقت بولیں گے جب وہ ذہن میں بعض باتوں کو جمع کرتا چلا جائے اور ذکر اس کے اس طور پر یاد رکھنے کو کہیں گے کہ اس کو وہ باتیں مستحضر ہیں اور جب چاہے انہیں استعمال کر لے وَتَارَةٌ يُقَالُ لِحَضُورِ الشَّيْءِ الْقَلْبِ أَوِ الْقَوْلِ اور کبھی دل میں کسی امر کا خیال لانے یا زبان پر کسی بات کے لانے کا نام ذکر رکھا جاتا ہے وَلِذَلِكَ قِيلَ الذِّكْرُ ذِكْرَانٍ ذِكْرٌ بِالْقَلْبِ وَذِكْرٌ بِاللِّسَانِ اسی لئے کہتے ہیں کہ ذکر دو طرح ہوتا ہے (۱) قلبی ذکر (۲) زبانی ذکر۔ وَكُلٌّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَبْرَانٍ ذِكْرٌ عَنْ نُسِيَانٍ وَذِكْرٌ لَّا عَنْ نُسِيَانٍ بَلْ عَنْ إِدَامَةِ الْحِفْظِ کہ خواہ قلبی ذکر ہو یا توہی ہر دو کی دو دو قسمیں ہیں (۱) بھول جانے کے بعد کسی بات کا یاد کرنا (۲) یا بغیر بھولنے کے یاد رکھنا (مفردات) پس أَذْكُرُوا کے معنی ہوں گے۔ تم یاد کرو۔ بعض نے أَذْكُرُوا مَا فِيهِ کے معنی أَذْرُسُوا مَا فِيهِ کے بھی کئے ہیں یعنی جو کچھ اس میں ہے اس کو پڑھو۔ (لسان)

لَعَلَّ کے لئے دیکھو محل لغات سورۃ بقرۃ آیت ۵۳ جلد ہذا۔

تَتَّقُونَ اتَّقَى يَتَّقِي سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اس کی مزید تشریح کے لئے دیکھیں محل لغات

آیت نمبر ۴۹ جلد ۱۔

تفسیر - اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کی تفسیر اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے وہ دن احکام اور ان کے ساتھ اترنے والی دوسری تعلیم مراد ہے جو سیناء پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اس آیت میں ان احکام کی طرف بنی اسرائیل کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان احکام کو یاد کرو جو تمہیں اس وقت دیئے گئے تھے جبکہ تم سیناء کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اور جن کے سُننے پر تم پیٹھ پھیر کر چلے گئے تھے اور تم نے خدا تعالیٰ کا کلام سُننے سے انکار کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم مرجائیں۔

مِيثَاقَكُمْ میں میثاق کی اضافت ضمیر مخاطب کی طرف کرنے کی وجہ مِيثَاقَكُمْ میں جو میثاق کی اضافت ضمیر جمع مخاطب کی طرف کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میثاق بنی اسرائیل میں ایک خاص شہرت رکھتا ہے اور اسے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس میثاق کے وقت بنی اسرائیل کے اُن تعلقات کی بنیاد رکھی گئی جو اُن میں اور اللہ تعالیٰ میں قائم رہنے والے تھے اور اسی میثاق کے وقت اُن کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ شریعت لانے والا نبی بنو اسحاق میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے ہوگا۔ پس یہ میثاق چونکہ ایک خصوصیت رکھتا تھا اس لئے اس کا نام ہی بنی اسرائیل کا میثاق رکھ دیا گیا اور اس وجہ سے ضمیر مخاطب کی طرف میثاق کی اضافت کی گئی۔ گویا یہ اضافت اُس عہد کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کے لئے ہے اور ایسا محاورہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے بعض دفعہ ایک ماں باپ کے کئی بچے ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ ماں کا لاڈلا ہوتا ہے۔ اُسے شرارت کرتے وقت اگر باپ کبھی دیکھ لے تو وہ اسے ماں کے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے لو تمہارا بچہ ایسا کر رہا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ باپ کا بچہ نہیں یا دوسرے بیٹے ماں کے بیٹے نہیں بلکہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس بچہ سے ماں خاص تعلق رکھتی ہے۔ اسی محاورہ کے مطابق مِيثَاقَكُمْ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے یہ معنی نہیں کہ اُو کوئی عہد بنی اسرائیل سے کیا ہی نہ گیا تھا۔

رَفَعْنَا قَوْفَكُمْ الطُّورَ میں لفظ طور کے معنی وَرَفَعْنَا قَوْفَكُمْ الطُّورَ - طُور کے معنی عبرانی زبان میں پہاڑ کے ہوتے ہیں خواہ کوئی پہاڑ ہو Hebrew and English Lexicon of the Old Testament عہد قدیم کی عبرانی (انگریزی لغت) اور عربی زبان میں بھی طُور کے ایک معنی پہاڑ کے ہیں لیکن باوجود اس کے کہ عربی زبان میں بھی طُور کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ جب یہودیوں سے عربوں نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے طُور پر کلام کیا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید عبرانی زبان میں طُور اُس خاص پہاڑ کا نام تھا اس پہاڑ کو

جبل الطور کہنے لگ گئے یعنی طُور پہاڑ۔ حالانکہ عبرانی زبان میں بھی طور کے معنے پہاڑ کے تھے اور عربی زبان میں بھی طُور کے معنے پہاڑ کے تھے اور جب عبرانی لوگ کہتے تھے طُور پر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیں تو اس کے معنے محض اتنے ہوتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ایک پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔

قرآن کریم میں بھی گو طُور کا لفظ اسی رنگ میں استعمال کیا گیا ہے جس رنگ میں عربی میں استعمال ہوتا تھا اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا لیکن اُس میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ طُور پہاڑ کو کہتے ہیں نہ یہ کہ یہ کسی خاص پہاڑ کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ (المؤمنون: ۲۱) یا فرماتا ہے۔ وَالتَّيْنِ وَالذَّيْتُونِ۔ وَطُورِ سَيْنَاءَ (التين: ۲، ۳) ان دونوں حوالوں میں طُور لفظ کی سیناء کی طرف اضافت کر کے بتایا گیا ہے کہ طُور کا لفظ وضع لغت کے لحاظ سے کسی خاص پہاڑ کا نام نہیں بلکہ اس کے معنی ہی پہاڑ کے ہیں اور موسیٰ کے طور سے مراد محض دشت سیناء کا ایک پہاڑ ہے۔

رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ سے مراد پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر کھڑا کرنا نہیں اس آیت سے بعض لوگوں نے دھوکا کھایا ہے اور اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ پہاڑ کو بلند کر کے بنی اسرائیل کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا گیا تھا اور اس غلط مطلب کو لے کر راڈول صاحب نے بھی اسلام پر ایک اعتراض کر دیا ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ غلطی خروج باب ۱۹ آیت ۱۷ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہود کو لگی ہے اور ان سے سن کر قرآن کریم میں نقل کر دی گئی ہے (خروج باب ۱۹ آیت ۱۷ کے الفاظ یہ ہیں ”اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملاوے اور وے پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے۔“ عربی کی بائبل میں یہ الفاظ ہیں وَ أَخْرَجَ مُوسَى الشَّعْبَ مِنَ الْمَحَلَّةِ لِبَلَاءِ قَاةِ اللَّهِ فَوَقَفُوا فِي أَصْفَلِ الْجَبَلِ) لیکن اصل بات یہ کہ جس طرح بقول راڈول یہود نے خروج باب ۱۹ کی آیت ۱۷ کے معنے غلط سمجھے ہیں اسی طرح یہود کے قصوں پر یقین کر کے بعض لوگوں نے اس آیت کے وہ معنے کر دیے ہیں جو یہود میں طُور کے اُٹھانے جانے کے متعلق مشہور تھے۔ حالانکہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ یہ عہد ایسے وقت میں ہوا جب تم دامنِ کوہ میں تھے اور یہ معنے عربی زبان کے محاورہ کے عین مطابق ہیں۔ جن دو لفظوں سے اس آیت کے معنے کرنے میں دھوکا لگا ہے وہ رفع اور فوق ہیں۔ رفع کے معنے اُٹھانے اور فوق کے معنے اوپر کے ہیں لیکن محاورہ زبان میں یہ الفاظ صرف بلندی کے معنے میں بھی آتے ہیں جیسا کہ بخاری کی کتاب المناقب میں براء بن عاذبؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ مدینہ کی طرف آتے ہوئے جب گرمی سے سخت تکلیف ہوئی اور دو پہر کا وقت آ گیا تو رَفَعَتْ لَنَا صَخْرَةً طَوِيلَةً لَهَا ظِلٌّ

لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة فی الاسلام) جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ ایک لمبا پتھر ہمارے لئے اٹھایا گیا لیکن مراد یہ ہے کہ پاس ہی ایک اونچا پتھر نظر آیا۔ اسی طرح فوق کا محاورہ قرآن کریم میں موجود ہے جیسا کہ سورہ احزاب میں آتا ہے۔ اِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ دَاعَى الْأَبْصَارَ وَبَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاقِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا۔ (الاحزاب: ۱۱، ۱۲) اس کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے آ گیا لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ اونچی جانب کی طرف سے آ گیا۔ غرض اس آیت سے یہی مراد ہے کہ یہود کو طور کے نیچے کھڑا کیا گیا اور بعض احکام ان کو دیئے گئے جن پر پابند رہنے کا اُن سے عہد لیا گیا جیسا کہ خروج باب ۱۹ آیت ۱۶ تا ۲۵ سے ثابت ہے۔ وہاں لکھا ہے ”اور یوں ہوا کہ تیسرے دن صبح کو بادل گرے اور بجلیاں چمکیں اور پہاڑ پر کالی گھاٹڑی اور قرنائی کی آواز بہت بلند ہوئی چنانچہ سارے لوگ ڈیروں میں کانپ گئے اور موسیٰؑ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملاوے اور وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے اور سب کو سینا پر زیر و بالا ڈھواں تھا کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کے اس پر اُتر اور نور کا سا ڈھواں اس پر سے اُٹھا اور پہاڑ سراسر ہل گیا اور جب قرنائی کی صدا بہت بڑھائی گئی اور بلند سے بلند ہوتی جاتی تھی موسیٰ نے کلام کیا اور خدا نے اسے ایک آواز سے جواب دیا اور خداوند کو سینا پہاڑ کی چوٹی پر نازل ہوا اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا اور موسیٰ چڑھ گیا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اُتر جا اور لوگوں کو تفتید کر تا نہ ہووے کہ حدوں کو توڑ کے خداوند کے پاس دیکھنے کو آویں اور بہتیرے اُن میں ہلاک ہو جاویں اور کاہنوں کو بھی جو خداوند کے نزدیک آئے ہیں کہہ۔ اپنے کو پاک کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند اُن میں رخنہ ڈال دے۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ لوگ کو سینا پر آ نہیں سکتے کیونکہ تو نے تو ہمیں تاکید کر کے کہا ہے کہ پہاڑ کے لئے حدیں مقرر کر رکھو اور اس کو پاک کرو۔ خداوند نے اسے کہا کہ چل نیچے جا اور تجھ کو پھر اُپر آنا ہوگا۔ تو اور ہارون تیرے ساتھ۔ پر کاہن اور لوگ حدیں توڑ کے خداوند پاس اوپر نہ آویں۔ نہ ہووے کہ اُن میں رخنہ ڈال دے چنانچہ موسیٰ لوگوں پاس تلے اُتر اور اُن سے کلام کیا۔“

اس آیت میں طور کے اٹھانے کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف اس لئے منسوب کیا گیا ہے کہ پہاڑ کے نیچے رہنے کا تاکید حکم اُن کو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا چنانچہ خروج باب ۱۹ آیت ۲۱ میں لکھا ہے ”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اُتر جا اور لوگوں کو تفتید کر تا نہ ہووے کہ حدوں کو توڑ کے خداوند کے پاس دیکھنے کو آویں اور بہتیرے ان میں ہلاک ہو جاویں۔“

اس جگہ پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رَفَعُ اور فَوْقُ کے دو الفاظ جو استعمال کئے گئے ہیں ان میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ طور کا عہد ہمیشہ ہمیش کے لئے ساتھ رہے گا۔ گویا صرف اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ طور کے نیچے یہ عہد لیا گیا تھا بلکہ تمثیلی زبان میں یہ کہا گیا ہے کہ طور ہمیشہ تمہارے سروں پر منڈلاتا رہے گا یعنی یہ عہد ایک دو دن کا عہد نہیں بلکہ اس عہد کا بنی اسرائیل کی قومی زندگی کے ساتھ دائمی تعلق ہے۔

خُدُّوْا مَا آتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت موسویہ کی پہلی بنیاد وحیت سینا کے ایک پہاڑ پر جس کا نام ہی اب طور پڑ گیا ہے اور ہم بھی اب اس کو طور کے نام سے ہی یاد کریں گے رکھی۔ خروج باب ۱۹ اور باب ۲۰ میں یہ سب واقعہ اور زلزلہ کے آنے کا ذکر ہے اور استثنا باب ۵ آیت ۲ سے جس کے یہ الفاظ ہیں کہ ”خداوند ہمارے خدا نے حُورب میں ہم سے ایک عہد کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دس احکام حورب کی چٹان پر سے بیان کئے گئے تھے اور اُس وقت بنی اسرائیل سے ان احکام پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا تھا۔ اسی طرح ان دس احکام کے علاوہ اور احکام بھی دیئے گئے تھے جیسا کہ اَلْكِتَابِ کے ماتحت خروج باب ۲۰ سے خروج باب ۳۱ تک کے حوالوں سے ثابت کیا جا چکا ہے دیکھئے تفسیر زیر آیت وَ اِذْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَ الْفُرْقَانَ (البقرة: ۵۴) یہ ایک عظیم الشان احسان کی بنیاد تھی لیکن جیسا کہ اگلی آیت سے ثابت ہے یہودیوں نے اس موقع پر بھی ناشکر گزاری سے کام لیا۔

اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ عہد جو اس وقت لیا گیا ہے انہیں چاہئے کہ اس کو ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں تاکہ ہر قسم کے مصائب سے بچے رہیں۔ اس تاکید کا ذکر استثنا باب ۵ میں بھی آتا ہے وہاں لکھا ہے:-

”پھر موسیٰ نے سارے اسرائیل کو بلایا اور انہیں کہا۔ اے اسرائیل یہ شرعیں اور احکام سن رکھو جنہیں میں آج

تمہارے کانوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ تم انہیں سیکھو اور حفظ کرو اور ان پر عمل کرو۔“ (استثنا باب ۵ آیت ۱)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ کا مضمون بائبل میں اسی طرح لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ کا مضمون بھی بائبل میں پایا جاتا ہے خروج باب ۲۰ میں آتا ہے اگر تم اپنے اس عہد پر قائم رہے اور ان احکام پر عمل کیا جو تمہیں دیئے گئے ہیں تو تم خدا تعالیٰ کے عذاب اور مصائب سے بچائے جاؤ گے چنانچہ لکھا ہے ”موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم مت ڈرو اس لئے کہ خدا آیا ہے کہ تمہیں امتحان کرے اور تاکہ اُس کا خوف تمہارے سامنے ظاہر ہو کہ تم گناہ نہ کرو۔“ (خروج باب ۲۰ آیت ۲۰)

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

پھر اس (واضح ہدایت) کے (مل جانے کے) بعد (بھی) تم نے پیٹھ پھیر لی اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت

رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۲۵﴾

نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ تَوَلَّيْتُمْ تَوَلَّى سے جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور تَوَلَّى کے معنی ہیں۔ اَدْبَرَ پِئْطَ پھیر لی تَوَلَّى

عَنْهُ۔ اَعْرَضَ وَتَرَكَ یعنی اس سے اعراض کیا اور اس کو چھوڑ دیا (اقرب) پس تَوَلَّيْتُمْ کے معنی ہوں گے۔ (۱) تم پیٹھ پھیر کر چلے گئے۔ (۲) تم نے اعراض کیا۔ تم نے اس کو چھوڑ دیا۔

فَضْلٌ اَلْاِحْسَانُ۔ فضل کے معنی احسان کے ہیں۔ وَالْاِبْتِدَاءُ بِهٖ بِاِلَاعَةِ كَسِيْیٰ پُرَاسِ كَالْاَمْرِ كَالْبَغِيْرِ

ابتداء احسان کرنا فضل کہلاتا ہے۔ (اقرب)

اَلْخَسِيْرِيْنَ اَلْخَسِيْرِيْنَ اور اَلْاِحْسَانُ وَنَ اَلْاِحْسَانُ کی جمع ہے جس کے معنی نقصان اٹھانے والے اور گھانا پانے

والے کے ہیں۔ خَسِيْرٌ التَّاجِرُ فِيْ بَيْعِهِ (بَيْعُهُ) کے معنی ہیں وَضِعَ فِيْ تِجَارَتِهِ تاجر کو تجارت میں گھانا ہوا

ضِدُّاْرِيْحٍ خَسِيْرٍ کا لفظ نفع کے مخالف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ خَسِيْرٌ الرَّجُلُ کے معنی ہیں ضَلَّ وَهَلَكَ گمراہ ہو

گیا اور ہلاک ہو گیا (اقرب)۔ عربی زبان میں یہ لفظ ہمیشہ لازم ہی استعمال ہوتا ہے میں نے بڑی تحقیق کی ہے مگر

مجھے نہیں ملا کہ یہ لفظ عربی کے استعمال میں کہیں بھی متعدی استعمال ہوا ہو مگر عجیب بات ہے کہ تمام کے تمام مفسرین

خَسِيْرٌ وَا کے معنی اَهْلَكُوْا کرتے ہیں لیکن تاج العروس والا کہتا ہے وَلَا يُسْتَعْمَلُ هٰذَا الْبَابُ اِلَّا اَلَا زِمًا كَمَا

صَرَّحَ بِهٖ اَئِمَّةُ التَّنْزِيْرِ کہ سارے اہل تصریف اس کو لازم ہی قرار دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ

غلطی پر ہیں کیونکہ قرآن کریم میں متعدی استعمال ہوا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ لازم ہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہماری

لغتیں مذہبی اثر کے نیچے ہیں اور تفسیروں کے ماتحت لغت کو بھی کر دیا ہے جس سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا بلکہ نقصان

پہنچا ہے اور کئی معارف قرآنیہ اس تصرف کی وجہ سے لوگوں کی نظر سے مخفی ہو گئے ہیں کاش کوئی شخص ہمت کر کے ایسی

لغت تیار کرے جو تفسیروں کے اثر سے بالکل آزاد ہوتا کہ لوگ اس نا جائز دباؤ سے بالکل آزاد ہو جائیں اور

قرآن مجید کے سمجھنے میں لوگوں کو سہولت حاصل ہو جائے۔

حَیْرَہ کے لفظ کے متعلق ہی اگر تفسیروں کا رُعب ماننے کی بجائے عربی کے قواعد پر نظر کی جائے تو اسے خلاف محاورہ متعدی بنانے کی ضرورت نہ تھی ہم اس کے معنے اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس طرح سَفِیْہۃٌ نَفْسَہُ کے کرتے ہیں یعنی حرف جار محذوف تصور کرتے ہیں اور جملہ کو یوں تصور کرتے ہیں کہ سَفِیْہۃٌ فِی نَفْسِہِہِ یا تمیز خیال کرتے ہیں جو شاذ و نادر کے طور پر معرفہ بھی آجاتی ہے اسی طرح ہم حَیْرَہُ وَاَنْفُسُہُمْ کے بھی یہ معنے کر سکتے ہیں کہ اپنے نفسوں کے بارہ میں گھانا میں پڑ گئے اور یہ معنے دوسرے معنوں سے زیادہ زور دار بھی ہو جاتے ہیں اور یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کا سب فریب خود اپنے ہی نفسوں کے خلاف پڑا ہے تمیز کی صورت میں بھی زور قائم رہتا ہے اور معنے اوپر والے ہی رہتے ہیں۔

تفسیر - خروج باب ۲۰ میں لکھا ہے:-

”اور سب لوگوں نے دیکھا کہ بادل گرے، بجلیاں چمکیں، قرنائی کی آواز ہوئی، پہاڑ سے دھواں اُٹھا اور سب لوگوں نے جب یہ دیکھا تو بے اور دُور جا کھڑے رہے تب انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہی ہم سے بول اور ہم سنیں، لیکن خدا ہم سے نہ بولے کہیں ہم مرنے جاویں۔

(خروج باب ۲۰ آیت ۱۸، ۱۹)

اسی طرح استثناباب ۵ میں لکھا ہے:-

”خداوند نے تمہارے ساتھ رو برو پہاڑ کے اوپر آگ میں سے کلام کیا۔ اس وقت میں نے تمہارے اور خداوند کے درمیان کھڑے ہو کے خداوند کا کلام تم پر ظاہر کیا کیونکہ تم آگ کے سبب ڈر گئے تھے اور پہاڑ پر نہ چڑھے۔“

(استثناباب ۵ آیت ۳-۵)

ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے کلام سے بالمشافہ مشرف کرنے کے لئے بلایا تو وہ زلزلہ کو دیکھ کر ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ پس تَوَلَّیْتُمْ کے معنے اس جگہ پر ظاہر میں ہٹنے کے ہیں۔ وہ لوگ بھاگ کر پیچھے چلے گئے اور خدا تعالیٰ کا کلام سننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اُس وقت تمہارا نام نبی کی امت میں سے کاٹ دیا جاتا اور تم گھانا پانے والوں میں سے ہو جاتے مگر اللہ تعالیٰ نے اُس وقت تم کو کوئی سزا نہ دی۔ لیکن جیسا کہ استثناباب ۱۸ آیت ۱۸، ۱۹ سے ثابت ہے ان کے کلام الہی سننے سے انکار کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ موسیٰؑ کی مانند جو آئندہ نبی ہوگا وہ ان میں سے نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ ان کے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل میں سے ہوگا۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا

اور تم ان لوگوں (کے انجام) کو جنہوں نے تم (اہل کتاب) میں سے (ہوتے ہوئے) سبت کے معاملہ میں زیادتی

لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيْنَ ﴿۶۶﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ

کی تھی یقیناً جان چکے ہو اس پر ہم نے ان سے کہا کہ (جاؤ) ذلیل بندر ہو جاؤ۔ پس ہم نے اس (واقع) کو ان

يَدِيهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۶۷﴾

(لوگوں) کے لئے بھی جو (قوع کے وقت) موجود تھے اور اس (قوع) کے بعد آنے والے لوگوں کے لئے

(موجب) عبرت اور متقیوں کے لئے (موجب) نصیحت بنا دیا۔

حَلُّ لُغَاتٍ - اِعْتَدُوا اِعْتَدَى سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اِعْتَدَى کے معنی کے لئے دیکھو

حَلُّ لُغَاتٍ سُوْرَةُ هَذَا آيَتِ نَمْبَرُ ۶۲ -

السَّبْتُ سَبَتَ الرَّجُلُ (يَسْبُتُ وَيَسْبِتُ) سَبْتًا کے معنی ہیں۔ اسْتَرَاحَ آرام کیا اور سَبَتَ

الشَّيْءُ کے معنی ہیں قَطَعَهُ کسی چیز کو کاٹنا۔ سَبَتَ الرَّأْسُ - حَلَقَهُ سر کو مونڈنا۔ نيز سَبَتَ کے ایک معنی قَامَ

بِأَمْرِ السَّبْتِ کے بھی ہیں۔ یعنی سبت کا دن منایا (اقرب) نيز السَّبْتُ کے معنی ہیں الدَّهْرُ زمانہ۔ يَوْمٌ مِّنْ أَيَّامِ

الْأُسْبُوعِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْأَحَدِ ہفتہ کا دن (اقرب) سَبَتَ کو سَبَتَ اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن اہل کتاب

کام وغیرہ چھوڑ دیتے تھے۔

خَاسِيْنَ خَاسِيٌّ کی جمع ہے جو خَسَأَ سے بنا ہے، کہتے ہیں خَسَأْتُ الْكَلْبُ فَخَسَأَ أَمْرٌ زَجَرْتُهُ

مُسْتَهْيِيئًا بِهِ فَانْتَزَجَرَ کہ میں نے کتے کو اس کے ذلیل ہونے کی وجہ سے دھتکارا اور وہ دُور ہو گیا (تاج) خَسَأَ الرَّجُلُ

الْكَلْبُ أَمْرٌ طَرَدَهُ كَتَّةٌ كَوْدَهْتَكَارًا - الْخَاسِيُّ مِنَ الْكِلَابِ الْمُبْعَدُ الْمَطْرُودُ وَلَا يُتْرَكُ أَنْ يَدْنُوَ مِنَ النَّاسِ

یعنی جب خَاسِيٌّ کا لفظ کسی کتے کے متعلق استعمال کریں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ دُور کیا ہوا، دھتکارا ہوا، جس کو

لوگوں کے نزدیک نہ آنے دیا جائے۔ (اقرب)

نَكَالًا نَكَالٌ بِفُلَانٍ کے معنی ہیں صَنَعَ بِهِ صَنِيعًا يَخْذَرُ غَيْرُهُ إِذَا رَأَاهُ کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا

کہ دوسرا اس کو دیکھ کر ہوشیار ہو جائے۔ وَالنَّكَالُ اسْمٌ مَا يُجْعَلُ عِبْرَةً لِغَيْرِهِ۔ ہر اس چیز کا نام نکال رکھیں گے جو کسی کے لئے عبرت کا موجب بن جائے۔ (اقرب)

مَوْعِظَةً الْمَوْعِظَةُ (نصیحت) وَعَظٌ کا اسم مصدر ہے۔ کہتے ہیں وَعَظُهُ: نَصَحَهُ وَذَكَرَهُ مَا يَلِيهِ الْقُلُوبُ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ یعنی اس کو ایسی نصیحت کی جو دل کو نرم کر دے کہیں سزا کی باتیں بتا دے اور کہیں کامیابی کے راستے بتا دے۔ وَ فِي الْمَصْبَاحِ مَا يُسَوِّفُهُ إِلَى التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ وَاصْلَاحِ السَّيِّئَةِ وَ أَمْرِهِ بِالطَّاعَةِ اور مصباح کے مصنف نے وَعَظٌ کے یہ معنی لکھے ہیں کہ ایسی باتیں کسی کو سننا جو اس کو اللہ کی طرف رجوع کروانے اور عادات و اطوار کو درست بنانے اور خدا کے احکام کی فرمانبرداری کروانے کا موجب ہوں (اقرب) خلیل نحوی ادیب نے وَعَظٌ کے معنی هُوَ التَّنْذِيرُ بِالْخَيْرِ فِيهَا يَرِقُّ لَهُ الْقَلْبُ کے لئے ہیں یعنی وعظ ایسی باتوں کے یاد دلانے کو کہتے ہیں جن کے سننے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے (مفردات) كَلَامُهُ الْوَاعِظِ مِنَ النَّصِيحِ وَالْحَثِّ وَالْإِنْذَارِ یعنی الْمَوْعِظَةُ اس کلام کو کہتے ہیں جو نہایت اخلاص پر مبنی ہو اور نیک باتوں کی طرف ترغیب دے اور بُری باتوں سے ڈرائے۔ (اقرب)

الْمُتَّقِينَ الْمُتَّقِينَ اور الْمُتَّقُونَ يَتَّقِعِ سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ الْمُتَّقِينَ۔ متقی کی جمع ہے جو اتَّقَى کا اسم فاعل ہے۔ إِتْقَاءٌ وَفِي سے بابِ إِفْتِعَالٍ کا فعل ماضی ہے وَفِي کے معنی ہیں بچایا، حفاظت کی۔ اور إِتَّقَى کے معنی ہیں۔ بچا۔ اپنی حفاظت کی (اقرب) مگر اس لفظ کا استعمال دینی کتب کے محاورہ میں معصیت اور بُری اشیاء سے بچنے کے ہیں اور خالی ڈر کے معنوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ وَقَائِيَّةٌ کے معنی ڈھال یا اس ذریعہ کے ہیں جس سے انسان اپنے بچاؤ کا سامان کرتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اِتْقَاءٌ جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو انہی معنوں میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی نجات کے لئے بطور ڈھال بنا لیا۔

قرآن کریم میں تقویٰ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے گزرو تو کیا کرتے ہو، اس نے کہا یا اس سے پہلو بچا کر چلا جاتا ہوں یا اس سے پیچھے رہ جاتا ہوں یا آگے نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر طرح اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے ایک شاعر (ابن المعتز) نے ان معنوں کو لطیف اشعار میں نظم کر دیا ہے وہ کہتے ہیں۔

حَلَّ الدُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا ذَاكَ التَّقَى

وَاصْنَعْ كَمَا شِئْتَ فَوْقَ أَرْضِ الشُّوْلِ يَخْذَرُ مَا يُزِي
لَا تَخْفِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَطَى

(ابن کثیر سورۃ بقرہ زیر آیت ۳)

یعنی گناہوں کو چھوڑ دے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے یہ تقویٰ ہے اور تو اُس طریق کو اختیار کر جو کانٹوں والی زمین پر چلنے والا اختیار کرتا ہے یعنی وہ کانٹوں سے خوب بچتا ہے اور تو چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھ کیونکہ پہاڑ کنکروں سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔

تفسیر۔ سبت کے معنی سبت کے معنی حلِّ لغات میں بتائے جا چکے ہیں کہ زمانہٴ راحت۔

کاٹنے۔ مونڈنے۔ سبت کا دن منانے اور ہفتہ کے دن کے ہوتے ہیں۔ یہ سارے معنی ہی اس آیت پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔ اگر تو اس آیت کو گزشتہ آیات سے ملا کر نہ پڑھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب ہم نے تم کو مال و دولت اور آرام و آسائش دی تو تم نے شرارتیں شروع کر دیں اس لئے ہم نے تم کو ذلیل کر دیا۔ اور اگر سابق آیات سے ملا کر پڑھا جائے تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ طُور کے موقع پر جو احکام تمہیں دئے گئے تھے اُن میں سے ایک حکم سبت منانے کا بھی تھا۔ تم نے اُس حکم کی بھی نافرمانی کی۔

سبت منانے کا حکم بائبل میں سبت کا ذکر استثناء باب ۵ آیت ۱۲ تا ۱۵ میں آتا ہے۔ لکھا ہے:-

”سبت کے دن کو یاد کرتا کہ تو اُسے مقدس جانے جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم کیا ہے۔“

چھ دن تک تو محنت کر اور اپنے سب کام کیا کر۔ پر ساتواں روز خداوند تیرے خدا کے سبت کا ہے تو اُس دن کوئی کام نہ کر، نہ تو، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیری کوئی مواشی اور نہ مسافر جو تیرے پھانکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی تیری طرح سے آرام کریں۔ یہ بھی یاد کر کہ تو مصر کی زمین میں غلام تھا۔ اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زور آور ہاتھ اور بڑھائے ہوئے بازو سے تجھے نکال لایا۔ اس لئے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا کہ تو سبت کے دن کی محافظت کر۔“

اسی قسم کا مضمون خروج باب ۲۰ آیت ۸ تا ۱۱ میں بھی ہے۔ اوپر کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹکڑا واقعی

اُن ٹکڑوں میں سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں سے اب تک محفوظ چلے آتے ہیں۔ انسانی اعمال کی حکمت اور غرباء کی خبر گیری کی نہایت اعلیٰ درجہ کی تعلیم اس میں موجود ہے۔

سبت جس کا عبرانی لہجہ ثبات ہے اس کے معنی عربی کی طرح (دیکھو حَلِّ لُغَات) عبرانی میں بھی آرام کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے معنی عبرانی زبان میں قطع کرنے اور ختم کرنے کے بھی ہیں۔ (انسائیکلو پیڈیا بلیکا زیر لفظ Sabbath نیز Hebrew and English Lexicon of the Old Testament) اور عربی زبان میں بھی یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ سَبَدَتِ الشَّيْءَ قَطَعَهُ اس چیز کو کاٹا۔ سَبَدَتِ رَأْسَهُ حَلَقَهُ۔ اس کا سر مونڈا۔ عبرانی زبان کے واقفوں کا عام طور پر خیال یہ ہے کہ ہفتے کے دن کا نام سبت آرام کی وجہ سے نہیں رکھا گیا۔ بلکہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ اُس ہفتے کے کام کو ختم کرتا ہے۔

پُرَانِي بَابِي زَبَان مِیں سَبَدَةٌ دَعَا تَوْبَةً كَو كَهْتِه تَه اس لئے بعض (جیسیسن) کے نزدیک یہ اسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ توبہ اور دعا کا دن ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا بلیکا جلد ۴ کالم نمبر ۴۱۷۳)

جیسا کہ بائبل کے حوالہ سے ظاہر ہے سبت کا دن غلاموں، ملازموں اور قبیلہ کے لوگوں کو آرام دلانے اور عبادت کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ یہ دونوں حکمتیں نہایت اہم ہیں اور یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کو مد نظر رکھا جائے۔ یہودیوں میں سبت ہفتہ کو منایا جاتا تھا اور بائبل سے ہفتہ کا دن ہی اس بات کے لئے ثابت ہے (اس لئے سبت کے معنی ہی ہفتہ کے دن کے ہو گئے ورنہ اصل معنی سبت کے یہی ہیں کہ جس دن روزمرہ کے کام چھوڑ دیئے جائیں اور اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ بنو اسرائیل کا سبت ہفتہ کو ہوتا ہے اور مسلمانوں کا جمعہ کو) کیونکہ لکھا ہے جمعہ کے دن خدا تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کا کام ختم کیا اور ہفتہ کے دن آرام کیا اور اسی کی یاد میں یہودیوں کو سبت منانے کا حکم دیا چنانچہ آتا ہے ”خداوند نے چھ دن میں آسمان اور زمین، دریا اور سب کچھ جو اُن میں ہے بنایا اور ساتویں دن آرام کیا اس لئے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔“

(خروج باب ۲۰ آیت ۱۱ نیز دیکھو پیدائش باب ۲ آیت ۲۳)

عیسائیوں کا ہفتہ کے دن کی بجائے اتوار کو چھٹی کا دن منانے کی وجہ عیسائیوں نے بھی سبت کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے لیکن اس کے لئے اتوار کا دن قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض یورپین اقوام اور بادشاہوں نے جب عیسائیت کی طرف رغبت ظاہر کی تو انہوں نے اپنے عیسائی ہونے کی ایک شرط یہ رکھی کہ چھٹی کا دن اتوار قرار دیا جائے اور ان لوگوں کو عیسائی بنانے کے لالچ میں پادریوں نے اُن کی اس دعوت کو قبول کر لیا اور اس طرح سبت کی بے حرمتی میں وہ یہود سے بھی بڑھ گئے کیونکہ یہود تو سبت کے دن کبھی کبھی کوئی فائدے کا کام کر لیا کرتے تھے لیکن عیسائیوں نے ہفتہ کو ہمیشہ کے لئے کام کا دن قرار دے دیا اور آرام کے دن کے لئے اتوار کو چن

لیا۔ اگر خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایسا ہوتا تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی مگر یہ جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت نہیں ہوا۔ اپنی مرضی سے اور حضرت مسیح ناصر علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد ہوا۔ حضرت مسیح ناصرؑ خود سبت کا احترام کیا کرتے تھے۔ گو یہودیوں میں جو غلو سبت کے متعلق پیدا ہو گیا تھا اس کے وہ مخالف بھی تھے چنانچہ وہ فرماتے ہیں ”سبت کا دن انسان کے واسطے ہوا نہ انسان سبت کے دن کے واسطے“ (مرقس باب ۲ آیت ۲۷) اس کے یہی معنی ہیں کہ اگر حقیقی ضرورتیں پیش آجائیں تو اُس میں سبت کے تفصیلی احکام کا لحاظ نہیں رکھا جاسکتا اور نہ دین کے کاموں کو سبت روک سکتا ہے۔ یہودیوں میں یہ یہود خیال پیدا ہو گیا تھا کہ سبت کے دن تبلیغ کرنی، وعظ کرنا اور دوسرے نیکی کے کام کرنے بھی ناجائز ہیں حالانکہ سبت کے دن تو صرف دنیوی کاموں سے روکا گیا تھا۔

انجیل میں سبت منانے کا حکم اور عیسائیوں کا اس کی خلاف ورزی کرنا ابتدائی ایام میں عیسائی اقوام برابر سبت کا دن مناتی چلی آئی ہیں (دیکھو انسائیکلو پیڈیا بلیکا زیر لفظ Sabbath اور جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Sabbath and Sunday) ہاں حواریوں کے زمانہ سے ہی غیر یہودی قوموں میں اتوار کا احترام بھی جو کہ آریں نسلوں کا مقدس دن ہے ساتھ ساتھ جاری تھا چنانچہ پولوس نے قرنتیوں کے نام جو پہلا خط لکھا اُس میں تحریر ہے کہ:

”ہر ہفتہ کے پہلے دن (یعنی اتوار کو) تم میں سے ہر کوئی اپنی آمدنی کے موافق جہاں تک فائدہ اٹھایا کچھ جمع کر کے اپنے پاس رکھے تاکہ جب میں آؤں تو چندہ کرنا نہ پڑے۔“ (باب ۱۶ آیت ۲) اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اتوار کے دن وہ لوگ چھٹی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اعمال باب ۲۰ میں پولوس کے ذکر میں لکھا ہے ”اور ہفتہ کے پہلے دن (اتوار کو) جب شاگرد روٹی توڑنے کو اکٹھے آئے پولوس نے کہ دوسرے دن جانے کو تھا ان کے ساتھ کلام کیا اور اپنا کلام آدھی رات تک بڑھایا۔“ (آیت ۷) اس حوالہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیر یہودی قوموں کے اجتماع عام طور پر اتوار کے دن ہوا کرتے تھے شائد اس لئے کہ وہ اُن کی قومی چھٹی کا دن تھا۔ آج کل بھی جہاں جہاں مسلمان انگریزی حکومت کے ماتحت ہیں انہیں اپنے جلسے اتوار کے دن کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہی چھٹی کا دن ہے۔

بعض مصنفین لکھتے ہیں کہ اتوار کے دن عیسائیوں نے سبت کا منانا اس لئے شروع کیا تاکہ غیر یہودی قوموں میں اُن کی مخالفت نہ پیدا ہو۔ برنباس کے خط میں لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح اس دن مُردوں میں سے جی اُٹھے تھے۔ (جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Sabbath and Sunday) بہر حال کوئی وجہ بھی ہو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف تھا۔ اسلام نے بھی سبت کا ایک دن مقرر فرمایا ہے اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن کسی قیاس کے مطابق مسلمانوں نے مقرر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مقرر کیا ہے اس لئے ان پر وہ اعتراض نہیں پڑتا جو

عیسائیوں پر پڑتا ہے۔

اسلام نے جمعہ کے دن کے لئے یہ خصوصیتیں مقرر فرمائی ہیں۔ اُس دن چھٹی رکھی جائے۔ عبادت زیادہ کی جائے اُسے قومی اجتماع کا دن بنایا جائے۔ نہایا دھویا جائے۔ صفائی کی جائے۔ مریضوں کی عیادت کی جائے۔ اسی طرح اور قومی اور تمدنی کام کئے جائیں۔ ہاں جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد اجازت دی گئی ہے کہ لوگ اپنے مشاغل میں لگ جائیں مگر زیادہ مناسب اسی کو قرار دیا ہے کہ بعد میں بھی وہ ذکر الہی میں مشغول رہیں۔

سبت کی بے حرمتی کی سزا میں مسلمانوں کے لئے عبرت افسوس ہے کہ مسلمانوں نے بھی سبت کی قدر نہیں جانی اور جمعہ کی نماز سوائے بڑے شہروں کے ایک عرصہ تک ہندوستان سے بالکل مٹ رہی۔ اب کچھ کچھ اس طرف توجہ ہے مگر اب بھی سو میں سے ایک مسلمان صرف جمعہ کی نماز بھی ادا کرنے کے لئے تیار نہیں اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔ گورنمنٹ نے بصد مشکل بانی سلسلہ احمدیہ کے میموریل اور جماعت احمدیہ کی کوششوں کے بعد جمعہ کی نماز کے لئے ایک گھنٹہ کی چھٹی منظور کی ہے مگر افسوس کہ مسلمان اب بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بعض جگہ پر تو دوسرے مسلمان صاف طور پر گورنمنٹ کے افسروں سے کہہ دیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لئے چھٹی کی درخواست محض احمدیوں کی شرارت ہے ہم لوگ اس میں شامل نہیں۔

عیسائیوں میں اب پھر یہ تحریک شروع ہے کہ اتوار کی جگہ ہفتہ کو سبت منایا جائے۔ یہ لوگ سیونٹھ ڈے ایڈونٹسٹس (Seventh-day Adventist) کہلاتے اور اتوار کی بجائے ہفتہ کو سبت مناتے ہیں۔

سبت کے دن یہودیوں کی نافرمانیاں کرنے کا ذکر قرآن مجید میں اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے سبت کے دن زیادتیاں کیں۔ وہ زیادتیاں کیا تھیں۔ اس کا جواب خود قرآن کریم میں ہی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ سَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيَهُمْ حَيْثَ تَأْتِيَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَّ يَوْمًا لَا يُسَبِّتُونَ اِلَّا تَأْتِيَهُمْ كَذٰلِكَ نَبَا لُوْهُم بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ۔ (الاعراف: ۱۶۴) یعنی اُن سے پوچھا اُس بستی کی نسبت جو سمندر کے کنارے پر تھی جبکہ وہ زیادتی کیا کرتے تھے سبت کے متعلق۔ اُس وقت کہ ان کی مچھلیاں اُن کے سبت کے دن سامنے آ جاتی تھیں اور جس دن سبت نہ ہوتا تھا سامنے نہ آتی تھیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی لوگ تجارتی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتہ کو مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے اس آیت میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں یہ کسی غیر معمولی معجزے کا ذکر نہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے سمجھا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ بعض میٹر لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقدس ایام میں

اپنے جانوروں وغیرہ کو بھی کچھ کھانا ڈال دیتے ہیں اور جانور بھی ان اوقات کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے سبت کے دن نیک لوگ کنارے پر آنا وغیرہ ڈال دیتے ہوں گے تاکہ یہ اُن کی طرف سے صدقہ ہو۔ مچھلیاں اُس دن خصوصیت کے ساتھ وہاں جمع ہو جاتی ہوں گی۔ جب شریروں نے یہ نظارہ دیکھا تو انہوں نے سبت کے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں۔ ہندو لوگ بھی اپنے مقدس گھاٹوں پر آنا اور دانے وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ ان گھاٹوں پر جا کر دیکھو کہ ان اوقات میں جبکہ آنا یا دانے ڈالے جاتے ہیں مچھلیاں اتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ تعجب آتا ہے اور اُس جگہ سے ہٹ کر یا دوسرے اوقات میں دیکھو تو مچھلیاں نظر ہی نہیں آتیں۔

بائبل میں سبت کے متعلق یہود کی بعض نافرمانیوں کا ذکر بائبل میں بھی سبت کے متعلق یہود کی بعض نافرمانیوں کا ذکر آتا ہے۔ نحیہ باب ۱۳ میں لکھا ہے:

”اُنہی دنوں میں میں نے کتنوں کو دیکھا جو سبت کے دن انگوروں کو کولہوؤں میں چکلتے ہیں اور پُولے باندھتے اور گدھے لادتے ہیں۔ اسی طرح مے اور انگور اور انجیر اور سارے بوجھ دیکھے جنہیں وے سبت کے دن یروشلم میں لائے اور جس دن وے سیدھا بیچنے لگے اُن کی بدی اُن پر جتائی اور وہاں صور کے لوگ بھی تکتے تھے جو مچھلی اور ہر طرح کی چیزیں لاکے سبت کے دن یہود اور یروشلم کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے۔“ (آیت ۱۶، ۱۵) سبت کی بے حرمتی کا ذکر یرمیاہ باب ۱۷- آیت ۱۹ تا ۲۷ اور حزقی ایل باب ۲۲ آیت ۸ میں بھی آتا ہے۔

گوْنُوْا قِرْدَةً خَیْبِیْنَ کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیات کے پیش نظر اس آیت کے معنی کرنے میں بعض مفسرین نے دھوکا کھایا ہے اور قِرْدَةَ کے لفظ سے جس کے معنی بندر کے ہیں یہ سمجھا ہے کہ اس آیت میں سبت کے حکم کی نافرمانی کرنے والی قوم کے بندر بن جانے کی خبر دی گئی ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں یہ واقعہ اس جگہ کے علاوہ دو اور جگہ پر بھی بیان کیا گیا ہے اور ان دونوں مقامات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ درحقیقت بندر نہ بنے تھے بلکہ بندر کا لفظ تشبیہ اور مثال کے لئے آیا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت ۶۲، ۶۱ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ هَلْ اُنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَمْبُؤْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضَبَ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِیْرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ ۗ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا ۗ وَاَصْلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِیْلِ۔ وَاِذَا جَاءَ وَاوَكْمُ قَالُوْا اٰمَنَّا وَقَدْ دَخَلْنَا بِالْکُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ۗ وَاِنَّهٗ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا یَكْتُمُوْنَ۔ (المائدہ: ۶۲، ۶۱) یعنی ان لوگوں سے کہہ دے کہ کیا میں تم کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس جماعت سے زیادہ بُری جزا پانے والی جماعت کی خبر دوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اُن پر غضب کیا اور اُن میں سے ایک جماعت کو بندر اور سُور بنا دیا اور جو

لوگ کہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ بُرے ہیں اپنے رہنے کی جگہ کے لحاظ سے اور زیادہ گمراہ ہیں سیدھے راستے سے۔ اور جب یہ لوگ آتے ہیں تمہارے پاس کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ یہ لوگ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ واپس چلے گئے اور اللہ اس چیز کو جسے یہ چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ وہ جماعت جس پر خدا تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی تھی اور اسے بندر اور سور بنا دیا تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتی تھی اور آپ کے پاس آ کر نفاق سے یہ بھی کہہ دیا کرتی تھی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ اُس کے دل میں کُفر بھرا ہوتا تھا۔ اور یہ بات قرآن کریم سے اور احادیث اور تاریخ سے ثابت ہے کہ یہ جماعت آدمیوں کی ہی تھی نہ کہ بندروں اور سوروں کی۔ پس معلوم ہوا کہ بندر بنا دینے سے مراد یہ نہیں کہ وہ شکلًا اور ماہیتًا بندر بن گئے تھے بلکہ اس سے مراد ان کا بندروں کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر لینا تھا۔

دوسرا موقع جہاں بنی اسرائیل کے بندر بنائے جانے کا ذکر ہے سورہ اعراف کی آیات ۱۶۷ تا ۱۶۹ ہیں جن میں سبت کے متعلق بنی اسرائیل کی سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهَوُّا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَدَدَةً خَاسِئِينَ - وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّكَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ - وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَهُمْ ذُنُوبٌ ذَلِكُمْ وَكَانُوا لَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَّاهُمْ يَرْجَعُونَ - (الاعراف: ۱۶۷-۱۶۹) یعنی جب ان لوگوں نے اُس چیز میں کہ جس سے روکے گئے تھے سرکشی کی ہم نے انہیں کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اور جب تیرے رب نے حکم دیا کہ میں ضرور قیامت کے دن تک اُن پر ایک جماعت کو مقرر کروں گا جو اُن کو بہت بُرا عذاب دے گی۔ تیرا رب بڑا جلدی عذاب دینے والا ہے اور وہ ضرور بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے اُن کو نفعوں اور نقصانوں دونوں کے ذریعہ آزما یا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔

ان آیات پر غور کر کے ہر ایک شخص باسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بندر حقیقی بندر نہیں بلکہ اس نافرمان قوم کو بندروں سے مشابہت دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ وہ جماعت قیامت تک باقی بھی رہے گی اور اس میں نیکو کار اور بدکار بھی ہوتے رہیں گے اور قسم قسم کے امتحانات کے ذریعہ سے اُن کو نیکی کی طرف واپس لانے کی تدابیر بھی کی جائیں گی۔ غرض قرآن کریم نے چونکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کے بندر بنائے جانے کا مطلب خود ہی بتا دیا ہے اس لئے اس کے مخالف کسی اور روایت کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

یہودی حقیقی بندر نہیں بنے تھے بلکہ ان کے اخلاق بندروں کے سے ہو گئے بعض لوگ اس تشریح

کو سن کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا تعجب ہے کہ یہود سے مسخ ہو کر بندر بننے والے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہوں۔ اوّل تو جو تشریحات قرآن کریم کی بتائی ہوئی اوپر بتائی گئی ہیں وہ اس توجیہ کی اجازت ہی نہیں دیتیں۔ دوسرے جو لوگ ائمہ سابق میں سے اس قسم کے مسخ کے قائل ہیں وہ خود بھی اسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک زندہ رہے تھے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے

فَجَعَلُوا قِرْدَةً فَوَاقًا ثُمَّ هَلَكُوا مَا كَانَ لِلْمَسْخِ نَسْلٌ یعنی یہود ذرہ سی دیر کے لئے بندر بنائے گئے تھے پھر ہلاک ہو گئے تھے اور مسخ شدہ کی نسل نہیں چلا کرتی۔ اسی طرح ضحاک نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے۔

فَمَسَخَهُمُ اللَّهُ قِرْدَةً فَوَاقًا ثُمَّ هَلَكُوا مَا كَانَ لِلْمَسْخِ نَسْلٌ اِذَا الْاِيْمَانِيُوْنَ فِي الْاَرْضِ اِلَّا ثَلَاثَةٌ اَيَّامٍ قَالَ وَلَمْ يَعِشْ مَسْخٌ قَطُّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ وَلَمْ يَنْسُلْ (ابن کثیر زیر آیت ہذا) یعنی ضحاک حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب سے مسخ کر دیا پھر فرماتے تھے ایسے لوگ دنیا کے پردہ پر تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہتے تھے پھر ضحاک نے کہا کہ کبھی کوئی مسخ شدہ مخلوق تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی اور مسخ ہونے کے بعد نہ وہ کھانا کھاتی ہے اور نہ وہ پانی پیتی ہے اور نہ اس کی نسل چلتی ہے۔ اسی حوالہ سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مسخ کے قائل ہیں ان کے نزدیک مسخ کے بعد تین دن سے زیادہ کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب یہ مسئلہ ہے تو جن مسخ شدہ لوگوں کے بارہ میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ قیامت تک ان پر لوگ مسلط رہیں گے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آیا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے وہ جسمانی طور پر مسخ شدہ کس طرح ہو سکتے ہیں۔ بقرہ محال اگر جسمانی مسخ کو مان لو تو بھی قرآن کریم میں جن لوگوں کے مسخ ہونے کا ذکر ہے ان کی نسبت تو اوپر کے حوالوں کی روشنی میں ماننا پڑے گا کہ وہ تو روحانی طور پر مسخ ہوئے تھے جسمانی طور پر بندر سوار ہرگز نہ بنے تھے۔

قرآن کریم کی مذکورہ بالا تشریح کے علاوہ ایک اور بھی ثبوت ہے جس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ بندر سے حقیقی بندر مراد نہیں ہیں اور وہ تو اعد زبّان کی شہادت ہے۔ عربی گرامر کا یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ و ن اور ی ن کو صرف ان جمع کے صیغوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جو ذوی العقول کے متعلق ہوں یا جوان کی صفات ہوں اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قِرْدَةً کی صفت خَاسِبِيْنِ بیان فرمائی ہے جس کے آخر میں ی ن ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قِرْدَةً سے وہ بندر مراد نہیں جو حیوانات کی قسم سے ہیں کیونکہ اگر وہ مراد ہوتے تو قِرْدَةً کی صفت بجائے خَاسِبِيْنِ کے خَاسِبِيْنَةً آتی۔ لیکن چونکہ قِرْدَةً کی صفت خَاسِبِيْنِ آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندر

حقیقی بندر نہ تھے۔

علماء سلف کا اس بات کی تائید کرنا کہ یہودی حقیقی بندر نہ بنے تھے جو معنی ہم نے اوپر کئے ہیں وہ علماء سلف سے بھی مروی ہیں چنانچہ مجاہد جو مفسرین کے سردار مانے جاتے ہیں اور تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں مُسِيخَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَمْ يُنَسَخُوا قِرْدَةً وَأَمَّا هُوَ مَثَلٌ صَرَبَهُ اللَّهُ لَهُمْ (ابن کثیر در منثور زیر آیت هذا) یعنی ان کے دل مسخ کر دیئے گئے تھے وہ خود مسخ نہیں کئے گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف ایک مثال کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ قِرْدَةٌ خَاسِئِيَّةٌ کے معنی اَذْلَّةٌ صَاغِرِيَّةٌ کے ہیں یعنی ذلیل، رسوا۔ قتادہ اور ربیع اور ابوما لک کا بھی یہی قول ہے (لغت میں بھی کہتے قِرْدٌ فُلَانٌ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں ذلیل ہو گیا) (ایضاً) اسی طرح دوسرے علماء نے بھی کہا ہے۔ جُعِلَتْ أَخْلَاقُهُمْ كَأَخْلَاقِهَا (مفردات) کہ ان کے اخلاق بندروں جیسے ہو گئے تھے۔

یہودیوں میں بندروں کی تین خاصیات کا پیدا ہو جانا بندر بنا دینے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی قرآن کریم سے ہی ظاہر ہے۔ اول تو وہ ذلیل ہو گئے جس طرح بندروں کو لوگ پکڑ کر نچاتے پھرتے ہیں اور جس طرح قلندر اُن سے کہتا ہے اُن کو کرنا پڑتا ہے اسی طرح اُن پر بھی ایسی حکومتیں مسلط ہوئیں اور ہوتی رہیں گی جو جس طرح چاہیں گی اُن سے معاملہ کریں گی اُن کا حکومت میں کوئی دخل نہ ہوگا۔

دوم بندر کا کام نقل کرنا ہوتا ہے۔ بندر کی عادت ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے ویسا ہی کرنے لگتا ہے اور بنی اسرائیل میں سے بھی ایک جماعت کے دل ایسے مسخ ہو گئے تھے کہ خشیت اللہ کا نام نہ رہا تھا۔ ان کے تمام کام نقل کے طور پر تھے۔ حقیقت کچھ نہ تھی۔ چھلکے کو پکڑے بیٹھے تھے اور مغز سے بالکل بے خبر تھے حتیٰ کہ ایسا بھی کر لیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمان بن جاتے اور ہم مذہبوں کے پاس جا کر یہودی بن جاتے۔

تیسرے بندروں میں شہوت زیادہ پائی جاتی ہے۔ عربی کا محاورہ ہے فُلَانٌ أَرُؤِي مِنْ قِرْدٍ (لسان و تاج) فلاں شخص بندر سے بھی زیادہ زنا کار ہے۔ یہود میں بھی بدکاری حد سے بڑھی ہوئی ہے حتیٰ کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں یہودی زنان بازار پائی جاتی ہیں۔

وَ اِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ اَنْ تَذَبَحُوا

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو کہ) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے

بَقْرَةً ۱۰ قَالُوا اتَّخَذْنَا هُرُوقًا ۱۱ قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ

انہوں نے کہا کیا تو ہمیں تمسخر کا نشانہ بناتا ہے (موسیٰ نے) کہا میں (اس بات سے) اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ (ایسا

مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۱۲

(فعل کر کے) میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔

حَلَّ لُغَاتٍ ۱۳ هُرُوقًا ۱۴ هُرُوقًا ۱۵ هُرُوقًا ۱۶ هُرُوقًا ۱۷ هُرُوقًا ۱۸
 مصدر ہے یعنی مسخری کرنا۔ مصدر بمعنی اسم مفعول استعمال ہوا ہے اور اَتَّخَذْنَا هُرُوقًا کے معنی یہ ہیں کہ کیا تو ہمیں تمسخر کا نشانہ بناتا ہے۔

اَلْجٰهِلِيْنَ ۱۹ اَلْجٰهِلُوْنَ ۲۰ اَلْجٰهِلِيْنَ ۲۱ جَهَلٌ ۲۲
 اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ اَلْجَهْلُ کے ایک معنی ہیں۔
فِعْلٌ الشَّيْءُ بِمِخْلَافٍ مَا حَقَّقَهُ اَنْ يُفَعَّلَ کسی امر کو مکاحقہ ادا کرنے کے خلاف ادا کرنا۔ (مفردات)

تفسیر۔ بنی اسرائیل چونکہ مصر میں رہتے تھے اور فرعون کی لوگ گائے کی بہت عزت کرتے تھے اس سبب سے اُن کے دل میں بھی گائے کی عظمت آگئی تھی چنانچہ اس سورۃ کی آیت ۵۲ اور خروج باب ۳۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے لئے ایک معبود بنایا تو وہ بچھڑے کی شکل پر ہی تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کے دل میں گائے کی عظمت اُلُوہیت کی عظمت تک پہنچی ہوئی تھی اور چونکہ انبیاء کی اصل غرض دنیا سے شرک کا مٹانا اور اس واحد خدا کے جلال کا دنیا پر ظاہر کرنا ہوتا ہے جو سب مخلوق کا خالق اور مالک ہے اس لئے ضرور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کوئی ایسا سامان بھی کرتی جس سے بنی اسرائیل کے دل سے گائے کی وہ عظمت مٹ جائے جس کی وجہ سے وہ اس کی عبادت تک کے لئے تیار ہو جاتے تھے اور اگر ایسا بندوبست کوئی نہ کیا جاتا تو ضرور تھا کہ کچھ مدت کے بعد بنی اسرائیل پھر گائے کی پرستش کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ پس اس فرض کو پورا کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں گائے کی قربانی کا کئی جگہ حکم دیا گیا ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ جب ایک قوم ایک جانور کو ذبح کرتی رہے گی تو وہ کبھی اُسے اُلُوہیت کی صفات سے متصف نہیں قرار دے سکتی۔

بنی اسرائیل کا مصری اثر کے ماتحت گائے کی تعظیم کرنا اور حضرت موسیٰ ؑ کا اس عظمت کو مٹانے کے لئے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دینا مذکورہ بالا آیات میں بھی اسی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک

موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو گائے کی قربانی کا حکم دیا لیکن انہوں نے بہانہ بنا کر ٹالنا چاہا مگر آخر کار بادلِ نخواستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔

اس جگہ پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک اور ناشکری کا ذکر کرتا ہے۔ گوسالہ سامری کے پوجنے کے بعد اور سخت سزاؤں کے برداشت کرنے کے بعد اور بڑی توبہ اور ندامت کے اظہار کے بعد یہ اُمید نہیں کی جاسکتی تھی کہ ان کی وہی نسل پھر شرک کے قریب چلی جائے گی مگر انہوں نے اس واقعہ سے بھی عبرت حاصل نہ کی اور پھر شرک کی طرف راغب ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بد قسمتی سے کوئی ایسا بیل اُن کے گلے میں پیدا ہو گیا جو نہایت خوشنما اور خوش رنگ تھا۔ چونکہ فرعون کی قوم میں بیل کی پوجا کا عام رواج تھا بلکہ سب سے بڑا مندر مصر کا وہی تھا جس میں ایک بے عیب بیل بطور دیوتا کے رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے اُس اثر کے ماتحت جو مصر میں رہنے کی وجہ سے اُن کے عقائد پر پڑا تھا۔ اُس بیل کو خاص عزت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان میں گائے کی قربانی کا رواج پیدا کیا جائے تاکہ اس قسم کے خیالات کا قلع قمع ہو۔ بنی اسرائیل کے دل میں چونکہ چور تھا انہوں نے فوراً شبہ کیا کہ اس خاص بیل کے متعلق جو ہماری قوم میں چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اُن کا پتہ لگ گیا ہے اور انہوں نے اُس بیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بیل کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ اُس وقت یہود کی مثال بالکل ”چور کی داڑھی میں تنکا“ والی ہو گئی اور انہوں نے بجائے اس کے کہ خاموشی سے ایک بیل ذبح کر دیتے اور اس طرح اُن کے عیب پر بھی پردہ پڑا رہتا اور منشاء الہی بھی پورا ہو جاتا کہ آہستہ آہستہ اُن کے دلوں سے گائے اور بیل کی عظمت بالکل نکل جائے اُلٹا یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوالوں کی بھر مار شروع کر دی کہ ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص بیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے اُس کی ہمیں نشانیاں بتائی جائیں۔ اس جرحِ قدح کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں جو اس مخصوص بیل میں پائی جاتی تھیں جس کا ادب اور احترام بنی اسرائیل میں پیدا ہو رہا تھا انہیں بتا دیں اور وہ خاص بیل انہیں ذبح کرنا پڑا اور شرمندگی الگ اٹھانی پڑی۔

مصری لوگوں میں بیل کو پوجنے کا رواج مصری لوگوں میں بیل کی عبادت اور اُس کی عظمت کے متعلق

تاریخ میں کثرت سے حوالے ملتے ہیں۔ نیوسٹینڈرڈ ڈکشنری میں ایپس (Apis) کے لفظ کے نیچے لکھا ہے یہ ایک مقدس بیل ہوتا تھا جس کی مصری لوگ قدیم زمانہ میں پوجا کرتے تھے اور اپنے بٹوں اور تصویروں میں بھی اُس کی شکلیں دکھاتے تھے۔ وہ مصر کے مقدس جانوروں میں سے سب سے زیادہ اہم ہوتا تھا۔ اُس کی پیدائش کے دن کو

ایک عام چھٹی کے طور پر نلک میں منایا جاتا تھا اور اُس کی موت پر تمام ملک میں ماتم کیا جاتا تھا اور یہ ماتم اُس وقت تک جاری رکھا جاتا تھا جب تک ایک نیا ایس اُن علامتوں کے مطابق جن سے اُس کے خدا کے مظہر ہونے کا ثبوت حاصل ہونے لگتا ہے۔ میمفس (Memphis) مقام پر اس کا بہت بڑا مندر تھا اور ہر ایسے بیل کے مرنے کے بعد اس کی لاش میں مصالے بھر دیئے جاتے تھے اور اُسے ایک چٹان سے کھودے ہوئے مقبرہ میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس (Encyclopedia of Religion and Ethics) صفحہ ۵۰۷ پر لکھا ہے کہ مصریوں میں جانور کی پوجا کرنے کا جو رواج تھا اس میں سب سے اہم مقام بیل کو حاصل تھا۔ اور اس پوجا کا نشان بہت پُرانے زمانہ تک ملتا ہے۔ جب کوئی پُرانا ایس یعنی بیل مر جاتا تھا تو ایک نئے بیل کی تلاش کی جاتی تھی اور جس گلے میں سے یہ بیل ملتا تھا اس کے مالک کو بڑی عزت دی جاتی تھی اور جو شخص اس کو تلاش کرتا تھا اُس کو بھی بہت بڑا انعام دیا جاتا تھا اور بیل کی مادہ کو بھی لاکر میمفس مندر کے ایک اور کمرہ میں رکھا جاتا تھا۔ سال میں صرف ایک دفعہ اُسے گائے سے ملنے کا موقع دیا جاتا تھا اور پھر اُسے گائے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اُس کی پیدائش کا دن ہر سال منایا جاتا تھا۔ اس دن اُسے پبلک کے سامنے لایا جاتا تھا۔ اور لوگ اُس کی زیارت کے لئے جمع ہوتے تھے۔ مصری لوگ اس بیل کے احوال سے آئندہ کی خبریں معلوم کرتے تھے اور بیل کے مندر کے پجاریوں کی خواہوں سے (بزعم خود) فائدہ اٹھاتے تھے بلکہ اس مندر کے سامنے کھلتے ہوئے بچے جو باتیں کرتے تھے اُن سے بھی وہ پیشگوئیوں کا مفہوم نکالتے تھے۔ جب وہ مر جاتا تھا تو اُس کی مومی بنا کر ایک چٹان کی قبر میں محفوظ کر دیتے تھے۔ ایس بیل کی پوجا کسی خاص قبیلہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ سارا ملک اس کی عبادت کرتا تھا۔

اس بیل کی پوجا کی بنیاد کہا جاتا ہے کہ مصر کے دوسرے بادشاہ ”کاکاؤ“ نامی نے شروع کی تھی اور میمفس پر اس کا مندر بنایا تھا اور اس بیل کا نام سورج دیوتا کے باپ فتاح (Ptah) دیوتا کے نام پر ایس رکھا تھا۔ اسی طرح ہلیوپولس مقام پر اس نے ایک دوسرے بیل منپوس Mnevis نامی کی سورج دیوتا کی ایک زندہ یادگار کے طور پر پرستش کروانی شروع کی نیز ہرمان تھس (Hermonthis) مقام پر ایک بیل ”باکھا“ نامی کی پرستش شروع کرائی گئی جسے پہلے منتو (Mentui) دیوتا کا اور بعد میں سورج دیوتا کا مظہر قرار دیا گیا۔

مصریوں میں بیل کی طرح گائے کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ بیل کے سوا اور جانوروں کی پوجا بھی مصر میں ہوتی تھی اور جس قسم کے جانور کا نمائندہ کسی مندر میں رکھا جاتا تھا۔ اُس قسم کے سارے جانوروں کو ہی مقدس سمجھا جاتا تھا گو اُن کی پرستش نہیں کی جاتی تھی۔ اس قسم کے جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی شخص کسی دیوتا کے

ہم قسم جانور کو مارتا تھا تو جان بوجھ کر مارنے کی صورت میں اُس کو قتل کی سزا ملتی تھی اور نادانستہ مارنے کی صورت میں جرمانہ ہوتا تھا۔ میمفس کے دیوتا بیلوں کا سلسلہ مصریوں کے آخری بادشاہوں تک چلنا ثابت ہے چنانچہ رمسیس ثانی کے زمانہ سے لے کر جس کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اُس کے ٹولومک زمانہ Ptolemaic Period تک کم سے کم چوبیس بیل یکے بعد دیگرے میمفس کے مقام پر فلاح کے مندر میں پوجا کے لئے رکھے گئے تھے۔ (دی نائل اینڈ آپشن سیویلا ریزیشن

The Nile and Egyptian Civilization by Moret edition 1927 page 264.265 مصنفہ

اے مارٹ پروفیسر فرانس یونیورسٹی)

مصری لوگوں کا اپنی عبادت گاہ میں خاص قسم کے بیل کو تلاش کر کے رکھنا ان حوالجات سے ثابت ہوتا ہے کہ مصر میں بیل کی پوجا خاص طور پر کی جاتی تھی اور خاص علامتوں والے بیل اس غرض کے لئے چننے جاتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل نے بھی مصر میں رہنے کی وجہ سے مصریوں کے اس خیال کے اثر کو قبول کر لیا تھا۔ جب اتفاقاً اُن کی قوم کے کسی گلہ میں ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت بیل پیدا ہو گیا تو انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ سورج دیوتا نے ان پر بھی نظر ڈالی ہے اور اُن کی قوم کے ایک بیل میں جنم لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس شرک کو دور کرنے کے لئے بیل اور گائے کی قربانی کا حکم دیا۔

لفظ بَقْرَةَ میں بیل اور گائے ہر دو مراد لئے جاسکتے ہیں (قرآن کریم میں بَقْرَةَ کا لفظ ہے جو بیل اور گائے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پر بَقْرَةَ کو مؤنث سمجھ کر گائے کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے مگر یہ لفظ صرف مؤنث پر دلالت نہیں کرتا بلکہ خواہ نہ ہو یا مادہ دونوں کو بَقْرَةَ کہتے ہیں) بائبل میں اس تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا ذکر نہیں آتا جو قرآن کریم نے بیان کی ہے اور میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ بائبل میں کسی تاریخی واقعہ کا ہونا یا نہ ہونا ایک محفوظ الہامی کتاب کے بیان کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا مگر پھر بھی بائبل میں ایک اسی قسم کے بیل کی قربانی کا حکم جس کی علامات قرآن کریم نے بتائی ہیں ضرور پایا جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے۔ ”بنی اسرائیل کو کہہ کہ ایک لال گائے جو بے داغ اور بے عیب ہو اور جس پر کبھی جو آنہ رکھا گیا ہو تھو پلاس لائیں تم اسے الیجزر کا ہن کو دو کہ اُسے خیمہ گاہ سے باہر لے جاوے اور وہ اُس کے حضور ذبح کی جاوے اور الیجزر کا ہن اپنی اُلنگی پر اُس کا لہو لیوے اور جماعت کے خیمہ کے آگے کی طرف اُس کے لہو کو سات مرتبہ چھڑ کے پھر اُس کی آنکھوں کے سامنے وہ گائے جلائی جاوے۔ اس کا چڑا، اُس کا گوشت، اس کا خون، اس کے گو بر سمیت سب جلا یا جاوے پھر کا ہن وہاں

دیودار کی لکڑی اور زوفا اور قمر لے کے اس جلتی ہوئی گائے پر ڈال دے۔ تب کاہن اپنے کپڑے دھوے اور اپنا بدن پانی سے دھوے بعد اس کے خیمہ گاہ میں داخل ہو اور کاہن شام تک ناپاک رہے گا اور وہ جو اُسے جلاتا ہے اپنے کپڑے پانی سے دھوے اور اپنا بدن پانی سے دھوے اور شام تک ناپاک رہے گا اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو جمع کرے اور خیمہ گاہ کے باہر صاف جگہ دھردے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لئے محفوظ رہے گی تاکہ جدائی کے پانی میں ملائی جاوے۔ یہ گناہ سے پاک کرنے کے لئے ہے۔‘ (گنتی باب ۱۹ آیت ۱۹ تا ۲۲) گو اس حوالہ میں ان سوالات و جوابات کا ذکر نہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں پھر بھی ایک ادنیٰ نظر سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ گوبائیل نے اسے ایک عام واقعہ کے طور پر بیان کیا ہے لیکن اصل حکمت اس قسم کی گائے کے ذبح کرنے میں یہی تھی کہ بنی اسرائیل کے دل سے شرک کو مٹایا جائے اور ان کو غیر قوموں کے اثر سے محفوظ کیا جائے اور شائد اسی حکمت کی وجہ سے اُس پانی کا نام جس میں گائے کی راکھ کو ملانے کا حکم تھا جدائی کا پانی رکھا گیا۔

یہ جو بائبل میں آتا ہے کہ ”یہ گناہ سے پاک کرنے کے لئے ہے۔“ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر تم اس قسم کے بئیل یا گائے جن کی مصر میں پوجا کی جاتی تھی بار بار قربان کرو گے تو تمہی تمہارے دل شرک سے پاک ہوں گے۔ بائبل کا جو حوالہ نقل کیا گیا ہے یہودی احادیث کی کتابوں میں اس سے بڑھ کر اس گائے کی تفصیل دی گئی ہیں چنانچہ مٹنا (یہودی حدیثوں کی کتاب) میں اس گائے کے متعلق نہایت تفصیلی بحثیں کی گئی ہیں اور ایک باب کا باب اس کے لئے وقف کر دیا گیا ہے۔ ربی نسیس کی روایت اس کے متعلق یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد پھر ان شرطوں والی گائے کوئی نہیں ملی (انسائیکلو پیڈیا بلیکازیرلفظ Clean and Unclean Holy and Profane) یہودی کتب احادیث کا یہ بیان قرآن کریم کی اس بارہ میں کامل تصدیق کر دیتا ہے کہ درحقیقت ایک خاص گائے کو اُس وقت ذبح کرنا مقصود تھا جس میں بعض غیر معمولی قسم کی خوبصورتی کے نشانات پائے جاتے تھے اور اس قسم کی گائے عام طور پر ہر زمانہ میں نہیں ملتی۔

قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ... الخ میں اس طرف اشارہ کہ دینی امور میں تمسخر نہیں کرنا چاہیے قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دینی امور میں ہنسی اور تمسخر کرنا جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ افسوس بہت سے لوگ اس امر کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور دینی امور میں ہنسی اور مذاق کر کے یا عدم سنجیدگی کا اظہار کر کے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

انہوں نے کہا ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ وہ (گائے) کیسی ہے۔ اس نے (یعنی

انہا بقرۃ لا فارض و لا بکر عوان بین ذلک ط

موسیٰ نے) کہا کہ وہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے کہ نہ تو وہ بڑھیا ہے اور نہ بچھیا (بلکہ) پوری جوان ہے۔ اس (بیان

فَاعْلُوا مَا تُمَرُونَ ﴿۶۹﴾

کردہ حد بندی) کے درمیان کی ہے اس لئے جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اسے بجالاؤ۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ فَارِضٌ فَرَضٌ سے ہے اور فَرَضَتِ الْبَقَرَةُ کے معنی ہیں کَبُرَتْ وَ طَعَنَتْ فِي

السِّنِّ کہ گائے بوڑھی ہوگئی اور لَا فَارِضٌ و لَا بَكْرٌ کے معنی ہیں لَا مُسِنَّةٌ و لَا فَتِيَّةٌ نہ بڑھیا اور عمر رسیدہ ہے اور نہ بچھیا۔ (اقرب)

بِكْرٌ الْبَقَرَةُ الْفَيْيَّةُ۔ نو عمر گائے (اقرب) بِكْرٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَفَارِضٌ و لَا بَكْرٌ هِيَ الَّتِي لَمْ تَلِدْ

یعنی لفظ بِكْرٌ جو آیت لَا فَارِضٌ و لَا بَكْرٌ میں گائے کی صفت میں استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہیں ایسی گائے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو۔ (مفردات)

عَوَانٌ الَّتِصْفُ درمیانی عمری۔ پوری جوان۔ (اقرب)

تفسیر۔ تفصیل کے لئے دیکھو اوپر کی آیت کا نوٹ۔

عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكِ کی تشریح پہلی آیت میں صرف ایک بیل یا گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا مگر چونکہ

یہودیوں کے دل میں چور تھا انہوں نے علامتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو وہ گائے یا بیل

فَارِضٌ یعنی بوڑھا ہو اور نہ بِكْرٌ یعنی بچہ ہو بلکہ عَوَانٌ یعنی جوان ہو۔ بَيْنَ ذَلِكِ کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ اس کے

درمیان اور درمیان کا لفظ ایک چیز پر نہیں بولا جاتا بلکہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ پس یہاں سوال

پیدا ہوتا ہے کہ ”اس کے درمیان“ سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہاں ذَلِكِ سے مراد فَارِضٌ

اور بِكْرٌ کا مجموعہ ہے یعنی مراد یہ ہے کہ اس تفصیل کے درمیان درمیان۔ یا یہ کہ ایک ذَلِكِ محذوف ہے اور مراد یہ

ہے کہ بَيْنَ ذَلِكِ و ذَلِكِ۔

فَأَقْعُوا مَا تُوْمَرُونَ کہہ کر حکم دیا کہ اب زیادہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو جس طرح کہا جاتا ہے کرو۔ شرطیں نہ پوچھو لیکن یہود پھر بھی باز نہ آئے اور جیسا کہ اگلی آیت سے ظاہر ہے انہوں نے پھر اور سوال کر دیا۔

قَالُوا دُعْنَا رَبَّكَ بِبَيْنِنَا مَا لُونَهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

انہوں نے کہا ہماری خاطر اپنے رب سے (پھر) دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے (موسیٰؑ نے) کہا وہ

إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ ۖ فَاقْعُوا لُونَهَا تَسْرُ النَّظِيرِينَ ۝۴۰

فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے اس کا رنگ بہت شوخ ہے (اور) وہ دیکھنے والوں کو بہت پسند آتی ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - صَفْرَاءٌ فَاقْعُوا فَاقْعُوا لُونُهُ کے معنی ہیں اِشْتَدَّتْ صَفْرَتُهُ۔ اس کا رنگ بہت زرد تھا

الْفَاقِعُ - اَلْخَالِصُ الصَّفْرَةَ خَالِصُ زَرْدِي وَالرَّانُ - اَلْخَالِصُ الصَّافِي مِنَ الْاَلْوَانِ اَلْمُتَّوَلِي لَوْنٍ كَانَ خَالِصًا اور صاف رنگ خواہ کوئی ہو۔ وَالْمَشْهُورُ اَنَّهُ صِفَةٌ لِلْاَصْفَرِ اور لفظ فَاقِعٌ زرد رنگ کے لئے بطور صفت کے آتا ہے یعنی جب اَصْفَرُ کے لئے لفظ فَاقِعٌ استعمال کریں گے تو معنی ہوں گے شوخ زرد رنگ۔ (اقرب)

تفسیر۔ انہوں نے پہلے سوالوں پر بس نہ کی بلکہ باوجود الہی اشارہ کے کہ ہم تو تمہاری پردہ پوشی کر رہے ہیں تم زیادہ سوال نہ کرو۔ پھر یہ سوال کر دیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ پس اس کا جواب دیا کہ اُس کا رنگ زرد فَاقِعٌ ہو۔ عربی زبان میں ہر رنگ کے لئے الگ الگ خصوصیت آتی ہے۔ سَوْدَاءٌ سیاہ کو کہتے ہیں لیکن اگر بہت سیاہ مراد ہو تو اس کے لئے حَالِئٌ کی صفت استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح صَفْرَاءٌ کا لفظ زرد رنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر نہایت خوبصورت اور گہرا زرد مراد ہو تو اس کے لئے فَاقِعٌ کی صفت استعمال کرتے ہیں۔

قربانی کی جانے والی گائے کا رنگ بیان کرنے میں بائبل اور قرآن مجید کا اختلاف اور اصل حقیقت بائبل میں اس کے لئے سُرْخٌ گائے کا لفظ آیا ہے لیکن قرآن کریم نے اس کے لئے صَفْرَاءٌ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی اختلاف قرار دیتے ہیں گویا کہ میں بتا چکا ہوں قرآن کریم جیسی محفوظ الہامی کتاب کو اگر بائبل سے اختلاف ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ وہ غیر محفوظ ہے اور یہ محفوظ ہے لیکن یہ اختلاف میرے نزدیک کوئی اختلاف نہیں کیونکہ بعض رنگ باہم مشابہ ہوتے ہیں اور مختلف نقطہ نگاہ سے ان پر مختلف الفاظ بول لئے جاتے ہیں۔ گہرا زرد رنگ بھی ایسے ہی رنگوں میں سے ہے۔ کوئی دیکھنے والا اسے زرد قرار دے دیتا

ہے اور کوئی سُرخ جیسے زعفران ہے۔ زعفران اگر مختلف لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو بعض لوگ اس کا رنگ سُرخ بتائیں گے اور بعض اس کا زرد رنگ قرار دیں گے جس رنگ کی وہ گائے تھی۔ معلوم ہوتا ہے یہودی لوگ اس کو سُرخ کہا کرتے تھے اور عرب کے لوگ اسے زرد کہتے تھے۔ قرآن آخر عربی میں اُتر ہے اور اُس نے عربی کے محاورہ کو ہی استعمال کرنا تھا پس یہ حقیقی اختلاف نہیں بلکہ ایک ہی بات کو مختلف طریق سے بیان کرنے کی ایک مثال ہے۔

تَسْوِيَةُ النَّظِيرَيْنِ میں لفظ **تَسْوِيَةُ** کی ضمیر کا مرجع **تَسْوِيَةُ** کا صیغہ مؤنث آیا ہے حالانکہ **تَسْوِيَةُ** کی ضمیر **لَوْنِ** کی طرف جاتی ہے جو مذکر ہے۔ **لَوْنِ** کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں **يَسْوِيُ** چاہیے تھا نہ کہ **تَسْوِيُ**۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان کا یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی لفظ کسی دوسرے لفظ کی طرف مضاف ہو تو خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ مضاف الیہ کے مطابق اُس کی طرف ضمیر پھیرنی بھی جائز ہوتی ہے۔ فرض کرو مضاف مذکر ہے اور مضاف الیہ مؤنث ہے تو یہ جائز ہوگا کہ باوجود مضاف کے مذکر ہونے کے اس کی طرف مؤنث کی ضمیر پھیر دی جائے۔ چونکہ **لَوْنِ**۔ ہا کی طرف جو مؤنث کی ضمیر ہے مضاف ہوا تھا اس لئے باوجود اس کے مذکر ہونے کے ہا کو مد نظر رکھتے ہوئے **تَسْوِيُ** میں مؤنث کی ضمیر استعمال کی گئی۔

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی عربی زبان میں ضمیر بالمعنی بھی پھیر دی جاتی ہے چونکہ **لَوْنِ** سے مراد **صَفْرَةٌ** تھی (یعنی زرد رنگ) جو مؤنث ہے اس لئے مؤنث کی ضمیر پھیر دی گئی۔

تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ **تَسْوِيُ** کی ضمیر **لَوْنِ** کی طرف نہیں بلکہ **بَقْرَةَ** کی طرف جاتی ہے۔ **تَسْوِيَةُ النَّظِيرَيْنِ** **بَقْرَةَ** کی دوسری صفت ہو۔ مطلب یہ کہ وہ بیل زرد بھی ہے اور ایسا خوبصورت بھی ہے کہ دیکھنے والوں کو پسند آتا ہے۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ لِإِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ

انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر اپنے رب سے (پھر) دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ وہ (گائے) کیسی ہے۔ ہمیں تو

عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَكَاهِتَدُونَ ④

اس قسم کی (سب) گائیں ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں اور (یقین رکھیے کہ) اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت کو قبول کر لیں گے۔

حَلِّ لُغَاتٍ۔ **تَشَابَهَ** الرَّجُلَانِ کے معنی ہیں اَشْبَهَهُ كُلُّهُمَا الْأَخْرَحَتِي التَّبَسُّمًا کہ دو شخص اس

طور پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے کہ ان کا پچانا مشکل ہو گیا۔ (اقرب)

تفسیر۔ پھر بھی وہ لوگ سوال سے باز نہ آئے اور کہا ہمیں کچھ اور شرطیں بتاؤ مگر دل میں چونکہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اس جگہ پر نبیل کی قربانی سے مراد اُس خاص نبیل کی قربانی ہے جو ہماری قوم میں معزز سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اگر یہی حکم ہوا تو ہم اسے ذبح کر ہی دیں گے پس ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا۔ وَإِنَّ إِنْشَاءَ اللَّهِ لَمْهُتَدُونَ۔ کہ خدا نے چاہا تو جو نبیل بھی آپ کہیں گے ہم اسے قربان کر دیں گے۔

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا

(موسیٰ نے) کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے نہ تو جوئے کے نیچے لائے گئی ہے کہ ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی

تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِبَهَةَ فِيهَا ط قَالُوا الْعَن

دیتی ہے۔ بالکل تندرست ہے اس میں کوئی غیر رنگ نہیں (پایا جاتا) انہوں نے کہا (ہاں) اب تو نے (ہم پر)

جَعْتِ بِالْحَقِّ ط فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ع

حقیقت کھول دی ہے چنانچہ انہوں نے اس (گائے) کو ذبح کر دیا۔ گو وہ ایسا کرنے پر آمادہ نہ تھے۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ مُسَلَّمَةٌ سَلَّمَ سے اسم مفعول مُسَلَّمٌ آتا ہے۔ مُسَلَّمَةٌ مُسَلَّمٌ کا مؤنث کا صیغہ

ہے۔ سَلَّمَ اللَّهُ مِنَ الْأَفَاةِ کے معنی ہیں وَقَاةٌ أَيَّاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو بیماریوں، تکالیف اور خرابیوں وغیرہ کی آفات سے محفوظ رکھا۔ (اقرب) پس مُسَلَّمَةٌ کے معنی ہوں گے تندرست۔ جملہ بیماریوں اور خرابیوں سے محفوظ اور بچی ہوئی۔

شِبَهَةٌ وَشَبَيْتُ الشَّيْءَ وَشَبَيْتَا کے معنی ہیں جَعَلْتُ فِيهِ أَثَرًا يُجَالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِهِ۔ میں نے کسی چیز

میں ایسا نشان کر دیا جو اس کے اصل رنگ کے مخالف تھا (مفردات) شِبَهَةٌ۔ كُلُّ لَوْنٍ يُجَالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِ الْفَرَسِ وَغَيْرِهِ یعنی گھوڑے یا کسی اور جانور کے بدن کے اکثر رنگ کے خلاف جو اس کے بدن میں تھوڑا سا رنگ ہو۔ اس کو شِبَهَةٌ کہتے ہیں (مثلاً کسی جانور کے بدن کا سارا رنگ سفید ہے۔ اس میں قدرے کہیں سیاہی آجائے یا سارا رنگ سیاہ ہے اور کہیں سفیدی آجائے) شِبَهَةٌ کی جمع شِبَاهَاتٌ آتی ہے (اقرب) پس لَا شِبَهَةَ فِيهَا کے معنی

ہوں گے۔ اس کا رنگ ایک جیسا ہے اور کوئی غیر رنگ اس میں نہیں پایا جاتا۔

تفسیر۔ آخر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری علامتیں بیان کر دیں جس سے اس مخصوص بیل کی تعیین ہوگئی۔ فرمایا نہ تو وہ زمین میں جوتا ہوا ہو، نہ اس سے پانی لیا جاتا ہو مطلب یہ کہ سانڈ کے طور پر چھوڑا ہوا ہے تم اُس کے اعزاز کی وجہ سے اُس سے کسی قسم کا کام نہیں لیتے اور وہ ایک بے عیب بیل ہے کہ نہ کوئی اس کو مارتا ہے نہ پیٹتا ہے اور اس وجہ سے کہ اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں پڑتے۔ گویا جو ان بیلوں کا حال ہوتا ہے جن کا لوگ مذہبی طور پر اعزاز کرتے ہیں وہی اس کا حال ہے۔ اس طرح تمام علامتیں خدا تعالیٰ نے بتا دیں اور یہود نے بھی آخر کہہ دیا کہ آپ نے ہمیں سچ سچ بات آخراً بتا دی یعنی ہم پہلے سے سمجھتے تھے کہ فلاں بیل کی قربانی کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی بات تو پہلے بھی سچی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ وہ شرمندہ نہ ہوں اور گائے کی قربانی اُن میں شروع ہو جائے۔ آہستہ آہستہ اس قسم کا شرک بھی دل سے نکل جائے گا۔ انہوں نے خود اصرار کر کے اس بیل کی تعیین کرائی اور پھر یہ لاف زنی کرنے لگ گئے کہ اب آپ نے سچ بات بیان کی ہے پھر آگے فرمایا آخر انہوں نے اُس گائے یا بیل کو ذبح کر ہی دیا مگر کچھ خوش دلی سے نہ کیا۔

یہود کا یہ فقرہ کہ اب آپ نے اصلی بات بتائی ہے کتنا واضح ثبوت اس امر کا ہے کہ ان کے اندر کسی خاص بیل کی نسبت مشرکانہ خیال پیدا ہو چکے تھے ورنہ اُن کا گائے کی قربانی کا حکم ملنے پر سوال پر سوال کرنا اور آخر بعض تفصیلی علامات کے بتائے جانے پر کہنا کہ اب آپ نے اصلی بات بتا دی ہے کس طرح ممکن تھا۔ عید الاضحیہ پر قربانی کے لئے بیل لانے کے لئے ہمیشہ امراء اپنے ملازموں کو حکم دیتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ ہم سمجھ نہیں کیسی گائے اور نہ سوال پر سوال کر کے خاص قسم کی گائے کو مخصوص کراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گائے سے مراد گائے سمجھتے ہیں نہ خاص قسم کی گائے۔ لیکن یہود یوں کے دل میں چونکہ ایک خاص بیل کی نسبت مشرکانہ عقیدہ گھر کر چکا تھا انہوں نے شروع سے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہونہ ہو اس عام حکم کے نیچے اس خاص بیل کی قربانی کا حکم مخفی ہے پس وہ جرح کرتے گئے کرتے گئے یہاں تک کہ خاص اسی بیل کا غلبہ انہیں بتا دیا گیا جسے وہ خدا تعالیٰ کا مظہر سمجھ رہے تھے۔

موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں بنی اسرائیل کا بچھڑے کی پوجا کرنا اس امر کا ثبوت ہے کہ یہود کا

عقیدہ گائے کے متعلق مشرکانہ تھا موسیٰ کی غیبت میں بنی اسرائیل کا بچھڑے کی پوجا کرنا اس امر کا مزید

ثبوت ہے کہ یہود کا عقیدہ گائے کی نسبت مشرکانہ تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ مصریوں میں زندہ بیل کی بھی اور اُس کے بُت کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ پس ایک دفعہ انہوں نے بُت کی اور دوسری دفعہ زندہ بیل کی پوجا کی کوشش کی۔ بیل

کا جو رنگ بتایا گیا ہے وہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کیونکہ کچھڑے کا بُت بھی انہوں نے سونے کا بنایا تھا جو زرد ہوتا ہے اور وہ بیل جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کا رنگ بھی زرد بتایا گیا ہے چنانچہ عربی زبان میں صَفْرَاءُ کے لفظ کے معنی جو لفظ کہ بیل کے رنگ کے بتانے کے لئے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے ذَهَبٌ۔ یعنی سونے کے بھی ہیں۔ (اقرب) پس بُت سونے سے تیار کرنا اور قربانی کے رنگ کا صَفْرَاءُ بتایا جانا بتاتا ہے کہ جس قسم کے بیل کو یہود خدائی صفات سے مشصف سمجھتے تھے وہ سنہری رنگ کا ہوتا تھا۔

بیل کو سورج دیوتا کا مظہر قرار دے کر اس کی عبادت کرنے کا رواج اس امر کا ایک اور زبردست قیاسی ثبوت بھی ہے کہ یہ بیل جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا درحقیقت یہود کا مرکز عبادت بن رہا تھا یا بننے والا تھا اور وہ یہ کہ اس کا رنگ زرد بتایا گیا ہے اور جیسا کہ میں اوپر مصری تاریخوں کے حوالوں سے ثابت کر آیا ہوں بیل جس جس مندر میں اُلُوہیت کے مقام پر کھڑا کیا گیا تھا سورج دیوتا کا مظہر قرار دے کر اسے پوجا گیا تھا۔ ممفس میں اس کی پوجا قح کے نام پر کی جاتی تھی جو ”رَا“ یعنی سورج دیوتا کا باپ کہا جاتا تھا اور ہیلیو پولس اور ہرماقتس دونوں مندروں میں اسے سورج دیوتا کا مظہر بتایا جاتا ہے۔ چونکہ سورج کا رنگ بھی سنہری ہوتا ہے اس لئے یہ امر کہ وہ بیل گہرے زرد رنگ کا تھا اس بات پر زبردست دلالت کرتا ہے کہ یہود نے اسے سورج دیوتا کا مظہر سمجھا تھا۔

اس قیاس کی درستی کو اگر تسلیم کیا جائے تو بیل کے رنگ کے متعلق جو دو مختلف الفاظ بائبل اور قرآن کریم میں استعمال کئے گئے ہیں ان کے بارہ میں بھی یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے جو اس کی نسبت زرد کا لفظ استعمال کیا ہے وہ واقعات کے لحاظ سے زیادہ موزون ہے بہ نسبت سرخ کے لفظ کے جسے بائبل نے استعمال کیا ہے۔

وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے یعنی اس بیل کا ذبح کرنا ان کے دل پر بہت گراں گزرا کیونکہ مصری اثر کے ماتحت وہ سمجھتے تھے کہ اس بیل میں کچھ نہ کچھ خدائی ضرور ہے۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کیسے پُر حکمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی گائے کی قربانی کو رائج کر کے اس شرک کو ملیا میٹ کر دیا ہے جو دنیا میں آج بھی گائے کے متعلق پایا جاتا ہے گو افسوس کہ بغیر کسی دینی فائدہ کے مسلمان اس حق کو چھوڑنے کے لئے آمادہ نظر آتے ہیں اور یا پھر خواہ مخواہ قربانی کی گائیوں اور بیلوں کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمسایہ قوموں کے دلوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں۔ مومن کا کام اپنی اصلاح ہے۔ ہمسایہ کو دکھ دینا اس کے لئے جائز نہیں ہوتا۔

بائی سلسلہ احمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا منصفانہ طریق اپنی ہمسایہ قوموں کے لئے پیش کیا۔ وہ

اپنی کتاب ”پیغام صلح“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”ہم ہندوؤں کے بزرگوں حضرت کرشن اور حضرت رامچندر جی کو قرآنی تعلیم کے مطابق خدا تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں اگر ہندو لوگ بھی ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح عزت کرنے لگ جائیں تو ہم ان کی اس قربانی کے بدلہ میں اس بات کے لئے تیار ہیں کہ اس ملک میں گائے کی قربانی کو بند کر دیں۔“ مگر افسوس کہ ہندو قوم نے اس نہایت ہی منصفانہ پیشکش کو قبول نہ کیا۔

وَ اِذْ قَاتَلْتُمُوْا نَفْسًا فَاذْرَعْتُمْ فِيْهَا ۗ وَاللّٰهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم میں سے ہر ایک نے اپنے سر سے الزام کو دور کرنے

تَكْتُمُوْنَ ج ۷۹ (۷۹)

کی کوشش کی حالانکہ جو (کچھ) تم چھپاتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔

حَلِّ لُغَاتٍ - قَاتَلْتُمْ قَتَلَ سے جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ تشریح کے لئے ملاحظہ کریں حَلِّ لُغَاتٍ

سورہ ہذا آیت نمبر ۱۵۵ اور ۲۲۔

نَفْسًا نَفْسٍ کی تشریح کے لئے دیکھو حَلِّ لُغَاتٍ سورہ ہذا آیت نمبر ۲۹۔

فَاذْرَعْتُمْ تُمْ اِذْرَعْتُمْ اصل میں تَدَارَعْتُمْ تھا۔ ”تا“ اور ”د“ جو کہ قریب المخارج ہیں اکٹھے آگئے پس ”تا“، ”دال“ ہو کر دال میں مدغم کر دی گئی۔ ادغام کی وجہ سے ابتدائی حرف ساکن ہو گیا اور اس وجہ سے اس کا پڑھا جانا ناممکن تھا اس لئے اس کے قبل ہمزہ وصل لگایا گیا تاکہ ابتداء کا حرف پڑھا جاسکے۔ تَدَارَعْتُمْ دَرَعٌ سے باب تفاعل کا ماضی جمع مخاطب کا صیغہ ہے دَرَعٌ (يَدْرَعُ) کے معنی ہیں دَفَعَهُ وَقَبِلَ دَفْعَهُ (دَفَعًا) شَدِيدًا یعنی کسی کو اپنی طرف سے ہٹایا یا سختی سے دُور کر کے اپنا بچاؤ کیا۔ اور تَدَارَعْتُمْ الْقَوْمُ کے معنی ہیں تَدَا فَعُوْا فِي الْخُصُوْمَةِ وَ اِحْتِلَفُوْا یعنی لوگوں نے آپس میں سختی سے جھگڑا کیا اور ہر ایک نے دوسرے کو ملزم کر کے اپنا بچاؤ کرنا چاہا اور اس طرح ان کے درمیان اختلاف برپا ہو گیا۔ اَلدَّرَعُ (جو دَرَعٌ کا اسم مصدر ہے) کے اصل معنی اَلْمَيْلُ وَالْعَوَجُ فِي الْقِتَاةِ کے ہیں یعنی نیزہ میں ٹیڑھا پن اور کجی کا ہونا۔ عرب کہتے ہیں قَوْمٌ دَرَعٌ فُلَانٍ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی کجی اور غلط روی کو دُور کیا نیز اس کے معنی ہیں اَلْخِلَافُ جھگڑا۔ اختلاف (اقرب) زجاج کہتے ہیں مَعَى اِذْرَعْتُمْ فَتَدَارَعْتُمْ اَمْ اَمْ تَدَا فَعَعْتُمْ اَمْ اَلْفِي بَعْضِكُمْ اِلَى بَعْضٍ کہ اِذْرَعْتُمْ کے معنی ہیں تم نے

آپس میں کسی امر کے متعلق اس طور پر اختلاف کیا کہ ہر ایک نے اپنے سر سے الزام کو دُور کرنے اور دوسرے کے ذمہ لگانے کی کوشش کی۔ (لسان)

مُخْرِجٌ أَخْرَجَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور أَخْرَجَ الشَّيْءَ کے معنی ہیں اَبْرَزَهُ کسی چیز کو ظاہر کیا۔ نکالا۔ (اقرب) پس مُخْرِجٌ کے معنی ہوں گے ظاہر کرنے والا۔

تَكْتُمُونَ كُتِّمْتُمْ تَكْتُمُونَ کے معنی ہیں تم چھپاتے تھے۔ تَكْتُمُونَ كَتَمْتُمْ (يَكْتُمُوا كَتَمُوا) سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے كَتَمْتُمْ الشَّيْءَ کے معنی ہیں اَخْفَاَهُ اس کو پوشیدہ رکھا۔ بعض اوقات كَتَمْتُمْ کے دو مفعول آجاتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں كَتَمْتُمْ زَيْدًا الْحَدِيثَ کہ اس نے زید سے بات کو مخفی رکھا۔ اس میں زَيْدًا اور الْحَدِيثَ دونوں كَتَمْتُمْ کے مفعول ہیں (اقرب) نیز اہل عرب کہتے ہیں كَتَمْتُمْ الْقَرْسُ الرَّبَّو اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ضَاقَ مَخْرُجُهُ عَنِ نَفْسِهِ کہ گھوڑا جب دوڑتے ہوئے ہانپ گیا اور لمبے سانس لینے لگا تو نتھنوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح سانس نہ لے سکا (اقرب) گویا جب کسی چیز کی وضع ایسی ہو کہ وہ کسی بات کے ظاہر کرنے سے قاصر ہو تو اس وقت بھی اس کے متعلق كَتَمْتُمْ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ مفرداتِ راغب میں امام راغب لکھتے ہیں کہ لَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَيْدِيْفًا کے معنی حضرت ابن عباسؓ اور حسنؓ نے یہ کہنے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکتا اس طور پر ہوگا کہ اُن کے جوارح تمام باتوں کو ظاہر کر دیں گے۔ (مفردات)

گویا آپ ہی آپ جو بات ظاہر ہو جائے وہ خلاف كَتَمْتُمْ ہے۔ پس جو بات آپ ہی رکی ہوئی ہو اس پر كَتَمْتُمْ بولیں گے۔ پس تَكْتُمُونَ کے دو معنی ہوئے (۱) جو تم چھپاتے ہو (۲) جو تم سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ جو چیز باہر آئی تھی وہ بسبب ناقابلیت کے نہیں آ سکتی یعنی تمہاری خلقت ایسی ہے کہ تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔

تَفْسِيرُ - اِدْرَاءُ تُمْ کی تشریح اِدْرَاءُ تُمْ کے معنی اختلاف کرنے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے کے ہوتے ہیں۔ پس مطلب یہ ہے کہ یاد کرو۔ جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا اور پھر اُس میں اختلاف سے کام لیا۔ کسی نے کہا فلاں شخص نے اس کو مارا ہے۔ کسی نے کہا فلاں شخص نے مارا ہے یا یہ کہا کہ ہم نے نہیں مارا کسی اور نے مارا ہوگا یا یہ کہ اُس کے قتل کے بارہ میں کسی اور قسم کا کوئی اختلاف کیا یہ سب معنی اس آیت پر چسپاں ہو سکتے ہیں کیونکہ اِدْرَاءُ کے لفظ میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔

فَتَلْتُمُ نَفْسًا کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کرنے والی یہودی قوم تھی یا یہودی قوم قاتل کی پشت پر تھی تھی فرمایا گیا کہ تم یہودیوں نے قتل کیا۔ اگر یہ کوئی انفرادی واقعہ ہوتا تو پھر قوم کی طرف قتل کا فعل منسوب نہ کیا جاتا۔ قتل

کے معنی اس جگہ پر ارادہ قتل کے بھی ہو سکتے ہیں۔ (دیکھئے تفسیر آیت نمبر ۶۲)

وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا مِّنْ نَّفْسٍ كَوْنَكُمْهُ اسْتِعْمَالِ كَرْنِ كِي وَجِه نَفْسًا بِرَجَوْنِيْنِ آتِي هِي اس كے معني يه بهي هوسكتے هيں كه ايك عظيم الشان انسان كو قتل كيا۔ كيونكه تنوين عربي زبان ميں تنكير كے ليے بهي آتي هے اور تعظيم كے ليے بهي آتي هے يعني اس كے يه معني بهي هوتے هيں كه كوئي شخص يا چيز ايسي غير معروف هے كه اس كا نام هميں معلوم نهيں يا ايسي بے حقيقت هے كه اس كا نام لينے كي هميں ضرورت نهيں اور يا پھر اس كے معني يه هوتے هيں كه وه شخص يا وه چيز جس پر تنوين آتي هے نهايت هي اهم اور عظيم الشان هے اور جس باره ميں اس كا ذكر كيا گيا هے وه ايسا اهم امر هے كه هر شخص كا ذهن اُدھر جاسكتا هے اس ليے معرفه استعمال كرنے كي ضرورت نهيں سمجھي گئي۔

إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا كے تين معني اوپر كي تشريحات كے مطابق اس آيت كے معني يه هونے كے اے يهودي قوم۔ ياد كرو جبكه تم نے بحثيت جماعت (۱) ايك عظيم الشان انسان كو قتل كيا تها يا قتل كرنا چا تها (۲) يا كسي شخص كي پشت پناه بن كر يا اُسے انگيخت كر كے اور اُكسا كر كسي عظيم الشان شخص كو قتل كرنا چا تها يا قتل كيا تها (۳) يا يه كه اے بني اسرائيل جبكه تم نے ايك غير معروف شخص كو جس كا نام لينے كي ضرورت نهيں قتل كيا تها يا قتل كرنا چا تها اور پھر اس باره ميں تم نے اختلاف كيا يعني يا تو يه كه اها كه هم نے قتل نهيں كيا يه كه اها تها كه هم نے قتل نهيں كر ويا۔ يا يه كه اها تها كه هم نے قتل كرنے كي كوشش نهيں كي اور يا يه كه اها تها كه هم نے قتل كروانے كي كوشش نهيں كي اور يا يه كه هميں معلوم نهيں ايسا شخص قتل هو گيا هے يا نهيں هوا۔

ان معنوں ميں سے يه معني كه ايك غير معروف شخص كو تم نے قتل كرنا چا تها يا قتل كيا تها سب سے كمزور معني هيں كيونكه ايك غير معروف شخص كے قتل كا نه تو يه يهودي قوم ارادہ كر سكتي تهي كيونكه اس ميں قوم كا كوئي فائده نظر نهيں آتا اور نه ايسے شخص كے قتل كے متعلق قوم ميں كوئي اختلاف پيدا هونے كا امكان تها پس جهاں تك نفس مضمون كا تعلق هے يه يه معلوم هوتا هے كه نَفْسًا سے اس جگه ايسا شخص هي مراد هے جس كا نام تو نهيں ليا گيا ليكن اس كي اهميت كا اعتراف كيا گيا هے گوا وه ايسا شخص هے كه بغير نام لينے كے بهي اس كي طرف ذهن منتقل هوسكتا هے۔

وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ اسے نكالنے والا هے جو تم چھپاتے تھے يعني كسي نه كسي ذريعہ سے اللہ تعالیٰ قاتل كا يا قتل كرنے كي انگيخت كرنے والے كا يا قتل كرنے يا كروانے كي كوشش كرنے والے كا بھانڈا پھوڑ دے گا اور اس كے چهرے پر سے نقاب اُٹھا دے گا تاكه لوگوں كو معلوم هوجائے كه اس عظيم الشان انسان كو قتل كرنے

والا یقتل کروانے والا یا قتل کرنے یا کروانے کی کوشش کرنے والا کون شخص ہے۔ اسی طرح اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بُغض اور کینہ کو ظاہر کر دے گا جو اس قتل یا ارادہ قتل کا موجب ہوا۔

چونکہ اس آیت کے مضمون کی تکمیل اگلی آیت میں ہوتی ہے اس لئے اس آیت کی پوری تشریح اگلی آیت کے ماتحت کی جائے گی۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۗ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ ۗ

اس پر ہم نے کہا کہ اس کو (یعنی قاتل) کو اس (ضائع شدہ جان) کے (جرم قتل کے) ایک حصہ کے سبب سے

يُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۴۳﴾

مارو۔ اللہ اسی طرح مُردوں کو زندہ کرتا اور تم کو اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ **اِضْرِبُوهُ** امر جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور **ضَرْبٌ بِبَيْدَةٍ** بِالْعَصَا کے معنی ہیں اَصَابَةٌ وَ صَدَمَةٌ یہاں یعنی اس کو ہاتھ سے یا سونٹے سے یا کسی اور چیز سے مارا۔ نیز کہتے ہیں **ضَرْبُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ** اور معنی یہ ہوتے ہیں خَلَطَهُ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا۔ نیز کہتے ہیں **ضَرْبٌ لَهُ مَعْلًا** اور مراد یہ ہوتی ہے **وَصَفَهُ وَقَالَ وَبَيَّنَّهُ** کسی مثال کو بیان کیا۔ (اقرب) **ضَرْبٌ بِالسَّيْفِ**: اَوْقَعَهُ بِهِ یعنی اس پر تلوار سے حملہ کیا۔ (اقرب) پس **اِضْرِبُوهُ** کے ایک معنی ہوں گے اس کو مارو۔

بِبَعْضِهَا **بَعْضٌ كُلِّ شَيْءٍ** کے معنی ہیں طَائِفَةٌ مِنْهُ ساری چیز کا ایک معتد بہ حصہ وَقِيلَ جُزْءٌ مِنْهُ اور بعض محققین کے نزدیک کسی چیز کے ایک تھوڑے سے حصہ پر بھی بعض کا لفظ بولا جاتا ہے وَيَجُوزُ كَوْنُهُ اَعْظَمَ مِنْ بَقِيَّتِهِ كَالْتِمَانِيَةِ مِنَ الْعَبْرَةِ اور بعض کا لفظ کسی چیز کے بڑے حصہ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے دس میں سے آٹھ کو بعض کہیں گے حالانکہ آٹھ بقیہ دو سے بہت زیادہ ہیں۔ (اقرب)

يُحْيِي آنحلی سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور يُحْيِي کے معنی ہیں وہ حیات بخشتا ہے یا وہ حیات بخشتے گا۔ حیات کے معنی لغت میں (۱) نمو کے ظاہر ہونے کے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الروم: ۲۰) یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے خشک اور ویران ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی اس میں سبزہ، چارہ اُگاتا ہے (۲) دوسرے معنی حیات کے جس کا درست ہونا ہے اور موت کے معنی جس کے زائل

ہونے کے ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے يٰلَيُّكُنْتُنِيْ مِثًّ قَبْلَ هٰذَا (مریم: ۲۴) حضرت مریمؑ نے درِ درزہ کے وقت میں فرمایا کاش میں اس سے پہلے بیہوش ہو جاتی۔ اس جگہ موت سے مراد حقیقی موت نہیں بلکہ درد کی وجہ سے انہوں نے بیہوشی کی خواہش کی ہے (۳) تیسرے معنی حیات کے علم اور عرفان کے ہوتے ہیں۔ اور موت کے معنی جہالت کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے اَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيِيْنٰهُ (الانعام: ۱۲۳) یعنی کیا وہ شخص جو جاہل ہو اور پھر ہم نے اسے علم روحانی بخشا ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس کے برخلاف ہے اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے فَاِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰى (الروم: ۵۳) تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ مراد یہ ہے کہ تو جاہلوں سے بات نہیں منواسکتا (۴) زندگی سے مراد خوشیاں ہوتی ہیں اور موت کے معنی تکلیفوں اور دکھوں کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَدِيْنَةٍ (ابراہیم: ۱۸) یعنی دوزخی کو چاروں طرف سے موت آئے گی مگر وہ مراہوانہ ہو گا۔ یعنی غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ مگر موت نہ آئے گی (۵) پانچویں معنی حیات کے جاگنے اور ہوشیار ہونے کے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل موت کے معنی نیند کے ہیں (۶) چھٹے معنی حیات کے جاندار کا سانس لینا۔ یا سانس کی حالت کا پایا جانا ہے اور موت کے معنی اس کے سانس کا بند ہو جانا یا سانس کے بغیر ہونا ہے۔

الْمَوْتِ الْمَيِّتِ کی جمع ہے اور الْمَيِّتِ کے معنی ہیں الَّذِيْ فَارَقَ الْحَيٰوةَ جس کے اندر حیات نہ رہے (اقرب) (موت۔ حیات کے مقابل کا لفظ ہے) جو معنی حیات کے ہوں اُس کے اُلٹ معنی موت کے ہوتے ہیں۔

رَوَالِ الْحَيٰوةِ عَنْ مَنْ اِنْتَصَفَ بِهَا: اس چیز سے زندگی کا علیحدہ ہو جانا جو زندگی کے ساتھ متصف ہو۔ (اقرب)

مفردات میں ہے۔ الْمَوْتُ زَوَالُ الْقُوَّةِ الْحَيَوٰئِيَّةِ وَاِبَانَةُ الرُّوْحِ عَنِ الْجَسْمِ۔ قوت حیوانیہ اور رُوح کا جسم سے علیحدہ ہو جانا موت کہلاتا ہے۔ اَنْوَاعُ الْمَوْتِ بِحَسَبِ الْحَيٰوةِ۔ موت کئی قسم کی ہوتی ہے جس قسم کی زندگی ہوگی اسی کے مطابق موت ہوگی۔ (۱) قَالَوَلِ مَا هُوَ بِاَزَاءِ الْقُوَّةِ النَّامِيَّةِ الْمَوْجُوْدَةِ فِي الْاِنْسَانِ وَالْحَيٰوةِ اَنْبَاتِ وَالنَّبَاتِ۔ انسان۔ حیوانات اور نباتات میں نشوونما کا رُک جانا موت کہلاتا ہے جیسے يٰعِجِي الْاَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا (الروم: ۲۰) میں اشارہ فرمایا ہے (۲) اَلثَّانِي۔ زَوَالُ الْقُوَّةِ الْحَاْسِنَةِ احساس کا زوال بھی موت کہلاتا ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا قول يٰلَيُّكُنْتُنِيْ مِثًّ قَبْلَ هٰذَا (مریم: ۲۴) ہے کہ اے کاش میں اس سے پہلے کی بے حس ہو چکی ہوتی (۳) زَوَالُ الْقُوَّةِ الْعَاقِلَةِ زوال عقل یعنی جہالت بھی موت کہلاتی ہے جیسے اَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيِيْنٰهُ (الانعام: ۱۲۳) (۴) الرَّابِعُ۔ الْحُزْنُ الْمَكْدِرُ لِلْحَيٰوةِ۔ ایسے غم جو زندگی کو دو بھر کر دیں جیسے فرمایا۔ يٰۤاَيُّهَا الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَدِيْنَةٍ (ابراہیم: ۱۸) (۵) الْخَامِسُ۔ الْمَعَامُ نِيْدُ۔ لسان میں ہے۔ وَقَدْ

يُسْتَعَارُ الْمَوْتُ لِلْأَحْوَالِ الشَّقَاةِ كَالْفَقْرِ وَالذُّلِّ وَالسُّوَالِ وَالْهَرَمِ وَالْمَعْصِيَةِ - کبھی موت کا لفظ استعاراً تکلیف دہ حالتوں پر بھی جیسے فقر - ذلت - سوال - بڑھاپا اور معصیت ہیں بولا جاتا ہے۔

آيَتِهِ آیت کی جمع ہے اور آیتہ کے معنی علامت - نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں نیز قرآن کریم کے ہر ایسے ٹکڑے کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہو آیتہ کہتے ہیں۔ (تاج)

تَعْقُلُونَ عَقَلَ (يَعْقِلُ) سے مضارع مخاطب جمع کا صیغہ ہے اور عَقَلَ الدَّوَاءِ الْبِطْنِ کے معنی ہیں اَمْسَكَهُ دوائی نے اس کے پیٹ کو روک دیا۔ یعنی قبض کر دی۔ اور جب عَقَلَ الْعَلَامُ کہیں تو معنی ہوں گے اَذْرَكَ لُحَا بَالِغٌ ہو گیا۔ یعنی اچھی اور بُری باتوں کو سمجھنے لگ گیا۔ اور عَقَلَ الشَّيْءَ عَقْلًا کے معنی ہیں فَهَيْهَتْ وَ تَدَبَّرَتْ کسی چیز کو سمجھا اور اس کے متعلق غور و فکر کیا۔ عَقَلَ الْبَعِيْرَ - ثَلِي وَظَيْفَهُ مَعَ ذَرَاِعِهِ فَشَدَّ هُمَا مَعًا بِحَبْلِ اُونٹ کی ٹانگ کو اس کی ران کے ساتھ باندھ دیا۔ عَقَلَ الْوَعْلُ عَقْلًا کے معنی ہیں صَعَدَ وَ اَمْتَنَعَ فِي الْجَبَلِ الْعَالِيِ پہاڑی بکر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں جا کر رُك كَرْمُفُوظٌ ہو گیا۔ نيز الْعَقْلُ کے معنی ہیں نُورٌ رُوْحَانِيٌّ يَهْتَدِيكَ النَّفْسُ الْعُلُوْمَ الصَّوْرِيَّةَ وَالنَّظْرِيَّةَ کہ عقل اس روحانی روشنی کا نام ہے جس کے ذریعے سے نفس بدیہی باتوں کو یا غور و فکر سے معلوم ہونے والی باتوں کو معلوم کرتا ہے (اقرب) پس اَفَلَا تَعْقِلُونَ کے معنی ہوں گے (۱) کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے (۲) کیا تم اپنی نا واجب حرکات سے رکتے نہیں۔

تفسیر - اِصْرٍ بُوْكَ اِبْعَضَهَا میں باء کے معنی سببیت یا اِلْصَاق کے پس ہم نے اُن سے

کہا کہ اس کو یعنی قاتل کو اُس کے یعنی مقتول کے بعض کے ساتھ یا بعض کے سبب سے مارو۔ ب کے معنی عربی زبان میں کئی ہوتے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں۔

اَوَّل - اِلْصَاقٍ یعنی اس کے ساتھ ملا دینا جیسے کہا جاتا ہے اَمْسَكْتُ بِخَالِدٍ میں نے خالد کو پکڑ لیا یعنی میرا

جسم اور اُس کا جسم مل گیا۔ کبھی ان معنوں میں یہ لفظ مجازاً بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں مَرَزَتْ بِزَيْدٍ میں زید کے پاس سے گزرا یعنی گو جسم جسم سے چھو نہیں مگر ایک رنگ میں قُرب حاصل ہو گیا۔

دوسرے معنی اس کے فعل لازم کو متعدی بنانے کے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں دَهَبْتُ بِزَيْدٍ میں زید کو لے

گیا اور کبھی اس کے معنی امداد طلب کرنے کے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں نَجَوْتُ بِالْفَرَارِ بھاگ کر میں نے نجات حاصل کی یعنی بھاگنے سے مدد حاصل کی۔ کبھی اس کے معنی سببیت کے ہوتے ہیں یعنی وہ چیز اس کا سبب بن گئی جیسے

کہتے ہیں لَقِيْتُ بِزَيْدٍ اَلْاَسَدَ زَيْدٌ کے سبب سے میں نے شیر کو دیکھا۔ یعنی زید اپنی قوت اور شوکت میں ایک شیر

کی طرح ہے جس میں سے میں گویا شیر کا وجود دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اور کبھی اس کے معنی ساتھ ہونے کے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں اِهْبِطْ بِسَلَاہِ سَلَامَتِی کے ساتھ اُترو یعنی تم بھی اُترو اور تمہارے ساتھ سلامتی بھی اُترے۔ کبھی اس کے معنی تبعض یعنی کچھ حصے کے ہوتے ہیں کہتے ہیں شَرِبَ مَاءَ الْبَحْرِ اس نے سمندر کے پانی کو پیا یعنی سمندر کے پانی کا کچھ حصہ پیا۔ اسی طرح ب کے معنی قسم کے بھی ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں بِاللَّهِ کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور کبھی یہ تاکید کے لئے بھی آتا ہے (اقرب) ان کے علاوہ عربی زبان میں اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔

اس آیت میں صرف دو معنی چسپاں ہو سکتے ہیں ایک الصاق کے، دوسرے سببیت یا تعلیل کے۔ الصاق کے لحاظ سے اس آیت کے معنی یوں ہوں گے کہ اس کے بعض کے ساتھ اسے مارو یعنی اس کا بعض حصہ اس پر زور سے پھینکو۔ اور سببیت یا تعلیل کے لحاظ سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کے بعض (گناہ) کے سبب سے اسے مارو۔

كَذٰلِكَ يٰعِجِبُ اللّٰهُ الْهٰوِيّٰ میں اِحیاءِ مَوْتٰی سے مراد كَذٰلِكَ يٰعِجِبُ اللّٰهُ الْهٰوِيّٰ کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مُردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی حقیقی مُردوں کو زندہ کر کے اس دنیا میں واپس لاتا ہے۔ یہ معنی اس جگہ پر نہیں لئے جاسکتے کیونکہ قرآن شریف کی دوسری آیات ان معنوں کے خلاف ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی مُردے اس دنیا سے واپس نہیں آ سکتے۔ (دیکھئے تفسیر آیت نمبر ۵ سورہ ہذا)

دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ایسے لوگوں کو جو مُردوں کے مشابہ ہوتے ہیں زندہ کرتا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مُردوں کی عزت کو بچا لیتا ہے یا آئندہ دنیا کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔

آخری دونوں معنوں کی تصدیق قرآن کریم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولٰٓئِیْ الْاَنْبَاۡ (البقرة: ۱۸۰) یعنی اے عقلمندو! قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اگر مناسب موقع پر قاتل کو سزا دی جائے تو آئندہ قتل کے جرم کم ہو جائیں گے اور اس طرح کئی لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ اس محاورہ کے رُو سے مُردے کو زندہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ جو مر چکا ہو اُسے زندہ کرنا۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ جس کے قتل ہونے کا خطرہ تھا اُس کو اس خطرہ سے بچا لینا۔ اور اس رنگ میں بھی قصاص حیات ہے کہ جو مارا جاتا ہے اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے اور رشتہ داروں کے دلوں سے بُغض اور کینہ نکل جاتا ہے۔ اگر قاتل کو سزا نہ ملے تو رشتہ داروں کے دلوں میں بُغض اور کینہ باقی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آدمی کو قتل کر کے اُس کی ذلت کی گئی ہے۔ عربوں کی بول چال میں بھی یہ محاورہ پایا جاتا ہے چنانچہ ایک شاعر حارث بن حلزہ کہتا ہے۔

إِنْ نَبَشْتُمْ مَا بَيْنَ مَلْحَةٍ فَالضَّا قِبَ فِيهِ الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ

(سبعہ معلّقہ قصیدہ نمبر ۷)

یعنی اے ہماری دشمن قوم اگر تم ملحد اور صائب دونوں مقاموں کے درمیان قبروں کو کھود کر دیکھو تو ان قبروں میں تم کو مُردے بھی ملیں گے اور زندہ بھی ملیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہماری قوم بہادر اور غیور ہے۔ جب کبھی ہمارے کسی آدمی کو تمہاری قوم کے کسی آدمی نے مارا ہے تو ہم نے اُس کا بدلہ ضرور لے لیا ہے اور اس طرح ہمارا مُردہ زندہ ہو گیا لیکن جب ہمارے کسی آدمی نے تمہاری قوم کے کسی آدمی کو مارا ہے تو تم اس کا بدلہ نہیں لے سکتے پس تمہارے مُردے قبروں میں ذلیل رہے کیونکہ اُن کا بدلہ کسی نے نہیں لیا۔

یہ شعر عرب کے زمانہ جاہلیت کے ایک چوٹی کے شاعر کا ہے اور اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ عربی زبان میں مُردہ زندہ کرنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی مقتول کا بدلہ لے لیا جائے پس اس مفہوم کی رو سے كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْهُؤَيِّ كِے معنی یہ ہوں گے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو اُس کی راہ میں قتل ہوئے ہوں یا اس کی وجہ سے قتل ہوئے ہوں اُن کا بدلہ لے کر زندہ کر دیتا ہے۔

جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں ایک معنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مُردوں کی طرح ہوں اُن کو زندہ کر دینا۔ یہ معنی عام محاورہ کے مطابق ہیں بعض دفعہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ایسی مشابہ ہو جاتی ہے کہ اُس کا نام اسے مل جاتا ہے چنانچہ عام بول چال میں جب کسی شخص کو کوئی سخت چوٹ لگے تو وہ اپنے درد اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے ”ہائے میں مر گیا“ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں مُردوں کی طرح ہو گیا۔ پس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مُردوں کی طرح ہوں اللہ تعالیٰ اُن کو زندہ کر دیتا ہے یعنی جن کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ اور دنیوی علوم ان کی ہلاکت کا فتویٰ دے دیتے ہیں خدا تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بچا لیتا ہے۔

وَ يُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور تم کو اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم غلطیوں اور گناہوں سے رُکو۔ عقل کے معنی حَلِّ لُغَاتِ آیت نمبر ۴۵ سورۃ هُذَا میں بتائے جا چکے ہیں کہ باندھنے اور روکنے اور رُکنے کے ہوتے ہیں۔ عقل کی قوت کو عقل اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں اور غلطیوں سے روک لیتا ہے۔

آیت کے اس عکڑہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر جس امر کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نشان ہے جس سے سمجھدار لوگ فائدہ اٹھا کر گناہ اور بدی سے بچ سکتے ہیں یا کفر اور طغیان سے نجات پاسکتے ہیں۔

وَإِذْ قَاتَلْتُمُو نَفْسًا... الخ میں بیان شدہ واقعہ کے متعلق پہلے مفسرین کا خیال ان دونوں آیتوں میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا اس کے متعلق پرانے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک مقتول سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ عامیل نامی ایک شخص کو (بقول کرمانی) یا نکار کو (بقول ماوردی) اس کے بھتیجے نے اور بعض کے نزدیک اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کریں جس کا ذکر ان لوگوں کے نزدیک اوپر کی آیات میں آچکا ہے اور پھر حکم فرمایا کہ اس گائے کے بعض ٹکڑوں کو اس مقتول کے ساتھ مارو۔ وہ ٹکڑا جس کے مارنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بارہ میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اُس کی زبان کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اُس کی دائیں ران کے مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ جس ہڈی سے کان نکلے ہیں۔ اُس ہڈی کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے ٹکڑے کے مارنے سے مُردے کو زندہ کر دیا۔ (فسح البیان زیر آیت ہذا)

اختلاف کے بارہ میں کہتے ہیں کہ قاتل نے لاش ایک ایسی جگہ پھینک دی تھی جو کئی قبائل کے درمیان واقع تھی اس وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ نے کہا کہ دوسروں نے مارا ہے ہم نے نہیں مارا۔ مفسرین اس بات کی وجہ تلاش کرنے میں بھی لگ گئے ہیں کہ قاتل نے کیوں مارا۔ بعض کہتے ہیں کہ مقتول کی لڑکی خوبصورت تھی اُس سے شادی کرنے کے لئے اُس نے چچا کو مارا۔ بعض کہتے ہیں کہ قاتل غریب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے چچا یا بھائی کو مار کر اس کا وارث بن جائے۔ علامہ قرطبی نے تو اس واقعہ سے بعض مسائل اسلامیہ کا استخراج بھی کیا ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ تفسیریں جو کی گئی ہیں ان کا کوئی حصہ بھی قرآن کریم یا حدیث سے ثابت نہیں۔

وَإِذْ قَاتَلْتُمُو نَفْسًا... الخ میں بیان شدہ واقعہ کے متعلق سابق مفسرین کے خیالات کے متعلق ابن کثیر کی رائے اسی وجہ سے علامہ ابن کثیر نے ان روایات کو درج کر کے آخر میں لکھا ہے وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا مَا حُودٌ مِّنْ كُنُوبٍ بَيْنِي وَبَيْنَ إِسْرَائِيلَ وَهِيَ مِمَّا يَجُوزُ نَقْلُهَا وَلَكِنْ لَا نَصَدُّنَّ وَلَا نَكُذِّبُ فَلِهَذَا لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا وَافَقَ الْحَقَّ عِنْدَنَا (ابن کثیر زیر آیت إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) یعنی یہ ظاہر بات ہے کہ یہ سب قصے بنی اسرائیل کی کتابوں سے لئے گئے ہیں اور ان قصوں کا نقل کرنا تو جائز ہے لیکن ان کی تصدیق یا تکذیب کرنا جائز نہیں پس ایسے قصوں پر کسی صورت میں بھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا ہاں صرف اس صورت میں ان پر اعتماد کیا جاسکتا ہے جبکہ وہ اس

تعلیم کے مطابق ہوں جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہے۔

تفسیر فتح البیان میں بھی گائے کے ٹکڑوں کا ذکر کرتے ہوئے باوجود اس کے کہ ان میں سے ایک روایت حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب کی گئی ہے لکھا ہے وَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ ذٰلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَكْفِينَا اَنْ نَّقُولَ اَمَرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا یعنی ہمیں اس قسم کی روایتوں کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں خصوصاً جبکہ ان میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جن کی تصدیق علم سے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اُس کے بعض سے مارنے کا حکم دیا تھا۔

صاحب فتح البیان کا یہ بیان بھی اس امر پر شاہد ہے کہ اس بارہ میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں باوجود اس کے کہ ان کو صحابہؓ تک پہنچایا گیا ہے وہ اسلامی روایات کہلانے کی مستحق نہیں بلکہ صرف یہودی کتابوں کی نقل ہیں پس ان پر اعتماد کرنا اسلام کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا ہے جو بالکل ممکن ہے کہ اسلام کی تعلیم کے صریح مخالف ہوں اور قرآن کریم کی تکذیب کرنے والی ہوں۔

قرآن مجید کی آیات کی ترتیب سابق مفسرین کے خیالات کی تردید میں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اُس کی ترتیب ان روایات کی برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اول تو جو واقعہ تفسیروں میں بیان کیا گیا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قتل کے واقعہ پر قاتل کو دریافت کرنے کے لئے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن قرآن کریم میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم پہلے آتا ہے اور قتل کا واقعہ بعد میں آتا ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور فصاحت و بلاغت کے تمام انسانی معیاروں سے بالا ہے۔ ایک ادنیٰ عقل کا انسان بھی اس واقعہ کو اس ترتیب سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اگر اس واقعہ کو بیان کرے تو وہ اس طرح بیان کرے گا کہ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس کے قتل کے بارہ میں اختلاف کیا تب ہم نے حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے کچھ حصے کو مقتول کے کچھ حصے پر مارو۔ جب تم نے ایسا کیا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ لیکن قرآن کریم یوں بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم گائے کے واقعہ کو الگ بیان کرتا ہے اور قتل کے واقعہ کو الگ بیان کرتا ہے اور گائے کے واقعہ کو قتل کے واقعہ سے پہلے بیان کرتا ہے۔ پھر یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ یہ گائے قاتل کو دریافت کرنے کے لئے ذبح کی گئی تھی۔ قرآن کریم کی اس فصاحت و بلاغت کا خیال نہ بھی رکھا جائے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے بلکہ ایک معمولی لیکن معقول کتاب اُسے قرار دیا جائے تب بھی یہ ترتیب بیان اس کی طرف منسوب کرنی جائز نہیں ہو سکتی۔ یہ اعتراض میں ہی نہیں کر رہا پہلے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ اعتراض

پیدا ہوا ہے چنانچہ امام رازی نے اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں اس سوال کو اٹھا یا لیکن اس کا نہایت بودا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ واقعہ کے تقدّم اور تاخّر کو اسی ترتیب سے بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ کبھی سب کو حکم سے پہلے بیان کر دیتے ہیں اور کبھی حکم کو سب سے پہلے بیان کر دیتے ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ کبھی ترتیب میں فرق ہو جاتا ہے اور بیان کی ترتیب واقعہ کی ترتیب سے مختلف ہو جاتی ہے مگر ایسا ہی صورت میں ہوتا ہے جبکہ بعد میں ہونے والا واقعہ زیادہ اہم ہو۔ پس توجہ پھرانے کے لئے اسے پہلے بیان کر دیا جاتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی مقتول کی لاش پر پہنچتا ہے تو جب وہ اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سناتا ہے تو پہلے یکدم سنا دیتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا اور پھر تفصیل بتاتا ہے کہ میں اس اس طرح جا رہا تھا کہ فلاں شخص کی لاش نظر آگئی لیکن اس جگہ پر تو نہ صرف یہ کہ پہلی بات کو پیچھے بیان کیا گیا ہے اور پچھلی بات کو پہلے بیان کیا گیا ہے بلکہ اہمیت کے لحاظ سے جو بات ادنیٰ تھی اسے پہلے بیان کیا گیا ہے اور اہمیت کے لحاظ سے جو بات زیادہ تھی اسے بعد میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پچھلی بات کو پہلے بیان کرنے کی جو حکمت ہوا کرتی ہے وہ یہاں مفقود ہے۔ پس خالی یہ کہہ دینا کہ کبھی بعد کی بات کو پہلے بیان کر دیا کرتے ہیں کافی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ جن وجوہ کے پائے جانے پر بعد کی بات کو پہلے بیان کیا کرتے ہیں وہ اس جگہ پر پائی جاتی ہیں ورنہ قرآن کریم کا یہ حصہ حکمت سے خالی سمجھا جائے گا مگر میں بتا چکا ہوں کہ وہ وجوہ جو کسی بعد کی بات کو پہلے بیان کرنے کا سبب ہوا کرتی ہیں وہ یہاں نہیں پائی جاتیں بلکہ اسکے برخلاف یہ وجوہ موجود ہے کہ جو پہلے کا واقعہ ہے اسے پہلے بیان کیا جاتا اور جو بعد کا واقعہ ہے اسے بعد میں بیان کیا جاتا کیونکہ پہلے کا واقعہ یعنی قتل بعد کے واقعہ یعنی گائے کے ذبح کرنے کے حکم سے زیادہ اہم ہے پس اصل ترتیب کو قائم رکھنے کی اشد ضرورت تھی۔

دوسرے یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے واقعہ کو بھی اِذْ کے لفظ سے شروع کیا ہے اور قتل کے واقعہ کو بھی اِذْ کے لفظ سے شروع کیا ہے اور ان آیات سے پہلے جتنی آیات گزری ہیں ان میں جہاں جہاں اِذْ کا لفظ آیا ہے وہ الگ واقعات کے متعلق آیا ہے پس اس جگہ بھی جبکہ دونوں آیتوں سے پہلے اِذْ کا لفظ آیا ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ واقعات اپنی ذات میں الگ الگ ہیں۔

تیسری دلیل میرے خیال کی تائید میں یہ ہے کہ گائے کے ٹکڑے کو قاتل پر مار کر اُسے زندہ کرنے کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں اگر معجزانہ طور پر مُردے کو زندہ کرنا تھا تو اُس کے لئے گائے کے ذبح کرنے اور اُس کا ٹکڑا اس پر مارنے کی ضرورت کیا تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیا جاسکتا تھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عام مسلمانوں کے نزدیک مُردے زندہ ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ گائے کے گوشت میں کوئی طبعی

اثر ایسا ہوتا ہے کہ مُردہ زندہ ہو جاتا ہے تو اس پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ وہ طبعی اثر اب کیوں ظاہر نہیں ہوتا اور اگر کہا جائے کہ صرف اس قسم کی گائے کے گوشت میں وہ طبعی اثر ہوتا ہے جس کا ذکر اوپر کی آیات میں کیا گیا ہے تو اس پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اگر ان صفات والی گائے میں یہ اثر ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے عام گائے کے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا۔ نیز اس قسم کی گائے کا مہیا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اب بھی تلاش سے ایسی گائے مل سکتی ہے۔ اس عقیدہ کے قائل اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ غرض کوئی معقول وجہ ان دونوں آیتوں کو آپس میں ملانے کی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ یہودیوں کی روایات کی بناء پر ان دونوں آیتوں کو ایک ہی واقعہ کی تفصیلات قرار دیا جائے مگر مشکل یہ ہے کہ یہودی معتبر روایات بھی اس کے خلاف ہیں۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ كَتِيفِيسَ فِي مَدْيَنَ وَرَبُّكُمْ لَعَنَ قَتْلَكُمْ فِي الْغَدَاةِ الَّتِي فِيهَا كُنْتُمْ قَاتِلِينَ ﴿۲۱﴾

ذکر نہیں جہاں گائے کو ذبح کر کے کسی مُردے پر مارا ہوا اور وہ زندہ ہو گیا ہو۔ بیٹنگ تورات استثناء باب ۲۱ آیت ۱ تا ۷ میں یوں آتا ہے۔ ”اگر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تھا کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد کے شہروں کے فاصلہ کو ناپیں اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو۔ اس شہر کے بزرگ ایک بچھیا لیں جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ اور نہ وہ جوئے میں جوتی گئی ہو۔ اور اس شہر کے بزرگ اس بچھیا کو بستے پانی کی وادی میں جس میں نہ بل چلا ہوا اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں اور وہاں اس وادی میں اس بچھیا کی گردن توڑیں۔ تب بنی لاوی جو کاہن ہیں نزدیک آئیں کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں اور اُس کے نام سے برکت دیا کریں اور انہیں کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمہ کا فیصلہ ہوا کرے۔ پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچھیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی۔ اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا۔ اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔“ اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ یہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ اس کے کسی حصہ کو مقتول پر مارا جائے نہ اس کا کوئی ذکر ہے کہ ایسا کیا گیا اور اس سے مُردہ زندہ ہو گیا اور اُس نے قاتل کی نشان دہی کی۔ بلکہ گائے کے ذبح کرنے میں صرف یہ حکمت ہے کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا شرک دُور ہو دوسرے چونکہ وہ اسے مقدس سمجھتے تھے اس پر ہاتھ دھو کر گواہی دینے کا مطالبہ کر کے ان سے سچ بلوانے کی کوشش کی گئی ہے۔

جب واقعات یہ ہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب جن معنوں کو رد کرتی ہے۔ بائبل میں جن معنوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ان کو زبردستی قرآن کریم کی آیات پر ٹھونسنا جائے اور ایسے معنے کئے جائیں جو عقل اور نقل کے خلاف ہیں اور دشمن کو قرآن کریم پر ہنسی کرنے کا موقع دیتے ہیں حالانکہ قرآن کریم کا مضمون واضح ہے۔ اس زمانہ کے بنی اسرائیل میں بچھڑے کی پوجا اور گائے کی پوجا کے امکانات صریح طور پر پائے جاتے تھے۔ گائے کی قربانی کا حکم بھی بائبل میں موجود ہے اور اس میں جو اُس کی غرض بتائی گئی ہے وہ بھی قرآن کریم کے مفہوم کے مطابق معلوم ہوتی ہے یعنی یہودیوں کے دلوں سے گائے کے شرک کو دور کرنا۔ ان سب امور کی موجودگی کے باوجود اس آیت کے مضحکہ خیز معنے کرنا اور قرآن شریف کی آیات کی لطیف ترتیب کو بگاڑ کر ایک غیر معقول ترتیب اس کی طرف منسوب کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے اور جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ نقص جن کی بناء پر ان آیات کے وہ معنے مفسرین نے کئے ہیں درست نہیں۔ بائبل سے وہ ثابت نہیں۔ قرآن کریم ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق کچھ بیان نہیں فرمایا تو اب ہمارے لئے یہ رستہ بالکل ٹھلا ہے اور یہی رستہ طبعی ہے کہ ہم گائے کے ذبح کرنے کے واقعہ کو بالکل الگ سمجھیں اور قتل کے واقعہ کو بالکل الگ سمجھیں اور اِذ قَتَلْتُمْ کے الفاظ والی آیت کو ان یہودی قصوں، کہانیوں سے جن کی تردید خود بائبل سے بھی ہوتی ہے آزاد رکھ کر معنی کریں۔

سابق مفسرین کے خیالات کے مطابق وَ اِذ قَتَلْتُمْ کے امکانی معنے ہاں اگر مفسرین کے خیالات کو تسلیم کر کے بطور تنزیل اس آیت کے معنے کرنے ہی پڑیں تو پھر بھی یاد رہے کہ اس آیت کے معنے یہ نہیں کئے جاسکتے کہ کوئی مردہ گائے کے گوشت کے مارنے سے زندہ ہو گیا کیونکہ یہ معنی قرآن کریم کے صریح خلاف ہیں بلکہ صرف یہی معنی کئے جاسکیں گے کہ گائے کا ٹکڑہ مارنے سے کوئی ایسی بات پیدا ہوئی جس سے قاتل پکڑا گیا اور خدا تعالیٰ نے یہ ترکیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لئے بتلائی تاکہ قاتل پکڑا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں یہ تشریح کی ہے لیکن جیسا کہ موقع اور محل سے ثابت ہے یہ تشریح مخالف کو قریب ترین رستہ سے پکڑنے کے لئے ہے۔ اس جگہ پر آپ نے اس آیت کی خود تفسیر بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کے اس استدلال کو رد کیا ہے کہ وہ اس آیت سے مردہ زندہ ہونے کا استدلال کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حقیقی مردہ کے زندہ ہونے کا ذکر نہیں صرف یہ مراد لی جاسکتی ہے کہ گائے کا ٹکڑہ مارنے سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی جس سے قاتل پکڑا گیا۔ غرض چونکہ اعتراض کے جواب میں آپ نے یہ معنے بیان فرمائے ہیں اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ مخالف کی باتوں کو مان بھی لیا جائے تو اس سے وہ استدلال نہیں ہو سکتا جو وہ کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں لوگ چور کے

پکڑنے کے لئے کسی چیز پر سیاہی لگا دیتے ہیں اور ان جاہل لوگوں کو جن پر چوری کا شبہ ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ کمرہ میں جا کر اُس چیز کو ہاتھ لگاؤ جو چور ہوگا اُس کا ہاتھ اس چیز سے چپک جائے گا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چور نہیں ہوتے وہ تو ہاتھ لگا آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو سیاہی لگ جاتی ہے مگر چور پکڑے جانے کے ڈر سے ہاتھ نہیں لگاتا اور اس کے ہاتھ کو سیاہی نہیں لگتی اور اس طرح پکڑا جاتا ہے۔ ہم ان قصص کو تسلیم کرتے ہوئے ایک سہل راستہ مخالف کو خاموش کرانے کا اختیار کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ہی ترکیب جس میں اس امر کو مد نظر رکھ لیا گیا ہو کہ سچائی کو نقصان نہ پہنچے اور دھوکا نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتادی ہو تو اس سے مُردہ زندہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یا مثلاً ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نشان کے طور پر کوئی بات ایسی ظاہر کر دی جس سے گائے کے ٹکڑے مارنے والوں میں سے جو قاتل تھا اس کا پتہ لگ گیا۔ مثلاً یہی کہ اُس پر ڈر کے مارے لرزہ طاری ہو گیا یا قاتل کے ٹکڑے مارتے وقت مقتول کے جسم میں کسی اور سبب سے حرکت پیدا ہوئی اور قاتل یہ سمجھ کر کہ شائد وہ زندہ ہونے لگا ہے بیہوش ہو گیا یا ڈر کے مارے اُس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ بہر حال اس آیت سے کسی مُردے کا زندہ ہونا اور مجرم کا پکڑا جانا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ مگر یہ معنی بطور فرض کے اختیار کئے گئے ہیں اور مفسرین کے معنوں کو رد نہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کو اس اعتراض سے بچانے کے لئے ہیں کہ اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کسی جگہ کہا ہے مُردے زندہ نہیں ہو سکتے اور کسی جگہ مُردے زندہ ہونے کی خبر دی ہے ورنہ میرے نزدیک اس آیت میں ایک مستقل مضمون بیان کیا گیا ہے اور اُن یہودی روایات سے جو خود ان کی اپنی کتابوں کے خلاف ہیں ہمیں استدلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا كِي تَشْرَحْ اَحْمَدِي عِلْمَاءُ كِي نَزْدِي كِ اَوْ بَعْضِ اَشْكَالٍ بِيَشْتَرِ اس كِي كِي مِيْنِ وَ هِ مَفْهُومِ بِيَانِ كِرُوْنِ جُو مِيْرِي نَزْدِي كِ زِيَادِي صَحْحِ هِي۔ مِيْنِ اِيْكَ اَوْ مَعْنِي بِيَانِ كِرْتَا هُوْنِ جُو جَمَاعَتِ اَحْمَدِيِي كِي بَعْضِ عِلْمَاءِ كِرْتِي هِيْنِ اَوْ رِجْنِ مَعْنُوْنِ مِيْنِ اَسِي اَصْلِ كُوْنِ نَظْرِ رَكْهَا كِيَا هِي كِي اِذْ قَتَلْتُمْ وَ اَلِي وَ اَقْعِي كَا ذَنْبِ بَقْرِي وَ اَلِي وَ اَقْعِي سِي كُوْنِي وَ اَقْعَاتِي جُوْنِ هِيْنِ۔ اِنِ عِلْمَاءُ كِي نَزْدِي كِ نَفْسًا سِي مَرَادِ حَضْرَتِ مَسِيْحِ نَا صَرِي عَلِيْهِ السَّلَامِ هِيْنِ اَوْ قَتَلْتُمْ سِي مَرَادِ كُو شَشِ قَتْلِ هِي يَامَشَابِهِ بِالْقَتْلِ كِي مَعْنِي هِيْنِ۔ اِنِ كِي تَفْسِيْرِ كِي مَطَابِقِ اِسِ آيْتِ كِي مَعْنِي يِي هِيْنِ كِي اِي بِنِي اِسْرَائِيْلِ يَادِ كِرُو جَبْتَمِ نِي اِيْكَ عَظِيْمِ الشَّانِ جَانِ اِيْعْنِي حَضْرَتِ مَسِيْحِ نَا صَرِي عَلِيْهِ السَّلَامِ كُو قَتْلِ كِرْنَا چَا هَا يَا اِنِ سِي اِيْسَا سِلُوْكَ كِيَا كِي وَ هِ مَقْتُوْلُوْنِ كِي مَشَابِهِ هُوْ كُنِي اِيْعْنِي اِنِ كُو صِلِيْبِ پَر لِيْكََا كِرْمَارْنَا چَا هَا۔

فَاذْرِيْتُمْ فِيْهَا۔ اِسِ مِيْنِ هَا كِي ضَمِيْرِ نَفْسِ كِي طَرَفِ بِيْ جَا سَكْتِي هِي اَوْ وَ اَقْعِي قَتْلِ كِي طَرَفِ بِيْ مَعْنُوِي طُوْرِ پَر

جاسکتی ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ اس واقعہ صلیب کے بعد تم نے اُس نفس کے متعلق اختلاف کیا یا یہ کہ اس واقعہ کے متعلق اختلاف کیا۔ اگر واقعہ کے متعلق اختلاف لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ بعض نے یہ سمجھا کہ مسیح صلیب پر مر گیا ہے اور بعض نے یہ سمجھا کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ اور اگر نفس کی طرف ضمیر پھیری جائے تو اس صورت میں اس کے یہ معنی بنیں گے کہ تم نے مسیح کے بارہ میں اختلاف کیا یعنی بعض نے یہ سمجھا کہ مسیح کی لاش چرانی گئی ہے حالانکہ وہ مر گیا تھا اور بعض نے یہ قرار دیا کہ مسیح علیہ السلام زندہ صلیب پر سے اُتار لئے گئے تھے اور قبر میں سے بھاگ گئے۔

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ میں اُن کے نزدیک اس طرف اشارہ ہے کہ ایک دن ان اختلافات کی حقیقت کو کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بانی سلسلہ احمدیہ نے قرآن کریم، اناجیل اور تاریخ سے یہ امر ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح ناصر صلیب پر چڑھائے ضرور گئے تھے مگر مرے نہیں تھے اور وہ زندہ اُتار لئے گئے تھے چنانچہ تین دن قبر میں رہ کر وہ پھر اپنے حواریوں میں چلے آئے۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کے معنی وہ علماء یہ کرتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ مسیح کی قاتل قوم کو اس جرم کے بدلہ میں جو اُس نے مسیح کے حق میں کیا ہے مارو یعنی سزا اور عذاب دو۔ گویا اُس کی ضمیر قوم یہودی کی طرف جاتی ہے جو قاتل تھی اور ہا کی ضمیر نفس کی طرف جاتی ہے جس سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہیں اور جرم کے بعض حصے سے مراد یہ ہے کہ کچھ حصہ کی سزا فرشتے اُن کو دنیا میں دیں اور کچھ حصہ کی سزا مرنے کے بعد انہیں ملے گی۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب کے واقعہ کے متعلق سورہ نساء رکوع ۲۲- آیت ایک سواٹھاون میں بحث آئے گی اس جگہ اوپر کے معنوں کو سمجھنے کے لئے اختصاراً اس قدر بتا دینا کافی ہے کہ حضرت مسیح ناصر صلیب کے واقعہ صلیب کے متعلق مختلف اقوام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح کو انہوں نے صلیب پر لٹکا دیا اور صلیب پر ہی وہ مر گئے پھر اُن کی لاش کو ایک قبر میں رکھ دیا گیا جہاں سے اُن کے مرید اُن کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ حضرت مسیح زندہ ہو گئے ہیں تاکہ وہ یہودیوں کے اس اعتراض سے بچ جائیں کہ جو شخص صلیب پر لٹکا کے مار دیا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے (جس کی موت صلیب پر لٹک کر ہو اس کے متعلق لعنتی ہونے کا فتویٰ بانیل میں موجود ہے چنانچہ لکھا ہے۔ ”وہ جو پھانسی دیا جاتا ہے خدا کا ملعون ہے“، استثنا باب ۲۱ آیت ۲۳ ”جو کوئی لکڑی پر لٹکا یا گیا وہ لعنتی ہے“ (گلتیوں باب ۳ آیت ۱۳) مسیحیوں کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر ضرور لٹکا یا گیا تھا اور وہ صلیب پر مر بھی گئے لیکن چونکہ اُن کا صلیب پر لٹکا یا جانا بغیر کسی گناہ کے تھا اس لئے مسیحیوں کے نزدیک گو حضرت مسیح لعنتی ہوئے مگر وہ دوسروں کی خاطر لعنتی ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو کر انہوں نے

اس لعنت سے نجات پالی جو بنی نوع انسان کو گناہ کی سزا سے بچانے کے لئے انہوں نے اپنے آپ پر خوشی سے وارد کی تھی۔

آج کل کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیحؑ صلیب پر نہیں لٹکائے گئے بلکہ ان کی جگہ کسی اور شخص کو صلیب پر لٹکا دیا گیا اور ان کو خدا تعالیٰ آسمان پر زندہ اٹھا کر لے گیا۔ اس عقیدہ کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ملتا جو تفصیلات اس واقعہ کی بیان کی جاتی ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جاتیں۔ گذشتہ زمانہ کی تفصیلات یا تونبی کو الہام سے معلوم ہو سکتی ہیں یا صحیح تاریخ سے معلوم ہو سکتی ہیں چونکہ وہ تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائیں لازماً ان کا ثبوت تاریخ سے دینا پڑے گا لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں نہ یہودی تاریخ میں اور نہ ہی عیسائی تاریخ میں ان باتوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ پس سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ بعض شریعہ یوں یا عیسائیوں نے اپنی تاریخوں کے خلاف روایتیں وضع کر کے مسلمانوں کے ساتھ تمسخر کیا۔

بانی سلسلہ احمدیہ نے ان تینوں اقوال سے اختلاف کیا ہے اور قرآن کریم، اناجیل اور تاریخ سے اس امر کو ثابت کیا ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر تو لٹکائے گئے تھے مگر خود حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق جو انجیل میں بیان ہیں اور آج تک محفوظ ہیں صلیب پر سے زندہ اُتار لئے گئے اور زنجوں کی شدت سے دو تین دن بیہوشی اور ضعف کی حالت میں ایک کمرہ میں پڑے رہے۔ تیسرے دن طاقت آنے پر وہاں سے نکلے اور حواریوں کی مدد سے اور انجیل کی اس پیشگوئی کے مطابق کہ مسیح بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو جمع کرنے کے لئے آیا ہے (لکھا ہے کہ ”میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں۔ مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے“ یوحنا باب ۱۰ آیت ۱۶) ان دس قبائل میں تبلیغ کرنے کے لئے روانہ ہو گئے جن کی نسبت بائبل اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بخت نصر انہیں قید کر کے عراق فارس کی طرف لے گیا اور وہاں سے اُس نے انہیں سلطنت کے مشرقی ممالک یعنی افغانستان اور کشمیر کی طرف پھیلا دیا تھا۔ ان علماء کا خیال ہے کہ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری شرارتیں صرف موسیٰؑ کے زمانہ پر ختم نہیں ہو گئیں بلکہ ان کا سلسلہ منہ ہوتا گیا یہاں تک کہ تم نے مسیح ناصریؑ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی اور اسے لعنتی قرار دیا لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن تمہارے اس راز کو کھول کر رکھ دے گا۔

جہاں تک معافی کا سوال ہے یہ تفسیر بہت حد تک اس آیت پر چسپاں ہوتی ہے مگر میرے نزدیک اس میں

بعض اشکال ہیں مثلاً یہ کہ اس کے بعد کی آیت کو **ثُمَّ** کے لفظ سے شروع کیا گیا ہے اور **ثُمَّ** کے عام معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلے واقعہ کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہوا۔ اگر **وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ** اور اس کے بعد کی آیت کے معنی یہ کئے جائیں کہ مسیحؑ موعود کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر کر دے گا تو **ثُمَّ قَسَمْتَ فُؤُوبِكُمْ** والی آیت جو اس کے آگے ہے اس کے معنی یہ کرنے پڑیں گے کہ واقعہ قتل کے بعد نہیں بلکہ اس اظہار کے بعد جو آخری زمانہ میں ہونے والا ہے یہودیوں کے دل سخت ہو گئے حالانکہ یہ درست نہیں۔ یہود کے دل جہاں تک مسیح علیہ السلام پر ظلم کرنے کا تعلق ہے حضرت مسیحؑ کو صلیب پر لٹکاتے ہوئے ہی سخت ہو گئے تھے۔

اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا... الخ کے مراد معنی اب میں ان معنوں کی طرف آتا ہوں جنہیں میں ترجیح دیتا ہوں لیکن ان معنوں کے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ گزشتہ مفسرین کو غلطی اس وجہ سے لگی ہے کہ انہوں نے **اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا** والے واقعہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا واقعہ سمجھ لیا حالانکہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا نہیں **وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ** تک وہ واقعات ختم ہو گئے ہیں جن میں بنی اسرائیل کی وہ نافرمانیاں اور ناشکریاں بیان کی گئی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان سے ہوئیں اور **اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا** کی آیت سے میرے نزدیک اُن کی اُن نافرمانیوں اور ناشکریوں کا ذکر کیا گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اُن سے صادر ہوئیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ قتل والے واقعہ کے بعد فرماتا ہے **ثُمَّ قَسَمْتَ فُؤُوبِكُمْ** پھر اس واقعہ کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے یعنی تم نے اس سے عبرت حاصل نہ کی۔ اور اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے **وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ** اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو جس سے معلوم ہوا کہ **ثُمَّ قَسَمْتَ فُؤُوبِكُمْ** والے گروہ ہی نے ایک جان کو مارا یا مارنے کی کوشش کی تھی اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کا تھا۔ تبھی تو فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اسی طرح اس آیت کے بعد بھی **اَفَتَنْظُرُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ** والی آیت میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے لوگ تھے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ آٹھویں رکوع تک تو یہودیوں کی ان ناشکریوں کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اُن سے صادر ہوئیں اور نویں رکوع سے ان کی اُن ناشکریوں کا ذکر شروع ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اُن سے سرزد ہوئیں۔

اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا میں مخالفین اسلام کے کعب بن اشرف کے قتل کے متعلق اعتراض کا جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کا ایک واقعہ ہمیشہ مخالفین اسلام کے لئے اعتراض کا موجب بنتا چلا آیا

ہے اور وہ واقعہ کعب بن اشرف اور ابورافع سلام بن ابی الحقیق دو یہودی سرداروں کے قتل کا ہے۔ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ مخالفین اسلام اعتراض کرتے ہیں کہ لڑائی میں قتل یا لڑائی کے نتیجے میں قتل تو خیر جائز کہا جاسکتا ہے مگر ان دو شخصوں نے تو نہ لڑائی کی تھی نہ یہ کسی لڑائی کے جرم میں پکڑے گئے تھے پھر انہیں کیوں قتل کیا گیا۔ میرے نزدیک اس آیت میں اسی واقعہ کی تشریح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ قتل قومی جرائم کے نتیجے میں تھے اور یہودی قوم ان کی ذمہ دار تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں آتا کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اور جائز قصاص کی صورت میں کیا۔ تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح دی تو یہود جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں ورود کے موقع پر مسلمانوں سے سمجھوتہ کر لیا تھا ان کے دل حسد سے جل گئے اور منافقین کے دلوں میں بھی اُس وقت سے بغض کی آگ سلگنے لگی۔ درحقیقت بدر کی جنگ نے ایک طرف تو کفار مکہ کی شوکت کو توڑ دیا اور دوسری طرف یہود اور منافقین کے دلوں میں بھی بے چینی پیدا کر دی کیونکہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کی آمد کو ایک وقتی اور معمولی تغیر سمجھتے تھے مگر اس جنگ کے بعد وہ اسکی اہمیت کو محسوس کرنے لگ گئے نتیجے یہ ہوا کہ ایک طرف تو منافقوں نے اندرونی طور پر ریشہ دو انیاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف یہودی سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں کے خلاف یہودی قوم کو مختلف ذرائع سے بھڑکانا شروع کر دیا۔ اور مکہ والوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جوش دلانا شروع کر دیا اور ابورافع ابن حقیق نے اس کی پیڑھٹھوکی چنانچہ جنگ بدر ۲ ہجری کے رمضان کی سترھویں یا انیسویں تاریخ کو ہوئی اور اس جنگ کے معاً بعد کعب بن اشرف مکہ گیا اور اس نے مکہ والوں میں مسلمانوں سے بدر کے واقعہ کا بدلہ لینے کے لئے اشتعال پیدا کیا اور بڑے جوش سے کفار مشقتولین کے مرثیے پڑھے اور قریش کو غیرت دلائی اور یہاں تک شرارت میں بڑھ گیا کہ مسلمان عورتوں کی نسبت تشبیب شروع کر دی یعنی ایسے شعر کہنے شروع کر دیئے جن میں مسلمان مستورات کی نسبت محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ یہ شعر لوگ پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف اُن کے دلوں میں جوش بھی پیدا ہوتا تھا اور ان کا رعب بھی مٹتا تھا۔ بڑھتے بڑھتے اس ناپاک انسان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ کی بیوی کے متعلق بھی تشبیب کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہونا شروع ہوا۔ دوسری طرف یہودیوں نے علی الاعلان مسلمانوں کے خلاف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں اور مسلمان عورتوں سے تمسخر کرنا شروع کر دیا چنانچہ ایک مسلمان عورت ایک دن بازار میں کسی کام کے لئے گئی۔ اس کے بعد وہ بنو قینقاع جو ایک یہودی قبیلہ کے لوگ تھے

اور سنا رکام کام کرتے تھے اُن میں سے کسی سنا رکے پاس بیٹھ گئی (بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی زیور بننے کے لئے دیا ہوا تھا جب دیر ہو گئی تو وہ اپنے زیور کی تیاری کا حال پوچھنے کے لئے اس یہودی کے پاس آئی) اُس عورت کے چہرے پر کپڑا جھکا ہوا تھا۔ یہودی نے اسے کہا کہ اپنا منہ کھول دے (اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا مگر معلوم ہوتا ہے مسلمان عورتوں نے حیا کے اثر کے ماتحت خود بخود اپنے سروں اور چہروں کو ایک حد تک ڈھانکنا شروع کر دیا تھا) عورت نے انکار کیا۔ اس پر اس شخص نے اُس کی اوڑھنی کو اُس کے تہ بند کے ساتھ تکلے کے ذریعے پر دیا۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو جھکا لگ کر اُس کا کپڑا اُتر گیا اور وہ نگئی ہو گئی اس پر سب یہودی ہنس پڑے۔ اس عورت نے شور مچایا۔ ایک مسلمان جو وہاں سے گزر رہا تھا اُس نے اُس یہودی کا جس نے یہ شرارت کی تھی مقابلہ کیا اور وہ یہودی اس کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس پر دوسرے یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس واقعہ نے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات اور بھی بگڑ گئے۔ (السيرة النبوية لابن هشام امر بنی القینقاع)

یہ ایک انفرادی واقعہ نہیں تھا بلکہ جنگ بدر کے بعد کعب بن اشرف کی شرارتوں کی وجہ سے یہودی قبائل میں اسلام کے خلاف جو جوش پیدا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی فساد ایسا کریں جس کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو سکیں چنانچہ ابن سعد لکھتا ہے فَأَلْبَسَا كَانَتْ وَقَعَةً بَدْرٍ أَظْهَرُ وَالْبَيْعِ وَالْحَسَدِ وَتَبَدُّوا الْعَهْدَ (الطبقات الكبرى لابن سعد ذكر غزوة بنی قینقاع) یعنی جب بدر کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہودیوں نے فساد اور بغاوت کرنی شروع کر دی اور عہد کو توڑ دیا۔ یہ شرارت اس حد تک ترقی کر گئی تھی کہ صحابہؓ ہر وقت اس خطرہ میں رہتے تھے کہ کوئی شخص دھوکا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی طلحہ بن براءؓ شدید بیمار ہوئے۔ موت کی حالت قریب آگئی تو وہ رات کا وقت تھا اس پر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نصیحت کی کہ ان کی وفات کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ کی جائے اور ان کے رشتہ دار خود ہی انہیں دفن کر دیں تاکہ آپ اُن کے قریب آئیں اور اُن کی تجہیز و تکفین میں شریک ہونے کے لئے ان کے گھر پر تشریف نہ لے آئیں۔ مبادا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہودی لوگ آپ پر حملہ کر دیں۔ اصل الفاظ ان کے یہ ہیں فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْيَهُودَ وَأَن يُصَابَ فِي مَسْجِدِي یعنی میں ڈرتا ہوں کہ یہود آپ پر حملہ نہ کر دیں اور میری وجہ سے آپ کو نقصان نہ پہنچے (الاصابه فی تمييز الصحابة ذكر طلحة بن براءؓ) اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے اُس وقت شرارت اتنی بڑھ چکی تھی کہ مسلمان ہر وقت اس

بات کا خطرہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودی قاتلانہ حملہ نہ کر دیں۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات کے ماتحت بنوقیقاع کے ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کرنے اور ایک مسلمان جو اس کا بدلہ لینے کے لئے گیا تھا اس کے مار دینے کے واقعہ کو ایک انفرادی واقعہ قرار نہیں دیا اور ہر عقلمند انسان اوپر کے واقعات سے یہی استدلال کرے گا کہ یہ انفرادی واقعہ نہیں تھا۔ سوائے اُن متعصب عیسائی مؤرخین کے جو اس کو انفرادی واقعہ قرار دے کر بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر چونکہ دونوں طرف سے قتل ہو گیا تھا سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ ختم ہو گیا ہے (لائف آف محمد مصنفہ میور صفحہ ۲۴۱) باقی ہر منصف مزاج ان تمام حالات کو دیکھ کر کہ ایک طرف مکہ والوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے اُکسایا جانے لگا۔ دوسری طرف مسلمان مستورات کے خلاف گندے شعر بنا بنا کر علی الاعلان پڑھے جانے لگے۔ تیسری طرف مسلمان عورتوں کی عزت پر علی الاعلان حملہ ہونے لگا۔ چوتھی طرف خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر حملہ کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سمجھ سکتا ہے کہ یہ انفرادی واقعہ نہیں ہو سکتا۔

آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنوقیقاع کو جلا وطنی کی سزا دی اور جوان جھگڑوں کے اصل بانی تھے یعنی کعب بن اشرف جو اس ساری شرارت کا اُٹھانے والا تھا اور ابورافع جو اس کا خسر اور اس کا حامی اور بنونضیر قبیلہ کا سردار تھا ان دونوں کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ کیونکہ مسلمانوں کے اصل قاتل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اُکسانے کے اصل ذمہ دار وہی دو شخص تھے۔ کعب بن اشرف اپنی شرارتوں کی وجہ سے اور ابورافع اس کی امداد کرنے کی وجہ سے۔

عیسائی مؤرخ آج تک شور مچا رہے ہیں کہ ان دونوں شخصوں کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس شرارت کے مقابلہ میں جو انہوں نے اُٹھا رکھی تھی اُن کا قتل بالکل بے حقیقت تھا۔

میرے نزدیک آیت زیر تفسیر میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو کچھ تم نے کیا تھا وہ تو کیا ہی تھا۔ اب اس زمانہ میں کہ تم کو دوبار خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا موقع مل رہا تھا تم نے پھر شرارت پر کمر باندھ لی ہے اور ایک عظیم الشان نفس قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کے متعلق منصوبے کرتے ہو اور کئی قسم کی تدبیریں سوچتے ہو اور پھر ان شرارتوں کی ذمہ داری سے کلیتہاً انکار کر بیٹھتے ہو لیکن یاد رکھو یہ تمہاری چال بازیاں کام نہ دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی شرارتوں پر کون اُکسانے والا ہے اور وہ اس پردہ راز کو کھول کر رکھ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ درحقیقت

اس شرارت کا بانی مبنائی کعب بن اشرف ہے پس اُس کی سزا کے لئے وہ سامان پیدا کر دے گا۔

اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا مِّنْ قَتْلِ اَوْلَادِكُمْ اَوْ نَفْسًا مِّنْ قَتْلِ اَوْلَادِكُمْ اَوْ نَفْسًا مِّنْ قَتْلِ اَوْلَادِكُمْ

یہاں قَتَلْتُمْ نَفْسًا کے الفاظ ہیں جس کے معنے ہیں ”تم نے ایک جان کو قتل کیا“، لیکن میں نے جو واقعات بتائے ہیں ان سے یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ قتل کا لفظ قتل کی کوشش یا ارادہ کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آتا ہے۔ وَ قَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ مِّنْ اٰیٰتِ الْاِنۡجٰلِ اِنَّكُمْ لَیَمٰنَکَۃٌ اَتَقْتُلُوۡنَ رَجُلًاۙ اَنْ یَّقُوۡلَ رَبِّیُّ اللّٰهُ وَ قَدْ جَاءَکُمْ بِالْبَیِّنٰتِ مِنْ رَبِّکُمْ۔ (المؤمن: ۲۹) یعنی آل فرعون میں سے ایک ایسا شخص جو میری پر ایمان لایا تھا۔ لیکن اپنا ایمان چھپا کر رکھتا تھا اس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے کہا۔ کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے بڑے بڑے نشان لایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ارادہ قتل کے معنوں میں قتل کا لفظ استعمال ہوا ہے پس آیت زیر تفسیر میں بھی قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے مراد یہ معنی کرنے جائز ہیں کہ تم نے ایک عظیم الشان انسان کے قتل کا ارادہ کیا اور ایسا پختہ ارادہ کیا اور عملی طور پر اس کے لئے ایسے سامان پیدا کرنے شروع کر دیئے کہ یوں کہنا چاہیے گویا تم نے اپنی طرف سے اُسے قتل کر ہی دیا۔ مگر اس کے علاوہ ایک مسلمان کی جان بھی ان یہودیوں نے لی تھی گو وہ مسلمان ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا مگر چونکہ اس ساری شرارت کی غرض اصل میں یہ تھی کہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا موقع نکالا جائے اس لئے اس کا قتل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کہلائے گا۔ پس قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے اس شخص کا قتل بھی مراد لیا جاسکتا ہے جسے بنو قینقاع نے قتل کیا اور اس کی عظمت اس بناء پر سمجھی جائے گی کہ اس کا قتل درحقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں تھا۔

یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہودی لوگ تو تھوڑے تھے۔ ان کے دلوں میں اتنا جوش کہاں پیدا ہو سکتا تھا کیونکہ گو یہودی تعداد میں تھوڑے تھے لیکن انہیں مدینہ کے لوگوں کی امداد کا عموماً اور منافقین کا خصوصاً بھروسہ تھا کیونکہ وہ ان کے ساہا سال سے حلیف چلے آ رہے تھے۔ پھر مکہ کے لوگ بھی ان کو اُکسارہے تھے۔ علاوہ ازیں وہ اپنے آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ منظم سمجھتے تھے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع نے مجلسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ”یا مُحَمَّدُ اِنَّکَ تَرٰی اَنَّا قَوْمُکَ لَا یَعْرِوۡنَکَ اِنَّکَ لَقَیۡتَ قَوْمًا لَا عَلِمَ لَہُمْ بِالْحَرَبِ فَاَصٰبَتْ مِنْہُمْ فُرۡصَۃٌۙ اِنَّا وَا اللّٰہِ لَوٰیۡنَ حَارِبِنَاکَ لَتَعَلِمَنَّ اَنَّا اَحۡضُنُ النَّاسَ۔“ اے محمد تم شاید چند قریشیوں کو قتل

کر کے مغرور ہو گئے ہو وہ لڑائی کے فن سے ناواقف تھے اور تم نے موقع پا کر ان پر فتح حاصل کر لی۔ اگر ہمارے ساتھ مقابلہ پڑے تو تمہیں پتہ لگ جائے کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ (سیرت ابن ہشام امر بنی قینقاع) اس تمہید کے بعد اب میں ان آیات کی ترتیب تفصیلاً بیان کرتا ہوں۔

إِذْ قَاتَلْتُمُوهُمْ... الخ میں آنحضرتؐ کے زمانہ کے یہودیوں کو خطاب وَإِذْ قَاتَلْتُمُوهُمْ نَفْسًا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہودی مخاطب ہیں اور قتل سے مراد ارادہ قتل اور قتل بھی ہو سکتا ہے اور نَفْسًا سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور وہ فرد یا افراد ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا راستہ کھولنے کے لئے یہودیوں نے قتل کیا۔ فَإِذْ دَرَأْتُمْ فِيهَا سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلعم کے قتل کے منصوبہ سے بظاہر انکار کرتے رہے یا یہ کہ بعد میں یہودیوں نے اُس مسلمان کے قتل کے بارہ میں اختلاف کیا جسے انہوں نے ملکر قتل کر دیا تھا۔ چونکہ حملہ اکٹھا گیا گیا تھا اس لئے ہر شخص اُن میں سے کہتا تھا کہ میں نے نہیں مارا اور سمجھتا تھا کہ ایک پہلو سے میں سچ کہہ رہا ہوں حالانکہ اس قسم کی بات سچ نہیں کہلاتی بلکہ جھوٹ ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قتل پر دلیری یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبوں پر دلیری جو شخص تم کو دلا رہا ہے اور جو تمہاری ان تمام شراوتوں کا محرک ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور وہ اس کو ظاہر کر کے چھوڑے گا یا مراد یہ ہے کہ گو بظاہر تم مسلمان عورتوں کے خلاف گندے اشعار کہتے یا عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہو یا دوسرے مسلمانوں کی جانوں پر حملہ کرتے ہو لیکن تمہارا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ہے اور تمہارے اس گند کو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور ظاہر کر دے گا چنانچہ بعد کے واقعات نے یہودیوں کے ان ارادوں کو ظاہر کر دیا۔ بنو نضیر جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا انہوں نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض دینی معاملات پر بحث کرنے کے لئے دعوت دی اور ساتھ ہی یہ منصوبہ کیا کہ موقع پا کر آنحضرت صلعم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بد ارادے سے بچا لیا۔ (ابو داؤد کتاب الخراج باب خبر النضیر) اسی طرح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ منہ پر رکھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً خبر دے دی لیکن ایک دوسرا مسلمان جس نے ایک لقمہ کھا لیا تھا وہ شہید ہو گیا۔ (السيرة النبوية لابن هشام ذكر المسير الى الخيبر قصة شاة المسمومة) پس وَاللَّهِ هُجْرٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کے معنی یہ ہیں کہ گو اس وقت تم اپنے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو مگر جب ان قرآن کی وجہ سے جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں تم پر گرفت آتی ہے تو تم الزام سے انکار کر دیتے ہو لیکن یاد رکھو خدا تعالیٰ

ایسے سامان ضرور کرے گا کہ جن سے تمہارے یہ قومی ارادے ایک دن پوری طرح ننگے ہو جائیں گے۔ ان دوسرے معنوں کی رو سے وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کا جملہ یہودیوں کے اندرون کی وقتی پردہ دری پر دلالت کرنے کے علاوہ ایک ضمنی جملہ کے طور پر آئندہ کے لئے ایک پیشگوئی بھی قرار دیا جائے گا۔ اگر کہا جائے کہ پہلے معنوں پر تو یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ چونکہ ان کا ظہور بعد کے زمانہ سے متعلق ہے اس لئے ثُمَّ فَسَّتْ قُلُوبُكُمْ سے اس کا جوڑ نہیں رہتا لیکن یہاں بھی وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کو ایک پیشگوئی قرار دیا گیا ہے جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے معنوں میں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ والی آیت کا تعلق بھی مستقبل بعید سے بتایا جاتا ہے لیکن اس جگہ صرف وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کو ضمنی جملہ اور پیشگوئی بتایا گیا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ کو حال ہی سے متعلق بتایا گیا ہے پس ثُمَّ فَسَّتْ قُلُوبُكُمْ کا تعلق فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ سے قائم ہے اور کوئی اختلاف معنوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ پھر فرماتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرنے پر یا ایک مسلمان کو اس غرض کے پورا کرنے کے لئے قتل کر دینے پر ہم نے کہا۔ اضْرِبُوهُ قَاتِلُ كَوْمَارٍ بِبَعْضِهَا اس کے بعض کے سبب سے۔ اس جملہ کے بعض حصے تشریح طلب ہیں۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ میں ضرب کے معنی تلوار سے مارنے کے اَوَّلَ صَرَبٍ کے عام معنی پٹینے کے ہوتے ہیں لیکن اس جگہ پر میں نے قتل کے معنی لئے ہیں چنانچہ لغت میں لکھا ہے صَرَبَةٌ بِيَدِهِ وَبِالْعَصَا وَنَحْوَهَا: اَصَابَةٌ وَصَدَمَةٌ يَهَيَّا لَيْحِي اِنِّهٖ يَاسُوْنَةُ سِيَّاسِي هِي كَسِي اَوْرَجِيْزِ سِ اُسَ جَهْوَا يَازُوْرَ سِ عَكَرَا يَ لَيْحِي مَارَا۔ لیکن جس طرح صَرَبَةٌ بِيَدِهِ يَ صَرَبَةٌ بِالْعَصَا کہنے سے مارا کے معنی نکلتے ہیں اسی طرح لغت میں لکھا ہے کہ جب صَرَبَةٌ بِالسَّيْفِ کے الفاظ استعمال ہوں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اَوْقَعَ بِهِ (اقرب) تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ پس گو عام استعمال کے مطابق صَرَبٍ کے معنی مارنے کے ہی ہوتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے لغت سے اوپر بتایا ہے جب صَرَبٌ بِالسَّيْفِ مراد ہو تو اس کے معنی قاتلانہ حملہ یا قتل کرنے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف کے مارنے پر جو اس فتنہ کا بانی مبنی تھا ایک صحابی کو مقرر کیا تھا اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص مارنے کے لئے جائے وہ قتل پر قابو بھی پالے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتا ہے اس لئے موقع کی مناسبت سے اضْرِبُوهُ کے الفاظ استعمال کئے (جن کا متعلق بالسیف محذوف ہے) اور مراد یہ ہے کہ اس پر تلوار سے حملہ کرو۔ قتل کا حکم درحقیقت ایسے شخص کو ہی دیا جاسکتا ہے جو قتل پر قادر ہو جیسے حکومت کے کسی نمائندہ کو حکومت کے کسی فرد کے قتل کرنے کا حکم دیا جائے مگر کعب بن اشرف اسلامی نظام حکومت کے اس طرح تابع نہیں تھا پس اس وجہ سے

اَضْرِبُوهُ الْفَاظِ اسْتِعْمَالِ كُنْے گئے اور مراد یہ ہے کہ اَضْرِبُوهُ بِاللَّسِيفِ اُس پر تلوار سے حملہ کرو۔ بِبَعْضِهَا مِیں بَاءِ تَعْلِيلِ كے معنے دیتی ہے اور مراد یہ ہے کہ اس كے بعض سے یا بعض كی وجہ سے۔ اور بعض كے بعد اِثْمٌ یعنی گناہ یا ایسا ہی كوئی اور لفظ مَحْذُوفِ ہے جو عربی قاعدہ كے رُو سے اكثر مَحْذُوفِ ہو جایا كرتا ہے۔ پس سارے جملہ كے معنے یہ ہوئے كہ ہم نے کہا قاتل پر اس كے گناہ كے بعض حصّے كی وجہ سے تلوار كے ساتھ حملہ كرو۔ بعض حصّہ اس لئے کہا گیا ہے كہ كعب بن اشرف كا گناہ صرف اس دنیا كی سزا كے ساتھ تعلق نہیں ركھتا تھا اور اس كے گناہ كی سزا كو اُس كا قتل كیا جانا ڈھانپ نہیں سكتا تھا بلکہ وہ اس بات كا مستحق تھا كہ اگلے جہان مِیں بھی اُس كو خالص خدائی عذاب مِیں مبتلا كیا جائے۔ چنانچہ قرآن كَرِیمِ مِیں اللہ تعالیٰ قاتلوں كے متعلق فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا فَعَجْرًا وَاَوْهًا جَهَنَّمَ خُلِدًا فِيْهَا (النساء: ۹۲) جو شخص كسی مومن كو جان بوجھ كر مار دے اس كی سزا جہنّم ہے جس مِیں وہ دیر تك بستا چلا جائے گا۔ لیکن قرآن كَرِیمِ سے یہ ثابت ہے كہ ایسے شخص كی یہ بھی سزا ہے كہ اُسے قتل كیا جائے پس معلوم ہوا كہ قاتل كو دو سزائیں ملتی ہیں۔ ایک اس دنیا مِیں قتل كے ذریعہ سے اور ایک اگلے جہان مِیں جہنّم مِیں ڈال كر۔ پس بِبَعْضِ اِثْمِهَا سے مراد یہ ہوئی كہ تم اپنے حصّہ كی سزا اسے قتل كے ذریعہ سے دے لو۔ دوسرے حصّہ كی سزا ہم خود اسے اُس كی موت كے بعد دیں گے۔

فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا مِیں بِبَعْضِهَا سے مراد یہ جو مِیں نے بتایا ہے كہ بِبَعْضِهَا مِیں بَاءِ حرف تَعْلِيلِ كے طور پر استعمال ہوئی ہے ان معنوں مِیں بَاءِ كے استعمال كی مثالیں قرآن كَرِیمِ مِیں بھی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِیْمَا نَقَضْتُمْ مِیثَاقَهُمْ مِیثَاقَهُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ (المائدة: ۱۳) ہم نے ان كے عہد توڑ دینے كے سبب سے اُن پر لعنت كی اور یہ جو مِیں نے لکھا ہے كہ هَا كا مضاف یعنی اِثْمٌ كا لفظ حذف كیا گیا ہے اس كا استعمال بھی قرآن كَرِیمِ مِیں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ الْمَيْتَةُ (المائدة: ۴) تم پر مُرْدِہ حرام كیا گیا ہے حالانكہ مُرْدِہ حرام نہیں ہوتا۔ مُرْدِہ كا كھانا حرام ہوتا ہے پس اصل الفاظ یہ ہیں حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ اَكْلُ الْمَيْتَةِ تم پر مُرْدِہ كا كھانا حرام كیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن كَرِیمِ مِیں آتا ہے وَسَعَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِجْرَةَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيْهَا (یوسف: ۸۳) تم اس بستی سے پوچھو جس مِیں ہم تھے اور عیر سے پوچھو جن كے ساتھ واپس آئے ہیں حالانكہ بستی مكائون كے مجموعہ كا نام ہے۔ عِجْرَة كے معنے گدھوں كے ہیں۔ نہ كوئی مكائون سے پوچھا كرتا ہے اور نہ گدھوں سے پوچھتا ہے۔ پس بستی سے بستی والے اور گدھوں سے گدھوں والے مراد ہیں۔ اور مالك كا لفظ یا صاحب كا لفظ جو قریہ اور عیر كی طرف مضاف تھا اسے حذف كر دیا گیا ہے اور مراد یہ ہے كہ اَسْأَلُوا اَهْلَ الْقَرْيَةِ وَاَصْحَابَ الْعِيْرِ۔

اس کے بعد فرماتا ہے كَذٰلِكَ يُعْجِبُ اللّٰهُ الْهُنٰوِيَّ - اللہ تعالیٰ اسی طرح مُردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی انبیاء کی جماعتوں کو لوگ تباہ کرنا چاہتے ہیں اور نبیوں کو قتل کر کے اُن کو مٹانا چاہتے ہیں مگر جس قسم کے انبیاء کو قتل سے محفوظ رکھنے کا خدا تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے وہ ان نبیوں کو دشمنوں کے حملوں سے ضرور بچاتا ہے اور جب دشمن اُنہیں اپنی طرف سے مار چکا ہوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کے ذریعہ سے گویا اُن کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ سلسلہ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے قتل پر اُن کے دشمن کبھی تسلط نہیں پاتے کیونکہ قومی احیاء کا حقیقی نمونہ ان ہی دونوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے جیسے کہ موسوی سلسلہ میں پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور آخری حضرت مسیح علیہ السلام تھے جو احیاء بنی اسرائیل کا ان دونوں کے ذریعہ سے ہو اور میان انبیاء کا کام ان کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہر حالت میں دشمنوں کے حملوں سے بچاتا ہے اسی طرف كَذٰلِكَ يُعْجِبُ اللّٰهُ الْهُنٰوِيَّ میں اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ موت سے بچانا چاہے اُنہیں کوئی مارنے پر قادر نہیں ہو سکتا دوسرے اس احیاء کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان انبیاء کے ذریعہ سے دنیا میں ہوتا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ کسی سلسلہ کے اوّل اور آخری نبی کو مارنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہلاک کرتا ہے کیونکہ اگر وہ ہلاک نہ کئے جائیں تو دنیا زندہ نہیں ہو سکتی پس ان کی ہلاکت پر اعتراض کرنا حماقت ہے اعتراض تو اس صورت میں ہوتا کہ ان انبیاء کے ایسے دشمن جو انہیں ہلاک کرنا چاہیں خود ہلاک نہ ہو جائیں۔

وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ سے یہ بتایا کہ اس قسم کے نشانوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کی شرارتوں سے روکا جائے اور نیکی کی طرف لایا جائے۔ یہود کو سزائیں ملیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کو خدا تعالیٰ نے ہر قسم کے ظاہر اور خفیہ حملوں سے محفوظ رکھا۔ اس میں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں ایک بڑا نشان تھا چنانچہ کچھ یہودی مسلمان بھی ہو گئے مگر قوم کے بیشتر حصہ نے ان نشانوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔

غرض ان دونوں آیتوں میں جو اوپر گزریں اُس عظیم الشان اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جو عیسائی اور یہودی آج تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرتے چلے آتے ہیں کہ آپ نے کیوں کعب بن اشرف اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کو قتل کرایا اور بتایا ہے کہ ان لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بعض مسلمان مارے گئے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کی سازشیں بھی ہوئیں اور کسی جماعت کے امام یا کسی ملک کے بادشاہ کے قتل کا ارادہ درحقیقت اُس ساری قوم کے قتل کے برابر ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگوں نے بھی ایسے جرم کو ایک

خاص نام ہائی ٹریزن (High Treason) کا دیا ہے اور ”ہائی ٹریزن“ کے جرم میں جن لوگوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اُن کا جرم قتل کے جرم پر ہی مشتمل ہو۔ آجکل بھی جب کہ دوسری جنگِ عالم جاری ہے۔ معمولی جاسوسیوں کے جرم میں لوگوں کو پھانسیاں ملتی ہیں۔ عیسائی اور یہودی یہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور ابورافع بن ابی الحقیق کو کیوں مراد یا گیا مگر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ اشخاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کے فکر میں تھے اور اس کے لئے لوگوں کو اُکساتے تھے۔ کیا دنیا کی کوئی بھی حکومت ہے جو ایسے آدمی کو قتل نہ کرے گی جو اُن کی حکومت کے افسر یا رئیس کو قتل کروانے کے لئے باقاعدہ سازشیں کر رہا ہو۔ اس صورت میں وہی حکومت اس بات سے انماض کر سکتی ہے جو خود بھی اپنے سردار کی قیمت کو نہ سمجھتی ہو اور اُس کے مارے جانے میں نلک کا کوئی زیادہ حرج نہ پاتی ہو مگر صحابہؓ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے۔ اُن کی محبت کا اندازہ اسی مذکورہ بالا واقعہ سے ہی کیا جاسکتا ہے جس میں ذکر ہے کہ جب ایک صحابی رات کے وقت فوت ہونے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ دی جائے تا ایسا نہ ہو کہ آپ ہمدردی کی وجہ سے رات کے وقت میرے مکان پر آنا چاہیں اور یہودی آپ کو قتل کر دیں۔

صحابہؓ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ پڑھانے کی جو قیمت تھی اُس کا پورا اندازہ عیسائی اور یہودی نہیں لگا سکتے لیکن پھر بھی اگر وہ تعصب سے خالی ہو کر اُس صحابی کی اس قربانی پر غور کریں تو وہ سمجھ سکیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو یہودیوں سے اُس وقت بہت ہی بڑا خطرہ تھا۔ اتنا بڑا خطرہ کہ جس کے لئے اس صحابی نے اس نعمت کو قربان کر دیا۔ جو نعمت یقیناً اس کو اپنی جائیداد اور اپنے بال بچوں کی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ اگر خطرہ حقیقی نہ ہوتا اور بہت سخت نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ صحابی اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم نہ کرتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھائیں۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ

اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ پتھروں کی طرح بلکہ

أَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ

(ان سے بھی) زیادہ سخت ہیں اور پتھروں میں سے تو یقیناً بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے

الْأَنْهَارُ ۖ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۖ وَ

دریا بہتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے (بھی) ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے

إِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

اور ان (یعنی دلوں) میں سے (بھی) بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے (معانی مانگتے ہوئے) گر جاتے ہیں

عَبَا تَعْمَلُونَ ﴿۴۵﴾

اور جو (کچھ) تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ قَسَمْتُ قَسِمًا سے مؤنث کا صیغہ ہے اور قَسَا قَلْبُهُ (يَقْسُو قَسْوًا وَ قَسَاوَةً) کے معنی

ہیں صَلَبٌ وَ غَلَطٌ اس کا دل سخت ہو گیا اور جب لفظ قَسِمًا درہم کے متعلق استعمال کریں اور کہیں قَسِمًا الدِّرْهُمُ تو

اس کے معنی ہوتے ہیں زَافٌ کہ سہہ خالص دھات کا نہیں ہے اس کے اندر ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ (اقرب)

الْقَسْوَةُ۔ الصَّلَابَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ یعنی ہر چیز کی سختی کو قَسْوَةٌ سے تعبیر کرتے ہیں اور جب قَسْوَةٌ کا لفظ قلب کے

لئے استعمال کریں تو اس کے معنی ہوں گے۔ ذَهَابُ اللَّيْنِ وَالرَّحْمَةِ وَالْحُشْوَعِ دل سے نرمی، شفقت اور خشوع کا

نکل جانا۔ (لسان) پس قَسَمْتُ قَلْبِي لَكُمْ کے معنی ہوں گے کہ (۱) تمہارے دل سخت ہو گئے۔ (۲) تمہارے دل نرمی،

شفقت اور خشوع سے خالی ہو گئے۔

الْحِجَارَةُ الْحَجَرُ کی جمع ہے اور الْحَجَرُ کے معنی ہیں الْجَوْهَرُ الصُّلْبُ پتھر (مفردات) اس کی جمع أَحْجَارٌ

بھی آتی ہے اور حَجَرٍ ان سونے اور چاندی کو کہتے ہیں۔ (اقرب)

يَتَفَجَّرُ يَتَفَجَّرُ تَفَجَّرَ سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور تَفَجَّرَ الْمَاءُ کے معنی سَالَ الْمَاءُ وَ

جَزَى پانی بہہ پڑا (اقرب) پس يَتَفَجَّرُ کے معنی ہوں گے بہہ پڑتے ہیں۔

الْأَمْهَارُ الْمَهْرُ کی جمع ہے اور الْمَهْرُ کے معنی ہیں مَجْرَى الْمَاءِ الْفَائِضِ بہنے والے پانی کے چلنے کی

جگہ۔ وَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ مَثَلًا لِّمَآئِدٍ مِّنْ فَيْضِهِ وَفَضْلِهِ فِي الْجَنَّةِ عَلَى النَّاسِ قَالَ . إِنَّ الْبَاقِينَ فِي

جَنَّتٍ وَ نَهْرٍ (القمر: ۵۵) اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے بطور مثال کے اپنے اس فیض اور فضل کو جو اس کے

بندوں پر جنت میں بکثرت نازل ہوگا بیان کیا ہے۔ جیسے کہ فرمایا إِنَّ الْبَاقِينَ فِي جَنَّتٍ وَ نَهْرٍ کہ متقی باغات اور نہروں

میں ہوں گے وَالنَّهْرُ - السَّعَةُ تَشْبِيهَا بِتَهْرِ الْمَاءِ - تَهْر کے معنی وسعت کے ہیں۔ نہر کا پانی چونکہ وسیع ہوتا ہے اس لئے اس کو اس پر قیاس کر لیا۔ چنانچہ کہتے ہیں تَهْرٌ تَهْرٌ أَمْ كَثِيرٌ الْمَاءِ بہت پانی والا دریا۔ (مفردات)

يَشَقُّقُ اصل میں يَتَشَقَّقُ (باب تفعّل سے مضارع واحد غائب کا صیغہ) تھا۔ ت کو شین میں ادغام کیا گیا۔ اس کی ثلاثی شَقَّ (يَشَقُّ) ہے۔ شَقَّ الشَّيْءَ (متعدی) کے معنی ہوتے ہیں صَدَعَهُ وَفَرَّقَهُ کہ کسی چیز کو پھاڑ دیا اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ تَشَقَّقُ (باب تفعّل میں) اَلْحَطَبُ کے معنی ہیں کہ (کسی نے) لکڑی (کو پھاڑا اور وہ) پھٹ گئی۔ آیت ہذا میں يَشَقَّقُ کے معنی ہوں گے (بعض دل) پھٹ جاتے ہیں۔ (اقرب)

يَهْبِطُ هَبَطَ سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور هَبَطَ مِنَ الْحَشِيَّةِ کے معنی ہیں تَضَاءَلٌ وَخَشَعٌ یعنی ڈر کی وجہ سے کمزور اور چھوٹا ہو گیا اور اس نے عاجزی اختیار کی (اقرب) اَلْهَبُوطُ اَلْاَلْمِحَارُ اوپر سے نیچے کی طرف گرنا۔ (مفردات)

هَبَطَهُ (يَهْبِطُ هَبَطًا) مِنَ الْجَبَلِ کے معنی ہیں اَنْزَلَهُ اس کو پہاڑ سے اُتار۔ هَبَطَ بَلَدًا كَذَا - دَخَلَهُ كَسِي شہر میں داخل ہوا (یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ هَبَطَهُ بَلَدًا كَذَا کے معنی ہوں گے اَدْخَلَهُ اس کو فلاں شہر میں داخل کیا) هَبَطَ السُّوقُ: اَتَاهَا بَازَارِمْس آيا۔ هَبَطَ فُلَانٌ مِنَ الْجَبَلِ (يَهْبِطُ وَيَهْبِطُ هَبُوطًا) نَزَلَ پَهَاڑ سے اُتْرَا۔ هَبَطَ الْوَادِي: نَزَلَهُ وادى میں اُتْرَا۔ هَبَطَ مِنْ مَوْضِعٍ اِلَى مَوْضِعٍ اٰخَرَ: اِنْتَقَلَ اِيك جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا (اقرب) پَسِ اَهْبِطُوا کے معنی ہوں گے (۱) اپنی جائے قیام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ قیام پذیر ہو جاؤ (۲) نکل جاؤ۔

پَسِ يَهْبِطُ مِنَ حَشِيَّةِ اللّٰهِ کے معنی ہوں گے کہ (۱) ان دلوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ (معانی مانگتے ہوئے) اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں (۲) اللہ کے ڈر کی وجہ سے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔

حَشِيَّةٌ حَشِيَّةٌ (يَحْشَاهُ حَشِيَّةً) کے معنی ہیں خَافَهُ وَاتَّقَاهُ کسی چیز سے ڈرا اور اس سے خوف محسوس کیا۔ اَلْحَشِيَّةُ کے معنی ہیں اَلْحَوْفُ خَوْفٍ۔ (اقرب) کلیات ابی البقا میں ہے اَلْحَشِيَّةُ اَشَدُّ مِنَ اَلْحَوْفِ وَ اَلْحَشِيَّةُ تَكُونُ مِنْ عَظَمَةِ الْمَحْشِيِّ وَ اَلْحَوْفُ يَكُونُ مِنْ ضَعْفِ الْحَائِفِ (بحوالہ اقرب) یعنی لفظ خشیت میں ڈر کا مفہوم لفظ خوف کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے نیز خشیت اور خوف میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ خشیت میں اس ڈر کے معنی پائے جاتے ہیں جو مَحْشِي (یعنی جس ذات سے ڈرا جائے) کی عظمت کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے اور خوف میں اس ڈر کا مفہوم پایا جاتا ہے جو ڈرنے والے کی اپنی کمزوری پر دلالت کرتا ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں اَلْحَشِيَّةُ

خَوْفٌ يَشُوبُهُ تَعْظِيمٌ یعنی خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں اس شخص کی بزرگی اور تعظیم کا خیال بھی شامل ہو جس سے خشیت کی جائے۔ پھر لکھتے ہیں وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ عَنْ عِلْمٍ مِمَّا يُخْشَى مِنْهُ اور لفظ خشیت کا اکثر استعمال اس جگہ ہوتا ہے جہاں خوف کی وجہ کا بھی علم ہو وَلِذَلِكَ خُصَّ الْعُلَمَاءُ بِهَا فِي قَوْلِهِ 'أَمَّا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ' (الفاطر: ۲۹) یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی خشیت اس کے عالم بندوں کے دل میں ہوتی ہے ورنہ خوف تو عام لوگوں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ (مفردات)

بِعَافِلٍ عَافِلٌ غَفَلٌ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور غَفَلَ عَنْهُ غَفْلَةٌ کے معنی ہیں تَرَكَهُ وَسَهِيَ عَنْهُ کسی چیز (پر مدامت) کو چھوڑ دیا اور اس کو بھول گیا۔ نیز کہتے ہیں غَفَلَ الشَّيْءُ اور معنی یہ ہوتے ہیں سَتَرَهُ لِعَنِي فُلَانٌ چیز پر پردہ ڈال کر اُس کو ڈھانپ دیا (اقرب) اَلْغَفْلَةُ سَهْوٌ يَعْتَرِي الْإِنْسَانَ مِنْ قِلَّةِ التَّحَفُّظِ وَالتَّيَقُّظِ یعنی قوتِ حافظہ اور دماغی بیداری کے کم ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو بھلا دینا غفلت کہلاتا ہے (لسان) ابلِ عَرَبٍ کہتے ہیں اَنْتَ عَافِلٌ اور مطلب یہ ہوتا ہے لَا تَعْنِي بَشْيَءٍ کہ تو تو کسی شے کی طرف توجہ نہیں دیتا (لسان) ابوالبقاء کہتے ہیں اَلْغَفْلَةُ هُوَ الَّذِي هُوَلُ عَنِ الشَّيْءِ کہ کسی چیز کو بھلا دینا غفلت کہلاتا ہے (تاج) عَافِلٌ كِي جَمْعُ عَافِلُونَ ، غَفُولٌ اور غَفْلٌ آتی ہے۔ (اقرب) پس وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کے معنی ہوں گے کہ (۱) اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال سے بے خبر ہو جائے (۲) تمہارے اعمال پر پردہ ہی ڈالتا چلا جائے (۳) تمہارے اعمال کو بھلا دے اور اُن کا کوئی نتیجہ نہ نکالے (۴) تمہارے اعمال کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹالے۔

تفسیر - ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس آیت میں ثُمَّ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کا مضمون پہلی آیتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مراد یہ ہے کہ پہلے نشانات کی وجہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی مگر تمہارے دل اور بھی زیادہ سخت ہو گئے چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کعب بن اشرف اور ابورافع بن ابی الحقیق کے قتل کئے جانے کے باوجود اور بنوقینقاع کے مدینہ سے نکالے جانے کے باوجود یہود کے دوسرے دو قبیلوں یعنی بنونضیر اور بنوقریظہ شرارتوں میں اور بھی بڑھ گئے۔

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً فرماتا ہے وہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ سختی میں اُن سے بھی زیادہ۔ پتھر کے ساتھ دل کی سختی کی مشابہت قریباً ہر زبان میں دی جاتی ہے یہاں بھی وہی مشابہت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ خدائی باتوں کو قبول کرنے کے لئے اُن کے دل تیار نہیں ہوتے حتیٰ کہ پتھر میں بھی کوئی نرمی ہوتی ہے مگر ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں۔

اَوْ كَلْفِ اس جگہ پر شک کے لئے نہیں آیا بلکہ مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں اور کچھ لوگوں کے دل اُن سے بھی سخت ہیں۔

وَ اِنَّ مِنَ الْجَارِثِ لَمَّا يَنْفَجَرُ مِنْهُ اَلَا نَهْرٌ يُّهْرُ فَمَا تَا هِمْ نَعْنِ جَوِيَهْ كِهَا كِه يَه پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے دباؤ سے پھٹ جاتے ہیں اور اُن کے بیچ میں سے نہریں بہنے لگ جاتی ہیں چنانچہ یہ نظارے کثرت سے پہاڑوں میں نظر آتے ہیں کہ اونچی برفوں سے بہنے والے زمین دوز پانیوں کے دباؤ سے کئی جگہ پر پتھریلی زمینیں شق ہو جاتی ہیں اور اُن میں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ مگر یہودی لوگ کچھ ایسے سخت دل ہو گئے کہ خدا کے کلام کی نہر جاری ہوئی مگر اُن کے دلوں نے اس کو کوئی راستہ نہ دیا اور خدا تعالیٰ کی آیات کا ظاہر اَوْ بَاطِنًا انکار ہی کرتے چلے گئے۔

وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْفَقُ فَيَخُجُّ مِنْهُ الْبَاءُ۔ اور ان میں سے (یعنی پتھروں میں سے) بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو اُن میں سے پانی نکلتا ہے یعنی کوئی بڑا چشمہ تو اُن میں سے نہیں نکلتا مگر تھوڑا تھوڑا پانی اُن میں سے نکلتا شروع ہو جاتا ہے گویا اس جگہ پر اس بات کی مثال دی ہے کہ بعض لوگوں سے کم نیکی کا ظہور ہوتا ہے اور بعض لوگوں سے زیادہ نیکی کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو اُن پتھروں کے مشابہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے سے بڑے بڑے چشمے بہتے ہیں یعنی شروع میں تو وہ صداقت کا مقابلہ کرتے ہیں مگر آخر صداقت کے اثر کو قبول کر لیتے اور اسے رستہ دے دیتے ہیں اور اس حد تک اُس سے اثر پذیر ہوتے ہیں کہ صداقت بڑے زور سے اُن میں سے نکلی شروع ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں تو صداقت کا مقابلہ کرتے ہیں مگر آخر اُس سے رستہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن اُن کا تاثر زیادہ شدید نہیں ہوتا۔ صداقت اُن سے نکلتی ہے مگر کم مقدار میں۔ لیکن فرماتا ہے یہودیوں میں سے اکثر لوگ اس درجہ کے بھی نہیں ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہیں۔ وہ کسی صورت میں بھی خدائی صداقتوں کو نکلنے کے لئے رستہ نہیں دیتے۔ نہ چھوٹا رستہ نہ بڑا۔

پھر فرماتا ہے وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ حَشِيَّةِ اللّٰهِ اس فقرہ کے دو طرح معنی کئے جاسکتے ہیں۔ ایک تو اس طرح کہ ہا کی ضمیر پتھروں کی طرف پھیری جائے اور معنی یہ کہنے جائیں کہ پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خشیت اللہ سے گرجاتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ پتھروں میں عقل اور امتیاز کا مادہ پایا جاتا ہے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے خوف کو اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح کہ انسان محسوس کرتا ہے بلکہ اس جگہ پر خشیت کا مضاف محذوف ہے (تصریح جلد دوم) اور مراد یہ ہے کہ خشیت اللہ پیدا کرنے کے اسباب سے گرجاتے ہیں۔ جیسے آندھیاں ہیں،

زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، گرنے والی بجلیاں ہیں، یہ سب چیزیں خشیت اللہ پیدا کرنے کا موجب ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے پتھر بھی گرتے ہیں۔ پس مطلب یہ ہوا کہ سیلاب آتے ہیں تو پتھر بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آندھیاں آتی ہیں تو پتھر بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ زلزلے آتے اور بجلیاں گرتی ہیں تو بھی پتھر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں لیکن زمینی اور آسمانی انقلابات متواتر اور شدت کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں مگر ان سنگ دل اور متعصب یہودیوں کے دلوں میں کچھ بھی خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا اور ان کے دل خدا تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہی نہیں۔

دوسرے معنی اس کے اس طرح پر کئے جاسکتے ہیں کہ گو خشیت کے معنی ڈرنے کے ہیں لیکن کبھی ثلاثی مصدر رباعی کے قائم مقام کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے (بحر محیط زیر آیت هذا) اسی طرح خشیت اس جگہ اِحْشَاء کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والی چیزوں کے سبب سے (جیسے آندھیاں، سیلاب، بجلیاں اور زلزلے ہیں) بعض پتھر گر جاتے ہیں۔

اس تشریح کے لحاظ سے بھی معنی وہی رہیں گے جو پہلے بیان ہوئے ہیں۔ صرف نحوی ترکیب میں فرق پڑ جائے گا یعنی پہلے معنی اس بنیاد پر کئے گئے تھے کہ یہاں مضاف حذف ہو گیا ہے اور دوسری تشریح کے رو سے وہی معنی اس لحاظ سے کئے گئے ہیں کہ خشیت کا لفظ ہی اِحْشَاء کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ان دوسرے معنوں کے کرتے وقت یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس جگہ مصدر بمعنی اسم فاعل استعمال ہوا ہے جیسے کہتے ہیں زَيْدٌ عَدْلٌ اور مراد یہ ہوتا ہے کہ زَيْدٌ عَادِلٌ۔ اور یہ سمجھا جائے گا کہ خشیت بمعنی اِحْشَاء استعمال ہوا ہے اور اِحْشَاءٌ مَحْشِيٌّ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ (مصدر بمعنی اسم فاعل و مفعول استعمال ہونے کے لئے دیکھو رضی بحث مصدر)

تیسرے معنی اس آیت کے یوں کئے جاسکتے ہیں کہ ہا کی ضمیر قلوب کی طرف پھیری جائے اور یوں معنی کئے جائیں کہ دلوں میں سے یقیناً بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے گرجاتے ہیں۔ قُلُوبٌ کا لفظ پہلے آچکا ہے اور اس کی طرف ضمیر عربی قاعدہ کے رو سے جاسکتی ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ قُلُوبٌ کا لفظ پہلے ہے اور حِجَارَةٌ کا لفظ بعد میں۔ اور اس سے پہلے کی جو ضمیریں ہیں وہ حِجَارَةٌ کی طرف پھیری جا چکی ہیں۔ پس حِجَارَةٌ کا لفظ جو بعد میں استعمال ہوا ہے اُس کی طرف ضمائر کے پھیرے جانے کے بعد ایک ضمیر کا قلوب کی طرف جو حِجَارَةٌ سے پہلے بیان ہوا ہے۔ پھیرنا صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن یہ اعتراض درست نہ ہوگا کیونکہ عربی زبان میں ضمائر کو اس طرح پھیرنا جائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لِيَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ وَنُقِرُّوهُ وَنُسَبِّحُوهُ

بُكْرَةً وَأَصِيلًا (الفتح: ۱۰) تا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس (یعنی رسول) کی مدد کرو اور اسکی عزت کرو اور صبح شام اس (یعنی اللہ) کی تسبیح کرو۔

اس آیت میں پہلے اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور پھر رسول کا۔ لیکن اس کے بعد پہلے دو ضمیریں رسول کی طرف پھیری گئی ہیں اور پھر تیسری ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف پھیری گئی ہے۔ یہ مثال بالکل اس آیت کے مضمون کے مطابق ہے آیت زیر تفسیر میں بھی پہلے قُلُوب کا لفظ ہے پھر حِجَارَةٌ کا ہے اور یہاں بھی پہلے دو ضمیریں حِجَارَةَ کی طرف جو بعد میں ہے پھیری گئی ہیں اور پھر ایک ضمیر قُلُوب کی طرف جو اس سے پہلے ہے پھیری گئی ہے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا يَجُلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقْبِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقْبِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ (البقرة: ۲۳۰) اس آیت میں تَأْخُذُوا کی ضمیر اور طرف گئی ہے اور خِفْتُمْ کی ضمیر اور طرف۔ حالانکہ جملہ ایک ہی ہے یعنی تَأْخُذُوا سے مراد خاوند ہیں اور خِفْتُمْ سے مراد دوسرے لوگ ہیں۔ پس ایک جگہ پر بیان کردہ ضمائر کو مختلف مرجعوں کی طرف پھیرنا عربی کے لحاظ سے بالکل درست ہے اور اسے اصطلاح میں انتشار ضمائر کہتے ہیں اور اسے نحوی جائز قرار دیتے ہیں۔

(جو اهر الحسان للشعالی)

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اس جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ ان آیات میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے تھے۔ فرماتا ہے تمہارے یہ اعمال اور شرارتیں جو تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرتے ہو خدا تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ان کے بدلہ میں تمہیں ضرور سزا دے گا۔

اَفْتَطَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَاَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ

(اے مسلمانو) کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے

يَسْعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحْرِفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَ

کلام کو سنتے ہیں پھر اسے سمجھ لینے کے بعد اس (کے مطلب) کو بگاڑ دیتے ہیں اور وہ (اس عمل کے

هُم يَعْلَمُونَ ﴿۴۶﴾

بدلتاج کو خوب) جانتے ہیں۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ **تَطْمَعُونَ** طَمِعَ سے مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اور طَمِعَ فِيهِ (يَطْمَعُ) کے معنی ہیں حَرِصٌ عَلَيْهِ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے دل میں خواہش نے جوش مارا۔ (اقرب) مفردات میں ہے **الطَّمَعُ نَزْوَعُ النَّفْسِ إِلَى الشَّيْءِ شَهْوَةً** کہ کسی شے کے حصول کے لئے طبیعت کا انتہائی اشتیاق طمع کہلاتا ہے نیز طَمِعَ فِيهِ وَبِهِ کے معنی ہیں حَرِصٌ عَلَيْهِ وَرَجَاهُ کسی چیز کے حصول کی خواہش کی اور اس کو حاصل کرنے کی امید رکھی (تاج) **الطَّمَعُ ضِدُّ الْيَأْسِ** کہ طمع کے ایک معنی امید کے بھی ہیں۔ (لسان) پس **أَفَتَطْمَعُونَ** کے معنی ہوں گے (۱) کیا تم امید رکھتے ہو (۲) کیا تم خواہش رکھتے ہو۔

أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ **يُؤْمِنُونَ** اصل میں **يُؤْمِنُونَ** ہے اُن پہلے آنے کی وجہ سے ن گر گیا باقی **يُؤْمِنُونَ** رہ گیا۔ یہ **آمَنَ** سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور **آمَنَ لَهُ** کے معنی ہیں **خَضَعَ وَانْقَادَ** کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا اور اس کی بات کو مان لیا اور **آمَنَ بِهِ** کے معنی ہیں **صَدَّقَهُ** اس کو سچا قرار دیا۔ اور جب **آمَنَهُ** کہیں تو اس کے معنی ہوں گے اس کو امن بخشا۔ (اقرب) پس **أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ** کے معنی ہوں گے کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے۔

فَرِيقٌ الْفَرِيقُ: الطَّائِفَةُ مِنَ الثَّائِسِ لوگوں کا گروہ۔ **أَكْثَرُ مِنَ الْفِرْقَةِ: فِرْقَةٌ** کے معنی بھی **الطَّائِفَةُ مِنَ الثَّائِسِ** کے ہیں لیکن فریق کا لفظ فرقہ سے بڑے گروہ پر بھی جو کسی بڑی جماعت کا حصہ ہو استعمال ہوتا ہے **وَرُبَّمَا أُطْلِقَ الْفَرِيقُ عَلَى الْجَمَاعَةِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ** بعض اوقات لفظ فریق سے کسی بڑی جماعت کے حصہ کی بجائے خود ایک مستقل جماعت بھی مراد لی جاتی ہے خواہ اس کے افراد تھوڑے ہوں یا زیادہ۔ (اقرب)

يُحَرِّفُونَهُ **يُحَرِّفُونَهُ حَرَفًا** سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور **حَرَفَهُ** کے معنی ہیں **غَيَّرَهُ** کسی چیز کو اس کی اصلی حالت سے تبدیل کر دیا اور **حَرَفَ الْكَلَامَ** کے معنی ہیں **غَيَّرَهُ عَنِ مَوَاضِعِهِ** کسی کلام کے الفاظ کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیا۔ (اقرب) امام راغب لکھتے ہیں **تَحْرِيْفُ الْكَلَامِ أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى حَرْفٍ مِّنَ الْأَحْتِمَالِ يُمَكِّنُ حَمْلَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ** یعنی کسی کلام میں تحریف کرنے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کلام میں جس رنگ

اور جس موقع کی وجہ سے خاص معنی پیدا ہو جاتے ہیں ان کی بجائے کلام کو ایسے رنگ میں ڈھال دینا کہ اس کے مخصوص معنوں کی بجائے اس میں دو احتمال پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے پڑھنے والے پر اصل معنی ظاہر نہ ہوں۔ (مفردات)

تفسیر۔ اَمِنْ يَهْ اور **اَمِنْ لَهُ** کے معنوں میں فرق **اَمِنْ لَهُ** کے معنی جیسا کہ **حَلِّ لُغَات** میں لکھا گیا ہے اطاعت اور فرمانبرداری یا جزوی تصدیق کے ہوتے ہیں۔ گو اس کے معنی کلی تصدیق کے بھی ہیں لیکن کلی تصدیق کے لئے زیادہ تر **اَمِنْ** کا صلہ بآتا ہے جیسے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آتا ہے **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَالْآخِرَةَ هُمْ يُؤْمِنُونَ**۔ (البقرة: ۵) قرآن کریم میں **اَمِنْ** یا **اَمِنُوا** کے الفاظ کے ساتھ جہاں صلہ مذکور ہوا ہے وہاں دو ہی صلے آتے ہیں بآء کا صلہ اور لام کا صلہ۔ ان میں سے بآء کا صلہ ترپین دفعہ آیا ہے اور لام کا صلہ آیت زیر تفسیر کے علاوہ تین جگہوں میں آیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی لام کا صلہ آیا ہے وہاں اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی ہی زیادہ مرجح ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَا اَمِنْ لِمُوسَىٰ اِلاَّ ذُرِّيَّتَهُ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَّغْتَنِبَهُمْ**۔ (یونس: ۸۴) یعنی گودل میں تو بنی اسرائیل کا بہت سا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا مگر ظاہر ہو کر حضرت موسیٰ کے احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق صرف کچھ ہی لوگوں کو ملی تھی۔ کیونکہ باقی لوگ فرعون اور اس کے معاونوں کی ایذا سے ڈرتے تھے۔ اسی طرح سورہ طہ میں آتا ہے فرعون نے ساحروں سے کہا **اَمِنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ** (طہ: ۷۲) یہاں بھی یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ تم نے موسیٰ کی فرمانبرداری اختیار کر لی اور میری بغاوت کی۔ کیونکہ فرعون کو قلبی ایمان کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کو تو موسیٰ علیہ السلام کی سیاسی فرمانبرداری اور اطاعت کی ہی فکر تھی۔ یہی آیت سورہ شعراء ۳ میں بھی آئی ہے۔ پس قرآن کریم کے محاورہ کے لحاظ سے جہاں ایمان کا ذکر ہو وہاں **اَمِنْ يَهْ** کے الفاظ آتے ہیں اور جہاں اطاعت کا ذکر ہو وہاں **اَمِنْ لَهُ** کے الفاظ آتے ہیں۔

ایمان سے مضارع مخاطب کا صیغہ بارہ جگہ قرآن کریم میں بآء کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ سورہ دخان میں لام کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ جہاں آتا ہے۔ **وَ اِنْ لَّمْ تُوْمِنُوْا لِيْ فَاَعْتَدُوْا لِيْ** (الدخان: ۲۲) یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول فرعونوں کے متعلق ہے۔ اس جگہ بھی اطاعت کے معنی ہی زیادہ مناسب ہیں کیونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول درج ہے کہ **اَنْ اَذُوْا اِلَيْكَ عِبَادَ اللّٰهِ** (الدخان: ۱۹)۔ اللہ کے بندے میرے سپرد کر دو۔ پس **اِنْ لَّمْ تُوْمِنُوْا لِيْ** کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے یعنی خوشی

سے بنی اسرائیل کو میرے سپرد نہیں کرتے تو فَأَعْتَزَلُونُ کم سے کم میرے راستہ میں روکیں تو پیدا نہ کرو۔

اَمَنْ کے اسم فاعل کے صیغہ میں مومنین کے ساتھ دو جگہ پر باء کا صلہ استعمال ہوا ہے اور وہاں ایمان کے ہی معنی ہیں۔ صرف ایک جگہ پر لام کا صلہ استعمال ہوا ہے جہاں اُس کے معنی بات مان لینے کے ہیں۔ یہ لام کے صلہ کا استعمال سورہ یوسف میں ہے جہاں آتا ہے۔ وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَكُنَّا طَبِقًا فَاَقْرَبْنَا يَوْسُفَ (یوسف: ۱۸) آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ یہاں بھی اُس ایمان کا ذکر نہیں جس کا خدا یا خدا تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بلکہ جزوی تصدیق کا ذکر ہے۔

ایمان سے جمع متکلم کا صیغہ چار جگہ باء کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور آٹھ جگہ لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ سورہ شعراء میں ہے جہاں کفار کا یہ قول درج ہے کہ قَالُوا اَنْتُمْ مِّنْ لَّدُنَّا وَاتَّبَعَكُمُ الْاَزْدُ لَوْنُ (الشعراء: ۱۱۲) انہوں نے کہا کیا ہم تیرے فرمانبردار ہو جائیں حالانکہ تیرے فرمانبردار رذیل لوگ ہیں۔ یہاں بھی ایمان کا لفظ فرمانبرداری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے (۲) پھر سورہ مومنوں میں فرعونوں کا یہ قول لکھا ہے کہ قَالُوا اَنْتُمْ مِّنْ لَّبَشْرِ بَنِي اِسْرَائِيلَ وَمَثَلَنَا قَوْمُهُمْ اَلَا نَعْبُدُكَ يَا مَعْشَرَ الْبَشَرِ اَلَا نَعْبُدُكَ يَا مَعْشَرَ الْبَشَرِ (المؤمنون: ۴۸) یہاں بھی فرمانبرداری کے ہی معنی ہیں۔ فرعون کی قوم کہتی ہے کہ کیا ہم ایسے دو آدمیوں کی اطاعت اختیار کر لیں جن کی قوم ہماری غلام ہے گویا ہم غلاموں کے غلام ہو جائیں (۳) تیسرا مقام سورہ آل عمران آیت ۱۸۴ ہے وہاں یہ الفاظ ہیں اَلَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عِندَنَا اِلٰهٌ بَدَلًا مِّنْ اِلٰهِنَا فَسَبَّوْا اللّٰهَ الَّذِي لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کر دی تھی کہ ہم کسی رسول کی بات نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس وہ قربانی نہ لائے جس کو آگ کھاتی ہو۔ یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ دوسرے مقامات میں جہاں لام استعمال ہوا ہے یا تو فرمانبرداری کے معنی لئے گئے ہیں یا کسی خاص بات کو تسلیم کرنے کے معنی لئے گئے ہیں کُلِّ اِيْمَانٍ کے معنی نہیں لئے گئے اور چونکہ یہ معنی بھی اس جگہ پر چسپاں ہو سکتے ہیں اس لئے دوسری آیات کے تابع یہاں بھی یہی معنی سمجھے جائیں گے کہ اس جگہ کُلِّ اِيْمَانٍ مراد نہیں بلکہ فرمانبرداری مراد ہے (۴) چوتھی جگہ سورہ توبہ میں ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَعَلْتُمْ وِلٰدَكُمْ اٰيٰتًا لِّدُوْلٰتِكُمْ فَاَقْرَبُوْا سَبِيْلَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (التوبة: ۹۴) منافق تمہارے پاس عذر کرتے ہوئے آتے ہیں جبکہ تم جنگ سے اُن کی طرف واپس آتے ہو۔ اے رسول تم انہیں کہہ دو کہ عذر مت کرو۔ ہم تمہاری بات اس بارہ میں ماننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے۔ یہاں بھی ایک خاص بات کے ماننے کا ذکر ہے کُلِّ اِيْمَانٍ کا ذکر نہیں۔ کیونکہ نبی اپنی جماعت کے افراد پر ایمان نہیں لایا

کرتا (۵) پانچواں مقام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ یہاں دو جگہ نُؤْمِن کے ساتھ لام کا صلہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے۔ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (بنی اسرائیل: ۹۱) اس جگہ بھی اطاعت اور فرمانبرداری ہی مراد ہے کیونکہ یہاں دنیوی سامانوں اور بادشاہت کا ذکر ہے۔ دوسرے مقام پر اسی رکوع میں یوں آتا ہے۔ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقَيْبِكَ (بنی اسرائیل: ۹۲) ہم تیرے چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں بھی ایک خاص بات ماننے کا ذکر ہے کئی ایمان کا ذکر نہیں (۶) اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُؤْمِنِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَكُنَّ مِنَ الْآيَاتِ (البقرة: ۵۶) یہاں قطعی طور پر فرمانبرداری کے ہی معنی ہیں اس لئے کہ وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کئی ایمان کا اظہار تو ملک مصر سے نکلتے ہوئے بھی کر چکی تھی۔ پس یہاں فرمانبرداری کے ہی معنی ہیں یا یہ مراد ہے کہ ہم تیری اس خاص بات کو نہیں مانیں گے (۷) ساتویں جگہ سورہ اعراف میں وہ جگہ لام کا صلہ استعمال ہوا ہے ایک جگہ آتا ہے وَ قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَاِنَّا لَنَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (الاعراف: ۱۳۳) یہ آیت بنی اسرائیل کے مصر سے نکل جانے کے مطالبہ کے بعد آئی ہے پس اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے اور بنی اسرائیل کو نہیں بھیجیں گے۔ چنانچہ اس کے ایک آیت کے بعد ہی دوسری دفعہ لام کا صلہ نُؤْمِن کے بعد استعمال ہوا ہے اور وہاں قطعی طور پر بات ماننے کے معنی ہیں کیونکہ وہاں یہ الفاظ ہیں۔ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (اعراف: ۱۳۵) ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ اگر کئی ایمان مراد ہوتا تو وہ یوں کہتے کہ بنی اسرائیل کو بھیجنا تو الگ رہا ہم تجھ پر ایمان لا کر خود بھی تیرے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔

اَمِنْ سے غائب کے صیغہ کا استعمال مفرد اور جمع دونوں ملا کر قرآن کریم میں ۸۰ دفعہ ہوا ہے۔ ان میں سے ۷۷ جگہ باء کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور دو جگہ لام کا صلہ استعمال ہوا ہے۔ ایک تو اسی آیت زیر بحث میں اور دوسرے سورہ توبہ میں۔ سورہ توبہ ع ۸ میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے يٰمُؤْمِنُو بِاللّٰهِ وَ يُوْمِنُوْا بِاللّٰهِمْ مِّنْ لِّمُؤْمِنِيْنَ (التوبة: ۶۱) یہاں صاف طور پر بات ماننے کا ذکر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے لئے باء کا صلہ استعمال ہوا ہے جس پر ایمان کئی ہوتا ہے اور مومنوں کے لئے لام کا صلہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی بات ماننے کے ہیں اور اس جگہ ذکر بھی یہی ہے کہ منافق کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف دوسروں کی باتیں قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا رسول ٹھیک کرتا ہے۔ اس کا طریق یہی ہے کہ وہ اللہ پر کئی ایمان لاتا ہے اور مومنوں پر اعتبار کرتا ہے۔

طرح دیانت داری کا معاملہ کرے گا۔ اور اگر کلام اللہ سے قرآن کریم مراد لیا جائے جیسا کہ بعض سابق مفسروں نے بھی یہ معنی کئے ہیں اور میرے نزدیک یہی معنی سیاق و سباق سے نکلتے ہیں تو پھر بھی وہ یہودی جن کا اس جگہ ذکر ہے قابل اعتبار نہیں رہتے کیونکہ کلام الہی کسی قوم کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اور اس کے متعلق اُس کے جذبات سب سے زیادہ نازک ہوتے ہیں اگر یہودی قرآن کریم کو بگاڑ کر اور اسکے غلط معنی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے عادی تھے اور مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کا اس بارہ میں کوئی خیال نہیں رکھتے تھے تو اُن سے یہ کیونکر امید کی جاسکتی تھی کہ وہ اُن سے کئے ہوئے دنیوی معاہدات کو پورا کریں گے۔ جو شخص کسی کے نازک ترین جذبات کو مجروح کر دیتا ہے اُس سے یہ کب امید کی جاسکتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پروا کرے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ قرآن کریم کی آیتوں کو اُن کے سیاق و سباق سے جدا کر کے اور غلط معنی کر کے لوگوں میں اسلام کے خلاف جوش پھیلا کر تے تھے اور یہ عادت ہمیشہ سے انبیاء کے دشمنوں میں چلی آئی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے خلاف یہ حربہ دشمن نے نہیں چلایا۔ بلکہ کوئی سچائی دنیا میں ایسی نہیں ہوئی جس کے خلاف اُس کے دشمنوں نے یہ حربہ نہ چلایا ہو۔ سچائی کی دشمنی جھوٹ پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ آخر سچی بات کی مخالفت کوئی شخص کر ہی کس طرح سکتا ہے اور اُس کے خلاف لوگوں کو بھڑکا ہی کس طرح سکتا ہے۔ اسی صورت میں سچائی کی مخالفت انسان کر سکتا ہے جبکہ سچ کو جھوٹ کا رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ آج اس زمانہ میں بھی سب سے بڑا گناہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے اور یہی چیز صداقت کے قبول کرنے سے لوگوں کو محروم کر رہی ہے۔ اگر اس زمانہ کے لوگ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اپنے مخالف کے مذہب کو غلط رنگ نہیں دیں گے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اُس کو اصل شکل میں اپنے اور اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے تو سچائی کا دریافت کرنا ہرگز مشکل نہ رہے اور تفرقہ اور شقاق اور نفاق بہت جلد دنیا سے دُور ہو جائے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمِنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ

اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور جب ایک دوسرے سے علیحدگی میں ملتے

إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذْتُنَّهِمْ إِبْرَاحِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

ہیں تو (ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے) کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بات جو اللہ نے تم پر رکھولی ہے اس لئے بتاتے ہو

لِيَحْجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۴﴾

کہ وہ اس کے ذریعہ سے تمہارے رب کے حضور میں تم سے بحث کریں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

تفسیر۔ پہلی آیت میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہودی لوگ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرنے میں ایسا تعصب برتتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطالب کو دیدہ و دانستہ بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو برا بھیختہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب آیت زیر تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جو ان کا تمسخر کا طریق ہے اس کے علاوہ خود مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک غیر مخلصانہ ہے وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے یوں اظہار کرتے ہیں کہ گویا وہ دل سے اسلام کی سچائی کے قائل ہیں بلکہ ان کے سامنے وہ ایسے دلائل بھی بیان کرتے ہیں جنہوں نے ان کو اسلام کی سچائی کا قائل کر دیا اور اپنی کتابوں کی ایسی پیشگوئیاں بیان کرتے ہیں جو ان کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں ہوتی اور آپ کی سچائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں ایسی باتیں مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو جن سے انہیں تمہارے مذہب کے خلاف حجت قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کی اس کارروائی سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت محض مذہبی مخالفت ہی نہیں بلکہ سیاسی اور تمدنی طور پر بھی وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں کیونکہ وہ صرف مذہب پر ہی اعتراض نہیں کرتے بلکہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں بھی سنجیدہ نہیں اور ان میں بھی فریب اور پُرکاری کے جذبات کارفرما ہیں۔

یہودیوں کے اخلاق کا جو پہلو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی نہایت ہی خطرناک ہے۔ یہودی لوگ مسلمانوں سے ملتے۔ ان سے دوستیوں کا اظہار کرتے اور کہتے کہ ہم بھی دل سے اسلام کی صداقت کے قائل ہیں۔ لیکن جب ان سے علیحدہ ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کو زجر کرتے کہ تم نے کیوں ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر رکھ لی ہیں مسلمانوں پر ظاہر کیا۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ وہ ان باتوں کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے۔ گویا وہ یہ تو تسلیم کرتے تھے کہ جن باتوں کا انہوں نے مسلمانوں سے ذکر کیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہیں اور اس امر کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ وہ باتیں اسلام کی تائید میں ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان باتوں کا مسلمانوں کو علم ہوتا ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں یہودیت کے خلاف استعمال کریں۔ گویا ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کی بات بیشک جھوٹی نکلے،

خدا تعالیٰ کا منشاء بے شک پورا نہ ہو لیکن پبلک کی نظر میں یہودیوں کی عزت قائم رہے۔ جس قوم کے اخلاق کی یہ حالت ہو جائے وہ دینی طور پر کس مصرف کی ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس سے دین اور اخلاق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور جہاں تک مذہب اور اخلاق کا تعلق ہے اس قوم کی تباہی میں ہی دین اور دنیا کی بہتری ہے۔ پس یہ اخلاقی حالت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہودیوں نے پیش کی اس بات کا ایک زبردست ثبوت تھا کہ اب یہ قوم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی مستحق نہ رہی تھی اور خدا تعالیٰ کا نبی اب اس قوم سے باہر ہی آنا چاہیے تھا۔

اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی کیا یہ ان باتوں سے رکتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ بات کیا کرتا ہے جو اُس کے لئے یا اُس کی قوم کے لئے عزت کا موجب ہو۔ مگر یہ بات جو اُوپر بیان کی گئی ہے اس کا کہنے والا تو صاف لفظوں میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا غدار ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے منشاء کو سمجھتا ہے، اُس کی پیشگوئیوں کو سمجھتا ہے۔ مگر صاف لفظوں میں اقرار کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کی سچائی ظاہر نہیں ہونے دوں گا اور خدا تعالیٰ کے منشاء میں روک بنوں گا۔ جو شخص اتنا خطرناک دعویٰ اپنے دوستوں کے سامنے کرتا ہے اس کے بے عقل ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اُس کی مثال تو وہی ہے کہ ع

چدلا وراست دُزدے کہ بکف چراغ دارد

اَنْحَلِّثُوهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا نے جو تم پر کھول دیا یعنی عقلی طور پر یا معجزوں کے ذریعہ سے اسلام کی سچائی کو ظاہر کر دیا۔ اور مطلب یہ ہے کہ خواہ تم پر اسلام کی سچائی واضح ہو گئی ہو پھر بھی تم کو یہ بات مسلمانوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔

دوسرے معنی فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پیشگوئیاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بائبل میں بیان ہو چکی ہیں اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پوری ہو کر آپ کی صداقت کو ثابت کر رہی ہیں اُن کو کیوں مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو۔

یہ دونوں معنی ایک ہی وقت میں اس آیت میں پائے جاتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ یہودیوں میں تھے کچھ وہ جو بائبل کے پوری طرح واقف نہیں تھے لیکن وہ عقلی دلائل سے اور اُن معجزات کے ذریعہ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے دل میں قائل ہو چکے تھے۔ اور کچھ وہ لوگ جو بائبل کے ماہر تھے اُن پر اُن پیشگوئیوں کی وجہ سے جو بائبل میں پائی جاتی ہیں اور آپ کی ذات میں پوری ہوئیں آپ کی صداقت کھل گئی تھی۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کے موقع پر اُن پیشگوئیوں کا ذکر کر دیتے

تھے اور کہتے تھے کہ ہماری کتب کی فلاں فلاں پیشگوئیوں کے مطابق بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ثابت ہوتے ہیں۔

عندک رکبکھ کے الفاظ جو اس آیت میں پائے جاتے ہیں ان کے متعلق کچھ اشکال پیدا ہوتا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔

عام معنی اس جملہ کے یہ بنتے ہیں کہ بعض یہودی اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کے پاس وہ پیشگوئیاں بیان کرتے ہو جو تمہاری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں یا یہ کہ ان کے سامنے اقرار کرتے ہو کہ عقلی طور پر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی ثابت ہوتی ہے مگر کیوں اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اس کی وجہ سے وہ تمہارے رب کے سامنے تم سے بحث کریں گے اور تم کو مجرم قرار دیں گے۔

ان معنوں پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے مسلمانوں کے نزدیک بھی اور یہودیوں کے نزدیک بھی۔ پھر یہ کیونکر خیال کیا جاسکتا ہے کہ یہودی اپنے ساتھیوں پر اس لئے ناراض ہوتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے دلی یقین یا بائبل کی پیشگوئیوں کا اظہار کیوں کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے مسلمان قیامت کے دن ان کے خلاف حجت قائم کر سکیں گے۔

یہ اعتراض اسی صورت میں پڑسکتا ہے جبکہ یہ تسلیم کیا جائے کہ تمام کے تمام انسانوں کا ایمان خدا تعالیٰ پر ایک قسم کا ہے مگر یہ بات درست نہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے سوا بندوں کو بھی عالم الغیب قرار دیتے ہیں اور ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو بھی پوری طرح عالم الغیب قرار نہیں دیتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کفار کی اس گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے جو قیامت کے دن ان میں اور خدا تعالیٰ میں ہوگی فرماتا ہے **ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ** (الانعام: ۲۴) یعنی جب کفار پر پوری طرح حجت تمام ہو جائے گی تو اُس وقت وہ ایک ہی جواب کی رٹ لگائے جائیں گے اور ڈھیٹھ بن کر یہی کہتے چلے جائیں گے کہ ہمیں قسم ہے اللہ اپنے رب کی کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ عالم الغیب ہستی کے سامنے اس قسم کا جواب جاہلانہ ہے۔ مگر دنیا میں یہ جاہلانہ خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایسے فلسفی موجود ہیں جو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر اُس کے علم کو حاوی نہیں سمجھتے۔ اس کی طرف کئی علم کو تو منسوب کرتے ہیں مگر اس بات کے منکر ہیں کہ اُسے تمام جزئیات کا بھی علم ہے۔ ایسے لوگوں سے یہ امر بعید نہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوں کہ کیوں تم نے اپنے دلی خیالات کو مسلمانوں پر ظاہر کیا۔ یہ قیامت کے دن اس گواہی کو تمہارے خلاف پیش کریں گے۔ اس قسم کی جہالت یہودی اور باتوں میں

بھی کرتے رہے ہیں۔ مثلاً اسی سورہ میں آگے چل کر آئے گا کہ یہودی لوگ کہتے تھے ابراہیمؑ یہودی تھا حالانکہ یہودیت موسیٰؑ سے چلی بلکہ موسیٰؑ سے بھی نہیں۔ یہودیت کا نام داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو حاصل ہوا مگر باوجود اس کے وہ کہہ دیتے تھے کہ ابراہیمؑ یہودی تھا۔ جب قوموں میں تنزّل پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس قسم کی متضاد اور مخالف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ درحقیقت ان کے ایمان کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہوتی بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے اور سنی سنائی باتیں اول تو متضاد خیالات کے لوگوں سے پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اس لئے خود ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ دوسرے جب کوئی شخص عقل کے خلاف بات پر عقیدہ رکھے گا تو اُسے سچا ثابت کرنے کے لئے اسے عقل کے خلاف باتیں کرنی پڑیں گی۔ سچے دین کو جو آخر میں کامیابی ہوتی ہے اُس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر تضاد نہیں ہوتا۔ جب کبھی کسی انسان پر تعصب سے خالی ہونے کی گھڑی آتی ہے وہ سچائی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح الہی جماعت بڑھتی چلی جاتی ہے۔

دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ عندّ کے معنی عربی زبان میں کئی ہیں۔ جن میں سے ایک معنی ”پاس“ کے ہیں اور دوسرے معنی ”مطابق حکم“ کے۔ چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں هَذَا عِنْدَ فُلَانٍ حَرَامٌ۔ یعنی یہ چیز فلاں شخص کے حکم کے مطابق حرام ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی محاورہ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو چار گواہ ساتھ لائے۔ فرماتا ہے فَادُّ لَكُمْ يٰۤاٰتُوْا بِاللّٰهِدٰءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ (النور: ۱۴) یعنی الزام لگانے والے اگر چار گواہ نہ لاسکیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھوٹے ہیں۔ یہاں عندّ کے معنی پاس نہیں ہو سکتے کیونکہ بالکل ممکن ہے ایک شخص کسی پر الزام لگائے اور وہ الزام لگانے میں سچا بھی ہو لیکن وہ چار گواہ نہ لاسکے پس گو وہ خدا تعالیٰ کے علم میں سچا ہوگا مگر خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھوٹا قرار دیا جائے گا اور اُس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا تا کہ جھوٹے لوگوں کو یہ جرأت پیدا نہ ہو کہ وہ کسی شخص پر بلا شوث دشمنی کی وجہ سے جھوٹا الزام لگائیں۔ لیکن باوجود اس کے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ شخص خدا تعالیٰ کے علم میں بھی جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بغیر شہادت کے بھی جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ پس اس جگہ پر عندّ اللہ کے معنی ”مطابق حکم“ کے سوا اور کوئی نہیں کہنے جاسکتے۔

بعض علماء نے عندّ کے معنی ”فی“ کے بھی کہنے ہیں اور مراد یہ لی ہے کہ تمہارے رب کے متعلق جب بحث ہو کیونکہ فی کے معنی ”بارہ میں“ بھی ہوتے ہیں (دیکھو بحر محیط زیر آیت محولہ بالا) بعض لوگوں نے اس جگہ پر مضاف حذف تصور کیا ہے جو عربی قواعد کے لحاظ سے جائز ہے وہ کہتے ہیں عِنْدَ رِبِّكُمْ سے مراد ہے عِنْدَ ذِكْرِ رَبِّكُمْ۔ اور

جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو تم سے جب کبھی تمہارے رب کے متعلق گفتگو ہو تو وہ تمہاری بتائی ہوئی باتوں کے ذریعہ سے تم سے بحث کریں یعنی جب یہ سوال پیدا ہو کہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی دلیل ہے تو مسلمان لوگ بائبل کی ان پیشگوئیوں کو نہ پیش کر دیں جو انہوں نے تم سے سنی ہوں گی۔

أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اسلام نفاق کو اور اخلاص کے بغیر کسی مذہب کے قبول کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہود کے اس فعل کو کہ وہ پورا ایمان حاصل کئے بغیر مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرتے تھے برا قرار دیتا ہے۔ اگر اسلام کے نزدیک صرف زبانی اقرار ایمان کے لئے کافی ہوتا تو چاہیے تھا کہ یہود کی ان حرکات کی تعریف کی جاتی اور ان کے لئے ایسے مواقع بہم پہنچائے جاتے کہ وہ مسلمانوں سے اور بھی زیادہ ملیں اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کریں۔

اس آیت میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے سُننا کر بائبل کے واقعات قرآن کریم میں لکھ دیئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا کام کرنے والا شخص اُس ذریعے کو جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے بڑھانے کی کوشش کیا کرتا ہے نہ کہ کم کرنے کی۔ اگر نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے سُن کر قرآن کریم میں واقعات لکھ لیا کرتے تھے تو آپ یہود کے اس فعل کا بھانڈا کیوں پھوڑتے تب تو چاہیے تھا کہ آپ ان کا بھانڈا پھوڑنے کی بجائے ان کے لئے ملاقاتوں کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۸﴾

کیا یہ (اس بات کو) نہیں جانتے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔

تفسیر۔ اس آیت میں بھی اس اعتراض کا جواب موجود ہے جو عیسائی مصنفین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے سُن کر بائبل کے واقعات قرآن کریم میں نقل کر دیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس آیت میں اس قسم کے خیالات کی تردید کی گئی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ضروری خبر اپنے رسول کو خود بتا دیتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ کیا یہودی یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ اسے بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور

اُسے بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں ایسی اخبار بھی موجود ہیں جو ان یہودیوں نے بیان نہیں کیں اور وہ بھی ہیں جو انہوں نے بیان کیں اس سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان کی ہیں اگر وہ بیان نہ کرتے تب بھی اس سے قرآن کریم کے مضامین میں کمی نہیں آ سکتی تھی۔

مخالفین صداقت ہمیشہ سے ماموروں پر یہ اعتراض کرتے چلے آئے ہیں کہ وہ زمانہ کی روکی پیداوار ہیں۔ اس زمانہ میں جو خیالات زور پر ہوتے ہیں ان سے متاثر ہو کر وہ اپنے لئے ایک مقام تجویز کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب کبھی خدا تعالیٰ کسی مامور کو مبعوث کرنے لگتا ہے اُس کے آنے سے پہلے لوگوں کی توجہ ایک آنے والے مامور کی طرف پھیر دی جاتی ہے۔ بعض سابق پیشگوئیوں کے متعلق لوگ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اس زمانہ میں پوری ہوں گی۔ اور بعض علامات سے وہ یہ استدلال کرنے لگ جاتے ہیں کہ اسی زمانہ میں وہ موعود مامور آئے گا اور ایسا ہونا ہی چاہیے کیونکہ بعثت مامور کے وقت اُس کے ماننے کے لئے دنیا میں سامان پیدا کرنا ایک ضروری امر ہے جسے خدا تعالیٰ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پس جب وہ مامور آتا ہے تو وہ ان پیشگوئیوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے جن کی طرف اُس کی آمد سے پہلے علماء زمانہ کی نگاہیں اٹھ چکی ہوتی ہیں۔ اس سے یہ استدلال کر لینا کہ مامورین زمانہ کی پیداوار ہیں ایک نہایت ہی بودا اعتراض ہے۔ کیا ان معترضین کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی پہلے بھیجنا چاہیے اور اُس کی شناخت کے سامان بعد میں پیدا کرنے چاہئیں؟ اگر خدا تعالیٰ ایسا کرے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ وہ خود دنیا کو ہدایت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یا پھر کیا ان لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ نبیوں کی شناخت کے سامان تو پہلے سے مہیا کر دیئے جائیں اور پہلے نبیوں کی بعض پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے آثار بھی ظاہر کر دیئے جائیں لیکن وہ نبی ان پیشگوئیوں سے فائدہ نہ اٹھائے ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ دوسروں کے خیالات سے متاثر ہے۔ ادنیٰ غور سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ خیال بھی بالکل باطل ہے۔ جس چیز کو خدا تعالیٰ نے سچائی کے ظاہر کرنے کے لئے بطور دلیل مہیا کیا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھانا تو خدا اور اُس کے دین سے غداری ہے اور نبی غداری نہیں ہوتا۔ پس اس قسم کے اعتراضات خواہ وہ پہلے نبیوں پر ہوئے ہوں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے ہوں یا آپ کے بعد کسی کے متعلق ہوں بالکل لغو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت زیر تفسیر میں نہایت عمدگی سے اس کو رد کر دیا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ باتیں بھی ہماری کتاب میں موجود ہیں جن کو تم بیان کرتے ہو اور وہ باتیں بھی موجود ہیں جن کو تم بیان نہیں کرتے یا بیان نہیں کر سکتے۔ خدا تو ساری ہی باتوں کا واقف ہے اُس کی طرف سے آنے والی کتاب کسی کے بتائے ہوئے علم کی محتاج نہیں۔ مگر وہ یہ بھی تو نہیں کر سکتی کہ چونکہ کسی اور نے

ایک علم کا اظہار کر دیا ہے اس لئے خدا کی کتاب میں سے اس علم کو خارج کر دینا چاہیے۔ اس سے توسیجائی کا خون ہوگا اور خدا کی کتاب ایسی حرکات سے بالا ہوتی ہے۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْ هُمْ

اور ان میں سے بعض اُن پڑھتے ہیں جو چند جھوٹی باتوں کے سوا اپنی کتاب کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے اور وہ صرف

إِلَّا يُظُنُّونَ ﴿٤٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ

تک بندیاں کرتے رہتے ہیں۔ پس جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں (اور) پھر اس کے ذریعہ سے (کچھ)

بِأَيْدِيهِمْ ق ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ

تھوڑی (سی) قیمت حاصل کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ (کتاب) اللہ کی طرف سے ہے ان کے لئے

ثَمَنًا قَلِيلًا ط فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ

(ایک سخت) عذاب (مقرر) ہے۔ پھر (ہم کہتے ہیں کہ) ان کے لئے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کے سبب

لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

سے (ایک سخت) عذاب (مقرر) ہے اور اس کے سبب سے (بھی) عذاب (مقرر) ہے جو وہ کماتے ہیں۔

تفسیر۔ اَمَانِيًّا اُمِّيَّةً کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں (۱) جس چیز کی تمنا کی جائے (۲) جھوٹ

(۳) جو چیز پڑھی جائے (۴) مقصود۔ پس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں

صحف بنی اسرائیل کا صرف اتنا علم حاصل ہے کہ وہ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مراد یہ کہ وہ اچھی طرح اُن کے سمجھنے پر

قادر نہیں۔ گویا اُچی کے معنی اس جگہ پر محدود کر لئے گئے ہیں اور ایسے اُن پڑھ کے معنی نہیں لئے گئے جو کہ کتاب کو

لفظاً بھی نہ پڑھ سکتا ہو بلکہ اس لفظ سے ایسے اُن پڑھ مراد لئے گئے ہیں جو لغت کی باریکیوں سے واقف نہیں اور

صرف موٹے موٹے معنی جانتے ہیں۔ ان معنوں کے رُو سے یہود پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اپنی کتب کے

گہرے مطالعہ کی کوشش نہیں کرتے۔ ذومعانی الفاظ جو اُن میں استعمال کئے گئے ہیں اُن میں سے ایسے معنوں کو تو

لے لیتے ہیں جو خدا کی سُنّت اور اُس کے منشاء کے خلاف ہوتے ہیں اور اُن کو چھوڑ دیتے ہیں جو خدا کی سُنّت اور اُس کے منشاء کے مطابق ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کے لئے یہ مضمون بہت ہی عبرت کا موجب ہے۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اکثر مسلمان تو قرآن کریم کے معنی جانتے ہی نہیں اور جو جانتے ہیں وہ صرف محدود علم رکھتے ہیں۔ قرآنی الفاظ کے اندر جو متعدد مضامین پائے جاتے ہیں اُن کی طرف نہ توجہ کرتے ہیں نہ توجہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ جو توجہ کرے اُسے متناؤل اور کافر قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے خزانے بند ہو گئے۔ اُس کا چلتا ہوا پانی ان لوگوں کے لئے کھڑا ہو کر بدبودار ہو گیا۔ مسلمانوں نے اتنا نہ سوچا کہ جس بات کو قرآن کریم نے یہودیوں کے لئے عیب کے طور پر پیش کیا ہے وہ مسلمانوں کے لئے خُسن کیونکر ہو گیا۔

ایک معنی اُمْدِيَّة کے تَمَثُّل کے لئے ہیں ان معنوں کے رُو سے اُفْہی کے وہی عام معنی لئے جائیں گے جو عام عربی زبان میں رائج ہیں یعنی بالکل اُن پڑھ جو نہ لکھ سکے اور نہ پڑھ سکے۔ اور آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ یہودیوں میں سے بعض اُن پڑھ ہیں جو اپنی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے یا لفظاً تو تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اُس کے معنی نہیں جانتے۔ اُن کا علم کتاب کے متعلق صرف چند آرزوؤں تک محدود ہے یعنی وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ ہم نے صحفِ بنی اسرائیل کو اگر بغیر معنی جاننے کے ہی پڑھ لیا یا لوگوں سے سُن لیا تو بس یہ ہماری نجات کے لئے کافی ہے۔ گویا خدا کی کتاب اُن کے دل میں صرف ایک تَمَثُّل پیدا کرتی ہے کوئی علم اور نور نہیں بخشتی۔ یہ حالت بھی آج مسلمانوں میں پیدا ہے اور وہ اس سے ہوشیار نہیں ہوتے۔ ہوشیار ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کروڑوں مسلمان ہیں جو قرآن کریم کی لفظی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور کروڑوں ہیں جو اُس کے لفظ تو پڑھ سکتے ہیں مگر اُن کے معنی نہیں جانتے اور ان دونوں گروہوں کے دلوں میں قرآن کریم کے پڑھنے اور اُس کے معانی کے جاننے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی بغیر معنی جاننے کے جب وہ قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں یا یہ بھی نہیں کر سکتے اور کبھی کبھار کسی سے قرآن کریم کی کچھ تلاوت سُن لیتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کو نجات حاصل ہو گئی۔ کیونکہ اُنہوں نے قرآن کریم سُن لیا ہے یا پڑھ لیا ہے حالانکہ نہ اُنہوں نے قرآن پڑھا نہ سُنا بلکہ آوازوں کے بعض اُتار چڑھاؤ سنے یا سیاہی کی بعض لکیروں کو دیکھا قرآن کریم تو اُس مضمون کا نام ہے جس پر اُس کے حروف و الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اس مضمون کو نہ پڑھا اور یہ جانتے ہوئے نہ پڑھا کہ قرآن کریم کے ان الفاظ کا یہی مفہوم ہے اُس نے قرآن کریم ہرگز نہیں پڑھا۔ اور جس نے اُس کتاب کو ہی نہ جانا جو خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لئے بھجوائی تھی وہ کیونکر یہ

دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سچے مذہب پر ایمان لایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس کو قرآن کے معنے نہ آئیں اُس کو قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں چاہیے ایسی تلاوت کم سے کم اُسے اُس کے مدعا کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ لیکن اُس کے دل میں معنوں کے جاننے کی خواہش تو ہونی چاہیے اور اُن کے سیکھنے کے لئے اُسے کچھ کوشش تو کرنی چاہیے اگر یہ خواہش موجود ہو اگر اس قسم کی کوشش جاری ہو تو بے شک خدا اور اُس کے رسول کے سامنے ایسا آدمی بری قرار دیا جائے گا۔ لیکن جب کوشش مفقود ہو اور خواہش کا وجود ہی نہ ہو تو ایسا آدمی صرف اپنی تمناؤں سے خدا تعالیٰ کو کس طرح خوش کر سکتا ہے۔

ایک معنی اُمّیّۃ کے جو اہمائی کا مفرد ہے جھوٹ کے ہیں اور ان معنوں کے رُوسے آیت کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ یہود میں سے کچھ لوگ اُن پڑھ ہیں جو کتاب کے متعلق کچھ علم نہیں رکھتے سوائے کچھ جھوٹوں کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قوم کے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کلامِ الہی کے معنے تو نہیں جانتے لیکن اُنہیں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ اُنہیں کلامِ الہی کے معنے آتے ہیں۔ گویا علم نہ رکھتے ہوئے عالم کہلانے کا شوق اُن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کے یہود بھلا کیا فائدہ اُٹھا سکتے ہیں یا دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا اس بات کے کب حقدار ہو سکتے ہیں کہ خدا کا فضل اُن پر نازل ہوتا رہے۔ وہ تو دین کے دشمن ہیں کہ اپنی جہالت کو خدا تعالیٰ کے سر منڈھ کر اُس کی ہتک کرتے ہیں اور پھر اس جہالت کو لوگوں میں پھیلا کر بھولے بھالے سادہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ افسوس آج مسلمانوں میں بھی اس قسم کی جماعت کثرت سے موجود ہے۔ ایسے لوگ ان میں بھی موجود ہیں جو قرآن کریم کو لفظاً بھی نہیں پڑھ سکتے۔ مگر وہ ادھر ادھر سے سُنے ہوئے قصوں کو خدا اور اُس کے رسول کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر اصرار کرتے ہیں کہ اُن قصوں پر یقین کیا جائے اور اُن پر ایمان لایا جائے اور اُن کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اور ایسے بھی ہیں جو عربی زبان کا معمولی سا علم رکھتے ہیں لیکن اُن میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کی باریکیوں کو سمجھ سکیں اور وہ قرآن کریم کے متعلق اپنے ناقص علم کے ذریعہ آپ بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کی لفظی تلاوت کر سکتے ہیں مگر اُن لوگوں پر جو لفظی تلاوت بھی نہیں کر سکتے یہ رُعب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے علوم کے ماہر ہیں یہی لوگ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کریم کے پڑھنے اور جاننے کی کوشش کی جاتی اور اُس کے مطالب پر صحیح غور کیا جاتا اور جھوٹوں اور آرزوؤں کی پیروی نہ کی جاتی تو اسلام کو وہ دن دیکھنا نہ پڑتا جو آج ہر مخلص مسلمان کے دل کو غمگین کر رہا ہے۔

وَأَن هُمْ إِلَّا يَتُنُونُ۔ یعنی وہ تمام اقسام کے آدمی جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے صرف ظن سے کام لیتے ہیں علم اُن کے ساتھ نہیں۔ وہ بھی جن کو زبان کا پورا علم نہیں صرف گمان سے کام لیتے ہیں اور وہ بھی جو کہ زبان کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے مگر لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو خدا کا کلام قرار دے کر اپنے دماغ کو بھی اُن سے بھر لیتے ہیں اور لوگوں کے دماغوں میں بھی اُن کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف گمان سے کام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس نے اُن کو بات بتائی ہے وہ ضرور سچا ہوگا۔

قَوْلِهِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ اِس آیت میں ایک عجیب اختصار سے کام لیا گیا ہے یعنی بظاہر عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی آیت کا تتمہ ہے اور اس میں اُنہی لوگوں کا ذکر ہے جن کا پہلی آیت میں ذکر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر عبارت ایسے رنگ میں رکھی گئی ہے کہ پہلی آیت کا تتمہ معلوم ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں تو اُن لوگوں کا ذکر تھا جو عبرانی زبان سے پوری طرح واقف نہیں تھے اور بائبل کے باریک مضامین کے جانے بغیر اپنے آپ کو دھوکا دیتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے یا اُن کا ذکر تھا جو صرف اِس خواہش اور آرزو میں مگن ہو رہے تھے کہ ہم نے صُحُفِ بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھ یا سُن لئے ہیں۔ پس ہماری نجات کے لئے یہ امر کافی ہے۔ یا اُن لوگوں کا ذکر تھا جو صُحُفِ بنی اسرائیل کو پڑھتے تھے یا کچھ حصہ اس کا اُنہوں نے یاد کر لیا تھا۔ مگر معنی نہ جانتے تھے۔ ہاں اُنہوں نے کچھ تفسیریں علماء کی یاد کر چھوڑی تھیں اور موقع بے موقع لوگوں کو وہ تفسیریں سنا سنا کر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ صُحُفِ بنی اسرائیل کے سچے مضامین بیان کر رہے ہیں۔ گویا صرف جہال کا ذکر اس آیت میں تھا مگر آیت زیر تفسیر میں جُھال کا ذکر نہیں بلکہ علماء کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اُن یہودیوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے عذاب نازل ہوگا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں علماء کا ذکر ہے نہ کہ جُھال کا۔ اِس پر سوال ہوتا ہے کہ پھر اس آیت کو فاء سے کیوں شروع کیا گیا جس کے معنی ”پس“ کے ہیں اور پس کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ پہلے مضمون کے نتیجے میں یہ دوسرا مضمون پیدا ہوا ہے؟ اِس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم پر چونکہ لاتعداد مضامین بیان کرنے کی ذمہ داری ہے اِس لئے ایسی عبارت میں نازل کیا گیا ہے جو اختصار کا کمال اپنے اندر رکھتی ہے۔ پہلی آیت میں جُھال کا ذکر تھا جو علماء کی غلط تسلط تفسیروں پر اعتماد کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے اور دوسری آیت میں اُن لوگوں کا ذکر کیا جانا مقصود تھا جو عالم ہوتے ہوئے سچی دینداری سے عاری تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اگر مستقل طور پر اُن لوگوں کا ذکر کیا جاتا تو عبارت لمبی ہو جاتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے پہلی

آیت میں جُھَال کا ذکر کیا اور دوسری آیت میں اُس کے تابع علماء کا ذکر کر دیا اور یوں فرما دیا کہ وہ جُھَال جن کا پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے علماء کی غیر ذمہ دارانہ حرکات کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اوّل علماء نے اُنہیں کتاب سے واقف نہیں کیا۔ دوسرے غلط سلط بائیں کتاب کی طرف منسوب کر کے ان جُھَال کو یاد کرا دیں اور کہہ دیا کہ یہی تمہاری کتاب کا منہوم ہے۔ پس اُن جُھَال کی تباہی اور بربادی کی ذمہ داری اُن علماء پر ہے اور ان کی گمراہی کا موجب اُن کی یہ بے ایمانی ہے کہ اپنے خیالات کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اُسے خدا تعالیٰ کی کتاب اُنہوں نے قرار دے دیا۔ پس مذکورہ بالا جُھَال کو جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی ہی مگر ساتھ ہی یہ علماء بھی اُن کی گمراہی کے ذمہ دار قرار دئے جا کر اپنے گناہوں کے علاوہ اُن جہلاء کے گناہوں کی سزا میں بھی حصہ دار ہوں گے۔ اسی وجہ سے جُھَال کا ذکر کرنے کے بعد فرما دیا۔ ”پس عذاب نازل ہوگا اُن لوگوں پر جو کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔“ اور اس طرح مختصر الفاظ میں ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ یہود میں عالم بھی موجود ہیں مگر وہ اپنے علم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے یہ بتا دیا گیا کہ جُھَال کی گمراہی کی ذمہ داری ان علماء پر ہے۔ اور تیسرے یہ بتا دیا گیا کہ جُھَال کو اُن کے عمل کی جو سزا ملے گی اس میں علماء بھی اُن کو گمراہ کرنے کی وجہ سے شریک کئے جائیں گے کیونکہ گمراہی کے ذمہ دار وہی ہیں۔ اتنے وسیع مضمون کو علماء کا ذکر پیچھے رکھ کر اور اُن کے ذکر سے پہلے صرف فاء کا حرف بڑھا کر ادا کر دیا گیا ہے۔

لَيْسَتْ تَوَابِهِ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ علماء دنیوی اغراض کے ماتحت دین کو بگاڑتے ہیں اور اُن کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ دین چاہے برباد ہو جائے ان کو دنیا مل جائے۔

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ لکھا تو ہاتھ سے ہی جاتا ہے پھر پائیڈیہم کا لفظ کیوں بڑھایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آئیڈی کا لفظ تاکید کے لئے بڑھایا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتَب کا لفظ کبھی لکھوانے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهَا أَبَدًا (بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته) میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ میں تمہیں ایک عبارت لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔

قرآن کریم سے بھی اور تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے پس اَكْتُبْ کا لفظ جو اس حدیث میں استعمال ہوا ہے اس کے معنی لکھوانے کے ہیں۔ پس اس جگہ پر آئیڈیہم کے الفاظ بڑھا کر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس آیت میں علماء کا ذکر ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے تاکہ کوئی شخص یہ دھوکا نہ کھائے کہ

شاید اس آیت میں بھی پہلے گروہوں کا ہی ذکر ہے اور لکھنے سے مراد لکھوانا ہے۔

فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ آيَاتُهُمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ۔ اس میں بتایا ہے کہ یہ علماء تہرے عذاب کے مستحق ہیں۔ ایک وجہ تو ان کے عذاب کی پہلے بتائی جا چکی ہے کہ جہال کو گمراہ کرتے ہیں دوسری وجہ ان کے عذاب کی یہ ہوگی کہ انہوں نے خدائی کلام کی طرف غلط باتیں منسوب کیں اور تیسری وجہ عذاب کی یہ ہوگی کہ اس حرکت کا محرک بھی نیک نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد اس تحریف سے صرف دنیا کمانا تھا پس ایک عذاب تو ان کو فعل بد کی وجہ سے ملے گا اور ایک عذاب محرک بد کی وجہ سے ہوگا۔

اس آیت میں سزا و جزاء کا ایک اہم فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے۔ فعل بد دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) فعل بد جو نادانی سے کیا جائے (۲) فعل بد جو دیدہ دانستہ کیا جائے۔ پھر یہ فعل آگے دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) وہ فعل بد جس کا محرک نیکی کا خیال ہو خواہ غلط خیال ہو (۲) وہ فعل بد جس کا محرک خود ایک ذلیل اور گندہ جذبہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص قتل کرتا ہے اور وہ قتل اس سے ناواقفی میں ہو جاتا ہے تو یہ فعل بد تو ہے لیکن یا تو اس کا مرتکب کلی طور پر بڑی قرار دیا جائے گا یا جب اُس نے پوری احتیاط سے کام نہ لیا ہو تو جزوی طور پر بڑی قرار دیا جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا شخص ایسا ہو سکتا ہے جس نے دیدہ و دانستہ قتل کیا مگر فرض کرو اس وہم کے ماتحت قتل کیا کہ یہ شخص میرے بچوں کو قتل کرنے والا ہے یا ہماری قوم کے فلاں بزرگ کو قتل کرنے والا ہے یا اُسے نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ فعل بھی ہوگا تو بڑا مگر اس کا محرک نیک ہوگا۔ ایک اور تیسرا شخص ایسا ہو سکتا ہے جو کسی شخص کو اس لئے قتل کر دیتا ہے کہ اس کا روپیہ چھین کر عیاشی کرے۔ اس شخص کا فعل بھی بڑا اور اُس کا محرک بھی بُرا۔ پس یہ دو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے قتل کا بھی اور حرص و ہوا کا بھی۔ اور اس لئے دوہرے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کے الٹ نیکیوں کا بھی یہی حال ہے اور اس کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ پس قرآن کریم کے اس جملہ میں کہ ان پر عذاب ہوگا اُس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ان پر عذاب ہوگا اُس دنیوی مال کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ اخلاق کے اس لطیف نکتہ کو بیان کیا گیا ہے اور جو شخص تقویٰ حاصل کرنا چاہے اُس کے لئے علم کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے۔

مسیحی اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بائبل اپنی اصلی شکل میں موجود تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو محرف مبدل بائبل کے بدلنے پر اعتراض کیوں کیا جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم نے اس آیت کے معنی بائبل کے بدلنے کے نہیں کئے اس لئے یہ نتیجہ ہمارے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں نکالا جاسکتا (اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نزدیک بائبل قرآن کریم کے وقت میں

مخرف مبدل نہ ہوئی تھی کیونکہ ہمارے علم اور تحقیق میں یقیناً اُس وقت تک بائبل مخرف مبدل ہو چکی تھی۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اس آیت کے معنے میں نے یہ نہیں کئے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ بائبل حضرت مسیحؑ کے زمانہ سے بھی پہلے مخرف مبدل ہو چکی تھی (لیکن اگر آیت کے یہ معنے کئے جائیں کہ یہودی لوگ بائبل کو بدلا کرتے تھے تو بھی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ بائبل قرآن کریم کے زمانہ تک مخرف مبدل نہیں تھی کیونکہ اس صورت میں اس آیت کا مفہوم تو یہ ہوگا کہ یہودی بائبل کو بدلتے ہیں اور جب اس آیت کے یہ معنے کئے جائیں کہ یہودی بائبل کو بدلا کرتے ہیں تو اس فقرہ سے کونسا عقلمند یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہودی بائبل کو بدلا نہیں کرتے تھے اور بائبل اُس وقت تک مخرف مبدل نہیں ہوئی تھی بے شک یہ اعتراض اُن کی طرف سے پیش کیا جاسکتا ہے کہ اگر بائبل کی تعلیم مخرف مبدل تھی تو اس کے بدلنے میں حرج کیا تھا اور اس پر ڈانٹا کیوں گیا؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ گو یہودی قرآن کریم کے نزول سے پہلے بائبل میں تحریف و تبدیل کرنے لگ گئے تھے تو بھی اُن کا اس کام کو جاری رکھنا بڑا تھا۔ بائبل کی نسبت تو بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک مخرف مبدل کتاب آسمانی ہے۔ اگر کسی سو فیصدی انسانی بنائی ہوئی کتاب کو کوئی شخص غلطی سے خدائی کتاب سمجھتا ہو اور یہ سمجھتے ہوئے پھر اُس میں کوئی تبدیلی کرتا ہو تو وہ شخص بھی مجرم سمجھا جائے گا اس لئے نہیں کہ وہ ایک آسمانی کتاب کو بدلتا ہے بلکہ اس لئے کہ جس کتاب کو وہ آسمانی سمجھتا ہے اُسے کیوں بدلتا ہے قرآن کریم میں صاف آتا ہے کہ منافق لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے ذَشَّهْدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ۔ (المنافقون: ۲) یعنی منافق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر کہتے تھے کہ ہم خدا کی قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تو اللہ کا رسول ہے مگر منافق اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں منافقوں کو ایک ایسی بات کہنے پر جھوٹا کہا گیا ہے جو سچی ہے اور جس کے سچا ہونے پر خدا تعالیٰ خود بھی گواہی دیتا ہے۔ اُنہیں جھوٹا اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ دل سے اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ جس طرح دل نہ مانتے ہوئے ایک سچی بات پر ظاہر میں ایمان کا اظہار کرنا منافقت اور بے ایمانی ہے اسی طرح غلط کتاب کو آسمانی سمجھتے ہوئے اس میں بگاڑ پیدا کرنا بے ایمانی اور گفّر کی علامت ہے اور یقیناً یہ جرم اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر خدائی کتاب میں تنبیہ کی جائے۔ ایک عورت ہوش میں اپنے بچے کو قتل نہیں کرتی۔ اگر ایک عورت ایک ایسے بچے کو جسے وہ اپنا بچہ سمجھتی ہے گودر حقیقت وہ اُس کا بچہ نہیں قتل کرتی ہے تب بھی ہم یہی یقین کریں گے کہ اُس عورت کا دماغ خراب ہے کیونکہ گو وہ اُس کا بچہ نہیں مگر وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ وہ اُس کا بچہ ہے۔ اسی طرح گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

زمانہ کی بائبل محفوظ نہیں تھی اور محرف و مبدل تھی مگر یہودی تو اُس کو غیر محفوظ اور محرف مبدل نہیں سمجھتے تھے۔ جب وہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک خدا تعالیٰ کی کتاب سمجھتے تھے تو اُن کا اس کے مضامین پر پردہ ڈالنا یا اُن میں کوئی خرابی پیدا کرنا اُن کی بے ایمانی اور بد اعمالی کی واضح دلیل تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بائبل میں اُس کی موجودہ شکل میں بھی ہزاروں صدائیں پائی جاتی ہیں پس اُن کے بدلنے سے اب بھی حق کو نقصان پہنچتا ہے۔

اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی ہے اور وہ یہ کہ بائبل کے متعلق یہود کا یہ یقین ہے کہ بخت نصر کے زمانہ میں وہ ضائع ہو گئی تھی پھر عزرا نبی نے اُس کو دوبارہ لکھا گیا یہودی تاریخ کے مطابق بھی اصلی بائبل موجود نہیں رہی تھی بعض انسانوں نے خواہ وہ نبی ہی ہوں اُس کو دوبارہ درست کر کے لکھا پس اُس کی حیثیت محض ایسی رہ گئی جیسا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی حدیثوں کی۔ اور جس طرح احادیث نبویہ کو کتاب اللہ نہیں کہا جاسکتا اُس کو بھی کتاب اللہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اس میں غلطی کے امکان پیدا ہو گئے خصوصاً جبکہ بائبل کو حفظ کرنے کا رواج کبھی بھی بنی اسرائیل میں نہیں ہوا اور خصوصاً جبکہ خود بائبل کی اندرونی شہادتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ بائبل اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں بلکہ اُس میں بہت سے حواشی اور تفسیریں اور غلط روایتیں شامل ہو گئی ہیں۔ پس اس آیت کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی تاریخوں کے مطابق خود جانتے ہیں کہ یہ کتاب انسانی دست برد سے پاک نہیں لیکن باوجود اس کے اصرار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ خدائی کتاب ہے بے شک ابتدا میں یہ خدائی کتاب تھی مگر اب جبکہ اس میں انسانی دستبرد سے کچھ زیادتیاں یا کمیاں پیدا ہو گئی ہیں اسے خالص خدا کا کلام کہنا اور الہامی کتاب کے مقابلہ میں پیش کرنا زیادتی اور ظلم ہے۔

عیسائی تو یہودیوں سے بھی ایک قدم آگے ہیں۔ سب کی سب انجیل خدا کی کتاب کہلاتی ہے۔ لیکن جب اُسے کھول کر پڑھنا شروع کرو تو لکھا ہوتا ہے متی کی انجیل۔ مرقس کی انجیل۔ لوقا کی انجیل۔ یوحنا کی انجیل۔ پطرس کے خط۔ پولوس کے خط۔ زید کے خط اور بکر کے خط۔ یہ انسانوں کی انجیل اور زید اور بکر کے خطوط خدا کا کلام کس طرح ہو گئے۔ بے شک انجیل میں خدا کا کلام بھی موجود ہے مگر وہ خدا کی کتاب نہیں کہلا سکتی کیونکہ انسانوں نے اپنے الفاظ میں بعض باتیں لکھی ہیں جو انہوں نے خدا سے نہیں بلکہ خدا کے نبی سے سُنی ہیں یا خدا کے نبی سے بھی نہیں سُنی خدا کے نبی کی باتیں سن کر اُن سے ایک نتیجہ نکالا۔ اور یہ حصہ بھی باقی کتاب کا دو تین فی صدی ہے۔ باقی باتیں اپنے خیالات یا غیر محقق روایات پر مبنی ہیں۔ ایسی کتابوں کو خدا کی کتابیں کہنا اور پھر اُن پر مذہب کی بنیاد رکھنا اور الہامی کتابوں کے مقابلہ میں اُن کو پیش کرنا ایک بہت بڑا ظلم ہے۔

اس آیت سے اُن کتب کی طرف بھی اشارہ سمجھا جاسکتا ہے جو درجنوں کی تعداد میں یہود و نصاریٰ میں پائی جاتی ہیں اور الہامی کتب کہلاتی ہیں یا الہامی کتب کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن خود مسیحی اور یہودی بھی اُن کی صداقت میں شک کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے ”اپو کریفا“ کے نام سے ایسی کتابوں کا مجموعہ شائع کیا ہوا ہے۔ یہ سب کی سب کتابیں وہ ہیں جن کو اُن کے لکھنے والوں نے یا عیسائیوں کی بعض جماعتوں نے خدائی کتابیں قرار دیا ہے لیکن عیسائی بحیثیت مجموعی اُن کو خدائی کتابیں تسلیم نہیں کرتے اور سچی انجیلیں قرار نہیں دیتے جس قوم کے اپنے عقیدہ کے مطابق بھی ایسی اناجیل موجود ہیں جن کو خدائی کتابیں کہا جاتا ہے لیکن اُس قوم کے عقیدہ کے مطابق وہ خدا کی کتابیں نہیں ہیں کیا اُس کے افراد قابلِ ملامت نہیں اور کیا قرآن کریم کا یہ کام نہ تھا کہ اُن کو زجر کرتا اور اُن کے اس عیب کو دنیا کے سامنے لاتا اور اُن مجرموں کی اصلاح کی کوشش کرتا۔

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۗ قُلْ

اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنتی کے دنوں کے سوا (دوزخ کی) آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ تو (ان سے) کہہ کیا تم نے

أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۗ أَمْ

اللہ کی بارگاہ سے کوئی عہد لیا (ہوا) ہے (اگر ایسا ہے) تب تو اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا یا تم اللہ کے

تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں (کوئی) علم نہیں ہے

حَلَّ لُغَاتٍ - يُخْلِفُ - أَخْلَفَ سے مضارع کا صیغہ ہے اور أَخْلَفَ وَعَدَّہ کے معنی ہوتے ہیں کہ

يُخْلِفُهُ عہد کو پورا نہ کیا۔ (اقر ب) پس فَلَنْ يُخْلِفَ عَهْدَهُ کے معنی ہوں گے۔ وہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔

تفسیر - اس آیت میں اُن یہودیوں کا ذکر ہے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ یہود خواہ کچھ بھی کریں چونکہ وہ

خدا تعالیٰ کے پیاروں کی اولاد ہیں وہ دائمی عذاب میں مبتلا نہیں کئے جاسکتے۔ حق تو یہ ہے کہ یہود نے بائبل میں سے حَيَوَةُ بَعْدَ الْمَمَاتِ کے عقیدہ کو ہی غائب کر دیا ہے۔ عذاب و ثواب کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ سارا عہد نامہ قدیم

پڑھ جاؤ بڑی مشکل سے استنباطی طور پر حیات بعد المات کا ثبوت ملے گا۔ جس طرح قرآن کریم میں وضاحت سے حیات بعد المات اور جزا و سزا کا ذکر ہے بائبل میں ایسا ہرگز نہیں۔ پس یہودی اکثریت تو سارے انعام اسی دنیا میں مانگتی تھی اور سزا بھی اسی دنیا میں طلب کرتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پوری طرح جزا و سزا اور حشر و نشر کے عقیدہ سے آزاد نہیں ہو سکے تھے وہ لوگ بھی اپنے متعلق یہی خیال کرتے تھے کہ ہم کو کچھ زیادہ سزا نہیں ملے گی کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں اور اگر کوئی سزا ملی بھی تو وہ صرف چند دن کی ہوگی۔ ان لوگوں میں سے بعض کا خیال تھا کہ اس چند روزہ سزا کے بعد یہودیوں کو خاک کر دیا جائے گا اور ان کی خاک نیکوں کے قدموں میں لاکر ڈال دی جائے گی۔ اور بعض کا خیال تھا کہ یوں نہیں بلکہ یہود کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس عقیدہ کے بارہ میں یہود کے مختلف خیالات ذیل میں درج ہیں۔

سیل اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتا ہے کہ یہود کے نزدیک یہ مسلم مسئلہ ہے کہ کوئی یہودی خواہ کتنا ہی شریر ہو اور کسی فرقے کا ہو گیارہ ماہ اور حد سے حد ایک سال سے زیادہ تک دوزخ میں نہیں رہے گا سوائے داتھن اور ایسی رام کے یاد ہریوں کے جو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ داتھن اور ایسی رام وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی اور ایک جماعت بنا کر کوشش کی تھی کہ حضرت موسیٰؑ کی حکومت کو مٹا دیا جائے (دیکھو گنتی باب ۱۶) ان کو خدا تعالیٰ نے ایک خاص عذاب کے ذریعہ سے ہلاک کر دیا تھا۔

بابلی تالمود کے مطابق سوائے کافروں اور جیروم باقی سب یہودی بارہ مہینے تک دوزخ میں رہیں گے پھر جلا کر رکھ کر دیئے جائیں گے اور ان کی خاک اڑا کر نیکوں کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔

بابا میزیہ (Baba Mezia) کی تالمود میں لکھا ہے کہ تمام یہود جو دوزخ میں جائیں گے پھر نکل آئیں گے سوائے تین قسم کے آدمیوں کے۔ اول بدکار۔ دوسرے ہمسایہ کی عصمت دری کرنے والا۔ تیسرے ہمسایہ کو بدنام کرنے والا۔

ایروین تالمود میں لکھا ہے کہ دوزخ کی آگ یہودی گنہگاروں کو نہیں چھوئے گی کیونکہ وہ دوزخ کے دروازہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔

برکوت تالمود (Barakot) میں لکھا ہے مرتد اور رومی اور ایرانی دوزخ میں جائیں گے یعنی یہودی گنہگار دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں۔ اس تالمود میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کو دوزخ سے بہت کم خطرہ ہے ہاں مرتد یہودی کو دوزخ میں جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح غیر یہودیوں کے لئے خطرہ ہے۔ (جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر

ان حوالجات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہودیوں کو بہت محدود سزا ملے گی اور اَيَّاكُمْ اَعْدُوۡدَہ کے بھی یہی معنی ہیں، گنتی کے دنوں سے مراد مقررہ دن نہیں بلکہ تھوڑے دن مراد ہیں۔ یہ محاورہ اُردو میں بھی ہے کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ گنتی کی چیزیں ہیں۔ مطلب یہ کہ بہت تھوڑا مال ہے۔ بحر محیط نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ یہود کا خیال تھا کہ پچھڑے کی پوجا چونکہ چالیس دن کی گئی تھی اس لئے اسی قدر عذاب ہمیں ملے گا۔ بعض نے چالیس دن کے عذاب کو بھی زیادہ قرار دے کر کہا ہے کہ صرف سات دن یہود کو عذاب ملے گا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہود میں اس قسم کے خیالات اسلامی زمانہ تک بھی قائم رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ہمارے رسول! تو اُن سے پوچھ لیا تم نے اللہ تعالیٰ سے اس بارہ میں کوئی عہد لیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور عذاب دینا یا نہ دینا تو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ تمہارے کا ہنوں اور زہانوں سے تعلق نہیں رکھتا کہ وہ جو چاہیں فیصلہ کر دیں اگر خدا نے یہود کے متعلق کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے تو وہ بائبل میں موجود ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے نبیوں کی معرفت اُس کا اعلان ہونا چاہیے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی تو خاموش ہیں اور طالمود کے علماء اپنی قیاس آرائیوں سے اس بارہ میں فیصلہ کرتے ہیں کیا یہ خدا اور اُس کے دین کی ہتک نہیں؟ پھر فرماتا ہے اگر یہ عہد والی بات نہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے علماء اپنے ذہن اور اپنے خیال سے یہ باتیں بناتے ہیں اور یہ ظاہر بات ہے کہ اپنے ذہن اور اپنے خیال سے خدا تعالیٰ کے متعلق باتیں بنالینا بہت گناہ ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مختلف ادیان میں بگاڑ اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ لوگوں نے مختلف امور میں اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کر کے مختلف ادیان کی طرف منسوب کرنی شروع کر دیں۔ آج مسلمان بھی ہر مسئلہ میں جس میں انہیں دوسروں سے اختلاف ہوتا ہے اپنی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لئے اسلام کی آڑ لے لیتے ہیں۔ قرآن ساکت ہوتا ہے۔ حدیث خاموش ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ تو وہ مخالف ہوتے ہیں لیکن یہ رٹ برابر لگی چلی جاتی ہے کہ اسلام یوں کہتا ہے اسلام کی تعلیم یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ قرآن کو پارہ پارہ نہ کریں اور خدا تعالیٰ کے فرض کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ

کیوں نہیں؟ جو لوگ بھی کسی قسم کی بدی کمائیں گے اور ان کا گناہ انہیں (چاروں طرف سے) گھیر لے گا وہ دوزخ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۲﴾

(میں پڑنے) والے ہیں۔ وہ اُس میں (پڑے) رہیں گے۔

حَلُّ لُغَاتٍ - كَسَبَ الشَّيْءَ کے معنے ہوتے ہیں يَجْمَعُهُ کسی چیز کو جمع کر لیا۔ اور كَسَبَ الْإِثْمَ کے معنے ہوتے ہیں تَحْتَمَلُهُ۔ گناہ کمایا۔ (اقرب) پس كَسَبَ سَيِّئَةً کے معنے ہوں گے۔ گناہ کیا یا گناہوں کو اکٹھا کر لیا۔

تفسیر - بلی کے معنے ایجابی ہوتے ہیں خواہ اس سے پہلی عبارت میں نفی کا پہلو ہو یا اثبات کا۔ یوں اس کے معنے ”ہاں“ کے ہوتے ہیں مگر عام طور پر تو ہاں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلی بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب بلی کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ بلی کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے وہ ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہو سکتا ہے کہ غلط ہو اور ہو سکتا ہے کہ غلط نہ ہو۔ پس بلی مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهَا خَطِيئَتُهُ کے معنے یہ ہونے کہ اس حقیقت میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر بدی کرتا ہے اور پھر اُس کی بدی اُس کا احاطہ کر لیتی ہے یعنی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ نیکیوں کا اثر کمزور پڑ جاتا اور ضائع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ دوزخ کے ساکن ہو جاتے ہیں اور ان کی حالت اس بات کی مستحق ہوتی ہے کہ وہ ایک لمبے عرصہ تک اُس میں رہیں۔

دو شرطیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں یعنی بدی کمائے اور غلطی اُس کو گھیر لے۔ ان سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر بدی انسان کو دوزخ کا مستحق نہیں بناتی بلکہ (۱) علم ہو (۲) ارادہ ہو (۳) نیکی پر بدیاں غالب آ جائیں تب انسان دوزخ کا مستحق ہوتا ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو انسان کے لئے تسلی کا موجب ہو سکتی ہے ورنہ نصاریٰ کا کفارہ جس میں صرف مسیحؑ کی صلیبی موت پر ایمان لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا یہود کا دعویٰ فضیلت جو ہر صورت میں اُن کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے یا ہندوؤں کی محدود نجات جو بار بار انسان کو تباہی کے چکر میں ڈالتی ہے یا زرتشتیوں کا نسلی فضیلت کا دعویٰ یہ سارے کے سارے قابلِ اعتراض ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ مذہب ایک ذریعہ نجات کا ہے کسی مذہب کے قبول کرنے کے یہ معنے نہیں کہ اُس مذہب کے قبول کر لینے سے خاص حقوق قائم ہو گئے ہیں۔ قانون نجات کی بنیاد بہر حال اس امر پر ہے کہ نیک علم، نیک ارادہ اور نیک کوشش کے ساتھ کام کرو تو تمہیں

نجات ملے گی۔ تمہارا عقیدہ نجات میں ممد ہوگا وہ نجات کی گارنٹی نہیں بن سکتا بلکہ بعض دفعہ تو وہ تمہیں سزا دلانے کا مستحق بنا دے گا۔ جو شخص جانتے ہوئے غلطی کرتا ہے وہ زیادہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ جس کے پاس ہدایت ہو اور پھر وہ گمراہی کو قبول کرے وہ یقیناً بڑا مجرم ہے۔ پس کسی عقیدہ کو ماننے کی وجہ سے یہ خیال نہ کر لو کہ اب تم عذاب سے بچ گئے اُس عقیدہ کا ماننا تم کو نجات نہیں دلوادیتا بلکہ اُس عقیدہ کو ماننا تمہارے لئے ایسے اعمال اور خیالات میں ممد ہوتا ہے جن کی وجہ سے نجات مل جائے۔ اگر اُس عقیدہ کے باوجود تمہارے اعمال اور تمہارے افکار میں اصلاح نہیں ہوئی تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے تسلی کی بات نہیں۔ یہ کتنا فطرت کے مطابق مسئلہ ہے اور کس طرح ہر قسم کے اعتراض سے پاک ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ

اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے ہیں وہ جنت (میں جانے) والے ہیں

۱۸۳

هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وہ اس میں (ہمیشہ) بسیں گے۔

تفسیر۔ اَصْحَابُ النَّارِ کے مقابلہ میں اب اَصْحَابُ الْجَنَّةِ کا حال بیان فرماتا ہے جس طرح اَصْحَابُ النَّارِ بننے کے لئے یہ شرط تھی کہ باوجود علم کے بالارادہ بدی کرے اور بدی نیکی سے بڑھ جائے تو یہ چیز انسان کو ایک لمبی سزا کا مستحق بنا دیتی ہے اسی طرح اُس کے بالمقابل جس کے اندر ایمان ہو اور پھر وہ ایسے اعمال کرے جو موقع اور محل کے لحاظ سے مناسب ہوں تو ایسا انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

میں نے اوپر بتایا تھا کہ کسی مذہب میں شامل ہونا یا کسی عقیدہ کو ماننا نجات کی گارنٹی نہیں بلکہ وہ صرف نجات کے لئے ممد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور صالح عمل کریں وہ جنتی ہیں۔ خیال ہو سکتا ہے کہ کیا اس کا یہ مفہوم ہے کہ عمل صالح بغیر ایمان کے کام نہیں دیتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ عمل صالح بغیر ایمان کے کام نہیں دیتا بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ عمل صالح بغیر ایمان کے پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو عمل صرف اس بات کا نام نہیں کہ ہم ہاتھ سے یا پیر سے کام لیں۔ ہمارا دماغ بھی کام کرتا ہے وہ بھی عمل ہے۔ کسی کے متعلق بد ارادہ کرنا یا کسی کے متعلق نیک ارادہ کرنا خواہ ان ارادوں پر عمل کر نیکی تو نیک نہ ملے یہ

اپنی ذات میں کام ہیں۔ ایک شخص جس کا دل دنیا بھر کی بدخواہی کے خیالات سے بھرا ہوا ہے رات اور دن لوگوں پر حسد کرتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بد عمل نہیں۔ کسی نہ کسی وجہ سے اُسے بد عمل اپنے ہاتھوں یا پیروں سے کرنے کی توفیق نہیں ملی ورنہ بد عمل تو وہ ضرور ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک عمل صالح کی صحیح تشریح خدا اور اُس کے رسول کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس عمل صالح کا پتہ بغیر ایمان کے لگ ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب نہیں کہ عمل صالح کی کوئی جڑ بھی ایسی نہیں جو بغیر ایمان کے حاصل نہ ہو سکے۔ سینکڑوں اجزاء عمل صالح کے ایسے ہوں گے جن کو بغیر ایمان کے حاصل کیا جاسکتا ہے بلکہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ بغیر ایمان کے اُن کو حاصل کیا جاتا ہے۔ مگر سوال تو مکمل تشریح کا ہے مکمل تشریح بغیر ایمان کے حاصل نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم عمل صالح کے دو نتائج بیان فرماتا ہے۔ ایک نتیجہ تو یہ بیان فرماتا ہے کہ اچھے کام کے اچھے نتائج اِس دنیا میں ملتے ہیں اور بُرے کام کے بُرے نتائج اِس دنیا میں ملتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا بدنام ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے والا نیک نام ہو جاتا ہے۔ لوگ جھوٹے پر اعتبار نہیں کرتے سچے پر اعتبار کرتے ہیں۔ بددیانت کو لوگ قرض نہیں دیتے، دیانتدار کو صرف قرض ہی نہیں دیتے بلکہ اُس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں جن سے وہ فائدہ اُٹھاتا ہے۔ محنتی آدمی کو زیادہ آسانی سے نوکریاں مل جاتی ہیں، کام مل جاتے ہیں اچھی تنخواہیں مل جاتی ہیں۔ غرض بہت سے نیک اعمال کے بدلے اسی دنیا میں مل رہے ہیں۔ مگر اِس آیت میں اِس دنیا کے بدلوں کا ذکر نہیں اِس آیت میں تو جنت ملنے کا ذکر ہے جو کام انسان نے اپنی مرضی سے کئے اور اُن سے فائدہ اُٹھالیا۔ اُن کے بدلہ میں جنت کیوں ملے۔ لازمی بات ہے کہ جنت ملنے کے لئے کوئی ایسا فعل بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے جس فعل سے اُس نے خدا کی بات مانی ہے اور وہ ایمان ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر فرماتے تھے یہ ضرور فرماتے کہ جو شخص نیک عمل کرے اِحْتِسَابًا ایمان اور خدا سے نیک بدلہ کی امید کرتے ہوئے، تو اُس کو جنت مل جائے گی۔ اِس کے یہی معنی ہیں کہ عمل کا دنیوی نتیجہ تو یہیں انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اگلے جہان میں بدلہ ملنے کے لئے کوئی زائد عمل ہونا چاہیے اور وہ عمل ایمان ہے۔ ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی وجہ سے سوسائٹی میں اُس کی قدر ہوتی ہے کئی ایسے کاموں کے حاصل کرنے میں اُسے سہولت حاصل ہوتی ہے جن میں سچ کو قیمت دی جاتی ہے یہ شخص اپنے کام کا پھل کھا لیتا ہے اور نتیجہ پالیتا ہے لیکن اگر ایسا شخص سچ بولتے وقت یہ بھی مد نظر رکھ لیتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ سچ بول۔ میں اپنے خدا کی خاطر سچ بولتا ہوں تو ایسا شخص ایک تو وہ نیک کام کر رہا ہے دوسرے خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیک کام کرنے کا

نتیجہ تو اُس کو اس دنیا میں مل گیا لیکن خدا تعالیٰ کی خاطر نیک کام کرنے کا نتیجہ اُس کو اس دنیا میں نہیں ملا وہ نتیجہ مرنے کے بعد جنت کی صورت میں ملے گا۔

اگر کسی شخص نے خدا تعالیٰ کی خاطر نیک کام کیا ہے تو جہاں تک نیک کام کا تعلق ہے وہ بنی نوع انسان کے فائدہ کی چیز ہے۔ بنی نوع انسان اپنے محدود ذرائع سے اُس کو محدود انعام اسی دنیا میں دے دیتے ہیں لیکن جہاں تک خدا تعالیٰ کی خاطر نیک کام کرنے کا تعلق ہے وہ دنیوی انعام اُس کا بدلہ نہیں کہلا سکتا اُس کا بدلہ خدا تعالیٰ پر الگ واجب ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کے ذرائع غیر محدود ہیں وہ اُس کے بدلہ میں اُس نیک شخص کو غیر محدود جنت دیتا ہے پس اَمَّنُوْا کی شرط لگا کر عمل صالح کی قیمت نہیں گھٹائی بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ عمل صالح کے ساتھ جب ایمان لگ جائے تو اُس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اسی دنیا میں نہیں بلکہ اگلے جہان میں بھی اُس کا انعام ملتا ہے پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عمل صالح کی قیمت گراتا ہے وہ غلطی کرتے ہیں۔ عمل صالح تو انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور انسان اس کی قیمت ادا کرتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن کریم کا اصل تعلق تو اُس عمل صالح سے ہے جو خدا کی خاطر کیا جائے وہ یہ نہیں کہتا کہ عمل صالح کا جب تک ایمان اُس کے ساتھ نہ ہو کوئی بدلہ نہیں ملنا چاہیے وہ تو اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسانوں کے لئے جو نیک کام کئے جائیں انسانوں کو اُن کا بدلہ دینا چاہیے اور قانون قدرت بھی اُن کے مناسب بدلہ کا انتظام کر دیتا ہے لیکن آیت زیر تفسیر اور اسی قسم کی دوسری آیتوں میں وہ یہ زائد مضمون بیان کرتا ہے کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرتے وقت یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ کام خدا کی خاطر کر رہا ہوں اور جس کے سامنے خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے کلام اور اُس کے رسول کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کی ایک کامل صورت آ جاتی ہے تو ایسے شخص کی جزاء یقیناً اُس پہلے شخص کی جزاء سے زیادہ ہونی چاہیے اور صرف اسی دنیا میں اُسے جزاء نہیں ملنی چاہیے بلکہ اگلے جہان میں بھی ملنی چاہیے کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل کو وابستہ کر دینے کی وجہ سے اور خدا تعالیٰ کی خاطر کام کرنے کی وجہ سے جزاء کی کمیّت اور اُس کے زمانہ کی وسعت لازماً مستند ہو جاتی ہے۔

عمل صالح۔ قرآن کریم جہاں بھی کہتا ہے عمل صالح کہتا ہے۔ عمل صالح کے معنی ہیں مناسب حال عمل یعنی نماز کے موقع پر نماز۔ روزہ کے موقع پر روزہ۔ زکوٰۃ کے موقع پر زکوٰۃ اور جہاد کے موقع پر جہاد۔ صرف نیک عمل انسان کے لئے نفع بخش نہیں ہو سکتا بلکہ مناسب حال عمل نفع بخش ہوتا ہے۔ دوسرے عمل صالح نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اچھا فعل بھی بعض جگہ بُرا ہو جاتا ہے۔ رحم کی جگہ انتقام اور انتقام کی جگہ رحم بھی مضر ہے پس رحم گوا چھا ہے مگر انتقام کے موقع پر رحم عمل صالح نہیں ہوگا اور اس لئے ناپسندیدہ فعل ہوگا۔ جہاد کے موقع پر کوئی شخص نماز

پڑھنے بیٹھ جائے تو نماز گواچی چیز ہے مگر اُس وقت عملِ صالح نہیں ہوگا اور اس لئے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔
 اَصْحَابُ النَّارِ اور اَصْحَابُ الْجَنَّةِ فرما کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عارضی عذاب پانے والے اور ایک لمبا عذاب پانے والے۔ ایک مستقل جنت والے اور ایک عارضی جنت والے۔
 اصحاب کا لفظ ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے جب نسبت مستقل ہو۔ پس قرآنی اعتبار سے اَصْحَابُ النَّارِ وہ ہیں جن کا لمبا تعلق دوزخ سے ہو اور اَصْحَابُ الْجَنَّةِ وہ ہیں جن کا لمبا تعلق جنت سے ہو۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا دوزخ سے بھی اس قدر لمبا تعلق نہیں ہوگا جس قدر پہلے لوگوں کا۔ یا جنت سے بھی اس قسم کا لمبا تعلق نہیں ہوگا جس قسم کا پہلے لوگوں کا۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عارضی عذاب والے یا عارضی جنت والے پہلے کچھ عذاب پالیں گے اور پھر اپنے وقت پر معافی حاصل کر کے جنت میں داخل کر لئے جائیں گے جو مستقل ہوگی۔
 پس اَصْحَابُ الْجَنَّةِ کے معنی ہیں جو پہلے دن سے ہی جنت میں جائیں ورنہ یوں تو ہر شخص ہی آخر میں جنت میں چلا جائے گا۔ آریہ قوم کی تعلیم اس کے خلاف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے خدا عذاب دے گا اور پھر اس کے کہ عذاب مٹل ہو انسان کو انعام دینا شروع کر دے گا کچھ مدت انعام دے کر پھر جو گناہ بچا کر رکھ لئے جائیں گے اُن کی سزا میں دوبارہ اس کو کسی جون میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تعلیم کینہ پر اور نُغض پر دلالت کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کینہ اور نُغض سے پاک ہے۔

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے

اللَّهُ قَفْ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ

اور والدین سے احسان (کا معاملہ) کرو گے اور (اسی طرح) قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور

السَّكِينِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا

(یہ عہد بھی لیا تھا) کہ لوگوں کے ساتھ ملاطفت کے ساتھ کلام کیا کرو اور نماز کو قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو مگر

الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۳﴾

(اس کے بعد) تم میں سے چند ایک کے سوا باقی سب (کے سب) اعراض کرتے ہوئے پھر گئے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - مِيثَاقُ الْيَثْرِاقِ عَقْدًا مُّوَكَّدًا يَبِينُ وَعَهْدٌ - مِيثَاقُ كَيْ مَعْنَى هِيَ اِيْسَا عَهْدُ كَرْنَا

جو قسم سے مؤکد ہو۔ (مفردات)

تفسیر - گزشتہ کئی رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اُن افعالِ شنیعہ کا ذکر کیا تھا جن کا ارتکاب انہوں نے اپنے انبیاء کے مقابلہ میں کیا۔ اور بتایا تھا کہ یہود کی ان متواتر نافرمانیوں کی وجہ سے ابراہیمی وعدہ نبوت بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہود صرف اس وجہ سے مجرم نہیں تھے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں معاندانہ رویہ اختیار کیا اور اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا بلکہ اُن کے جرموں کا ایک لمبا سلسلہ تھا جس کی بنا پر آخر نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی۔ اگر صرف اس آخری جرم کی وجہ سے اُن کو نبوت سے محروم کیا جاتا تو بے شک یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ صرف ایک جرم کی وجہ سے بنی اسرائیل کو نبوت سے کیوں محروم کر دیا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کے جرائم کا ایک لمبا سلسلہ بیان فرما کر اس اعتراض کو دور کر دیا اور بتا دیا کہ تمہارے پے در پے گناہوں نے تمہیں اس سزا کا مستحق ٹھہرایا ہے کہ تم کو اس نعمت سے محروم کر دیا جائے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنو اسحاق میں نبوت کا اجراء اُن کی کسی ذاتی فضیلت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ابراہیمی وعدوں کی وجہ سے تھا۔ جب انہوں نے ابراہیمی عہد کو پس پشت چھینک دیا تو محض بنو اسحاق کا ایک فرد ہونا انہیں نبوت کے انعام کا مستحق نہیں بنا سکتا تھا۔

اس کے بعد قرآن کریم نے انہیں بتایا کہ تمہارے جرم اب بھی کچھ کم نہیں۔ اس رسول کے آنے سے پہلے تمہاری قوم جو کچھ کیا کرتی تھی وہ تم نے اس رسول کے زمانہ میں بھی جاری رکھا ہے۔ اگر اب بھی تمہاری قوم میں سے کوئی نبی آجاتا تو تم اس سے بھی یہی سلوک کرتے۔ پس تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے لیے اس رسول کی تعلیم حجت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہے درست نہیں کیونکہ تمہارا رویہ بتا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اب بھی نبی بنا دیا جاتا تو تم اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے جیسا کہ تم پہلے آنے والے انبیاء سے کرتے رہے ہو۔

اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس اعلیٰ تعلیم کو جانے دو جس میں تمہیں اس رسول سے اختلاف ہے۔ تم صرف ان افعال کو زیر بحث لاؤ جن کو تم بھی قومی اور اخلاقی ترقی کے لیے ضروری سمجھتے ہو اور بتاؤ کہ کیا تم ان پر کار بند ہو۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور عہد بھی ایسا جو نہایت پختہ تھا۔ جس کے پورا کرنے پر انعام اور توڑنے پر سزا مقدر تھی۔ مگر کیا وہ عہد تم نے پورا کیا؟ اگر تمہارا اپنے مذہب پر بھی عمل نہیں رہا اور ہمارے رسول کا بھی تم انکار کر رہے ہو تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تم کتنے بڑے مجرم ہو؟

اس آیت میں جس ميثاق کا طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے کوئی خاص عہد مراد نہیں بلکہ مختلف عہد مراد ہیں جو بنی اسرائیل سے متفرق اوقات میں لئے جاتے رہے اور جن پر عمل کرنے کی بائبل میں ان کو سخت تاکید کی گئی ہے۔ اسی لئے یہ احکام بائبل میں کسی ایک جگہ بیان نہیں ہوئے بلکہ متفرق مقامات میں ان کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کریم نے ان احکام کا اکٹھا ذکر اس لئے کیا ہے تاکہ ان کو یاد دلایا جائے کہ وہ اپنے مذہب سے کس قدر دُور جا چکے ہیں۔ مزید برآں قرآن کریم نے ان احکام کو ایک اعلیٰ درجہ کی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو اس کے حُسن کو نمایاں کرنے والی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کی پرستش سے بائبل میں بہت سے مقامات پر روکا گیا ہے بلکہ یہ حکم خود موسیٰؑ کے دس احکام میں بھی پایا جاتا ہے چنانچہ خروج باب ۲۰ آیت ۶ تا ۳۳ میں لکھا ہے:-

”میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدا نہ ہو۔ تو اپنے لئے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے ہے مت بنا۔ تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا۔ اور نہ ان کی عبادت کر کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیبی و خدا ہوں۔ اور باپ دادوں کی بدکاریاں ان کی اولاد پر جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں تیسری اور چوتھی پشت تک پہنچاتا ہوں۔ پر ان میں سے ہزاروں پر جو مجھے پیار کرتے اور میرے حکموں کو قبول کرتے ہیں رحم کرتا ہوں۔“

(۲) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم بھی انہیں احکام میں موجود ہے۔ چنانچہ خروج باب ۲۰ آیت ۱۲

میں لکھا ہے:-

”تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے

دراز ہووے۔“

اسی طرح استثناباب ۲۱ آیت ۱۸ تا ۲۱ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ لکھا ہے:-

”اگر کسی آدمی کا بیٹا گردن کش اور مگرا ہو جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی آواز کو نہ سُنے۔ اور وہ ہر چند اُسے تنبیہ کریں پر وہ ان پر کان نہ لگاوے۔ تب اُس کا باپ اور اس کی ماں اُسے پکڑیں اور باہر لے جا کے اُس شہر کے بزرگوں کے پاس اور اس جگہ کے دروازے پر لائیں اور وہ اس شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا گردن کش اور مگرا ہے ہرگز ہماری بات نہیں مانتا۔ بڑا ہی کھاؤ اور متوالا ہے۔ تو اس کے شہر کے سب لوگ اس پر پتھراؤ کریں کہ وہ مرجائے۔ تو شہرارت کو اپنے درمیان سے یوں دفع کیجیو تا کہ سارا اسرائیل سُنے اور ڈرے۔“

(۳) ذی القربیٰ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر احبار باب ۱۹ آیت ۱۶ تا ۱۸ میں یوں آتا ہے:

”تو عیب جو نبیوں کی مانند اپنی قوم میں آیا جائے نہ کر۔ اور اپنے بھائی کے خون پر کمر نہ باندھ۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے بھائی سے بغض اپنے دل میں نہ رکھ۔ تو البتہ اپنے بھائی کو نصیحت کر تا کہ تُو اس کے سبب خطا کار نہ ٹھہرے۔ تُو اپنی قوم کے فرزندوں سے بدلہ مت لے اور نہ ان کی طرف سے کیڑہ نہ رکھ۔ بلکہ تُو اپنے بھائی کو اپنی مانند پیار کر۔ میں خداوند ہوں۔“

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ تورات میں تمام رشتہ داروں کے لئے عام طور پر بھائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

(۴) بہو سے نیک سلوک کرنے کا ذکر خروج باب ۲۱ آیت ۹ میں اس طرح آتا ہے کہ

”اگر وہ اُس کی منگنی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دے تو وہ اُس سے بیٹوں کا سا سلوک کرے۔“

(۵) ہمسایہ سے نیک سلوک کا ذکر احبار باب ۱۹ آیت ۱۳ میں آتا ہے۔ لکھا ہے:

”تُو اپنے پڑوسی سے دغا بازی نہ کر نہ اس سے کچھ چھین لے۔“

چونکہ ذی القربیٰ سے ظاہری قرابت بھی مراد ہو سکتی ہے اس لیے ہمسایہ کا ذکر کر دیا گیا ہے۔

(۶) یتیمی کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر استثنا باب ۱۴ آیت ۲۹ میں آتا ہے۔ لکھا ہے:-

”مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں آویں اور کھاویں اور سیر ہوویں تا کہ

خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کے سب کاموں میں جو تو کرتا ہے تجھے برکت بخشے۔“

(۷) مساکین کے متعلق استثنا باب ۱۵ آیت ۱۱ میں یوں حکم ہے کہ

”مسکین زمین پر سے کبھی جاتے نہ رہیں گے۔ اس لئے یہ کہہ کے میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ

تُو اپنے بھائی کے واسطے اور اپنے مسکین کے لئے اور اپنے محتاج کے واسطے جو تیری زمین پر ہے اپنا

ہاتھ کشادہ رکھیو۔“

(۸) تمام بنی نوع انسان سے نیک سلوک کرنے کا حکم خروج باب ۲۳ آیت ۱ تا ۱۱ میں اس طرح ہے۔
 ”تو کسی کی جھوٹی خبر مت اڑا۔ تو ظلم کی گواہی میں شریروں کا ساتھی مت ہو۔ تو گروہ کی پیروی
 بدی کرنے میں مت کھیو اور تو کسی جھگڑے میں لوگوں کی بہتات کے سبب اُن کی طرف مائل ہو کے
 ناحق مت کھیو اور نہ کنگال کی اُس کے مقدمہ میں طرفداری کھیو اگر تو اپنے دشمن کے بیل یا گدھے کو
 بے راہ جاتے دیکھے تو ضرور اُسے اُس کئے پہنچائیو۔ اگر تو اس کے گدھے کو جو تیرا کینہ رکھتا ہے دیکھے کہ
 بوجھ کے نیچے بیٹھ گیا اور تو اس کی مدد نہ کرنا چاہے تو البتہ اس کی کمک کر۔ تو اپنے محتاج سے اس کے
 مقدمہ میں انصاف کو مت پھیرئیو۔ جھوٹے معاملہ سے دور رہیو۔ اور بے گناہوں اور بچوں کو قتل مت
 کھیو۔ کیونکہ میں شریکی تصدیق نہ کروں گا۔“
 اسی طرح امثال باب ۳ آیت ۳۰ میں لکھا ہے۔

”اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اُس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا۔“

(۹) نماز قائم کرنے کا حکم استثناء باب ۱۳ آیت ۴ میں یوں ہے کہ
 ”چاہیے کہ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرو اور اس سے ڈرو اور اس کے حکموں کو حفظ کرو۔ اور
 اس کی بات مانو۔ تم اُسی کی بندگی کرو اور اسی سے لپٹے رہو۔“
 اسی طرح استثناء باب ۶ آیت ۱۳ میں لکھا ہے۔

”تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اُسی کی عبادت کرنا اور اُسی کے نام کی قسم کھانا۔“

(۱۰) زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم خروج باب ۲۳ آیت ۱۰، ۱۱ میں یوں ہے۔

”اور چھ برس زمین میں کھیتی کرو اور اس سے جو پیدا ہو جمع کر۔ پر ساتویں برس اُسے چھوڑ دے
 کہ پڑی رہے تاکہ تیری قوم کے مسکین اُسے کھائیں۔ اور جو اُن سے بچے میدان کے چار پائے
 چریں۔ ایسا ہی تو اپنے اُگور اور زیتون کے باغ کا معاملہ بھی کیجیو۔“

مگر باوجود ان احکام کے یہود ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ان کے سلوک اپنوں اور بیگانوں سے خراب
 ہو رہے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرت عذیر کو ابن اللہ قرار دینے لگ گئے تھے۔ جیسا کہ یہود کا
 صدوقی فرقہ جو یمن کی طرف رہتا تھا اس شرک میں ملوث ہو چکا تھا (الملل والنحل زیر عنوان الکلام علی الیہود و علی

من انكر التثليث من نصارى)۔ اور بعض اپنے علماء کے ہر ایک حکم کو وحی الہی کے طور پر مانتے اور اپنی کتاب کے احکام کو پس پشت پھینک دیتے۔ یتیمی اور مساکین کے ساتھ ان کا سلوک نہایت بُرا تھا۔ اور بنی نوع انسان کی ہمدردی اُن کے اندر نام کو بھی نہ تھی۔ عبادتوں میں سُست اور زکوٰۃ دینے سے جی چراتے تھے۔ جیسے آج کل کے مسلمان ایک طرف تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ تمام باتیں جو یہود کے متعلق خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہود سے تو صرف یہ عہد لیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن مسلمانوں پر خدا تعالیٰ نے اتنا فضل کیا کہ اسلام کی بنیاد ہی اس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر رکھی۔ یعنی اس بات پر کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ قادرِ مطلق ہے۔ وہ ہر ایک کام خود کر سکتا ہے۔ اُس کو کسی کی مدد کی ہرگز ضرورت نہیں۔ مگر باوجود اس کے کہ اسلام کی بنیاد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر رکھی گئی تھی آج مسلمانوں میں اس قدر شرک پایا جاتا ہے کہ اور قوموں میں اس کی نسبت بہت کم ہے۔ مسلمان قبروں پر بغیر کسی قسم کے حجاب کے اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ خدا کے آگے سجدہ کرنے والوں میں اور ان میں ذرہ بھی فرق نہیں رہ جاتا۔ مجھے اس بات پر ہمیشہ تعجب آیا کرتا تھا کہ کیا کوئی مسلمان بھی قبر پر سجدہ کر سکتا ہے؟ اور میں باوجود شہادتوں کے اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ جب ہم چند آدمی ہندوستان میں اسلامی مدارس دیکھنے کے لئے گئے تو لکھنؤ میں فرنگی محل کا مدرسہ دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ اچھے لائق اور عالم اُستاد تھے۔ ہوشیار اور ذہین شاگرد معلوم ہوتے تھے لیکن اس مدرسہ اور دوسرے مدارس کو دیکھ کر جب ہم شام کو واپس اپنے مکان کی طرف آرہے تھے تو ایک قبر کے سامنے جو آدمی پورا پورا سجدہ کر رہا تھا وہ فرنگی محل کے مدرسہ کا ایک استاد تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس نے علم پڑھ کر بھی اس کی کچھ قدر نہ کی اور قبر پر سجدہ کرنے لگ گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی لئے یہود کا ذکر سنایا تھا کہ ایک دن تم بھی اسی طرح کرنے لگو گے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود سے ہم نے یہ بھی اقرار لیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ بات بھی اس زمانہ میں مسلمانوں سے بالکل مٹ گئی ہے۔ یہ تو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے نیک سلوک کریں۔ ان کی پرورش کریں۔ اُن پر اپنا مال صرف کریں لیکن یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ اولاد بھی والدین پر احسان کرے اور اُن کی خدمت بجالائے۔ اسی طرح یہود سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ قریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر تمام دنیا میں جس قدر لوگ ہیں ان کو نیک باتیں کہنا۔ یہ کیسی اچھی اور عمدہ تعلیم تھی۔ کوئی بوجھ نہ تھا۔ کوئی عقل کے خلاف بات نہ تھی لیکن جس طرح یہود نے ان احکام پر عمل ترک کر دیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی ان

احکام پر عمل ترک کر دیا۔ پھر حکم تھا کہ نمازیں پڑھو۔ لیکن دیکھ لو آج کتنے مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر حکم تھا کہ زکوٰۃ دو۔ مگر بہت تھوڑے ہیں جو اس کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہود کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ ان احکام کو سن کر پھر گئے اور ان پر عمل نہ کیا۔ اسی طرح اب مسلمانوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے اکثر پھر گئے۔ اسی طرح مسلمان ذوی القربیٰ کو شریک یعنی دشمنی کا باعث سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا تھا اُن سے دشمنی اور لڑائی جھگڑے کئے جاتے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ ملاحظت اور نرمی کا حکم تھا لیکن ان کے اموال بڑی دلیری سے کھائے جاتے ہیں۔ مسکینوں کی خبر گیری اُن کا فرض تھا لیکن انہیں حقارت اور نفرت سے دیکھا جاتا ہے۔ تمام بنی نوع انسان کو نیک باتوں کی تلقین کرنا ان کا فرض تھا لیکن اس فرض کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو مگر خود یہ کبھی سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ اُن کا اپنا عمل اسلام پر کہاں تک ہے۔ مجھے کئی غیر احمدیوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ جب اس قسم کی بحث ہوتی ہے ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان۔ میں کہتا ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ مگر آپ یہ بتائیں کہ کیا آج کل مسلمانوں میں اسلامی احکام پر عمل پایا جاتا ہے؟ اس پر انہیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں میں حقیقت اسلام نہیں رہی۔ ورنہ نام کے لحاظ سے تو وہ یقیناً مسلمان ہی ہیں اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ پس جس طرح مسلمان جانتے ہیں کہ چوری ناجائز ہے۔ جھوٹ اور افترا ناجائز ہے۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنا ناجائز ہے مگر پھر بھی وہ ان افعال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود بالکل مطلب پرست اور مشرک ہو گئے تھے اور باوجود اس کے وہ مسلمانوں سے جو ان احکام پر بلکہ ان سے بڑے بڑے احکام پر عمل پیرا تھے لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے متعلق تو یہ عذر پیش کر سکتے ہو کہ ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے مگر تورات کے ان احکام کے متعلق کیا عذر کر سکتے ہو۔ تمہارا ان احکام کو تسلیم کرنا اور پھر اُن سے کلی طور پر اعراض اختیار کر لینا بتاتا ہے کہ اب تم میں صداقت باقی نہیں رہی۔ مگر جیسا کہ قرآن کریم کا طریق ہے اُس نے اس آیت میں بھی یہود کی بدیوں کا ذکر کرتے ہوئے اُن کی تمام قوم کو یکساں مجرم قرار نہیں دیا بلکہ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ فرما کر اُن میں سے جو نیک لوگ تھے اُن کو مستثنیٰ کر لیا ہے۔

اس آیت کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم میں ہر جگہ ترتیب کے حسن کو قائم

رکھا گیا ہے اسی طرح یہاں بھی ترتیب الفاظ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا۔ سب سے پہلے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ میں واحد خدا پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم بیان کیا ہے کیونکہ توحید ایک بنیادی اصل ہے جو تمام انبیاء کا مشترک مشن تھا اور جس کے سمجھنے سے ہی باقی تمام مسائل سمجھے جاسکتے ہیں۔

اس کے بعد وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا حکم دے کر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم بیان کیا ہے۔ کیونکہ والدین کا احسان خدا تعالیٰ کے احسان کا ظل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان حقیقی ہوتا ہے اور باقی سب احسان ظلی ہوتے ہیں۔ اور چونکہ والدین بھی اپنی اولاد کے لئے خدا تعالیٰ کی صفات کے ایک رنگ میں مظہر ہوتے ہیں۔ اس لئے توحید کے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ حُسن سلوک کا ذکر فرما دیا۔

وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ والدین سے سلوک بھی احسان کے معروف معنوں میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس آیت میں احسان کا لفظ عام معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک اور معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کسی امر کے بدلے کے لئے بھی وہی لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ظلم کے بدلے کا نام بھی ظلم رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے مراد ظلم نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی صرف ظلم کا بدلہ لینے کے ہوتے ہیں۔ جیسے اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ (البقرة: ۱۹۵) یعنی جو شخص تم پر ظلم کرے تم اُس پر اُسی قدر ظلم کر سکتے ہو۔ اب یہ امر ظاہر ہے کہ ظلم کا اسی قدر بدلہ لینا ظلم نہیں کہلا سکتا۔ پس بدلہ لینے والے کے لئے جو اعْتَدَاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی محض بدلہ کے ہیں نہ کہ ظلم کے۔ اسی طرح احسان کرنے والے کے حق میں جب احسان کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی بدلہ احسان کے ہوتے ہیں نہ کہ احسان کے لیکن احسان کرنے والوں کے سوا دوسرے لوگوں کی نسبت اس لفظ کا استعمال اپنے معروف معنوں میں ہوتا ہے۔

اس کے بعد ذوی القربیٰ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ کیونکہ ماں باپ سے حسن سلوک کے بعد طبعاً ہر شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے اور وہ بھی والدین کی عدم موجودگی میں والدین ہی کے قائم مقام سمجھے جاتے ہیں۔ پھر عام لوگوں کو لیا ہے جن کا احسان حقیقی معنوں میں نہیں ہوتا بلکہ قومی معنوں میں ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلے یتامیٰ کو لیا ہے۔ یہ خود محسن نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ احسان اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ بوجہ اپنی کمزوری اور صغر سنی کے اپنے مطالبات کو خود پورا کروانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ان کے حقوق کو دیر لیری کے ساتھ غصب کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس لئے بھی وہ محبت اور حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے سایہ عاطفت سے

بچپن میں ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے وہ قوم کی ایک قیمتی امانت ہوتے ہیں۔ اگر ان کی صحیح نگرانی کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، ان کو آوارگی سے محفوظ رکھا جائے تو وہ قوم کا ایک مفید وجود بن جاتے ہیں۔ اور نہ صرف ان کی اپنی زندگی سنور جاتی ہے بلکہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی سنوارنے والے بن جاتے ہیں۔ ان کے بعد مساکین کا ذکر کیا۔ یہ لوگ گو محتاج ہوتے ہیں مگر سوال کے ذریعہ کسی کو اپنی غربت کا پتہ لگنے نہیں دیتے۔ پس مساکین کا ذکر کر کے اس طرف توجہ دلائی کہ تمہیں یہ طریق اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو شخص تمہارے سامنے دست سوال دراز کرے اس کی تو تم مدد کرو اور جو خاموش بیٹھا رہے اس کو تم نظر انداز کر دو۔ بلکہ تم ایسے لوگوں کی طرف بھی توجہ رکھو جو غربت کے باوجود اپنے وقار کو قائم رکھتے ہیں اور اخلاقی بلندی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔

اس کے بعد تمام بنی نوع انسان کی ہمدردی کا ذکر کیا۔ اور فرمایا۔ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یہ لفظ حُسْنٌ اور حَسَنٌ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بعض نے فرق بھی کیا ہے۔ کہ اگر حَسَنٌ ہو تو مصدر محذوف کی صفت ہوگا۔ یعنی قُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا۔ اور اگر حُسْنٌ ہو تو حذف مضاف ہوگا۔ یعنی قُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حُسْنًا (املاء) دونوں صورتوں میں اس کے معنی یہ ہیں کہ تم لوگوں کو ایسی باتیں کہو جو نہایت اچھی ہوں۔ عام بنی نوع انسان کو بعد میں اس لئے رکھا کہ یہ لوگ یتیمی اور مساکین کی طرح محتاج نہیں ہوتے بلکہ اپنی ضروریات کے آپ متکفل ہوتے ہیں۔ پس سب سے کم احتیاج رکھنے کی وجہ سے ان کو سب سے آخر میں رکھا۔

غرض ان تمام احکام میں ایک اعلیٰ درجہ کی ترتیب پائی جاتی ہے۔ ایک خدا کی پرستش کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ جو بطور حق نیک سلوک کے مستحق ہیں اور دوسرے وہ جو بطور رحم کے مستحق ہیں۔ پہلوں کا مقدم ذکر کیا کیونکہ وہ ایک قرضہ کی ادائیگی کی سی صورت تھی۔ اور جو بطور رحم احسان کے مستحق تھے ان کو بعد میں رکھا۔ اور پھر جو شخص جس قدر رحم کا محتاج تھا اسی درجہ پر اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد عبادات کو لیا۔ اور ان میں سے بدنی اور مالی عبادات کی سردار عبادت نماز اور زکوٰۃ کو چن لیا۔ اور اس کا ذکر بنی نوع انسان سے حسن سلوک کے بعد اس لئے کیا کہ بنی نوع انسان کے ساتھ حسن سلوک روحانیت کی طرف پہلا قدم ہے اور انسان کو کئی مواقع پر فطرتاً بغیر کسی شریعت کے اس کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور عبادات کا تفصیلی طور پر بحالانا ایک دوسرا قدم ہے۔ پس جو شخص پہلا قدم اٹھائے گا۔ وہی دوسرا قدم اٹھا سکے گا۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کبھی تو درجات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا پہلے ذکر کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کا بعد میں ذکر کرتا ہے۔ اور کبھی بندوں کے حقوق کا پہلے ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بعد

میں رکھتا ہے۔ درجہ کے لحاظ سے چونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے اور انسان ادنیٰ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر پہلے رکھا جاتا ہے۔ اور بندوں کے حقوق کو بعد میں۔ مگر جہاں بندوں کے حقوق کا ذکر پہلے ہوتا ہے وہاں ان کی کمزوری کو مدنظر رکھ کر پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہے اس لئے اس کے حقوق کا بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے اسی آیت میں یتامیٰ کی کمزوری کے لحاظ سے ان کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اور مساکین کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اَقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے اور بعد میں بندوں کا حق بیان کیا ہے۔

اَقِیْمُوا الصَّلَاةَ میں استقلال کے ساتھ بغیر کسی ناغہ کے نماز ادا کرنا شامل ہے۔ اور نوافل اس کے تابع ہیں اور اَتُوا الزَّكَاةَ میں صدقہ و خیرات بھی شامل ہیں۔ جو زکوٰۃ کے تابع ہے۔ گویا بدنی اور مالی دونوں قسم کی عبادت کی ادائیگی کا اس آیت میں ذکر فرمایا۔

بہر حال قرآن کریم نے بائبیل کے پراگندہ احکام کو ایسی عجیب ترتیب دی ہے کہ جس سے ان احکام کی عظمت اور بھی نمایاں ہو گئی ہے۔ اول خدا تعالیٰ کی عبادت کو لیا کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر بندوں سے حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اور ان میں سے بھی پہلے والدین کا ذکر کیا جو بطور حق کے حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ پھر قریبیوں اور رشتہ داروں کو رکھا۔ جن کا مقام والدین کے بعد دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عام لوگوں کو لیا۔ اور ان میں سے پہلے ان کا ذکر کیا جو اپنی خبر گیری آپ کرنے کے قابل نہیں ہوتے یعنی یتامیٰ۔ پھر مساکین کو لیا جو بوجہ خود طاقت رکھنے کے اس قدر مدد کے محتاج نہیں ہوتے جس قدر کہ یتامیٰ۔ اس کے بعد قَوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا فرما کر سب لوگوں سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جس میں دو امور شامل تھے۔ اول تمام بنی نوع انسان سے مذہب و ملت کے امتیاز کے بغیر حسن سلوک۔ دوم بنی نوع انسان کی ترقی کی فکر اور دوسرے لوگوں کو اس کی تلقین۔ پھر یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم خدا اور اس کی مخلوق دونوں کے حقوق توڑتے ہو اور ان احکام کی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ تم ان کو تسلیم کرتے ہو تو یہ کس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ تم ان حالات میں مومن ہو۔ اور وہ قوم جو دنیا کی اصلاح کر رہی ہے کافر ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ تمہارا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور تم صداقت سے بہت دُور جا چکے ہو۔

اس جگہ اس سوال پر روشنی ڈالنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہنے کی بجائے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کیوں فرمایا ہے۔ اگر لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہا جاتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ تم نے خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی پرستش نہیں کرنی۔ مگر کہا یہ گیا ہے کہ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ یعنی ہم نے انہیں کہا کہ تم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی پرستش نہیں کرو گے۔ گویا بجائے نبی پر زور دینے کے ان سے اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ خدا کے سوا

اور کسی کے سامنے سر بسجود نہیں ہوں گے۔ پس طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خدا تعالیٰ نے یہ نر الا طریق کیوں اختیار کیا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم اور عام عربی زبان کا یہ محاورہ ہے کہ بعض دفعہ نبی پر زور دینے کے لئے نبی کی بجائے نفی استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بات زیادہ زوردار طریق پر ذہن نشین کروائی جاسکے۔ اس کی مثال ہماری زبان میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہم بعض دفعہ ایک بچہ کو بجائے یہ کہنے کے کہ تم ایسا مت کرو یہ کہتے ہیں کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ یا کہتے ہیں کہ میں تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتا کہ تم ایسا کرو گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ طریق نبی سے زیادہ موثر ہے۔ یہی طریق اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اختیار فرمایا ہے۔ اور لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہنے کی بجائے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فرما کر اپنے اس یقین اور اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے متعلق تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم شرک کرو گے۔ بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہمیشہ اُسی کی عبادت کیا کرو گے۔ گویا یہ کام صرف بُرا ہی نہیں بلکہ ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور وہ ہمارے اور تمہارے تعلقات ہیں۔ ہم اُمید رکھتے ہیں کہ تم ان تعلقات کی وجہ سے ایسا کبھی نہیں کرو گے۔ یہ جذبات کو اُبھارنے کے لئے ایک نہایت ہی موثر طریق کلام ہے۔ اس سے جذباتِ محبت برا بھانتہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص ایسے حکم کو توڑے تو اس کا جرم زیادہ شدید ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک حکم کو بھی توڑتا ہے اور دوسرے کی امید بھی ٹھکرا دیتا ہے۔

اس کی اور تو جیہات بھی کی گئی ہیں۔ مگر میرے نزدیک جذباتی پہلو کے لحاظ سے اس تو جیہہ کو دوسری تو جیہات پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کی ایک تو جیہہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ اصل میں یہ عَلٰی اَنْ لَا تَعْبُدُوا ہے۔ حرف جار کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اَنْ کو بھی محذوف کر کے فعل کو مرفوع بنا کر لَا تَعْبُدُونَ کر دیا گیا ہے۔ اور گویہ بھی ممکن ہے۔ مگر میرے نزدیک پہلے معنی زیادہ اچھے ہیں۔ کیا بلحاظ معنوی خوبی کے اور کیا بلحاظ ظاہری کے۔ نفی اُمید بھی دلاتی ہے اور اس میں نبی بھی آ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ان توقعات کا اظہار کیا تھا کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجلاؤ گے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، یتیمی کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور لوگوں کو ہمیشہ اچھی باتیں کہو گے۔ نمازیں پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے اور یہ وہ احکام ہیں جن سے تمہیں کوئی اختلاف نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق تمہیں اختلاف ہے۔ حضرت مسیحؑ ناصر کی صداقت کے متعلق تمہیں اختلاف ہے مگر یہ ایسی باتیں ہیں جن سے تمہیں کوئی اختلاف نہیں بلکہ تم خود ان کو اپنے لئے تسلیم کرتے ہو۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ تم توحید الہی پر قائم رہو اور تم اس بات کو مانتے ہو کہ تمہیں ایسا حکم دیا گیا تھا۔ تمہیں

کہا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور تم تسلیم کرتے ہو کہ تمہیں واقع میں یہ تعلیم دی گئی تھی۔ تمہیں رشتہ داروں، یتیمی اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا تھا۔ اور تم مانتے ہو کہ یہ بات درست ہے۔ پھر تمہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ ان کے جذبات کا خیال رکھو۔ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ اور تم یہ اقرار کرتے ہو کہ ہمیں یہ احکام دیئے گئے تھے۔ پس سوال یہ ہے کہ کیا تم ان احکام پر عمل کرتے ہو۔ اگر تم اپنے حالات کا جائزہ لو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم ان احکام پر عمل نہیں کرتے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر قوم میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام خرابی واقع ہونے کے بعد بھی نیکی پر قائم رہتے ہیں مگر وہ قوم بحیثیت مجموعی مردہ ہی کہلاتی ہے کیونکہ اس کی اکثریت احکام الہی سے اعراض کر رہی ہوتی ہے اور یہی یہود کی کیفیت تھی۔

یہاں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے یہود نے صرف ظاہری طور پر کسی مجبوری یا ناواقفیت کی وجہ سے ایسا کیا ہو۔ ورنہ دلوں میں وہ ان احکام کی عظمت اور ان کی اہمیت کے قائل ہوں۔ جیسے مسلمانوں میں کئی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے۔ کئی ہیں جو روزے نہیں رکھتے۔ کئی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کئی ہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے۔ مگر وہ اپنے دلوں میں نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اپنی بد عملی کو صرف غفلت اور گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے یہود بھی صرف ظاہری طور پر بد عمل ہو چکے ہوں اور دلوں میں ان احکام کی عظمت کے قائل ہوں۔ اس شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے **ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ** و **اَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ** کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ **ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ** میں تو اس طرف اشارہ فرمایا کہ تمہارا ان احکام پر ظاہری طور پر کوئی عمل نہیں۔ اور **اَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ** فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارے دلوں میں بھی ان کی طرف کوئی رغبت نہیں رہی۔ اور اب تم موسوی شریعت سے کلی طور پر بیگانہ ہو چکے ہو۔ گویا ظاہری طور پر بھی تم میں بے دینی اور اباحت پیدا ہو گئی ہے اور باطنی طور پر بھی تمہاری روحانیت مر چکی ہے۔

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَا لَا

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم (آپس میں) اپنے خون نہ بہاؤ گے اور اپنے آپ کو

تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ

(یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو) اپنے گھروں سے نہ نکالو گے اور تم نے (اس کا) اقرار کر لیا تھا اور تم

نَشْهُدُونَ ﴿۸۵﴾

(اس عہد کے متعلق ہمیشہ) گواہی دیتے رہے ہو۔

تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کے دو اور تہذیبی نفاص بیان کرتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان میں خاص طور پر پائے جاتے تھے۔ اور جن کے وہ اکثر مرتکب ہوا کرتے تھے۔ فرماتا ہے کہ تم اس وقت کو بھی یاد کرو۔ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے خون نہ بہاؤ گئے اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے۔

اپنے خون بہانے سے اس جگہ اپنے ہم قوموں کا قتل مراد ہے۔ اور یہ الفاظ اس لئے اختیار کئے گئے ہیں کہ اپنی قوم کو قتل کرنا درحقیقت اپنا ہی قتل کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض افراد کی ہلاکت یا ان کا قتل تمام قوم پر بحیثیت مجموعی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو گھروں سے نکال دینے سے بھی اپنے آپ کو گھروں سے نکالنا مراد نہیں۔ جیسا کہ خود اگلی آیت سے ظاہر ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد بھی اپنی قوم کا نکالنا ہے۔ ورنہ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکالنا نہیں کرتا۔ اس جگہ بھی پچھلی بیان کردہ حکمت کے ماتحت قوم کے بعض افراد کے نکالنے کا ذکر کرنے کی بجائے اپنا نکالنا بیان کیا گیا ہے تاکہ ان کو اپنی حماقت کا احساس ہو۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور اپنی قوم کے افراد کو اپنے گھروں سے نکالنا تمہارے لئے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ مگر تم نے اس حکم کو بھی توڑا جیسا کہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

اس آیت کے شروع میں الفاظ **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ** رکھے گئے ہیں۔ اور اس سے پہلی آیت کو **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ** سے شروع کیا گیا ہے۔ حالانکہ دونوں عہد بنی اسرائیل سے ہی لئے گئے تھے۔ پھر ان دو آیتوں میں مختلف الفاظ کیوں رکھے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ ایک عجیب کمال ہے جو اس کے بے نظیر ہونے کے ہزاروں دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ کہ وہ الفاظ کی خفیف تبدیلیوں سے مختلف مضامین ادا کر جاتا ہے اور فقروں کا کام لفظوں سے لے لیتا ہے۔ اس جگہ بھی بنی اسرائیل کی جگہ کُھ رکھ کر ایک خاص امر کی طرف متوجہ کیا ہے اور وہ یہ کہ اول الذکر بدیاں تو وہ تھیں جو اس وقت تمام بنی اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اور مؤخر الذکر بدیاں وہ ہیں جو خاص طور پر یہود کے اُن قبائل میں رائج تھیں جو مدینہ اور اس کے نواح میں رہتے تھے۔ پس ایک جگہ بنی اسرائیل کا لفظ رکھ کر اس کی عمومیت کی طرف اشارہ کیا تو دوسری طرف کُھ فرما کر عرب کے یہود قبائل کو

خاص طور پر مخاطب کیا اور انہیں اس طرف توجہ دلائی کہ ان بدیوں کے تم خاص طور پر شکار ہو۔

ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ نَكَهْتُمْ - اس میں بتایا کہ بعض اوقات محض ادب کی وجہ سے انسان کسی بات کو مان لیتا ہے مگر اس کا دل اس کی برتری اور اہمیت کا قائل نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہ احکام اتنے اعلیٰ درجہ کے تھے کہ نہ صرف تم نے اپنی زبانوں سے اس کا اقرار کیا بلکہ تمہارے دل بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ احکام بہت مفید ہیں۔ مگر تم نے اپنے اقرار کو بھی پس پشت پھینک دیا اور اپنی قلبی شہادت کو بھی ٹھکرا دیا۔ اور اپنے بھائیوں کے خلاف تم نے جنگ شروع کر دی۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ تَخْرُجُونَ فَرِيقًا

پھر تم لوگ ہی ہو کہ (اس عہد کے باوجود) آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک

مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ

جماعت کو گناہ اور ظلم کے ساتھ (ان کے دشمنوں کی) مدد کرتے ہوئے ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور اگر وہ

وَالْعُدُوَانِ ط وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَ هُوَ مُحْرَمٌ

تمہارے پاس قیدی ہو کر (مدد مانگنے کے لئے) آئیں۔ تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو گو حقیقتاً ان کا (گھر وہ

عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ط أَفْتَوْمِنُونِ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ

سے) نکالنا (بھی) تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصہ کا انکار کرتے ہو؟

تَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَبَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا

پس تم میں سے جو ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس (جہان کی) زندگی (ہی) میں رسوائی (اٹھانے) کے سوا اور کیا ہے

خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ

(جو انہیں ملے گی) اور وہ قیامت کے دن اس سے بھی سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور

أَشَدَّ الْعَذَابِ ط وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۸۶﴾

جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔

حَلَّ لُغَاتٍ - خِزْمِي یہ لفظ ذلت، سزا، بُعد اور ندامت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ لغت

میں لکھا ہے۔ الخِزْمِيُّ: الْهَوَانُ وَالْحَقَابُ وَالْبُعْدُ وَالنَّدَامَةُ۔ (اقرب الموارد)

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا کہ یہود کی یہ کیفیت ہے کہ باوجود اس کے کہ شریعت میں ان کو ان دونوں

کاموں سے روکا گیا تھا۔ پھر بھی وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں۔

گھروں سے نکالنے کا مطلب یا تو جلاوطن کرنا ہوتا ہے یا دوسرے کو غلام بنا لینا۔ غلام چونکہ دوسرے کے تابع ہوتا

ہے اور وہ اُسے جہاں چاہے لے جاسکتا ہے۔ اس لئے اس جگہ گھروں سے نکالنے کے معنے جلا وطنی کے نہیں بلکہ غلامی

کے ہیں۔ بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ اس سے پہلے سَفَكَ الدَّمَاءِ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس میں جنگ کی طرف

اشارہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ گھروں سے نکالنے کے معنے غلامی ہی کے لئے جائیں جو جنگ کے نتیجہ میں لازماً پیدا

ہوتی ہے۔

یہ حکم کہ تم دوسروں کو قتل نہ کرو۔ خروج باب ۲۰ آیت ۱۳ میں اس طرح آتا ہے کہ ”تو خون مت کر۔“

اور دوسروں کو گھروں سے نہ نکالنے کا اصولی ذکر خروج باب ۲۱ آیت ۱۶ میں پایا جاتا ہے۔ وہاں لکھا ہے۔

”اور جو کوئی کسی آدمی کو چُرَاۓ خواہ وہ اُسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے ہاں ملے۔ وہ قطعی مار

ڈالا جائے۔“

اسی طرح کسی اسرائیلی کو غلام بنانے کی ممانعت کا ذکر احبار باب ۲۵ آیت ۳۹ تا ۴۱ میں اس طرح کیا گیا

ہے کہ

”اگر تیرا بھائی جو تجھ پاس ہے مفلس ہو جائے اور تیرے ہاتھ بک جائے تو تو اس سے غلام کی

مانند خدمت نہ کروا بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور یوبل کے سال تک تیری

خدمت کرے۔ اور بعد اس کے وہ تجھ سے جدا ہو جائے گا۔ اور وہ اور اس کے لڑکے اُس کے ساتھ اور

اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ کی ملکیت کو پھر جائے گا۔“

اسی طرح احبار باب ۲۵ آیت ۵۴ میں لکھا ہے۔

”اگر وہ ان برسوں میں چھڑایا نہ جائے تو یوبیل کے سال میں (جو ہر ساتویں سال آتا ہے) وہ

آزاد ہو جائیگا۔ اور اس کے لڑکے اس کے ساتھ۔“

ان احکام سے یہود نے جو کچھ نتیجہ نکالا وہ نحمیاہ نبی کے طریق عمل سے ظاہر ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کے

سب غلاموں کو آزاد کروا دیا۔ ان کو بھی جو غیر قوموں کے پاس تھے اور ان کو بھی جو اپنوں کے پاس تھے۔

(نحمیاہ باب ۵ آیت ۸)

اور طالمودک زمانہ میں تو یہود کا اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ یہودی غلام نہیں بنایا جاسکتا۔ چنانچہ

انسائیکلو پیڈیا ہبلیکا جلد ۴ میں لکھا ہے۔

”یہ اصل کہ کوئی یہودی کبھی غلام نہیں بنایا جاسکتا طالمودی قانون میں شامل کیا گیا۔ حتیٰ کہ وہ

چور بھی جسے اُس کے جرم کی وجہ سے فروخت کیا جاتا تھا۔ غلام نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور سلوقیوں

Scleucids اور ٹولمیوں Ptolemlies کی جنگ کے وقت جب بہت سے یہودی کافروں کے ہاتھ

میں قید ہو گئے تو ان کا چھڑانا ایک فرض اور ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا۔“

(انسائیکلو پیڈیا ہبلیکا زیر لفظ Slavery)

ان احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو غلام بنانا جو ان کو گھروں سے نکالنے کے مترادف ہے بائبیل کے

حکم کے مطابق ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی قید ہو جائے تو اس کے لئے ایسے احکام تھے جن کے نتیجے میں وہ

جلد سے جلد آزاد ہو جائے۔ یہودی غلام صرف دو طرح بن سکتا تھا۔ اول اس طرح کہ کوئی اپنے آپ کو بیچ ڈالے۔

ہماری شریعت نے اسے ناجائز قرار دیا ہے مگر ان میں یہ جائز تھا۔ وہ قرضہ اور تنگی کے باعث اپنے آپ کو فروخت کر

سکتے تھے۔ دوم اس طرح کہ عدالت ان کو بیچ دے۔ خواہ قرضہ میں بیچے یا کسی ایسے جرم کے نتیجے میں بیچے جس سے

مالی طور پر دوسرے کا نقصان ہوا ہو۔ مثلاً کسی نے چوری کر لی ہو یا غبن کر لیا ہو یا کوئی اور نقصان پہنچایا ہو۔ مگر ان

دونوں صورتوں میں غیر یہودی کے ہاتھ میں اس کا غلام ہونا بہت ہی بُرا سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ عدالت جس کو بیچتی تھی

اس کو بھی کسی غیر یہودی کے ہاتھ نہیں بیچ سکتی تھی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باوجود اس کے کہ تم کو یہ احکام دیئے گئے تھے تم ایک دوسرے کو قتل کرتے

ہو۔ یعنی اس سے جنگ کرتے ہو۔ اور تم میں سے ایک فریق اپنے آدمیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتا ہے۔ یعنی

اس جنگ کے نتیجے میں وہ قید ہو کر غلام بنائے جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کے خلاف دشمنوں کی گناہ اور ظلم

سے مدد کرتے ہو۔ حالانکہ شرعاً تمہارے لئے ان کے خلاف ایسا قدم اٹھانا جائز ہی نہیں۔ اور اگر وہ قیدی کی صورت میں تمہارے پاس لائے جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا گھروں سے نکالنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ یعنی پہلا کام جس کے نتیجے میں تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو وہ بھی تم پر حرام تھا مگر تم نے اس کا ارتکاب کر لیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اس جگہ یہود کے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جن کا وہ مدینہ کے مشرک قبائل کے ساتھ مل کر ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے قبل مشرکوں کی دو پارٹیاں تھیں۔ جن میں سے ایک کا نام اوس اور دوسری کا نام خزرج تھا۔ بعثت سے کچھ عرصہ پہلے سے ان کی آپس میں جنگ چلی آتی تھی۔ یہودی قبائل جو مدینہ میں اس خیال سے آکر آباد ہو گئے تھے کہ جب وہ موعود نبی جو اس ملک میں آنے والا ہے آئے گا تو ہم اُس پر ایمان لائیں گے۔ وہ تین تھے۔ بنو قریظہ، بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ اُس زمانہ کے دستور کے مطابق جتنہ بندی ہی امن کا ذریعہ تھی۔ اس کے بغیر لوگ اطمینان سے نہیں رہ سکتے تھے چونکہ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ تھی اس لئے انہوں نے یہودی قبائل سے سمجھوتہ شروع کر دیا۔

بنو قریظہ اور بنو قریظہ اوس کے حلیف ہو گئے اور بنو نضیر خزرج کے ساتھ مل گئے۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تو یہودی بھی اپنے معاہدہ کے مطابق اُن کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتے اور اُن کے ساتھ ہو کر لڑتے اور ان کی مدد کرتے۔ اس طرح ہر قبیلہ اپنے عمل سے دوسرے یہودی قبیلہ کو جنگ کے لئے اُس کے گھر سے نکالتا۔ لیکن جنگ کے بعد ان میں سے جو پارٹی بھی جیتی وہ جہاں دوسرے قبیلہ کے آدمیوں کو قید کرتی وہاں یہودیوں کو بھی قید کر لیتی۔ اس پر اُس پارٹی کے یہودی جو ہار جاتی تھی اُن سے جا کر کہتے کہ ہمارے مذہب میں یہودی کو غلام بنانا ناجائز ہے اس لئے تم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ آپس میں چندہ کر کے ایک بڑی رقم بطور فدیہ اُن کو دیدیتے اور یہود کو مشرکین کی غلامی سے آزاد کروا لیتے اور کہتے کہ یہودی کا کسی غیر یہودی کے پاس غلام رہنا درست نہیں۔ (المسیرۃ النبوی لابن ہشام) اللہ تعالیٰ یہود کے اس فعل کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم کو دو باتوں سے منع کیا گیا تھا۔ آپس میں جنگ کرنے سے بھی اور اپنے بھائیوں کو غلام بنانے سے بھی۔ مگر تم جنگ بھی کرتے ہو اور اُس کے نتیجے میں اپنی قوم کے افراد کو غیر یہودیوں کا غلام بنانے یا بنوانے کی کوشش بھی کرتے ہو۔ مگر غلام بنواتے وقت تو تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور جب وہ غلام بن جاتے ہیں تو تم بڑے نیک بن کر انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے یہود

کو غلام بنانا حرام کیا ہوا ہے۔ حالانکہ تم خود غیر یہودیوں کی مدد کر کے آپس میں جنگ کرتے ہو اور یہودیوں کو اُن کے ہاتھوں میں قید کرواتے اور اُن کو غلام بناتے ہو۔ پس اس سے زیادہ اور کیا شرارت ہوگی کہ تم ایک حصہ کتاب کو تو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو۔ ایک طرف یہودی غلاموں کو آزاد کرواتے ہو اور دوسری طرف خود ایسے اسباب پیدا کرتے ہو جن سے وہ غلام بنیں۔ پھر تمہارا آپس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ تم صرف ایک مشرک قبیلہ کی دوستی کی وجہ سے لڑتے ہو اور اپنے آدمیوں کو غیر مذاہب والوں کا غلام بنا کر کہتے ہو کہ ان کو چھڑانا چاہیے۔

تاریخ میں لکھا ہے کہ جب عرب کے قبائل یہودیوں کو طعنہ دیتے کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ خود پہلے جنگ کرتے ہو اور پھر فدیہ دے کر اور یہ کہہ کر کہ ہم میں یہود کا غلام بنانا ناجائز ہے ان کو چھڑاتے ہو تو وہ کہتے کہ ہمارے لئے ان سے لڑنا تو منع ہے لیکن ہمیں اپنے حلیفوں سے شرم آ جاتی ہے اور مجبوراً لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں اس لئے بعد میں فدیہ دے دیتے ہیں۔ (محیط زیر آیت ہذا) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔ یعنی جو شخص ایک حصہ کتاب کو مانتا ہے وہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اس کتاب کی صداقت کا قائل ہے۔ پس اس کا دوسرے حصے کو ترک کرنا اس کے نفس کی گندگی پر دلالت کرتا ہے۔

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ - فرماتا ہے کہ تمہارے جیسے لوگ جن کو اصلاح کے اس قدر مواقع دیئے گئے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کی باتوں سے اس قدر واقف ہیں تمہیں سوائے اس کے اور کیا سزا دی جاسکتی ہے کہ ان جرائم کی وجہ سے تمہیں دنیا میں رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف تمہیں لوٹا یا جائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مرض جو انسان کی رُوح کو کھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے منشا اپنے خیالات اور اپنی آرزو کے مطابق مذہب کی جس بات کو دیکھتے ہیں صرف اُس پر عمل کرنا وہ اپنے لئے کافی سمجھ لیتے ہیں اور اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتے کہ کئی اور احکام بھی ہیں جن کو وہ بڑی دلیری سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ چونکہ بنی نوع انسان کی عادات مختلف حالات اور مختلف صحبتوں کی وجہ سے بدلتی رہتی ہیں۔ اس لئے ہر انسان اپنا ایک خاص ذوق رکھتا ہے جس کو وہ پورا کر لیتا ہے۔ اور جو چیز اس کے ذوق کے خلاف ہو اُسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر اپنے ملک کے مختلف علاقوں پر ہی نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ بعض مقامات کے لوگ نمازوں کے زیادہ پابند ہوتے ہیں اور روزوں میں سستی کرتے ہیں۔ بعض جگہ کے لوگ زکوٰۃ تو بڑی پابندی سے دیتے ہیں مگر نماز اور روزہ کی پروا نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض جگہ نماز اور روزہ کی تو پابندی کی جاتی ہے مگر زکوٰۃ کی طرف توجہ

نہیں کی جاتی۔ پھر بعض جگہ کے لوگ باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر حج کے لئے بھی جائیں تو شاید اس سفر میں بھی نماز نہ پڑھیں۔ اب اس نماز اس روزہ اس زکوٰۃ اور اس حج کو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی سچے دل سے فرمانبرداری کرتے تو جس خدا نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی نے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور جس خدا نے زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے اسی نے حج کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ماننے اور دوسرے کو ترک کرنے نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ایسے لوگ جس فعل کو خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سمجھتے ہیں وہ درحقیقت فرمانبرداری نہیں بلکہ اُن کے نفس کا ایک دھوکا ہوتا ہے۔ اطاعت اور فرمانبرداری کا ثبوت تب ملتا ہے جب انسان ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا فرمانبردار ہو۔ خواہ وہ حکم اس کے منشاء۔ خیالات اور رسم و رواج کے مطابق ہو یا مخالف۔

بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعتوں میں غصہ نہیں ہوتا۔ اُن کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرتے ہیں لیکن اگر ان پر کوئی ایسا موقع آئے جہاں خدا تعالیٰ کے لئے ناراضگی کے اظہار کی ضرورت ہو اور وہاں بھی وہ عفو اور درگزر کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اُن کا عفو اور درگزر اپنے اندر کوئی نیکی نہیں رکھتا۔ اگر اُن کا عفو خدا تعالیٰ کے حکم اور منشاء کے ماتحت ہوتا تو جہاں اللہ تعالیٰ کا منشاء تھا کہ عفو سے کام نہ لیا جائے وہاں وہ کیوں عفو سے کام لیتے۔

غرض اطاعت صرف اپنے ذوق کے مطابق احکام پر عمل کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا نام ہے خواہ وہ کسی کی عادات یا مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

اس جگہ اللہ تعالیٰ یہود کی نسبت فرماتا ہے کہ اُن کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بڑے بڑے گناہ تو کر لیتے تھے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں اور حکموں کے متعلق کہہ دیتے کہ ہم ان کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ اُن کو حکم تھا کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ اُن کو حکم تھا کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے مت نکالو۔ مگر وہ لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو خوب قتل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو گھروں سے نکالنے کا موجب بنتے لیکن جب اس کے بعد ان کا کوئی آدمی قید ہو جاتا تو پھر وہ چندہ کر کے اس کو چھڑانے کی فکر کرتے اور کہتے کہ بائبل کا چونکہ حکم ہے کہ کوئی یہودی کسی غیر قوم کے پاس قید نہ رہے اس لئے ہم اس حکم کی تعمیل میں اسے چھڑاتے ہیں۔ انہیں اپنے بھائیوں کو قتل کرنے اور انہیں جلا وطن کرنے کے وقت تو بائبل کا حکم یاد نہ آتا لیکن قید کے لئے یاد آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان کی اس اطاعت سے ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ کہ جو حکم اپنی مرضی کے مطابق دیکھا اُس کی تعمیل کر لی اور جو نہ دیکھا اُس کو

پس پشت ڈال دیا ایسے لوگوں کو ہم ذلیل اور رسوا کریں گے کیونکہ یہ لوگ جب اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے احکام کی پروا نہیں کرتے اور جب اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ حالانکہ سچا مومن وہ ہے جو ہر بات میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے۔

حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص جوزانی تھا میں نے اس کو نصیحت کی کہ یہ کام چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا۔ میں نے تو فلاں عورت سے عہد کیا ہوا ہے کہ تم سے بیوفائی نہیں کروں گا۔ اگر آپ فرماتے ہیں تو میں بیوفائی کا جرم کر لیتا ہوں۔ گویا اُس شخص نے بے وفائی اور عہد کے توڑنے کو تو گناہ سمجھا لیکن زنا کے متعلق کسی گناہ کا خیال نہ آیا۔ پس مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت ہوشیار رہے اور یہود کی طرح خدا تعالیٰ کے احکام کے ساتھ یہ تمسخر نہ کرے کہ جس حکم پر جی چاہا عمل کر لیا اور جس کے متعلق جی چاہا اُسے نظر انداز کر دیا۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ ایک زمانہ میں مسلمان بھی یہود کے نقش قدم پر چلیں گے اور وہ اس طرح ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائیں گے جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے۔ (بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب قول النبی لا تتبعن سنن من کان قبلکم) اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام پر تنزل کا دور آیا تو وہ تمام خرابیاں جو یہود میں پائی جاتی تھیں ایک ایک کر کے مسلمانوں میں بھی پیدا ہونے لگ گئیں۔ یہود کو کہا گیا تھا کہ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ دیکھو اپنی قوم کے افراد سے مت لڑو۔ اور اُن کا خون مت بہاؤ۔ ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اور یہی نصیحت مسلمانوں کو بھی کی گئی تھی۔ مگر اسلام کے دور تنزل کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں نے خود مسلمانوں کا خون بہایا۔ اور اپنی حکومتوں کو تباہ کرنے کے لئے انہوں نے ہر قسم کی خفیہ ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے کام لیا یہاں تک کہ عیسائی حکومتوں سے معاہدہ کر کے مسلمان حکومتوں کا تختہ اُلٹنے کی بھی شازشیں کیں۔ چنانچہ خلافتِ اندلس نے روما کے عیسائی بادشاہ سے خفیہ معاہدہ کیا کہ وہ اُس کے ساتھ مل کر خلافتِ عباسیہ کو تباہ کرے گی اور عباسی حکومت نے شاہِ فرانس سے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ وہ سپین کی اسلامی حکومت کو متزلزل کرنے کے لئے اس کا ساتھ دے گی۔ گویا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اسلامی سیاست میں مسیحیوں کو داخل کر کے وہ اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی جب سارے یورپ کے مقابلہ میں لڑ رہا تھا۔ اُس وقت مسلمان اور عیسائی حکومتوں نے باہم معاہدہ کر کے اس کو قتل کرنے کی سازش کی اور آخر ایک مسلمان کو ہی اس کام پر مقرر کیا گیا اور اُس نے صلاح الدین پر نماز پڑھتے ہوئے قاتلانہ حملہ کر دیا گویا اللہ تعالیٰ نے اُس پر فضل کیا اور وہ اس قاتلانہ حملہ سے محفوظ رہا۔

پھر یہود کو کہا گیا تھا کہ تم نے یہ کیا دغلی پالیسی اختیار کر رکھی ہے کہ ایک طرف اپنے بھائیوں سے جنگ کرتے ہو اور دوسری طرف جب وہ قید ہو جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہی کیفیت مسلمانوں کی بھی نظر آنے لگی۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں نے ترکوں کے خلاف لشکروں میں بھرتی ہو کر جنگ کی۔ لیکن جب وہ لوگ قید ہو گئے تو پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑانا چاہا۔ غرض جس طریق پر یہود نے قدم مارا تھا مسلمانوں نے اسی طریق پر چلنا شروع کر دیا حالانکہ یہ واقعات اس لئے بتائے گئے تھے کہ مسلمان ہوشیار رہیں اور اپنے اندران خرابیوں کو پیدا نہ ہونے دیں۔ بیشک جہاں تک اہل کتاب کی اصلاح کا سوال ہے اس سے یہود اور نصاریٰ ہی مراد ہیں۔ لیکن اس میں کیا شبہ ہے کہ مسلمان بھی اہل کتاب ہیں۔ بلکہ صحیح معنوں میں اہل کتاب صرف مسلمان ہی کہلا سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کامل کتاب عطا فرمائی ہے جبکہ دوسری قومیں ایسی کامل اور بے عیب کتاب سے محروم ہیں۔ پس اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ یہود اور نصاریٰ کی خرابیوں پر کڑی نگاہ رکھتے۔ اور ان کو اپنے اندر نہ آنے دیتے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ فَلَا

اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس (جہان کی) زندگی کو بعد میں آنے والی (زندگی) پر مقدم کر لیا ہے۔ اس لئے نہ تو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۸۵﴾

ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی (کسی اور رنگ میں) مدد کی جائے گی۔

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا کہ چونکہ یہود نے دین کو چھوڑ کر دنیا اختیار کر لی ہے۔ اس لئے اس جرم کی سزا میں اب ان سے دنیا کی حکومت چھین لی جائے گی۔ اور جب تک کہ وہ پھر دین کو اختیار نہ کریں اُس وقت تک ان کے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔

فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آسمانی عذاب بھی ان سے کم نہیں ہوں گے اور دنیا کی قومیں بھی ان پر رحم نہیں کریں گی۔

قرآنی ترتیب کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے پہلے مضمون کو آخر میں پھر دہراتا ہے۔ شروع میں بیان فرمایا تھا کہ یہود کا یہ خیال کہ ہمیں صرف چند دن عذاب ہوگا۔ غلط ہے۔ اب آخر میں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ فرما کر بتا دیا کہ اس رکوع

میں بھی کُنْ تَسَبَّحْنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَالْأَمْضَمُونَ ہی چل رہا تھا جو یہاں آ کر ختم ہوا۔ اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم شریعت کے احکام کو اس طرح کھیل بنا لینے کے جرم میں مختلف قسم کے آسمانی عذابوں میں گرفتار رہو گے اور تمہیں کسی کی مدد حاصل نہیں ہو سکی گی۔ پس تمہارا یہ دعویٰ کہ تمہیں صرف چند دن عذاب ہوگا باطل ہے۔ تمہیں عذاب ہو گا اور عذاب بھی ایسا کہ جو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک لمبے عرصہ تک وہ تمہیں سوزش اور جلن میں مبتلا رکھے گا۔

دوسرا خیال ان کا یہ تھا کہ ہمارا انبیاء سے تعلق ہے۔ وہ ہماری مدد کریں گے۔ سو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمادی کہ ان کا یہ خیال بھی غلط ہے۔ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔

غرض قرآنی ترتیب کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے پہلے مضمون کو آخر میں پھر دہرا دیتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں گزشتہ بحث ختم ہوتی ہے۔ اور آئندہ نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔

اس رکوع میں پہلے جس عہد کا ذکر کیا تھا وہ عام تھا مگر اس کے بعد اس خاص عہد کا ذکر کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اُن یہود سے تعلق رکھتا ہے جو مدینہ اور اس کے نواح میں رہنے والے تھے۔ اس کے بعد اُن کی دو اور قومی غلطیوں کا ذکر فرمایا۔ یہ وہ غلطیاں تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود میں خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی تھیں۔ پھر اس ترتیب میں بھی پہلے ان غلطیوں کا ذکر کیا جو نیکیوں کے ترک کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر ان غلطیوں کا ذکر فرمایا جو اپنی ذات میں گناہ اور ظلم ہیں۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جن کا نوع انسان سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر وہ گناہ بھی جن کا دوسروں سے تعلق ہوتا ہے۔ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ گناہ جن میں انسان کو احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور وہ اُن گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ دوم وہ گناہ جن کے کرتے وقت انسان محسوس ہی نہ کرے کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ فرمایا کہ اُن گناہوں کی بیان فرمائی ہیں جن کے متعلق انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ بات لوگوں کے سامنے آئی تو وہ ملامت کریں گے مگر باوجود اس کے کہ یہ نہایت واضح گناہ تھے اور ان کا اُن کی قوم کے ساتھ تعلق تھا پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ ان گناہوں میں ملوث رہے اور اپنی شریعت کی بے حرمتی کرتے رہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ

اور ہم نے (یقیناً) موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے بعد ہم نے (ان) رسولوں کو (جنہیں تم مانتے ہو) اس کے پیچھے

وَأْتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ

بھججا۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو (بھی) ہم نے کھلے کھلے نشانات دیئے اور روح القدس کے ذریعہ سے اسے طاقت بخشی

الْقُدْسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ

(لیکن تم نے سب کا مقابلہ کیا) تو پھر (تم ہی بتاؤ کہ) کیا (یہ بات ناپسندیدہ نہیں کہ) جب بھی تمہارے پاس کوئی

أَنْفُسِكُمْ أَتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿۸۸﴾

رسول اس (تعلیم) کو لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر (کا مظاہرہ) کیا۔ چنانچہ بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا۔

حَلَّ لُغَاتٍ - قَفَّيْنَا قَفِي فُلَانٌ زَيْدًا أَوْ بَزِيدٍ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں وہ

زید کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور قَفِي کے معنی ہیں پیچھے چلایا۔

یہ لفظ قَفَا سے نکلا ہے اور قَفَا انسان کے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جسے اردو زبان میں گدی کہتے ہیں۔ اور گدی

کے ساتھ ساتھ ہونے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز پیچھے بھی ہو۔ اور قریب بھی۔ اصل معنی تو اس کے ساتھ ساتھ اور

قریب قریب جانے کے ہیں مگر محاورہ میں اس کے معنی وسیع کر لئے گئے ہیں۔ اس لئے اب یہ لفظ ایسے موقع پر بھی

استعمال کر لیا جاتا ہے جبکہ کوئی پیچھے چل کر آئے خواہ وہ فاصلہ پر ہی ہو۔ (اقرب)

بَيِّنَاتٍ وہ دلائل ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی نبی کی صداقت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ دلائل دو قسم کے

ہوتے ہیں۔ اوّل وہ جن سے کسی نبی کی صداقت کا استنباط کیا جاتا ہے۔ مثلاً زمانہ کے خراب ہو جانے کے وقت نبوت

اور اس کی ضرورت بتانے کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا خراب ہو گئی ہے۔ لوگ شریعت کو بھول گئے ہیں۔ اس کے

احکام انہوں نے ترک کر دیئے ہیں اس لئے اب ایک نبی کی ضرورت ہے اور وہ آنے والا یہی ہے۔ یہ سب باتیں

ایک نبی کی ضرورت بتانے کے لئے بطور استنباط ہوتی ہیں۔ یہ دلائل تو ہیں مگر بیّنات نہیں کہلا سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی

ایسی پیشگوئیاں ہوں جو قرب زمانہ کی تعیین کرتی ہوں نہ کہ خود اس زمانہ کی تو وہ پیشگوئیاں بھی اُس نبی کے لئے بیانات میں سے شمار نہیں ہوں گی۔ جیسے وہ نشانات و حالات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ظاہر ہوئے۔ اور جن سے آپ کی صداقت کا استنباط کیا جاسکتا ہے وہ آپ کی صداقت کے دلائل تو ہیں مگر چونکہ وہ معین رنگ میں آپ کی شناخت نہیں کراتے اس لئے وہ بیانات نہیں کہلا سکتے ہیں۔ مگر دوسری قسم کے دلائل وہ ہیں جو بیانات کہلاتے ہیں۔ وہ ایسے دلائل ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی نبی کی صداقت کا مشاہدہ کراتے ہیں۔ اور جن کے ذریعہ حق و باطل بالکل کھل جاتا ہے۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی طاعون کی پیشگوئی کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طاعون کی پیشگوئی فرمائی۔ اب یہ صرف دلیل ہی نہیں بلکہ بیّنہ بھی ہے۔ کیونکہ یہ پیشگوئی صرف یہی ثابت نہیں کرتی کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں آنیوالے کو آنا چاہیے بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ مسیح موعود ہیں۔ غرض بیّنہ وہ ہوتی ہے جو صداقت کی وضاحت کر دیتی ہے۔ مگر دوسری دلیل صرف اشارہ کنایہ سے صداقت کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کے بعض دلائل صرف کنایہ و اشارہ کی قسم میں سے ہیں اور بعض بیانات ہیں۔ اور درحقیقت ہر نبی دونوں قسم کے دلائل اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کیونکہ صرف کنایہ و اشارہ ہی صداقت کے ثبوت کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے ساتھ بیانات کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ عام لوگوں پر اس کی صداقت واضح ہو جائے ورنہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اَلْبَيِّنَاتُ کے معنی علامہ ابو حیان اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں اَلْحُجُجُ اَلْوَاضِحَةُ اَللّٰهُ عَلٰى ذُبُوْتِهٖ۔ یعنی ایسے واضح دلائل جو حضرت مسیحؑ کی نبوت کو ثابت کرنے والے تھے (البحر المحيط زیر آیت ہذا)

رُوحُ الْقُدُسِ کے معنی لسان العرب میں یہ لکھے ہیں کہ خدا کا پاک یا مبارک کلام۔ رُوح کے معنی کلام اور قُدس کے معنی مبارک یا پاک کے ہیں۔ اس لئے دونوں لفظوں کے مل کر یہ معنی ہوئے کہ مبارک یا مقدس کلام۔ لسان العرب اور عربی کی دوسری لغت کی کتب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیس کا لفظ صرف اُن اشیاء کے متعلق بولا جاتا ہے جو خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہوں تو پاکیزگی کے لئے اور بھی کئی الفاظ ہیں مگر ان کے لئے یہ شرط نہیں۔ صرف تقدیس کے متعلق یہ شرط ہے کہ اس کا استعمال شرعی یا روحانی اشیاء کے متعلق ہوتا ہے۔ پس مقدس پاکیزگی وہ ہے جو شریعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ جیسے مقدس مقام وہ ہوگا جو شرعی اور روحانی طور پر اعزاز رکھتا ہو۔ یوں تو نظافت کا لفظ بھی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے۔ مگر اس کا تعلق شرعی اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک کا فر بھی نظیف کہلا سکتا ہے لیکن مقدس انسان وہی کہلا سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانی اعزاز حاصل

ہو۔ اسی طرح مبارک اور مقدس کلام بھی صرف پاکیزہ خیالات کو ہی نہیں کہتے ورنہ ایک فلاسفر کے خیالات بھی پاکیزہ ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی طبعیات کے متعلق نئے سے نئے نکلتے نکالتا رہتا ہے۔ مگر وہ مؤید بروح القدس نہیں ہوتا۔ وہ وحی الہی سے مشرف نہیں ہوتا۔ وہ ایسے خیالات سے مشرف نہیں ہوتا جو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر دیتے ہیں۔ مؤید بروح القدس صرف وہ کلام ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ اور جو ہر لحاظ سے مبارک اور پاکیزہ ہوتا ہے۔

(۲) دُوح کے معنی فرشتہ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے روح القدس کے معنی ہیں فرشتہ تقدس و برکات۔ فرشتے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام لاتے ہیں۔ دوم وہ جو اس کلام کو یا قضاء و قدر کو دنیا میں جاری کرتے ہیں۔ جو فرشتہ کلام الہی لانے والے ہوتے ہیں اُن کو روح القدس کہتے ہیں۔ خصوصاً کلام لانے والے فرشتوں کا سردار جبرائیل روح القدس کہلاتا ہے۔

پس اَيَّدِنُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کے یہ معنی ہیں کہ (۱) ہم نے تقدس و برکات والے فرشتہ سے اس کی مدد کی۔ جو خدا تعالیٰ کے حضور سے کلام لاتا ہے یا (۲) خدا نے اُسے اپنے پاک اور مبارک کلام سے مشرف کیا اور اُسے طاقت بخشی۔

تفسیر۔ جیسا کہ حَلِّ لُغَاتٍ میں بتایا جا چکا ہے لفظ قَفَّيْنَا کے معنی ہیں ”ہم نے پیچھے چلایا“۔ اس لفظ سے نہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سے انبیاء آئے۔ بلکہ یہ ظاہر کرنا بھی مطلوب ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی نہ تھے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اور اسی راستہ پر چلتے تھے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ”شہادۃ القرآن“ میں اس سے یہ استدلال فرمایا ہے کہ ”حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی ایسے انبیاء آئے جن کی کوئی جدید شریعت نہ تھی۔ بلکہ وہ تورات کے احکام پر ہی لوگوں سے عمل کرواتے اور اسی کی تعلیم کو رائج کرتے تھے“۔

(نفس مضمون شہادۃ القرآن روحانی خزائن جلد ۶ صفحہ ۳۰، ۳۱، ۳۲)

عام طور پر مفسرین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور ان کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے علامہ ابویحیٰ نے اپنی تفسیر میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہوئے ہیں وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ وہ حضرت موسیٰ کی شریعت ہی کے تابع ہو کر آئے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی تفسیر بحر محیط میں اس

آیت کے ماتحت لکھتے ہیں۔ وَيَجْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ التَّقْفِيَّةُ مَعْمَوِيَّةً وَهِيَ كَوْنُهُمْ يَتَّبِعُونَ فِي الْعَمَلِ بِالتَّوْرَةِ وَاحْكَامِهَا وَيَأْمُرُونَ بِاتِّبَاعِهَا وَالْبَقَاءِ عَلَى الزَّانِمِهَا۔ (البحر المحیط) یعنی آیت زیر بحث میں قَفَّيْنَا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تورات پر عمل کرنے اور اس کے احکام کو بجالانے میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے تھے اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے۔ اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی جائے گویا ظاہری طور پر نقش قدم پر چلنا ہی مراد نہیں بلکہ معنوی طور پر بھی چلنا مراد ہے۔

(ب) وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَآيَدْنَاهُ بَرُوجَ الْقُدْسِ۔ بینات اور روح القدس کے ذریعے حضرت مسیحؑ کا تائید پانا یہ دونوں چیزیں ایسی نہیں جو صرف حضرت مسیحؑ ناصری کے ساتھ مخصوص ہوں یا اس سے دوسرے انبیاء پر ان کی کسی فضیلت کا استدلال ہو سکے۔ چنانچہ قرآن کریم اسی سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے۔ وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ (البقرة: ۹۳) یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے۔ مگر پھر بھی تم نے اُس کے (پہاڑ پر جانے کے) بعد شرک کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس بارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینات دیئے گئے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ ۗ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُونَ (البقرة: ۱۰۰) یعنی یقیناً ہم نے تیری طرف بینات نازل کی ہیں۔ جن کا فرمانوں کے سوا اور کوئی انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ مومن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ کی اقوام کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ كَانَتْ تَاۡتِيهِمْ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوۡا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّهُ قَوِيۡمٌ شَدِيۡدٌ الْعِقَابِ (المؤمن: ۲۳) یعنی اُن کے ہلاک ہونے کا باعث یہ تھا کہ اُن کے پاس اپنے اپنے وقت میں ہمارے رسول بینات لے کر آئے تھے اور انہوں نے اُن کا انکار کر دیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار بلا کر دیا۔ اور وہ طاقتور اور بعض شرارتوں پر فوری سزا دینے والا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر انبیاء دنیا میں آئے سب اپنے ساتھ بینات بھی رکھتے تھے۔ اگر اُن کے ساتھ بینات نہ ہوتے تو وہ رسول ہی ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ پس آیت زیر تفسیر میں حضرت مسیحؑ ناصری علیہ السلام کے نام کے ساتھ بینات کا ذکر کرنے سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ ان کو اس امر میں کوئی امتیازی خصوصیت حاصل تھی بلکہ اس سے یہود کو صرف یہ بات بتلانا مد نظر ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی اُن تمام انبیاء کی طرح جن کی صداقت کے تم قائل ہو اپنے ساتھ اپنی صداقت کے نشانات رکھتے تھے۔

اسی طرح روح القدس کے ذکر سے یہ بتلانا مد نظر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی دوسرے انبیاء کی طرح الہام ہوتا تھا۔ نہ یہ کہ اُن کو دوسرے انبیاء پر کوئی خاص فضیلت حاصل ہے۔ یا وہ صاحب شریعت نبی ہیں۔ اور اگر رُوح کے معنی فرشتے کے کئے جائیں اور رُوح القدس کے معنی پاک فرشتے کے لئے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اُن کی تائید کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا تھا۔ تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں اُن کی قبولیت بٹھائیں یا خود اُن کے دل کو مضبوط کریں۔ چنانچہ ایک دوسری آیت سے اس کی تشریح ہو جاتی ہے فرماتا ہے۔ **وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْاَحْوَابِ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَ بِرَسُوْلِىْ (المائدة: ۱۱۲)** اس واقعہ کو بھی یاد کرو جبکہ میں نے حواریوں کو وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وحی عام طور پر ملائکہ کے توسط سے ہی ہوا کرتی ہے۔ پس ایک مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید جبرائیل کے ذریعہ کی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں بلکہ اعلیٰ درجہ کے مومنوں کو بھی نصیب ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے۔ **اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُم بِرُوْحٍ مِّنْهُ (المجادلة: ۲۳)** یعنی یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان راسخ کر دیا ہے اور اپنی طرف سے رُوح بھیج کر اُن کی مدد کی ہے۔ یعنی ملائکہ کو اُن کی مدد پر مقرر فرمایا ہے۔ گو اس جگہ رُوح القدس کے الفاظ نہیں مگر رُوح مِّنْهُ کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اور وہ رُوح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ مقدس ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ **قُلْ نَزَّلْنَا رُوْحَ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُنزِّلَ عَلَیْكَ الْاٰیٰتِ الْاٰمِنَاتِ وَ هُدًى وَ بُشْرٰى لِّلْمُسْلِمِیْنَ۔ (التحل: ۱۰۳)** یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تو لوگوں سے یہ کہہ دے کہ رُوح القدس نے اس قرآن کریم کو تیرے رب کی طرف سے حق و حکمت کے ساتھ اتارا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں وہ ہمیشہ کے لئے ایمان پر قائم کر دے۔ نیز اُس نے یہ کتاب مومنوں کی مزید ہدایت اور انہیں بشارت دینے کے لئے نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ **فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (البقرة: ۹۸)** یعنی رُوح القدس نے اس کتاب کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ نازل کیا ہے۔ پس بیانات دیئے جانے اور مؤید بروح القدس ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خاص فضیلت نہیں دی جاسکتی۔

قرآن کریم کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی ثابت ہے کہ رُوح القدس کا نزول حضرت مسیحؑ ناصر کے علاوہ اور انبیاء بلکہ غیر انبیاء پر بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسانؓ کا واقعہ اس پر شاہد ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اس زمانہ کے اشرار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ

کی ازواج مطہرات کے خلاف نہایت گندی نظمیں اور اشعار بنا کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک مدت تک تو صحابہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق صبر سے کام لیتے رہے مگر جب وہ اس خباثت میں حد سے بڑھ گئے تو بعض صحابہؓ نے حضرت حسانؓ سے خواہش کی کہ وہ ان کا جواب دیں۔ حضرت حسانؓ نے اُن کے کہنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے متعلق عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ! انہوں نے آپ پر بہت حملے کئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اُن کو جواب دوں۔ اور اُن کے عیوب ظاہر کروں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دینا اچھی بات ہے مگر اس میں ایک وقت ہے اور وہ یہ کہ اُن کے اور ہمارے آباؤ اجداد ایک ہی ہیں۔ اگر تم اُن پر حملہ کرو گے تو وہ حملہ ہم پر بھی ہوگا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو اُن سے اس طرح الگ کر لوں گا جس طرح مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ یہ اُن کے قادر الکلام ہونے کی دلیل تھی۔ کیونکہ قادر الکلام شاعر ہی اس رنگ میں شعر کہہ سکتا ہے کہ دوسرے کو جواب بھی دیدے اور اپنے بزرگوں پر بھی حملہ نہ ہونے دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اُھْجُ قُرَيْشًا وَرُوحَ الْقُدِّيسِ مَعَكَ (البحر المحيط زیر آیت ہذا) یعنی اے حسان! قریش کی ہجو کر روح القدس تیرے ساتھ ہے۔ اب یہ کوئی الہام نہ تھا جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہو۔ بلکہ بغیر الہام کے آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ کیونکہ حسانؓ اُس وقت دین کی تائید کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔

پس رُوح القدس کے الفاظ سے کسی کا یہ سمجھنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کوئی خصوصیت حاصل تھی درست بات نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسانؓ کو فرمایا۔ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ (البحر المحيط زیر آیت ہذا) یعنی جبریل تیرے ساتھ ہے۔ حضرت حسانؓ اپنے ایک شعر میں بھی فرماتے ہیں۔

وَ جِبْرِيْلُ رَسُوْلُ اللهِ فِيْنَا وَ رُوْحُ الْقُدِّيسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

(البحر المحيط زیر آیت ہذا)

یعنی اللہ کے رسول پر اُترنے والا جبریل ہم میں ظاہر ہوا ہے اور وہ ایسی پاکیزہ رُوح ہے جس کا کوئی مثیل نہیں۔ یعنی جبریل جو اللہ کا رسول ہے ہم میں ہے اور روح القدس کا کوئی مثیل نہیں۔ اس شعر کے مطابق تمام صحابہ کرامؓ کو رُوح القدس کی تائید حاصل تھی۔ پس صرف روح القدس کی تائید حاصل ہونے سے عیسائیوں کا یہ استدلال کرنا کہ حضرت مسیحؑ ابن اللہ تھے یا اللہ تھے نادانی ہے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا جواب دینے کے لئے حضرت حسانؓ کو فرمایا اور دُعا کی کہ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اے خدا! روح القدس سے اس کی تائید فرما۔

(مشکوٰۃ المصابیح باب البیان و الشعور و کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۳، ۲۴ ایڈیشن اول)

ایک اور روایت کے مطابق اُهْبِجِ الْمَشْرِكِيْنَ فَاِنَّ جَبْرِيْلَ مَعَكَ (بخاری کتاب المغازی باب مرجع

النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب) یعنی اے حسانؓ! مشرکین کی جو کر جبریل تیرے ساتھ ہے۔

پس حضرت مسیحؑ کا روح القدس سے مؤید ہونا ان کی کسی فضیلت کا ثبوت نہیں اس میں تمام انبیاء بلکہ غیر انبیاء

بھی شریک ہیں۔ اور سب کو اپنے اپنے درجہ اور مقام کے مطابق رُوح القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے۔

حضرت معین الدین صاحب چشتی (رحمۃ اللہ علیہ) جو ائمت محمدیہ کے ایک مسلمہ بزرگ ہیں وہ تو یہاں تک

فرماتے ہیں کہ ۔

دمدم رُوح القدس اندر معین می دمدم من نمی دانم مگر من عیسیٰ ثانی شدم

(دیوان حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی صفحہ ۵۶)

یعنی رُوح القدس بار بار میرے اندر اس طرح نفع رُوح کر رہا ہے کہ شاید مجھے عیسیٰ ثانی کا مقام حاصل ہو گیا

ہے۔ پس حضرت مسیحؑ کا مؤید بروح القدس ہونا کوئی قابلِ تعجب امر نہیں۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وَاتَّيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

الْبَيِّنَاتِ وَآيَاتِنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ میں اگر حضرت مسیحؑ ناصری کی کوئی امتیازی خصوصیت بیان نہیں کی گئی تو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد باقی سب انبیاء کا مجموعی ذکر کرنے کے بعد حضرت مسیحؑ کا علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا ہے

اور ان کے متعلق یہ مخصوص طور پر کیوں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بیّنات دیں اور اس کی رُوح القدس

سے تائید کی؟

عیسائی تو اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ ان کو دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل تھی اور وہ دوسروں سے بالا

مقام رکھتے تھے اس لئے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر وہ بھی رسول ہی ہوتے تو ان کا الگ ذکر نہ کیا جاتا۔ لیکن

مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے انبیاء کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے بلکہ موسوی شریعت کے تابع تھے اس

لئے ان کا اکٹھا ذکر کیا گیا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کے تابع نہیں تھے بلکہ وہ ایک نئی شریعت لائے

تھے اس لئے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے مگر یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ

”یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے“

(مقی باب ۵ آیت ۱۷، ۱۸)

پس یہ تو غلط ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا علیحدہ ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ آپ صاحب شریعت جدیدہ تھے۔ لیکن یہ سوال ضرور قائم رہتا ہے کہ اگر عینات دینے جانے اور روح القدس سے مؤید ہونے میں اُن کی کوئی خصوصیت نہیں تھی تو پھر ان کا علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل میں جس قدر انبیاء حضرت مسیحؑ سے پہلے گزر چکے ہیں اُن کی عظمت کے بنی اسرائیل کسی نہ کسی رنگ میں ضرور قائل تھے۔ اور گواہی میں اُن کی مخالفت بھی ہوئی لیکن بعد میں اُن کی صداقت کو یہودیوں نے قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ بائبل میں ملاکی نبی تک سب انبیاء کی کتب موجود ہیں۔ جن کو وہ پڑھتے اور قابل عمل سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ جن کے آخر عمر میں مرتد ہونے کے وہ قائل ہیں ان کا ذکر بھی بائبل میں موجود ہے اور ان کے اعمال کو نظر انداز کرتے ہوئے اُن کے کلام کی اُن میں اب تک قدر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت زکریاؑ اور یحییٰؑ کو بھی گو وہ نبی تسلیم نہیں کرتے لیکن عالم اور نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ پس سب انبیاء کی عظمت کے وہ قائل ہیں گو بعض کو بحیثیت عالم اور نیک ہی مانتے ہیں لیکن حضرت مسیحؑ کی نسبت اُن کا عقیدہ نہایت گندہ اور ناپاک ہے۔ وہ آپ پر خطرناک الزام لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ مفسری اور ملعون قرار دیتے ہیں۔ پس یہود نے نبیوں کی جو مخالفت کی تھی اُس کا ذکر کرتے ہوئے ضروری تھا کہ حضرت مسیحؑ کا ذکر دوسرے انبیاء سے علیحدہ اور خاص طور پر کیا جاتا کیونکہ اُن کے ساتھ انہوں نے سب سے بُرا سلوک کیا تھا۔ اور قرآن کریم کے نزول تک اپنے اس عقیدے پر قائم تھے کہ نعوذ باللہ آپ مفسری تھے۔ اور صداقت سے آپ کو کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ اسی طرح حضرت مسیحؑ سے یہود کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا بتلا دینا بھی ضروری تھا کہ گو یہود انہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ صداقت کی وہ تمام علامتیں رکھتے تھے جو دوسرے راستباز انبیاء جن کی نبوت کے بنی اسرائیل قائل ہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چنانچہ انبیاء کی صداقت کی زبردست علامات میں سے دو کو حضرت مسیحؑ کے ذکر کے ساتھ بیان کر دیا جن میں سے پہلی علامت آپ کے ساتھ عینات یعنی کھلے کھلے نشانات کا ہونا ہے جو ہر نبی کی صداقت کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور دوسرے روح القدس کی تائید ہے کہ یہ بھی ہر نبی کے لئے ضروری ہے۔ عینات اور روح القدس کا ذکر اس

لئے بھی کیا گیا ہے کہ یہودی حضرت مسیحؑ پر یہی دو اعتراض کیا کرتے تھے۔ کہ اول اُس نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ دوم وہ نعوذ باللہ ناپاک تھا اور اُس پر شیطانی رُوح آتی تھی۔ چنانچہ معجزہ نہ دکھانے کے اعتراض کا ذکر متی باب ۱۲ آیت ۳۸ تا ۴۰ میں اس طرح آتا ہے کہ

”تب بعضے فقہیوں اور فریسیوں نے جواب میں کہا۔ کہ اے اُستاد! ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اُس نے انہیں جواب دیا اور کہا کہ اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں۔ پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا۔ کیونکہ جیسا یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسا ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔“

اور شیطانی رُوح کے متعلق یہود کے الزام کا ذکر لوقا باب ۱۱ آیت ۱۳، ۱۵ میں آتا ہے۔ لکھا ہے۔

”پھر وہ ایک گونگی رُوح کو نکال رہا تھا۔ اور جب وہ بد رُوح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تعجب کیا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا۔ یہ تو بد رُوحوں کے سردار بعلزبول کی مدد سے بد رُوحوں کو نکالتا ہے۔“

بلکہ لوگوں نے حضرت مسیحؑ کا نام ہی بعلزبول رکھ دیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے شاگردوں کو صبر کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

”جب اپنوں نے گھر کے مالک کو بعلزبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں

گے۔“ (متی باب ۱۰ آیت ۲۵)

پس اَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ میں یہود کے پہلے اعتراض کا رد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حضرت مسیحؑ کے ہاتھ پر ہم نے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے تھے۔ گو افسوس ہے کہ انجیل آپ کے وہ معجزات پیش نہیں کرتی جو یہود کے مقابلہ میں حضرت مسیحؑ کی صداقت کی دلیل ہو سکتے۔ آپ کا صرف ایک ہی معجزہ تھا اُسے بھی عیسائیوں نے اپنی نادانی سے مشتبہ کر ڈالا۔ وہ معجزہ وہی تھا جس کا حضرت مسیحؑ نے خود ذکر کیا تھا۔ اور کہا تھا کہ انہیں یونس نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا۔ حضرت یونسؑ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور زندہ ہی نکلے۔ مگر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ہی مر گئے تھے اور مر کر ہی قبر میں گئے تھے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ اس معجزہ کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ بندوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اسے خود عیسائیوں نے مشتبہ کر دیا۔ دوسرا حصہ کہ وہ زندہ ہو گئے اُسے یہود مانتے ہی نہ تھے۔ گویا ایک ہی معجزہ جو حضرت مسیحؑ نے

دکھانے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی انجیل کے مطابق نہ دکھایا جاسکا۔ ایک حصہ کے متعلق تو عیسائیوں نے مان لیا کہ وہ غلط نکلا ہے اور دوسرا حصہ یہود کے لئے حجت نہیں ہو سکتا تھا۔ پس بیّنات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعتراض کا رد کیا ہے۔ باقی انبیاء کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ اُن پر تو یہ اعتراض ہی نہ ہوا تھا۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا تھا۔ پس اس اعتراض کا رد کرنے کے لئے خاص طور پر فرمایا کہ یہود اور نصاریٰ جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا یہ غلط ہے۔ ہم نے اُن کو بہت سے معجزات اور بیّنات دے کر مبعوث کیا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت مسیحؑ پر نعوذ باللہ شیطانی رُوح کا نزول ہوا کرتا تھا۔ اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کے ذریعہ کیا۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت مسیحؑ کے ایک ہی معجزہ کو یہ کہہ کر باطل کر دیا کہ حضرت مسیحؑ صلیب پر مر گئے تھے اور مر کر ہی قبر میں گئے اسی طرح انہوں نے یہود کے اس اعتراض کو بھی پختہ کر دیا کہ حضرت مسیحؑ کا نعوذ باللہ شیطانی سے تعلق ہے۔ کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ شیطان نے حضرت مسیحؑ کا امتحان لیا (متی باب ۴) اب بھلا شیطان کو ایک نبی کا امتحان لینے کی جرأت ہی کیسے ہو سکتی ہے۔ بلکہ وہ تو اس کے قریب بھی نہیں جاسکتا۔ مگر انہوں نے انجیل میں اس کا ذکر کر کے یہود کے اس اعتراض کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ کہ حضرت مسیحؑ کا شیطان سے تعلق تھا۔ پس چونکہ اس اعتراض کا بھی کسی اور نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسیحؑ کا الگ ذکر کر کے اَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فرمادیا۔ اور اس اعتراض کو باطل کر دیا کہ جو یہود آپ کی ذات پر کرتے تھے۔ یہاں تک تو یہود کے نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا جواب دیا گیا ہے۔ کہ حضرت مسیحؑ کا باقی انبیاء سے علیحدہ کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ اب میں عیسائیوں کے نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھ کر جواب دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ عیسائی اس آیت سے فائدہ اٹھا کر حضرت مسیحؑ کو ابن اللہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مسیحؑ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو اُن کو وَفَّقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ میں پہلے ہی شامل کر لیا گیا تھا پھر ان کا الگ ذکر کیوں کیا گیا۔ ان کا الگ ذکر کرنا بتاتا ہے کہ اُن کو رسولوں سے بالاحتیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ انبیاء جن کو وَفَّقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ میں بیان کیا گیا ہے۔ اُن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی الگ جماعتیں موجود نہ تھیں مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی جماعت نہ تھی۔ حضرت سلیمانؑ کی کوئی جماعت نہ تھی۔ حضرت یحییٰؑ کی کوئی جماعت نہ تھی۔ حضرت الیاسؑ کی کوئی جماعت نہ تھی۔ حضرت زکریاؑ کی کوئی جماعت نہ تھی۔ اسی طرح دانی ایل اور حزقی ایل کی کوئی جماعت نہ تھی۔ پس ان کا الگ ذکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت یہود سے الگ موجود تھی اس لئے ضروری تھا کہ ان کا علیحدہ ذکر کیا

جاتا۔ دوسرے اس لئے بھی ان کا علیحدہ ذکر ضروری تھا کہ ان کی قوم نے ان سے رسالت کا اصل رنگ ہٹا کر ان کو ابنیّت کی چادر پہنادی تھی۔ باقی تمام رسول جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آئے ایک ہی تسبیح کے دانے تھے۔ اور ان میں سے کسی کو وہ کوئی خاص امتیاز نہیں دیتے تھے۔ اس لئے ان کا ایک ہی جگہ ذکر کر دیا گیا مگر مسیحؑ کا ذکر اس لئے علیحدہ کیا کہ ان کی الوہیت کی وہ چادر ہٹائی ضروری تھی جو عیسائی انہیں پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

در اصل یہ آیت حضرت مسیحؑ کے متعلق عیسائیوں کے عقیدہ کو رد کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ اور انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا انہیں خدا کا بیٹا قرار دینا تمہاری کم فہمی پر مبنی ہے۔ وہ تو صرف ایک رسول تھے۔ جن کی بیانات اور روح القدس سے تائید کی گئی تھی اور بیانات شریعت اسلامیہ کی رو سے سب انبیاء کو ملے ہیں۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو بغیر بیانات کے آیا ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کی نصوص بیّنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی رو سے روح القدس کا نزول غیر نبی پر بھی ہو سکتا ہے۔ پس حضرت مسیحؑ کو بیانات اور روح القدس کی تائید حاصل ہونا نہ تو انہیں شرعی نبی ثابت کرتا ہے اور نہ ابن اللہ یا اللہ ثابت کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیحؑ کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا پہلا لفظ اَتَيْنَا ہے۔ یعنی ہم نے ان کو دیا۔ اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جسے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ خود دوسروں کو اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ مگر حضرت مسیحؑ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ہم نے اُس کو دیا“۔ پس اس آیت کا پہلا لفظ ہی ان کے اقنوم ہونے کو باطل قرار دے رہا ہے۔

دوسرا بَيِّنَات کا لفظ ہے۔ یہ بھی مسیحؑ کی ابنیّت کو باطل ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی صداقت منوانے کے لئے دوسرے کی دی ہوئی بیانات کا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔

دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں (۱) ایک مادی (۲) اور دوسری غیر مادی۔ مادی چیزیں سبب اور مسبب کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ان کو اپنا وجود منوانے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر وہ ذات جو غیر مادی ہو وہ سبب اور مسبب سے بالا ہوتی ہے۔ اسے اپنی ذات منوانے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے دعویٰ کی دلیل خود اس کا اپنا وجود ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ

ع آفتاب آمد دلیل آفتاب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی صداقت منوانے کے لئے خارجی دلائل کے محتاج ہوئے اس لئے معلوم ہوا

کہ وہ مخلوق تھے نہ کہ خالق۔ اور مخلوق اللہ نہیں ہو سکتی۔

اَيُّدُنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ وہ دوسرے کی مدد کے محتاج تھے۔ اور جو دوسرے کی مدد کا محتاج ہو وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے۔ طاقت اور قوت تو اسی کو بخشی جاتی ہے جو کمزور اور ضعیف ہو۔ پس اَيُّدُنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ کے الفاظ بھی حضرت مسیحؑ کی کمزوری کو ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ روح القدس کی تائید کی ضرورت تھی تسلیم کی جاسکتی ہے جبکہ پہلے ان کی کمزوری مانی جائے۔ اور جو ہستی کمزور اور ضعیف ہو وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہلا سکتی۔ پس یہ فقرہ خود ان کی ذات میں ان کی خدائی کی تردید کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہیں پاکیزگی کی قوت خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ اگر خدا تعالیٰ ان کو پاکیزگی عطا نہ کرتا تو وہ صرف گوشت پوست کا ایک لوتھڑا ہوتے۔ پس یہ فقرات حضرت مسیحؑ کی الوہیت کا ثبوت نہیں۔ بلکہ ان کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے والوں پر ایک کاری ضرب ہیں۔

اَفَكُلَّمَا جَاءَهُمْ الْخَبْرُ اس میں بتایا کہ نبی تو اس وقت آتا ہے جب کہ لوگ صحیح راستہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور اس وجہ سے لازماً اس کی تعلیم لوگوں کے خیالات کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن یہود نے اپنی یہ عادت بنا رکھی ہے کہ جو بات اپنی رائے کے مخالف ہو اسے قبول نہیں کرنا۔ اس لئے ہر رسول کے آنے پر انہوں نے تکبر سے کام لیا۔ اور اگر ایک حصہ کو صرف زبان سے جھٹلادیا تو دوسرے حصہ کو قتل کرنے تک کے منصوبے کئے۔

اللہ تعالیٰ یہود کی اس شقاوت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب تم نے انکار ہی کرنا ہے تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ اگر بنی اسحاق میں سے نبی ہوتا تو ہم اُسے مان لیتے کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو تمہارا صریح جھوٹ ہے۔

فَقَرِيفًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيفًا تَقْتُلُونَ کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ تم نے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ مگر كَذَّبْتُمْ اور تَقْتُلُونَ کے صیغوں میں چونکہ فرق کر دیا گیا ہے اس لئے فَرِيفًا تَقْتُلُونَ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کا ارادہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی پچھلوں کو تم نے جھٹلایا اور اس نبی کو تم قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ یا اس سے لڑائی کرتے ہو۔ اس صورت میں اس کے معنی قتل کے نہیں بلکہ لڑائی کے ہوں گے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا گند کم نہیں ہوا بلکہ اور بھی بڑھ گیا ہے اور جہاں تک تمہارا بس چلا ہے تم نے خدا تعالیٰ کے نبیوں کی مخالفت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۖ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا

اور (ہمیں معلوم ہے کہ) انہوں نے (یہ بھی) کہا ہے (کہ) ہمارے دل تو پردوں میں ہیں۔ (مگر یہ بات) نہیں

مَا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۹﴾

بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کی ہے۔ پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔

حَلِّ لُغَاتٍ - غُلْفٌ اَغْلَفُ کی جمع ہے۔ اور غِلَافُ کی بھی۔ اس کے معنی نامختون کے ہیں۔ لیکن

اس کے علاوہ عربی زبان میں دُو عام محاورے بھی ہیں۔ کہتے ہیں (۱) قَلْبٌ اَغْلَفٌ یعنی ایسا دل جو اپنے اندر سمجھ نہ رکھتا ہو۔ اور (۲) سَيِّفٌ اَغْلَفٌ یعنی تلوار ایسے غلاف میں ہے کہ جس میں باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔

(اقرب)

تفسیر۔ جب کسی صداقت کا مقابلہ دلائل کے ساتھ کوئی انسان نہ کر سکے اور اسے قبول کرنے کے لیے بھی

تیار نہ ہو تو وہ ادھر ادھر کی باتیں بنا کر اُسے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس آیت میں یہود کا ایک ایسا ہی عذر بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ اسلام سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس زمانہ میں بھی ضدی لوگ اسی قسم کے عذرات کر کے اپنے آپ کو اس صداقت سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ دنیا میں بھیجی گئی ہے۔

جیسا کہ حَلِّ لُغَاتٍ میں بتایا جا چکا ہے۔ غُلْفٌ اَغْلَفُ کی بھی جمع ہے جس کے معنی نا سمجھ کے ہیں اور

غِلَافُ کی بھی جمع ہے۔ اگر غُلْفٌ کو غِلَافُ کی جمع سمجھا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا۔ کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی چیز کی طرح پردہ میں رکھا ہوا ہے۔ تمہاری باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتیں۔

غلاف چونکہ اعلیٰ درجہ کی چیزوں پر چڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ میلی نہ ہوں اس لئے قُلُوبُنَا غُلْفٌ کا فقرہ کہہ کر اُن

کا منشاء یہ ہوتا کہ تم ہمیں کیا سمجھاتے ہو ہمارے دل تو خود بڑے پاک اور ہر قسم کی آلائشوں سے مبرا ہیں۔ اس لئے تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اثرات سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔

اور اگر اس کے معنی نا سمجھ کے لئے جائیں۔ تو قُلُوبُنَا غُلْفٌ کا یہ مفہوم ہوگا کہ مسلمان جب اُن کے سامنے دلائل

پیش کرتے تو وہ اپنا پیچھا چھڑانے کے لئے کہہ دیتے کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں مگر ہم نا سمجھ اور جاہل ہیں بھلا ہم ان

باتوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے بعض لوگوں کی تو یہ مراد ہوتی کہ ہم کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ تم ہمارے علماء کو سناؤ اور سمجھاؤ ہمارے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرو۔ اور بعض لوگ طنز کے طو پر کہتے کہ آپ لوگ تو بڑے عالم ہیں۔ ہم جاہل لوگ ہیں یہ باتیں ہمیں کہاں سمجھ آسکتی ہیں۔ جس کا دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہوتا کہ ہم لوگ جو سمجھدار ہیں جب ہماری سمجھ میں بھی یہ باتیں نہیں آتیں تو تم کیونکر سمجھ گئے۔ یا یہ کہ تمہارے نزدیک ہمارے دل غلاف میں ہیں یعنی سزا کے طور پر ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں تم کیوں سمجھانے آتے ہو۔

اگر غُلْفُ کے معنی علم کے خزانہ کے لئے جائیں۔ تو یہودیوں کا ان الفاظ سے یہ مطلب ہوتا کہ ہمارے دل تو علم کے خزانے میں ہمیں کسی مزید صداقت کی کیا ضرورت ہے۔

قُلُوْبُنَا غُلْفُ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دل ناپاک ہیں۔ یعنی جب انہیں کوئی جواب نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم گندے لوگ ہیں ہمیں چھوڑو اور کسی اور سے گفتگو کرو گویا مسلمانوں سے وہ اپنا پیچھا چھڑانے کے لئے ایسا کہتے ہیں حالانکہ ہدایت تو آتی ہی ایسے لوگوں کے لئے ہے جو گندے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قُلُوْبُنَا غُلْفُ بطور تنفّر کے کہتے ہوں۔ یعنی جب تم ہمیں گندہ اور ناپاک سمجھتے ہو تو ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہو۔

بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فرماتا ہے یہودیوں کا ان الفاظ سے خواہ کچھ بھی مطلب ہو۔ خواہ وہ بات کو ختم کرنے کے لئے ایسا کہیں خواہ طنزاً ایسا کہیں خواہ اپنی علیت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لئے ایسا کہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت پڑ گئی ہے اور اسی لعنت کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ قبول حق سے محروم ہو گئے ہیں۔

يَكْفُرْهُمْ میں بتایا کہ یہ لعنت ان پر اس لئے پڑی ہے کہ انہوں نے متواتر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کی۔ پس نہ تو یہ ایسے ناصح ہیں کہ بات کو سمجھ ہی نہ سکیں اور نہ ہی اعلیٰ درجہ کے سمجھدار وجود ہیں کہ کسی کی تبلیغ کے محتاج ہی نہ ہوں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت ڈال دی ہے۔ اس وجہ سے باوجود اس کے کہ اسلام کی تعلیم دوسری تمام تعلیموں سے افضل ہے اور فطرت انسانی اس کو قبول کرتی ہے اور عقل سلیم اس سے مطمئن ہوتی ہے پھر بھی وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔

لَعَنَهُمُ اللّٰهُ يَكْفُرْهُمْ کے الفاظ اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کسی پر بلاوجہ نہیں پڑتی بلکہ اس کا اصل باعث کفر ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے حد رحم و کرم سے کام لینے والا ہے انہیں اپنی محبت سے محروم نہیں کرتا۔ وہ اسی وقت اپنے قرب کے دروازے ان پر بند کرتا ہے جب وہ خود اس کی رحمت کے دروازوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں۔

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ - اس کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ وہ تھوڑا ایمان لاتے ہیں یعنی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کو رد کر دیتے ہیں۔ جیسے یہود کے متعلق پچھلے رکوع میں آچکا ہے کہ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ یعنی وہ احکامِ الہی میں سے بعض کو تو مان لیتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ پس اس کے ایک معنے تو یہ ہیں کہ وہ ناقص طور پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بالکل ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ نفی کے لئے بھی قلیل کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ علامہ ابوالبقاء نے لکھا ہے کہ اس کے معنے اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ مَنَافِيہ مانا جائے اور اصل عبارت یوں سمجھی جائے کہ مَا يُؤْمِنُونَ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا۔ مگر اس صورت میں بھی معنے ایک ہی رہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۗ

اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس (کتاب کی پیشگوئیوں) کو جو ان کے پاس ہے

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَلَمَّا

سچا کرنے والی ہے تو باوجود اس کے کہ پہلے یہ (لوگ اللہ سے) کافروں پر فتح (پانے کی دعا) مانگا کرتے تھے جب

جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۹۰﴾

ان کے پاس وہ چیز آگئی جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا پس ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - يَسْتَفْتِحُونَ إِسْتَفْتَحَ فُلَانٌ كَمَا مَعَهُمْ ۗ

نے فتح اور نصرت چاہی۔ اور إِسْتَفْتَحَ الْبَابَ كَمَا مَعَهُمْ ۗ کے معنے ہوتے ہیں فَوْتَحَهُ أُسُّ نِيْلٍ وَاسْتَنْصَرَ أُسُّ

تفسیر - مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۗ - یاد رکھنا چاہیے کہ تصدیق دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ مثلاً ہم

کہیں کہ زید سچا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ زید کی طرف جھوٹ منسوب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ زید

کہے بکر آجائے گا اور وہ آجائے۔ تو ہم کہیں کہ بکر نے زید کو اپنی بات میں سچا کر دیا ہے۔ یعنی اُس نے زید کی بات سچی

ثابت کر دی۔ اس جگہ بھی تصدیق کے یہ معنے نہیں کہ قرآن کریم نے تورات کی ساری تعلیم کو سچا قرار دے دیا ہے بلکہ

اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ پیشگوئیاں جو بائبل میں قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پائی

جاتی تھیں قرآن کریم نے اپنے نزول سے اُن کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ پس یہ تصدیق پیشگوئیوں کے بارہ میں ہے۔ یہ

مُرَادُنْہیں کہ قرآن کریم بائبل کی تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے متعلق خود یہود کی اپنی کتابوں میں پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر قرآن کریم نہ آتا تو اُن کی پیشگوئیاں جھوٹی ثابت ہوتیں مگر اب قرآن کریم نے بائبل کی ان پیشگوئیوں کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ اگر ان کے اندر اپنی کتب پر سچا ایمان پایا جاتا تو اُن کا فرض تھا کہ وہ قرآن کریم کی صداقت کو تسلیم کرتے اور اس طرح اپنے عمل سے بائبل کی صداقت کا اقرار کرتے۔

وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کفار کے ماتحت رہتے تھے اس لئے وہ اُن پر فتح حاصل کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! آنے والے موعود نبی کو بھیج۔ اور ایسے سامان پیدا فرما جن کے ذریعہ سے ہمیں کفار پر غلبہ حاصل ہو۔ اس لحاظ سے يَسْتَفْتِحُونَ کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ کفار پر اپنی کتاب کی پیشگوئیوں کا باب کھولتے تھے اور انہیں بتایا کرتے تھے کہ فلاں فلاں علامت رکھنے والے ایک رسول کی ہمیں خبر دی گئی ہے۔ چونکہ اُن کے دلوں میں ابھی اپنی کتاب کا احترام باقی تھا۔ اس لئے وہ اپنی کتاب کی اُن پیشگوئیوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں کافروں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے اور اُن کو بتایا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو انہیں سب کفار پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ (السيرۃ النبویۃ لابن ہشام انذار الیہود دبر رسول اللہ) یہی بات تھی جو مدینہ کے لوگوں کے ایمان لانے کا باعث ہوئی۔ یہود کے تین قبائل جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اُنکو اپنے بزرگوں سے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ موعود نبی مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقہ میں آنے والا ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لوگوں کے سامنے یہ پیشگوئیاں بیان کیا کرتے تھے اور ان کو بتایا کرتے تھے کہ ہمارے اندر ایک نبی آنے والا ہے اس کے ذریعہ کفر مٹ جائے گا اور دین حق غالب آئے گا۔ چنانچہ ایک سال جب مدینہ کے لوگ حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ گئے تو اُن کو اس بات کا علم ہوا کہ مکہ کے ایک شخص نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس پر انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جسے نہ ماننے والے تباہ ہو جائیں گے۔ چلو ہم اُسے مان لیں اور تباہی سے بچ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہی ذکر کیا کہ یہود عقلمند ہیں۔ مالدار ہیں۔ طاقتور ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اُسے مان کر ہم پر غالب آجائیں۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے مان لیں۔ یہی بات انہوں نے اپنی قوم سے جا کر بیان کی اور اُسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی خبر دی۔ اس پر وہ قریباً سب کے سب ایمان لے آئے۔ (السيرۃ النبویۃ لابن ہشام بدء اسلام الانصار) مگر یہود ان لوگوں کو جنہوں

نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تھا کافر کہنے لگ گئے۔ حالانکہ اس سے قبل آنے والے رسول کے متعلق وہ اپنی کتابوں سے خود پیشگوئیاں نکال نکال کر بیان کیا کرتے تھے۔ اور اس بات پر فخر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ موعود نبی آئے گا تو پھر ہم تمہاری خوب خبر لیں گے لیکن جب وہ رسول آ گیا تو وہ تاویل میں کرنے لگ گئے۔ یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے۔ وہ بھی کفار پر غلبہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر جب آنے والا آ گیا تو وہ تاویل میں کرنے لگ گئے اور پھر یہ کہنے لگ گئے کہ یہ خیالات ہمارے اندر مجوسیوں سے آگئے ہیں۔ ورنہ دراصل ہمارے ہاں کوئی ایسی پیشگوئی ہی نہ تھی۔

فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس جگہ کافر سے مراد عام کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر زیادہ تر وہی کافر مراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو یہ دُعا میں کیا کرتے تھے کہ الہی کوئی ایسا رسول مبعوث فرما جو دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کر دے لیکن جب وہ رسول آ گیا۔ اور ان لوگوں نے علامات سے یہ بات دیکھ لی کہ باطل پر صداقت غالب آ رہی ہے اور عنقریب کئی طور پر غالب آ جائے گی تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پس واضح صداقت کو دیکھ کر اور حجت قائم ہونے اور دُعا میں کرنے کے بعد ان کے انکار کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اُن پر خدا تعالیٰ کی لعنت پڑی ہوئی ہے۔ ورنہ ایسی واضح صداقت کا وہ بلا وجہ کس طرح انکار کر سکتے تھے۔

واقعہ میں جب ہم اس بات پر غور کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کس طرح حضرت موسیٰؑ اور دوسرے اسرائیلی نبیوں کی عزت عرب کے دلوں میں بیٹھ گئی اور وہ جو اُن انبیاء کو مفتزیوں کی طرح سمجھتے تھے صدقوں کی طرح اُن کی عزت کرنے لگے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہود کو آخروہ کونسی تکلیف پہنچی تھی جس کی وجہ سے ایسے محسن انسان کی دشمنی اور ایذا دہی میں انہوں نے عرب کے کفار سے بھی زیادہ زور لگایا۔

بَسَبًا اُشْتَرُوا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

وہ امر بہت ہی برا ہے جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ رکھا ہے۔ اور وہ ان کا اللہ کے اتارے ہوئے

بَغِيًّا اَنْ يُنَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ

کلام سے اس بات پر بگڑ کر انکار کرنا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (کیوں) اپنا فضل نازل کر دیتا

فَبَاءُ وَ بَغْضٍ عَلَى غَضِبٍ ط وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۹۱﴾

ہے۔ پس یہ لوگ غضب کے بعد غضب کا مورد ہو گئے اور ایسے (ہی) کافروں کے لئے رسوا کرنے والا عذاب (مقدر) ہے۔

حَلُّ لُغَاتٍ۔ اِشْتَرَى یہ لفظ خریدنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بیچنے کے معنوں میں بھی۔ یہاں

دونوں معنی چسپاں ہو جاتے ہیں۔ (اقرب)

تفسیر۔ بِئْسَمَا اِشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ۔ یہ ایک وسیع مضمون ہے جو لمبی تفصیل سے تعلق رکھتا ہے مگر میں اسے

اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔

قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اس وقت اللہ اور اس کے

درمیان ایک سودا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنْ

الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (التوبة: ۱۱۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اُن کی جانیں اور اُن

کے اموال اس وعدہ کے ساتھ خرید لئے ہیں کہ انہیں اس کے بدلہ میں جنت دی جائے گی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیتا ہے اور اس کی قیمت

میں انہیں جنت دے دیتا ہے۔ جنت مرنے کے بعد ملنے والی چیز ہے۔ اور جو چیز بعد میں ملنے والی ہوتی ہے اس کے

لئے سودا کرتے وقت کوئی نہ کوئی رسید دی جاتی ہے جسے وہ موقع پر دکھا سکے۔ اس نکتہ نگاہ سے جنت کے لئے بھی کوئی

پروانہ ہونا چاہیے تھا جسے وہ موقع پر دکھا کر داخل ہو سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ جنت کیلئے

ایک پروانہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ۔ اَرْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً۔ فَادْخُلِيْ فِيْ

عِبَادِيْ۔ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ۔ (الفجر: ۲۸ تا ۳۱) یعنی اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حالت میں رجوع کر

کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو گویا یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ سودا ٹھیک ہے۔ چونکہ

دینے والا اور لینے والا دونوں راضی ہوں گے اسلئے ثابت ہو جائے گا کہ سودا بالکل درست ہے۔ غرض ایمان لانا ایک

سودا ہے جو بندہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر لیتا ہے۔

اور اس کے لئے پہلے اسے ایک پروانہ دے دیتا ہے اور وہ پروانہ یہ ہے کہ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ تو میرے بندوں میں

داخل ہو جا۔ گویا عبودیت کا مقام و ٹکٹ ہے جسے دکھا کر ایک مومن بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (الانعام: ۱۲۶) یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے اور کامیاب کرنا چاہتا ہے اور جنت میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اُس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اسلام کا لفظ بعض دفعہ ایمان کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس جگہ اسلام کا لفظ ایمان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور بتایا گیا کہ جسے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اُس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے گویا سینے کا کھلنا بھی جنت کا ایک ٹکٹ ہے۔ غرض ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے عبودیت کے ٹکٹ کا ذکر کیا ہے اور دوسری جگہ شرح صدر کو اُس کی علامت قرار دیا ہے۔ دراصل یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ کیونکہ تعبیر کے معنی تذلل اور خدا کے نقش کو قبول کرنے کے ہیں اور عبد کامل وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نقش کو قبول کرنے لگ جائے اور یہی معنی شرح صدر کے ہوتے ہیں۔ غرض یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ انسان کا مومن ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنا مال اور اپنی جان خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اُسے جنت دے دیتا ہے جنت چونکہ مرنے کے بعد ملا کرتی ہے اس لئے اس دنیا میں اس کے لئے اُسے ٹکٹ دے دیا جاتا ہے کہ اسے دکھانا اور اندر چلے جانا ورنہ اُسے کیا پتہ لگ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اُسے جنت ملے گی یا نہیں۔ اس لئے اس کی علامت مقرر کر دی جو عبودیت اور اسلام کے لئے شرح صدر ہے گویا ایمان و اسلام ایک ٹکٹ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو ملتا ہے اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا سودا خدا تعالیٰ سے طے پا گیا ہے۔ جب وہ اسے پیش کر دیتا ہے تو اُسے جنت مل جاتی ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سودا کو فسخ کرنا چاہے تو کیا کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اُسے کہے گا کہ جنت کا ٹکٹ واپس کر دو۔ اور اپنی چیز لے لو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اُن پر ایمان لائی تو اُس کا خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا اور اُسے جنت کے لئے ٹکٹ مل گیا۔ اسی طرح جب عیسائی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تو اس کا بھی خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا تھا۔ اور اسے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ یہ لوگ اپنے اپنے زمانہ میں مومن تھے اور ان کا خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کا بھی خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا اور اُن کو بھی خدا تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ مگر یہود نے یہ حماقت کی کہ انہوں نے اس بیع کو فسخ کر دیا۔ اور جنت کا ٹکٹ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا واپس کر دیا اور اپنی جانوں اور مالوں کو لے لیا۔ خدا کی دی ہوئی چیز ایمان اور اسلام واپس کر دی اور اپنی جانیں اور اموال لے لئے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ اَنْفُسُكُمْ**۔ پہلی بیع تو برکت والی تھی مگر یہ بیع نہایت گندی اور تباہ کن ہے۔ پہلے سودے میں خدا تعالیٰ کی دی ہوئی چیز اچھی تھی۔ اور اُن کی دی ہوئی ناقص تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس نفع مند سودا کو فسخ کر دیا۔ بیع فسخ کرنے کی دو ہی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز جو لی گئی ہو اچھی نہ ہو بلکہ ناقص ہو۔ مگر یہاں یہ بات نہ تھی۔ خدا کی دی ہوئی چیز ناقص نہ تھی بلکہ کامل تھی۔ دوم خدا کی طرف سے جو چیز ملی ہو وہ تو اچھی ہو مگر اُس کے مقابلہ میں قیمت زیادہ دینی پڑی ہو۔ اگر اس وجہ سے بھی سودا فسخ ہو تو بھی قابل اعتراض نہیں ہوتا۔ مگر یہاں یہ بات بھی نہ تھی۔

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیع فسخ کرنے میں یہود نے کونسی بات کو مد نظر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُن کے بیع فسخ کرنے کی ان دو میں سے کوئی وجہ نہ تھی بلکہ اُن کے فسخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سرکشی کی۔ اور محض شرارت سے کہا کہ ہمارے سودا دوسروں کو یہ چیز کیوں دی گئی ہے۔ یہود کی یہ بات کس قدر حماقت پر مبنی ہے۔ کیا کوئی دوکاندار کے متعلق کہہ سکتا ہے کہ اس نے فلاں سودا میرے سودا دوسرے شخص کو کیوں دیا۔

یہود کے اس نظریہ کی تشریح کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال اس واقعہ کے ساتھ ملتی ہے کہ کسی ٹھیکیدار نے بعض اشخاص کو صبح سے ظہر تک اور بعض کو ظہر سے عصر تک اور بعض کو عصر سے مغرب تک کام کرنے کے لئے مقرر کیا۔ اور مزدوری سب کو ایک ہی دی۔ اس پر ظہر اور عصر تک کام کرنے والوں نے ٹھیکیدار کو کہا کہ عصر سے مغرب تک کام کرنے والوں نے تو تھوڑا کام کیا ہے اور معاوضہ ہمارے جتنا لے گئے ہیں۔ یہ قرین انصاف نہیں۔ اس پر ٹھیکیدار نے ان کو کہا کہ یہ میری مرضی ہے۔ اس پر تم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کا ہے۔ (بخاری کتاب مواقیب الصلوٰۃ باب من ادرک رکعة من العصر قبل الغروب) یہود اور نصاریٰ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی انعامات مسلمانوں کو بھی دے دیئے ہیں جو انہیں ملے تھے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان جو آخر میں آئے تھے۔ اُن کو وہی انعامات کیوں مل گئے جو ہمیں ملے تھے۔ غرض اس غصّہ اور حسد کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو بھی جنت مل گئی ہے۔ حالانکہ جنت صرف ہمیں ملنی چاہیے تھی انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا اور بزبان حال اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ ہمارا جو سودا پہلے ہوا تھا اُسے فسخ کر دیجئے۔ یہود کی یہ بات کہ ہمارا سودا فسخ کر دیجئے کیونکہ وہی سودا مسلمانوں کے ساتھ کر کے اُن کو بھی جنت کا حقدار قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں میں تمام اتوا شامل ہو کر نجات پاستی اور جنت میں جاسکتی ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر دُہرا غضب نازل ہوا۔ ایک تو اُن کے کفر اختیار کرنے اور ترک ایمان کی وجہ سے اور دوسرے اُن کے اس حسد کی

وجہ سے کہ مسلمانوں کو بھی جنت کا حقدار بنا دیا گیا ہے۔ گویا ایک تو بغاوت اور دوسرے حسد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ اپنا ذاتی فائدہ مد نظر نہ رکھا اور سودا فسخ کر دیا۔

دوم۔ اِشْتَرَىٰ کے معنی اگر بیچنے کے لئے جائیں تو کسی چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچنے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ انسان اُس میں منہمک ہو جائے۔ اس صورت میں بِئْسَمَا اِشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ کے یہ معنی ہونگے۔ کہ وہ چیز جس کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ بہت بُری ہے۔ یعنی کفر۔ کفر کے لئے اپنے آپ کو فروخت کر دینا درحقیقت ایک محاورہ ہے بدی میں مبتلا ہوجانے کا۔ اردو زبان میں بھی کہتے ہیں۔ کہ تم فلاں بات میں ہی لگ گئے ہو۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کفر میں ہی منہمک ہو چکے ہیں اور ان کی کفر میں ترقی کی بڑی وجہ یہ حسد ہے کہ نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی۔ مسلمانوں کو کیوں مل گئی ہے۔ غرض یہاں اِشْتَرَىٰ کے دونوں معنی چسپاں ہو سکتے ہیں خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی۔

فَبَاۗءُوۡ وَبِغَضَبٍ عَلٰی غَضَبٍ مِّمَّنْ بَنٰی اَیۡہُوۡدَ خَدٰتَعَالٰی کے متواتر غضب کو لے کر اس طرح بن گئے کہ گویا خدا تعالیٰ کا غضب انہیں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! سورۃ فاتحہ میں جو مغضوب اور ضالین کا ذکر آتا ہے اس میں مغضوب سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ یہود۔ (ترمذی ابواب التفسیر وفتح البیان زیر آیت ۷ سورۃ الفاتحہ) اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ متواتر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا مقابلہ کرتے رہے اور غضب الہی کے مورد بن گئے۔

بِغَضَبٍ عَلٰی غَضَبٍ کے الفاظ اس لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہود حضرت مسیح کا انکار کر کے خدا تعالیٰ کا غضب کا مورد بنے تھے اور دوسری دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ اُس کے غضب کا مورد بنے گویا دوہرے طور پر وہ غضب الہی کا مورد بن گئے۔

وَ لِّلْکٰفِرِیۡنَ عَذٰبٌ مُّہِیۡنٌ میں بتایا کہ حسد کرنے والے آخر میں ضرور رُسوا ہوتے ہیں۔ اگر دیانتداری سے کسی مذہب کی مخالفت ہو تو وہ ایک علیحدہ امر ہے لیکن یہود کو اپنی کتاب کی پیشگوئیاں دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم ہو چکا تھا۔ مگر اس کے باوجود وہ آپ کا انکار کرتے رہے۔ اور جو شخص کسی صداقت کا عہداً انکار کرتا ہے وہ یقیناً رُسوا ہوتا ہے بلکہ اگر بعد میں وہ مان بھی لے تب بھی لوگ اسے رُسوا کرتے ہیں کہ اس نے انکار کر کے مان لیا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا

اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ (تعالیٰ) نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر

أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا

ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا ہے اور (یہ کہتے ہوئے) اس کے بعد آنے والے (کلام) کا وہ انکار کر دیتے ہیں

لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ

حالانکہ وہ اس (کلام) کو جو ان کے پاس ہے سچا کر کے کامل طور پر سچا (ثابت ہو چکا) ہے تو (ان سے) کہہ کہ اگر تم

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۲﴾

(واقعی) مومن ہو تو پھر تم کیوں اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کے قتل کے درپے رہے ہو۔

تفسیر۔ یہود کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس بات پر غصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سوا دوسروں میں اپنا نبی کیوں بھیج دیا۔ چنانچہ جب ان سے کہا جاتا کہ قرآن مجید میں جو کچھ اترا ہے اُس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے کہ ہم تو اُسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ حالانکہ وہ اس بات میں بھی جھوٹے تھے۔ اگر وہ موسیٰؑ کی کتاب پر سچے دل سے ایمان رکھتے تھے اور نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا کہنے میں راستی پر تھے تو اُن پیشگوئیوں کا وہ کیوں انکار کرتے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اُن کی کتاب میں پائی جاتی تھیں۔ اُن کا اپنی کتاب کی پیشگوئیوں کو جھٹلانا دینا بتاتا ہے کہ وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے تھے کہ ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان رکھیں گے۔ ورنہ اگر اُن میں دیانتداری پائی جاتی تو وہ سمجھتے کہ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو خود اُن کے مذہب پر حملہ ہوگا کیونکہ اُن کی اپنی کتاب میں ایک آنے والے رسول اور ایک جدید کتاب کا ذکر ہے۔ اور وہ نشانیاں جو اس رسول اور اس کتاب کی بتائی گئی ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر حرف منطبق ہوتی ہیں۔ پس اُن کا انکار درحقیقت اپنی کُتب کی صداقت سے بھی انکار کرنا ہے۔ کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ علامات باطل تھیں اور جھوٹے آدمی میں بھی پائی جاسکتی تھیں۔ یا یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے سوا شیطان بھی غیب کی باتیں بتا سکتا ہے۔ اور اُس نے پہلے انبیاء کو آنے والے رسول کی نسبت بعض ایسی علامات بتادیں

جو ایک جھوٹے نبی میں پائی جاتی تھیں۔

تُوْمِنْ بِمَاۤ اُنزِلَ عَلَیْکُمْ سے یہ امر بھی مستنبط ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص پر کوئی ایسا انعام نازل ہو جس سے ساری قوم کو فائدہ پہنچے تو اُس وقت ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ کہ گویا وہ انعام ساری قوم کو ملا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو تو رات یہود پر نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اُتری۔ کیونکہ اس کتاب سے تمام یہود نے بحیثیت قوم فائدہ اٹھایا تھا۔ افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو مان کر مرزا صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ گویا وہ بھی تُوْمِنْ بِمَاۤ اُنزِلَ عَلَیْکُمْ وَ یُکْفُرُوْنَ بِمَاۤ وَّرَاۤءَکَ کے مصداق بنتے ہیں۔

وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ۔ فرماتا ہے۔ کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ تعلیم حق ہے یعنی ایک اٹل صداقت ہے جو دنیا میں نمایاں ہو کر رہے گی۔ عربی زبان میں سچائی کے اظہار کے لئے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ سب دوام پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی ایسی بات پر جو نہ ٹلنے والی ہو اور پوری ہو کر رہنے والی ہو۔ پس هُوَ الْحَقُّ میں بتایا کہ یہ دائمی صداقت ہے جو کبھی نہیں ٹلے گی۔ اسکا انکار تم کو کیا فائدہ دے گا۔ کیوں نہ تم اسے پہلے ہی مان لو۔

اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں بائبیل میں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب قرآن کریم کے ذریعہ پوری ہوئی ہیں اور اسی کے ذریعہ سچائی ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض پیشگوئیاں عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ان پیشگوئیوں کی علامات بتا دیتی ہیں کہ ان کا حضرت مسیح پر چسپاں کرنا غلطی ہے۔ اس بارہ میں سب سے پہلی پیشگوئی استثناء باب ۱۸ آیت ۱۷ تا ۱۹ کی ہے۔ یہ پیشگوئی اتنی واضح ہے کہ اسے کسی صورت میں بھی کسی اور پر چسپاں نہیں کیا جاسکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ بنی اسرائیل کو طور کے دامن میں لے گئے تو بائبیل میں لکھا ہے کہ آسمان پر متواتر بجلی چمکنی شروع ہوئی اور اُس سے زور زور کی آوازیں پیدا ہوئیں۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰؑ سے کہنے لگے کہ تو خود جا اور خدا سے کلام کر ہم اُس کا کلام سننا نہیں چاہتے اور نہ ہماری اولادیں اُسے سنیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہہ دے کہ میں نے ان کی بات سن لی ہے۔ اب میں ان سے وہی معاملہ کرونگا جو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی آئندہ میں ان میں سے شرعی نبی برپا نہیں کرونگا۔ بلکہ ان کے بھائیوں سے برپا کرونگا۔ یہ پیشگوئی حضرت مسیحؑ پر کسی صورت میں بھی چسپاں نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے اُن پر چسپاں کیا جائے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

کی مانند ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرعی نبی نہ تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شرعی نبی تھے۔ اس کی دلیل حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ قول ہے جو انجیل میں آتا ہے کہ

”یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔“

(مقی باب ۵ آیت ۱۸، ۱۷)

لیکن اگر بفرض محال حضرت مسیحؑ کو شرعی نبی بھی مان لیا جائے تب بھی وہ موسیٰؑ کی مانند نہیں ہو سکتے کیونکہ عیسائی نقطہ نگاہ سے انہوں نے شریعت کو لعنت قرار دے دیا تھا اور خود بھی لعنتی ہو گئے تھے۔

پھر اس پیشگوئی میں لکھا ہے کہ وہ نبی تیرے بھائیوں میں سے ہوگا۔ مگر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داؤد کی نسل سے بتاتی ہے۔ اگر اس پیشگوئی کو حضرت مسیحؑ پر چسپاں کیا جائے تو لازماً اُن کا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہونا غلط قرار پاتا ہے۔ حالانکہ مسیحی لوگ نہیں کہہ سکتے کہ انجیل نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے۔ اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے نہ کہ بنی اسطعلیل میں سے۔ پس تیرے بھائیوں سے لازماً بنی اسرائیل مراد نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اُن کے بھائی بنی اسطعلیل ہی مراد ہیں۔

پھر اگر اس سے حضرت مسیح علیہ السلام مراد ہوتے تو وہ اپنے آپ کو اس کا مصداق بھی قرار دیتے اور دعویٰ کرتے کہ میں مثیل موسیٰؑ ہوں۔ مگر انجیل کو دیکھنے سے یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ حضرت عیسیٰؑ نے کبھی مثیل موسیٰؑ ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ لیکن قرآن کریم میں یہ دعویٰ موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًاۙ شَاهِدًا عَلَيْنَكُمْۙ كَمَا اَرْسَلْنَاۙ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًاۙ (المزمل: ۱۶) یعنی اے لوگو! ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے بالکل اُسی طرح جس طرح کہ فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا۔ یہ مثیل موسیٰ ہونے کا دعویٰ ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف میں بھی مثیل کا لفظ پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ قُلْ اَدْعَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْۙ بِهٖ وَ شَهِدَاۙ شَٰهَدًاۙ مِنْۢ بَنِيۙ اِسْرٰٓءِیْلَ عَلٰیۙ مِثْلِهٖۙ فَاَمِنَ وَ اسْتَكْبَرُوْۤاۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ۔ (الاحقاف: ۱۱) یعنی کہہ دے کہ اے لوگو (جو قرآن کریم پر غور کرنا بھی پسند نہیں کرتے) بتاؤ تو سہی اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو اور تم نے اس کا انکار بلا سوجھے سمجھے کر دیا (تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا) اور پھر بنی اسرائیل میں سے ایک شخص (موسیٰؑ) اپنے ایک مثیل کی گواہی بھی دے چکا ہے۔ پس وہ تو اُس پر ایمان لے

آیا۔ مگر تم لوگوں نے تکبر کیا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی کامیابی کا منہ نہیں دکھاتا۔ یہ اسی پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے۔ جو حضرت موسیٰؑ نے کی تھی۔ اس جگہ اس پیشگوئی کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰؑ ہیں۔ اور موسیٰؑ تو پیشگوئی کر کے اس آنے والے نبی پر ایمان لے آیا۔ مگر تم نے انکار کر دیا اور تکبر سے کام لیا۔ غرض اس آیت میں علیٰ ۱۱۱ کی پیشگوئی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کیا گیا ہے۔ مگر حضرت عیسیٰؑ نے کہیں اسے اپنے اوپر چسپاں نہیں کیا۔

اس سے بڑھ کر ایک اور بات یہ ہے کہ حضرت مسیحؑ نے خود مثیل موسیٰؑ ہونے سے انکار کیا ہے اور ان کا یہ

انکار کتاب اعمال باب ۳ آیت ۱۹ تا ۲۶ میں درج ہے۔

لکھا ہے:-

”پس تو یہ کرو اور متوجہ ہو کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی بخش
ایام آویں۔ اور یسوع مسیح کو پھر بھیجے۔ جس کی منادی تم لوگوں میں آگے سے ہوئی۔ ضرور ہے کہ آسمان
اُسے لئے رہے اُس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع
سے کیا اپنی حالت پر آویں۔ کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے
بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی میری مانند اٹھاوے گا۔ جو کچھ وہ تمہیں کہے اُس کی سب سنو۔
اور ایسا ہوگا کہ ہر نفس جو اس نبی کی نہ سُنے وہ قوم سے نیست کیا جائے گا۔ بلکہ سب نبیوں نے سمو ایل
سے لے کے پچھلوں تک جتنوں نے کلام کیا ان دنوں کی خبر دی ہے۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے
ہو جو خدا نے باپ دادوں سے باندھا ہے جب ابراہام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سارے
گھرانے برکت پاویں گے۔ تمہارے پاس خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اٹھا کے پہلے بھیجا کہ تم میں
سے ہر ایک کو اُس کی بدیوں سے پھیر کے برکت دے۔“

اس حوالہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس وقت تک نہیں آسکتے جب تک کہ وہ تمام
پیشگوئیاں پوری نہ ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھیں۔ اور آیت ۲۰ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مثیل موسیٰؑ مسیح کی
پہلی بعثت کے بعد اور دوسری بعثت سے پہلے آئے گا گویا اس جگہ اُن کی دو بعثتوں کا ذکر ہے۔ جن میں سے پہلی
بعثت مثیل موسیٰؑ سے پہلے ہے اور دوسری بعثت مثیل موسیٰؑ کے بعد ہے۔ پس انجیل مثیل موسیٰؑ کی پیشگوئی حضرت مسیح
علیہ السلام کی دو بعثتوں کے درمیان بتاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا پہلا نزول مثیل موسیٰؑ سے پہلے ہوا۔ اور

دوسرا نزول اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام پیشگوئیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مثیل کے متعلق بیان فرمائی تھیں۔ پوری نہ ہو جائیں۔

اسی طرح استنباب ۳۳ آیت ۲ میں بھی ایک پیشگوئی بیان کی گئی ہے جو یہ ہے۔

”اور اُس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے اُن پر طلع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ اور اُس کے داہنے ہاتھ ایک آتش شریعت اُن کے لیے تھی۔“

اس میں آنے والے موعود کے متعلق کئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اوّل یہ کہ وہ فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوگا اور فاران کا پہاڑ مکہ کے علاقہ میں ہی ہے۔

دوسرے یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئیگا۔ اس جگہ دس ہزار قدوسیوں سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار صحابہؓ کا موجود ہونا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کسی اور نبی کے ساتھ ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوئی۔ اور پھر صحابہؓ کے قدوسی ہونے کا ثبوت بھی قرآن کریم سے ملتا ہے۔ فرماتا ہے۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (التوبة: ۱۰۰) کہ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ صرف بارہ حواری تھے۔ مگر اُن میں سے بھی ایک نے تو تیس روپے لے کر حضرت مسیحؑ کو گرفتار کر دیا۔ اور دوسرے نے آپ پر لعنت ڈالی اور باقی سب گرفتاری کے وقت آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ایسے جاں نثار صحابہؓ بخشے جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا اور اپنی جانیں قربان کر کے آپ کی حفاظت کی۔ تیسری علامت یہ بتائی گئی تھی کہ اُس کے داہنے ہاتھ ایک آتش شریعت ہو گی۔ اگر مثیل موسیٰ سے مراد اس جگہ حضرت مسیح علیہ السلام سمجھے جائیں تو یہ پیشگوئی غلط ٹھہرتی ہے کیونکہ مسیحؑ کے پاس کوئی نئی شریعت نہیں تھی۔ اس جگہ قرآنی شریعت کو آتش شریعت اس لئے کہا گیا ہے کہ آتش کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ اوّل جلا نا دوسرے نُور دینا۔ گرم پانی یا گرم لوہا دوسری چیز کو جلا تو سکتا ہے مگر وہ کسی کو نور نہیں دے سکتا۔ مگر آگ جلانے کے علاوہ نور بھی دیتی ہے۔ پس آتش شریعت کہہ کر بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی شریعت ہوگی جو دو کام کرے گی۔ اُس میں ایک طرف تو نار ہوگی اور دوسری طرف نور ہوگا۔ وہ ایک طرف تو تمام گندی اور بُری باتوں کو جلا کر رکھ کر دیگی اور دوسری طرف لوگ اُس سے نور حاصل کریں گے۔

غرض فاران سے دس ہزار قدوسیوں سمیت ایک الہی جلوہ کے ظہور کا وعدہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ذریعہ پورا ہوا۔ فتح مکہ کے وقت آپ کے ساتھ دس ہزار قدوسی بھی تھے۔ اور پھر موسیٰؑ کے بعد شریعت لانے کا دعویٰ بھی آپ کے سوا اور کسی نبی نے نہیں کیا۔

ان دو پیشگوئیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتی ہیں۔ دیکھو یسعیاہ باب ۸ آیت ۱۳ تا ۱۷ و باب ۹ آیت ۱۳، ۱۷ و باب ۲۸ آیت ۱۳ تا ۱۹ و باب ۳۵ آیت ۳ تا ۸ و باب ۴۰ آیت ۱۲ تا ۱۴ و باب ۴۲ و ۴۹ آیت ۵ تا ۸ و باب ۶۲ آیت ۲ تا ۴۔ نیز دیکھو دانیال باب ۷ و غزل الغزلات باب ۵ آیت ۱۰ تا ۱۶ و متی باب ۲۱ آیت ۴۲ تا ۴۴۔

غرض فرمایا کہ ایک طرف تو یہ تعلیم حق پر مشتمل ہے اور دوسری طرف اس کے ماننے سے گزشتہ الہامی کتابوں کی پیشگوئیوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس کا انکار کریں گے تو ان کو اپنی کتابوں کی بھی بہت سی باتیں جھوٹی مانی پڑیں گی۔

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کی صداقت منوانے کے لئے تین دلائل دیئے ہیں۔ اول یہ کہ یہ تعلیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ دوم دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ ضرور دنیا میں قائم ہو کر رہے گی۔ سوم یہ تعلیم تمہاری اپنی کتابوں کی پیشگوئیوں کو جو آئیوا لے موعود اور قرآن کریم کے متعلق ہیں پورا کرتی ہے۔ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو تمہیں اپنی کتابوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اور تم ان پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ چنانچہ دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل یہود آپ کے منتظر تھے۔ اور اپنے بچوں کے نام تک محمد رکھا کرتے تھے۔ اور اس لئے رکھتے تھے کہ شاید وہ نبی ہم میں ہی پیدا ہو جائے۔ (اسد الغابۃ محمد بن احیصہؒ) لیکن جب وہ آگیا تو اُس کا انکار کر دیا۔ اور کہنے لگے کہ وہ بنی اسمعیل سے کس طرح آسکتا تھا۔ اُس نے تو ہماری طاقت کو بڑھانا تھا۔ عیسائی کہنے لگے کہ اس سے مراد کلیسیا کی طاقت تھی۔ اسی طرح اور مختلف قسم کی تاویلیں کرنے لگ گئے۔ حالانکہ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو یقیناً ان کی طاقت بڑھ جاتی اور وہ تباہی سے بچ جاتے۔

قَلِمًا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اگر ہم میں سے نبی آتا تو ہم اسے ضرور مان لیتے تو تم یہ بتاؤ کہ تم ان انبیاء کو جو تمہاری قوم میں سے آئے تھے قتل کرنے کے کیوں درپے رہے؟ اگر تم میں ایسی ہی شرافت پائی جاتی ہے۔ اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو بتاؤ کہ تم ان پر کیوں ایمان نہ لائے اور ان کا مقابلہ کیوں کرتے رہے۔ پس یہ غلط ہے کہ جو کلام اسرائیلی نبی پر نازل ہو اُسے تم مان لیتے ہو۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی خرابی کی وجہ سے انسان حق کا انکار کیا کرتا ہے۔ اور تم بھی اسی وجہ سے اس کلام کا انکار کر

رہے ہو۔ یہ محض تمہارے نفس کا ایک دھوکا ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی نبی ہوتا تو تم اُسے ضرور مان لیتے۔ تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تم ہمیشہ انبیاء کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہو۔ چنانچہ یہود کی اس دیرینہ عادت کا حضرت مسیحؑ نے بھی ان الفاظ میں نوحدہ کیا ہے کہ

”اے یروشلم اے یروشلم جو نبیوں کو مار ڈالتی اور انہیں جو تجھ پاس بھیجے گئے پتھراؤ کرتی ہے۔“

(متی باب ۲۳ آیت ۷۷)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

اور موسیٰ تمہارے پاس یقیناً کھلے کھلے نشانات لے کر آیا تھا۔ پھر (بھی) تم نے اس کے (پہاڑ پر جانے کے) بعد ظلم

مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۹۳﴾

کرتے ہوئے (خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر) کچھڑے کو (معبود) بنا لیا تھا۔

تفسیر۔ فَلَمْ تَقْتُلُوْا اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس قول کا اجمالی جواب دیا تھا کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم اُسے مان لیتے۔ اور فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہوتے تو اس سے قبل بھی تم میں انبیاء آتے رہے ہیں تم ان کا مقابلہ کیوں کرتے رہے پس تمہارا یہ کہنا کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم اسے مان لیتے بالکل غلط ہے۔ اب اسی بات کا اللہ تعالیٰ اس جگہ مزید تشریح کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ تم حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور تم نے اُس کے ساتھ بیانات اور کھلے کھلے دلائل بھی دیکھے۔ مگر جب وہ طور پر خدا سے برکات لینے گئے تو تم نے کچھڑے کو معبود بنا کر اُس کی پرستش شروع کر دی۔ اب تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اگر یہ نبی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم اسے مان لیتے۔ تم نے اس نبی کے ساتھ جس پر تمہیں بڑا ناز ہے جب ایسا سلوک کیا تو اب تم سے یہ کیسے اُمید کی جاسکتی ہے کہ اگر یہ نبی اسرائیل میں سے ہوتا تو تم اسے ضرور مان لیتے۔

یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بَيِّنَاتِ کا لفظ رکھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے۔ عیسائی لوگ بیّنات سے اُن کی ابنیت اور الوہیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اُن کا یہ استدلال درست ہوتا تو پھر انہیں حضرت موسیٰؑ کو بھی خدا کہنا چاہیے۔ مگر اُن کے متعلق وہ ایسا نہیں کہتے۔ پس ان کا

صرف بیعت سے حضرت مسیحؑ کی اہمیت یا الوہیت کا استدلال کرنا غلط ہے۔

وَ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ حقوق کا تلف کرنا دو قسم کا ہوتا ہے۔ اول خدا تعالیٰ کے حقوق کو تلف کرنا۔ دوم بندوں کے حقوق کو تلف کرنا۔ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تلف کئے جانے کی طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ تم مشرک ہو جو میرے حقوق کو تلف کرتے ہو۔ ظالم کا لفظ مشرک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ ظلم کے لغوی معنی وَضَعَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ کے ہیں یعنی کسی چیز کو اُس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ رکھنا۔ چونکہ مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی صفات دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے اس لئے اُس پر ظالم کا لفظ اطلاق پاتا ہے۔

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط خُذُوا

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کیا تھا (یہ کہتے ہوئے کہ) جو

مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اسْبَعُوا ط قَالُوا سَبِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ

کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور اس (یعنی اللہ) کی اطاعت کرو۔ اس پر (تم میں سے جو لوگ اس

أَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط قُلْ بِئْسَمَا

وقت ہمارے مخاطب تھے) انہوں نے کہا تھا کہ (بہت اچھا) ہم نے سن لیا اور (ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ) ہم نے

يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِبَانِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۳﴾

(اس حکم کے) نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں کچھڑا (یعنی اس کی محبت کا جذبہ) گھر کر

گیا۔ تو (ان سے) کہہ کہ اگر تم (جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو) مومن ہو تو وہ کام جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے بہت برا ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ اسْمَعُوا سَمِعَ لَهُ کے معنی ہیں اطاعت اُس کی اطاعت کی۔ پس اسْمَعُوا کے معنی ہیں

اطاعت کرو۔ اصل میں یہ اسْمَعُوا النَّاسَ ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے کہا ہے اُس طرح کرو۔ مگر صلہ کو خدوف کر دیا گیا

ہے۔ اگر اس کے معنی سُننے کے کئے جائیں تو پھر اس لفظ کا استعمال لغو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اُن سے پہلے ایک عہد لے

لیا گیا تھا اور عہد لے لینے کے بعد اُس کے سُننے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ پس اس کے معنی اطاعت کرنے کے

ہی ہیں۔

اَشْرَبُوا اَشْرَب سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے اَشْرَبَ فُلَانٌ حَبَّ فُلَانٍ (اقرب) کہ فلاں شخص کی محبت دوسرے کے دل میں رچ گئی ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ مجہول استعمال ہوتا ہے۔ اور اس سے پلانا نہیں بلکہ ملانا مراد ہوتا ہے۔ پس مطلب یہ ہے کہ پھڑے کی محبت اُن کے ذرہ ذرہ میں رچ گئی۔ اصل میں اس سے مائع کا جامد چیزوں میں ملانا مراد ہوتا تھا۔ چنانچہ ”بحر محیط“ میں لکھا ہے۔ وَالْاَشْرَابُ مَخْلُوطَةُ الْمَائِجِ الْجَامِدِ وَتَوَسَّعَ فِيهِ حَتَّى صَارَ فِي اللُّؤْنِ زَيْنٍ قَالُوا وَاشْرَبْتُ الْبِيَاضَ حُمْرَةً اَمْحَى خَلَطْتُمَهَا بِالْحُمْرَةِ۔ یعنی اَشْرَابُ کسی مائع چیز کو جامد کے ساتھ ملانے کو کہتے ہیں۔ پھر اس کا استعمال اس قدر وسیع ہو گیا کہ یہ رنگوں کے آپس میں ملانے پر بھی بولا جانے لگا۔ چنانچہ اگر یہ کہنا ہو کہ میں نے سفیدی کو سُرخ میں ملا دیا۔ تو اُس وقت اَشْرَابُ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی وسعت کے ماتحت یہ لفظ محبت کے دل میں گھر کر جانے پر بھی استعمال ہوتا ہے۔

چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے۔

إِذَا مَا الْقَلْبُ اَشْرَبَ حُبَّ شَيْءٍ فَلَا تَأْمَلْ لَهُ عَنهُ اَنْصِرَافًا

یعنی جب کسی کے دل میں کسی کی محبت سراپت کر جاتی ہے تو اُس کے بعد یہ اُمید رکھنا کہ وہ محبت اُس سے جاتی

رہے گی ناممکن ہے۔

تفسیر۔ وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ۔ اس میں یہودی عہد شکنی کی ایک اور مثال بیان کی ہے۔ فرماتا ہے تم اُس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰؑ کے زمانہ میں تم سے ایک عہد لیا۔ اور عہد بھی ایسی حالت میں لیا جبکہ تم طور کے دامن میں کھڑے تھے جو کہ ایک مقدس مقام تھا مگر پھر بھی تم نے بد عہدی سے کام لیا اور طور کی تقدیس اور اس کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا۔ درحقیقت کسی مقدس مقام میں کھڑے ہو کر جو عہد کیا جاتا ہے اُسے باقی عہدوں پر ایک نمایاں فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی بعض قسموں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ نماز کے بعد لی جائیں۔ کیونکہ ایسے موقع پر لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے لبریز ہوتے ہیں۔ یہ عہد کیا تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور ہماری اطاعت کرو۔ مگر انہوں نے بجائے اطاعت کرنے کے کہا کہ ہم نے بات تو سن لی ہے مگر ہم یہ بھی کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے ہی یہ الفاظ کہے ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اُن کی عملی نافرمانی کا ان الفاظ میں اظہار کیا گیا ہو۔ یعنی اُن کے اندر روحانی لحاظ سے ایسا بگاڑ تھا۔ کہ وہ ادھر بات سنتے اور ادھر

اس کی نافرمانی شروع کر دیتے۔ عربی زبان میں قَالَ کا لفظ کبھی زبانی قول کی بجائے عملی حالت کے اظہار کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ اِمْتَلَاْ اَلْحَوْضُ وَقَالَ قَطِيْبِيْ۔ یعنی حوض بھر گیا اور اُس نے بزبانِ حال کہا کہ اب مجھ میں اور گنجائش نہیں۔ اسی طرح یہاں بھی سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا سے یہ مراد ہو سکتی ہے۔ کہ انہوں نے عملاً اس کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے سَمِعْنَا بھی کہا ہو۔ اور عَصَيْنَا بھی کہا ہو۔ کیونکہ انسان کسی بات کا دو طرح جواب دیا کرتا ہے۔ ایک زبان سے اور دوسرے دل سے۔ پس اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کی زبانیں سَمِعْنَا کہہ رہی تھیں اور ان کے دل عَصَيْنَا کہہ رہے تھے۔ زبانیں تو کہتی تھیں کہ بس حضور یہی صحیح ہے گو یا وہ فرمانبرداری کا اقرار کر رہی تھیں مگر اُن کے دل نافرمانی کر رہے تھے۔ اور انکار پر مصر تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعلیم قابل عمل نہیں ہو سکتی۔

وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ۔ اس واقعہ کا ذکر خروج باب ۳۲ آیت ۲۰ میں اس طرح آتا ہے کہ
 ”اس نے اس بچھڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا۔ اور اُس کو آگ سے جلایا اور اُس کو پانی پر
 چھڑک کر بنی اسرائیل کو پلایا۔“

مگر قرآن کریم اِسے رد کرتا ہے۔ کیونکہ سونا نہ جل سکتا ہے اور نہ پانی میں حل ہو سکتا ہے۔ اس جگہ عِجْل سے مراد حُبُّ الْعِجْلِ ہے۔ یعنی اُن کے دلوں میں اُس کی محبت گھر کر گئی تھی۔

قُلْ يٰٓبَنِيْٓسَآءِ اٰمُوْكُمْ بِهٖ اِيْمَانُكُمْ۔ فرماتا ہے اگر تم واقعہ میں ایمان لانے والے ہوتے تو کیا تمہارے ایمان تمہیں اس بات کی اجازت دے سکتے تھے کہ جب موسیٰؑ چند دنوں کے لئے باہر جاتے تو تم بت پرستی شروع کر دیتے۔ پھر تو اس ایمان سے کفر ہی بہتر ہے۔ یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ
 ”بعد از خدا بعشق محمدؐ مخمزم گر کفر ایں بود بخت ساخت کافر م“

(ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۱۸۵)

یعنی مجھ میں دو چیزوں کا عشق پایا جاتا ہے ایک اللہ کا اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر تم اس وجہ سے مجھے کافر ٹھہراتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر اس امر کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں بڑا سخت کافر ہوں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر تو تمہارا وہ ایمان تمہیں بہت بُرا حکم دیتا ہے کیونکہ تم ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا انکار کرتے آئے ہو اور نبیوں کی مخالفت خواہ زبان سے ہو خواہ اعمال سے کبھی نیک نتائج پیدا نہیں کرتی۔ پھر اس کے ہوتے ہوئے تم اپنے آپ کو ایماندار اور

مومن کیسے کہتے ہو۔ اگر اس کا نام تم ایمان کی بجائے انکار رکھو تو بہتر ہے۔ کیونکہ ایمان اور نبیوں کی مخالفت دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ

تو (ان سے) کہہ کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر (باقی) لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے ہے

دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۵﴾

تو اگر تم (اس دعویٰ میں) سچے ہو تو موت کی خواہش کرو۔

تفسیر۔ جو قوم اپنے اندر نبوت کو محدود کرتی ہے وہ لازماً نجات کو بھی محدود قرار دینے پر مجبور ہوتی ہے۔ چونکہ یہود کے اندر یہ خیال راسخ ہو چکا تھا کہ انبیاء صرف بنی اسرائیل میں ہی آسکتے ہیں۔ اس لئے لازماً ان کے اندر یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ اگلے جہان کے انعامات کے بھی وہی حقدار ہیں۔ اور نجات صرف انہی کا حق ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی قوم نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے نتائج کے لحاظ سے نہایت خطرناک ہے۔ مگر افسوس ہے کہ قرآن مجید سے قبل اس حقیقت کو اور کسی نے نہیں سمجھا۔ حالانکہ یہ ایسی غیر معقول بات ہے جسے کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان ایک منٹ کے لئے بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ خیال صرف یہود ہی کا تھا بلکہ اس وقت بعض اور اقوام میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ہندو قوم کو دیکھ لو۔ وہ بھی نجات صرف اپنے اندر محدود قرار دیتی ہے۔ کسی اور کو نجات یافتہ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتی۔ عیسائیوں نے بے شک آج کل اپنے مذہب کی تبلیغ عام کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں۔ کہ جو بھی مسیح کے کفارہ پر ایمان لے آئے وہ نجات پا سکتا ہے۔ مگر بعثت مسیح سے پہلے وہ بھی نجات کو محدود قرار دیتے رہے ہیں اور اب بھی وہ اگر ساری دنیا کو تبلیغ کر رہے ہیں تو حضرت مسیحؑ کی تعلیم کے مطابق نہیں کر رہے۔ بلکہ اس کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر رہے ہیں ورنہ مسیح نے تو خود کہا تھا کہ

”میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔“

(مقی باب ۱۵ آیت ۲۴)

اسی طرح انہوں نے ایک طالب ہدایت عورت کو جو کہ اسرائیلی نہ تھی بلکہ کنعان کی رہنے والی تھی۔ صاف طور

پر کہا کہ

”مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے پھینک دیوں۔“

(ممتی باب ۱۵ آیت ۲۶)

پھر حواریوں کا بھی یہی طرز عمل رہا۔ کہ وہ غیر اقوام میں انجیل کی منادی کرنا ناجائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ اعمال میں

لکھا ہے کہ

”وے جو اس جو رو جفا سے جو کچھ استغفص کے سبب برپا ہوئی تتر بتز ہو گئے تھے پھرتے

پھرتے فیئیکے و کپرس اور انطا کیہ میں پنچے مگر یہودیوں کے سوا کسی کو کلام نہ سناتے تھے۔“

(اعمال باب ۱۱ آیت ۱۹)

اسی طرح جب حواریوں نے سنا کہ پطرس نے ایک جگہ غیر قوموں میں انجیل کی منادی کی ہے تو وہ سخت

ناراض ہوئے۔

”اور جب پطرس یروشلیم میں آیا تو مختون اُس سے یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے

پاس گیا اور اُن کے ساتھ کھانا کھایا۔“

(اعمال باب ۱۱ آیت ۳، ۲)

غرض مسیحیت کی عام تبلیغ اناجیل کے نقطہ نگاہ سے بالکل ناجائز ہے۔ اور جب مسیحیت کا دائرہ بھی ایک خاص

طبقہ تک محدود ہے تو لازماً اُن کے نزدیک بھی نجات اُنہی لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو حضرت مسیح پر ایمان لاتے

ہیں۔ لیکن اسلام بتاتا ہے کہ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے کہ نجات کسی خاص قوم میں محدود ہے۔ وہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُعْبُدُونِ (الذريت: ۵۷) فرما کر نجات دُنیا کے ہر فرد کا حق قرار دیتا ہے۔ اور بتاتا ہے کہ انسان کی

پیدائش ہی اسی لئے ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبد بنے اور اُس کی صفات کا انعکاس اپنے آئینہ قلب میں پیدا کرے۔

زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے دودعوے بیان کئے ہیں۔ ایک یہ کہ جنت اُن کا حق ہے اور دوسرا یہ

کہ جنت میں اُن کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ یہود کے اس عقیدہ کی تردید کرتا ہے اور فرماتا ہے

کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور دار آخرت صرف تمہارے لئے مخصوص ہے اور تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ

نے نبوت صرف تمہارے گھرانے کے لئے ہی مخصوص کر دی ہے اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں تو پھر آؤ اس

جھگڑے کے تصفیہ کیلئے موت کی تمنا کرو۔

فَتَنَّبُوْا الْمَوْتِ کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ تم مباہلہ کر لو۔ یعنی مسلمانوں کا دُعا سے مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ اور کہو کہ الہی ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اُسے تباہ و برباد کر دے۔ اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک تم سچے ہوئے تو خدا تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اور مسلمانوں کو تباہ کر دے گا اور اگر مسلمان سچے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا اور مسلمانوں کو بچا لے گا اور اس طرح دنیا کو پتہ لگ جائے گا۔ کہ خدا تعالیٰ کس سے ناراض ہے اور کس سے خوش۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مَوْتُكُمْ نہیں فرمایا۔ کیونکہ مباہلہ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ دونوں فریق یہ دعا کریں کہ جھوٹے پر عذاب نازل ہو۔ اس میں کسی فریق کی تعیین نہیں کی جاتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ میں بھی یہ الفاظ رکھے ہیں کہ فَجَعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (آل عمران: ۶۲) یعنی ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ پس فَتَنَّبُوْا الْمَوْتِ کے یہ معنی ہیں۔ کہ اگر یہود حق پر ہیں۔ اور اگلے جہان میں خدا تعالیٰ کے انعامات کے وہی وارث ہیں تو اس بات کو ثابت کرنے کیلئے وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں یہ دعا کریں کہ الہی ہم میں سے جو فریق جھوٹا ہے اور جس سے تو ناراض ہے اُسے ہلاک اور برباد کر دے۔ اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک واقع میں یہود پسندیدہ ہیں۔ اور مسلمان قابل سرزنش ہیں۔ تو مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اور یہود کو سرفرازی حاصل ہو جائے گی۔ اور اس طرح دنیا کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آخرت کے متعلق کس قوم کا دعویٰ سچا ہے۔ کیونکہ آخرت کے متعلق مختلف مذاہب کے دعویٰ کی صداقت پر کھنے کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ اس دنیا میں ہی آسمانی تائیدات سچے مذہب کے اِدْعَا کو ثابت کر دیں۔ اور دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔

فَتَنَّبُوْا الْمَوْتِ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ تم ہی نجات یافتہ ہو تو اس دعویٰ کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہارے متعلق یہ سمجھا جائے کہ تمہارا ہر فرد پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پر قائم ہے۔ اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار اور اُس کی برکات کا تجلّی گاہ ہے۔ ایسی صورت میں تم خدا تعالیٰ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کیوں نہیں کرتے اور اپنی سفلی زندگی پر ایک موت وارد کیوں نہیں کرتے۔ جو قوم اکیلی جنت کی مستحق ہو اُسے اس دنیا سے محبت کیوں ہو۔ اُسے تو رضاء الہی کے کاموں میں اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ نے بہترین جہان اس کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ پس فَتَنَّبُوْا الْمَوْتِ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ اور اس راہ میں جس قدر بھی تکالیف تمہیں برداشت کرنی پڑیں اُن کو برداشت کرو۔ اور ہر قسم کی جانی اور مالی قربانیوں میں حصّہ لے کر ثابت کر دو کہ تم نے ایک بے جان چیز کی طرح اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر رکھا ہے۔ اگر تم ایسا کرو تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ تمہارے سوا اور کسی کے لئے

اُخْرَىٰ انعاماتِ مَقْدَرِ نَبِيٍّ - مگر فرمایا - وَ كُنْ يَتِمُّكَوْهُ اَبْنًا بِمَا قَدَّمْتَ اَيْدِيْهِمْ - وہ اس موت کو کبھی بھی اپنے اوپر وارد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عیاشیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت سے غافل ہیں۔ ان میں اخلاص اور قربانی کی کوئی روح موجود نہیں۔ اور جنت کا اُن کے لئے مخصوص ہونا تو الگ رہا۔ اُن کو جنت کے ملنے کا بھی یقین نہیں۔ بلکہ اُس کے وجود پر بھی انہیں یقین نہیں کیونکہ دنیا کی محبت اُن کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے ہے اور یہ محبت اُن کے بعث بعد الموت پر عدم ایمان کا ایک نمایاں ثبوت ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ قرآن کریم میں تو آیا ہے کہ یہود کہتے ہیں۔ كُنْ تَنْسِنَا النَّارُ اِلَّا اِيَّامًا مَّعْدُوْدًا یعنی ہمیں دوزخ میں صرف چند دن کے لئے ڈالا جائے گا۔ اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جنت صرف ہمارا ہی حق ہے۔ ان دونوں باتوں میں تو بہت بڑا اختلاف ہے۔ پھر بیک وقت دونوں باتیں اُن کی طرف کس طرح منسوب ہو سکتی ہیں؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہود کے دو گروہ ہیں۔ اور ان دونوں کے الگ الگ عقیدے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ ہم کچھ دن دوزخ میں رہ کر نکل آئیں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم دوزخ میں بالکل نہیں جائیں گے۔ پہلے اُس گروہ کا ذکر آچکا ہے جو صرف گنتی کے چند دنوں کیلئے دوزخ میں ڈالے جانے کا قائل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اُس گروہ کا ذکر کرتا ہے جس کا یہ عقیدہ تھا کہ نجات صرف بنی اسرائیل سے مخصوص ہے اور نبوت بھی کسی اور قوم میں نہیں جاسکتی۔ اس گروہ کے متعلق یہود کی کتاب ایروین طالمود میں لکھا ہے کہ گنہگار یہودی دوزخ کے دروازے تک لے جائے جائیں گے تو وہاں تو بہ کر لیں گے۔ اور وہاں سے بغیر سزا دیئے کے واپس کر دیئے جائیں گے۔ اور پھر اُن کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ (جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Gehenna) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود کا وہ گروہ جو کہتا ہے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ دوسروں کے لئے ہرگز نجات نہیں وہ اگر اپنے اس عقیدہ میں سچے ہیں تو مسلمانوں سے مبالغہ کر لیں یا اپنے عمل سے خدا تعالیٰ کے لئے اپنے اوپر موت وارد کر کے اپنی پاکیزگی، نفس اور بلندی کردار کا ثبوت پیش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے قبل تقریباً تمام مذاہب میں یہ تعلیم پائی جاتی تھی کہ نجات صرف اُنہی کا حق ہے۔ بلکہ ہندوؤں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ جو شودر ویدن لے اُس کے کانوں میں سیسہ پکھلا کر ڈالا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے۔ مگر ان کو کلام الہی سننے کا کوئی حق نہیں۔ بدھ قوم میں دوسروں کی نسبت قومی احساس کم تھا اور ان کی تبلیغ عام تھی لیکن تبلیغ عام ہونے کے باوجود وہ نبوت کو عام نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ اُسے محدود قرار دیتے تھے۔ اس لئے اُن کے نظریہ میں بھی وہ وسعت نہیں تھی جو اسلام نے پیش کی ہے۔

یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی تو وہی عقیدہ ہے جو یہود کا تھا کہ نبوت صرف ہم میں ہی رہے گی اور ہم ہی نجات کے مستحق ہیں۔ پھر مسلمانوں کو دوسروں پر کیا فضیلت حاصل ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان نہ تو ہر نام نہاد مسلمان کے لئے جنت ضروری قرار دیتے ہیں اور نہ کسی خاص قوم کے آدمیوں کے سوا دوسروں کے لئے نجات کا دروازہ بند قرار دیتے ہیں۔ بلکہ وہ سب دنیا کے لئے اس کا دروازہ کھلا تسلیم کرتے ہیں۔ پس اسلام پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اُس نے بھی نجات اپنے پیروؤں کے لئے مخصوص کر لی ہے۔ اسلام تمام قوموں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے اور دنیا کا ہر فرد اس کے پیغام کا مخاطب ہے۔ اگر بنی اسرائیل بھی اس نبی کو مان لیتے تو وہ اپنے اوپر نجات کا دروازہ کھول سکتے تھے۔ اس طرح دوسری اقوام بھی اس نبی کو مان کر نجات پا سکتی ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک بات بطور استحقاق ہوتی ہے۔ اور ایک بطور تَلَطَّف اور رحم کے ہوتی ہے۔ جو شخص سچی تعلیم کو ماننے والا ہو۔ اس کا ایک حق ہوتا ہے اور گو وہ حق اس کا ذاتی طور پر نہیں ہوتا مگر بہر حال خدا تعالیٰ نے اس کا ایک حق قائم کیا ہوتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے جو شخص شریعتِ حقہ اسلامیہ پر ایمان رکھے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اُسے نجات دے گا۔ یہ امر اس کے لئے استحقاق کے طور پر ہے اور اسی وجہ سے سچے مذہب کے تمام پیرو نجات حاصل کرنے کے مستحق ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ بطور تَلَطَّف اور رحم کے نجات حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف: ۱۵۷) کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس رحمت عام میں یہودی، عیسائی اور ہندو وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ماتحت ہر شخص جنت میں جا سکتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام پر اعتراض تب ہوتا جب اسلام میں دوسرے لوگ شامل نہ ہو سکتے۔ مگر جب اسلام نے ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگوں کے لئے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں اور اُن کو دعوت دے دی ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اعتراض اُن مذاہب پر پڑتا ہے جنہوں نے نجات کا دروازہ دوسروں کے لئے بند کر دیا ہے اور انہیں اپنے اندر شامل کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ بہر حال اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب نے نجات کو اپنے لئے مخصوص کیا ہوا ہے۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اسے اپنے ساتھ مخصوص نہیں کرتا۔ کیونکہ تَلَطَّف کی نجات صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص نہیں بلکہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مگر یہودی تعلیم کی رو سے کوئی غیر یہودی نجات حاصل نہیں کر سکتا اور عیسائیوں کے نزدیک کوئی غیر عیسائی نجات نہیں پا سکتا۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ جنت صرف مسلمان کہلانے پر ملتی ہے۔ بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان کہلا کر بُرے کام کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو اور وہ

جنت میں چلا جائے۔ کیونکہ جنت صرف منہ کے اقرار کا نتیجہ نہیں بلکہ جنت بہت سی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے نتیجہ میں ملتی ہے۔ اسی طرح دوزخ صرف منہ کے انکار کا نتیجہ نہیں بلکہ دوزخ کا شکار بننے کے لئے بہت سی باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی انسان دوزخ میں نہیں جاسکتا جب تک اس پر اتمام حجت نہ ہوخواہ وہ بڑی سے بڑی صداقت کا منکر ہی کیوں نہ ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچپن میں مرجانے والے یا اتنے بوڑھے جن کی سمجھ ماری گئی ہو۔ یا پاگل جو عقل سے عاری ہوں یا بہرے جو کسی بات کو نہیں سن سکتے۔ اُن سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ بلکہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف دوبارہ نبی مبعوث فرمائے گا اور ان کو سچ اور جھوٹ پہچاننے کا موقع دیا جائے گا۔ تب جس پر رحمت تمام ہوگی وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا اور جو ہدایت قبول کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ (روح المعانی زیر آیت وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً۔ بنی اسرائیل: ۱۶) پس یہ غلط ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل نہیں ہوتا دوزخی ہے۔

نجات کے متعلق اسلامی نظریہ یہ ہے کہ وہ شخص جو صداقت کے سمجھنے سے گریز کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ہدایت کی بات اس کے کان میں نہ پڑے تاکہ اُسے ماننی نہ پڑے یا جس پر حجت تمام ہو جائے مگر پھر بھی ایمان نہ لائے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل مؤاخذہ ہے۔

بانی سلسلہ احمدیہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اگر درحقیقت خدا تعالیٰ کے علم میں ایسا ہوگا کہ اس پر اتمام حجت نہیں ہوا تو اُس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس بحث کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو اسلام سے محض بے خبر ہے اور اگر بے خبری میں مرجاوے جیسے نابالغ بچے اور مجانین یا کسی ایسے ملک کے رہنے والے جہاں اسلام نہیں پہنچا وہ معذور ہیں۔“ (حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۸۷، ۱۸۸)

اسی طرح آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

”اگر یہ کہو کہ جن تک کتاب الہامی نہیں پہنچی اُن کی نجات کا کیا حال ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ اگر ایسے لوگ وحشی اور عقل انسانی سے بے بہرہ ہیں تو وہ ہر ایک باز پرس سے بری اور مرفوع القلم ہیں۔ اور مجانین اور مسلوب الحواسوں کا حکم رکھتے ہیں۔ لیکن جن میں کسی قدر عقل اور ہوش ہے اُن سے بقدر عقل ان کی محاسبہ ہوگا۔“

(براہین احمدیہ حصہ سوم، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۰۳ حاشیہ نمبر ۱۱)

اگر کوئی شخص سوال کرے کہ اگر اسلام قبول کئے بغیر بھی انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ تو پھر وَمَنْ يُبْتَغِ عَذْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَكُنْ يُقْبَلْ مِنْهُ (آل عمران: ۸۶) کا کیا مطلب ہے؟ تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجات جو استحقاق کے طور پر ملتی ہے۔ وہ مسلمانوں کے سوا اور کسی کو نہیں مل سکتی۔ مگر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ یہ حق بھی وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے۔ ورنہ بندہ کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ذاتی حق نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے خود بندے کا اپنے اوپر ایک حق قائم کر لیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے مقرر کرنے کی وجہ سے بطور استحقاق نجات صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے۔ ان میں سے جو شخص بھی قرآن کریم پر عمل کرے گا نجات حاصل کر لے گا۔ لیکن دوسرے لوگ بطور رحم کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بچہ بہرہ یا پاگل اور معذور ہو تو اسے دوبارہ موقع دیا جائے گا۔ اور یا پھر اس کے فطرتی ایمان کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس نے اس ایمان کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں ورنہ اگر خدا تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہے تو ہم اُس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ وہ مالک ہے جسے چاہے نجات دے۔ وَمَنْ يُبْتَغِ عَذْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَكُنْ يُقْبَلْ مِنْهُ میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص غیر اسلام کا ابتغاء کرتا ہے وہ عام قانون کے مطابق نجات نہیں پاسکتا۔ کیونکہ وہ خود اپنے لئے نجات کا دروازہ بند کرتا ہے اور استحقاق سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ لیکن نجات کے اور بھی ذرائع ہیں۔ اگر ان کے ماتحت کوئی شخص آجائے تو یقیناً نجات پا جائے گا۔

وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِاَقْدَامَتِ اَيِّدِيْهِمْ ط

اور (اے مسلمانو! یاد رکھو کہ) جو کچھ ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اس کے سبب سے وہ کبھی بھی اس (قسم کی موت)

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٦﴾

کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

تفسیر۔ تَمَنَّوْهُ اَلْمَوْتِ کے دو معنوں کی رو سے اس کے بھی دو معنی ہوں گے۔ اگر موت سے مباہلہ مراد لیا جائے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ہرگز مباہلہ نہیں کریں گے۔ اور ان کا یہ گریز اس امر کا ثبوت ہوگا کہ اُن کے دل جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کیا۔ ورنہ وجہ کیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ اُن کا پیچھے ہٹنا بتاتا ہے کہ انہیں اپنی بدیاں معلوم ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے مباہلہ کیا تو انہیں اپنے گناہوں کی سزا مل

جائے گی۔

دوسرے معنی تَمَتُّوا المَوْتَ کے یہ تھے کہ تم خدا کی رضاء کے لئے اپنے آپ کو فنا کرو اور اپنے اوپر وہ موت وارد کرو جو ابدی زندگی کا پہلا قدم ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ کبھی بھی اس موت کو جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حیات ابدی عطا کرتا ہے قبول نہیں کریں گے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اُن کی روحانیت مسخ ہو چکی ہے اور اب وہ ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اُن کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آسکتا کہ وہ خدا کے لئے اپنے آپ پر موت وارد کریں۔ گویا اُن کی گردنوں میں جو گناہوں کے طوق و اغلال پڑے ہوئے ہیں اُن کی وجہ سے انہیں یہ توفیق ہی نہیں ملے گی کہ وہ یہ نمونہ دکھاسکیں۔

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ میں بتایا کہ جھوٹے کی یہ علامت ہے کہ وہ آنوں بہانوں سے مبالغہ کو ٹلاتا چلا جاتا ہے کبھی مقابلہ پر نہیں آتا۔ مگر کیا وہ اس طرح بچ جائیں گے؟ آخر ایک دن پکڑے جائیں گے۔ اور ان کا انجام لوگوں پر ظاہر کر دے گا کہ کون ظالم تھا اور کون راستباز چنانچہ یہود پر جو تباہیاں آئیں۔ اُس نے اُن کے انجام کو ظاہر کر دیا۔

وَلتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيٰوةٍ ۗ وَمِنَ الَّذِيْنَ

اور تو یقیناً انہیں (بھی) اور بعض ان لوگوں کو (بھی) جو مشرک ہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پائے گا ان

اَشْرَكُوْا ۗ يَوْمَٓ اٰحَدُهُمْ لَوْ يَّعْبُرُ الْاَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ

میں سے (ہر) ایک (بھی) چاہتا ہے کہ اسے ہزار سال کی عمر مل جائے حالانکہ یہ (امر) یعنی اس کا (لمبی) عمر پانا اس

بِسُزْحِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعْبَرَ ۗ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍۙ بِمَا يَّعْمَلُوْنَ ﴿٩٥﴾

کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔

حَلُّ لُغَاتٍ۔ يَوْمَٓ کے معنی پسند کرنے کے ہیں۔ مگر جب لَوْ اس کے بعد آئے تو اس کے معنی تمنا کرنے

کے ہوتے ہیں۔ (المنجد)

تفسیر۔ فرماتا ہے۔ یہ لوگ سب سے زیادہ اس بات کے حریص ہیں کہ زندہ رہیں۔ حتیٰ کہ مشرکوں سے

بھی زیادہ حریص ہیں۔ گویا أَحْرَص ہونا یہود کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یوں مشرک بھی بڑے حریص ہوتے ہیں کیونکہ وہ قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے دنیا میں زندہ رہیں۔ مگر فرماتا ہے۔ یہ لوگ ان سے بھی زیادہ حریص ہیں۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے بعض کو تو دنیا کی زندگی کا زیادہ حریص پائے گا۔ گویا ان کی حرص پر زیادہ زور دینے کے لئے مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کو أَلْتَأَس سے علیحدہ کر لیا۔ جیسے کہتے ہیں جَاءَ قَوْمٌ زَيْنًا وَعَمْرٌو۔ قوم کے لوگ آئے اور زید اور عمرو بھی آگئے۔ حالانکہ زید اور عمرو بھی قوم میں شامل ہیں مگر ان کا نمایاں کرنے کے لئے الگ نام لے لیا گیا۔

مشرک دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو قیامت کے منکر ہوتے ہیں اور اس جہان میں آرام سے رہتے ہیں۔ وہ طبعاً دنیوی زندگی کے بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے مشرک وہ ہوتے ہیں جو قیامت کے تو منکر ہوتے ہیں مگر اس جہان میں انہیں آرام نہیں ہوتا۔ اس قسم کے مشرک زندگی کے ختم ہونے کے متمنی ہوتے ہیں تاکہ انہیں ان تکالیف سے نجات مل جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کا ختم ہو جانا ہی سکھ کا موجب ہے۔ اس لئے فرمایا کہ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ان مشرکوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو ہزار سالہ زندگی چاہتی ہے ورنہ سارے مشرک ایسے نہیں۔

اس آیت سے نص صریح کے طور پر تو نہیں صرف ایک استنباط کے رنگ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآنی نظریہ کے مطابق انسان کی ہزار سالہ زندگی ایک بعید از قیاس امر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کتاب ”چشمہ معرفت“ لکھ رہے تھے تو آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ بعض دفعہ اُس کے مضامین دوسروں کو بھی سنایا کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے حضرت نوحؑ کی ۹۵۰ سالہ عمر پر آریوں کے اعتراض کے بارہ میں فرمایا کہ ہم نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ نبی کی عمر سے مراد اُس کی اپنی عمر نہیں ہوتی بلکہ اُس کی جماعت کی عمر ہوتی ہے۔ آپ یہ سنا ہی رہے تھے کہ حضرت نانا جان میر ناصر نواب صاحب تشریف لے آئے۔ وہ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے مگر لوگ نیچریت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ہوتے ہیں تو ہوں پھر کیا ہوا ہمیں تو جہاں بھی اسلام کی صداقت نظر آئے گی ہم اُسے پیش کریں گے خواہ کوئی اُس سے نیچریت کی طرف ہی کیوں نہ مائل ہو جائے۔ بہر حال قرآن مجید میں جہاں کسی نبی کی زیادہ عمر کا ذکر آتا ہے۔ وہاں ایک فرد کی عمر مراد نہیں بلکہ اُس کی اُمت کی عمر مراد ہے۔

وَمَا هُوَ بِمُزَجَّجٍهٖ مِنَ الْعَذَابِ فِي هُوَ كِي ضَمِيرًا أَحَدُهُمْ كِي طرف جاتی ہے اور ترجمہ کے لحاظ سے یہ عبارت یوں بنتی ہے کہ مَا أَحَدُهُمْ بِمُزَجَّجٍهٖ تَعْمِيذًا مِنَ الْعَذَابِ کہ اُن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جسے زیادہ عمر کا دیا جانا عذاب سے بچا سکے۔

فرماتا ہے لمبی عمر کی خواہش کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ آرام کی لمبی گھڑیاں دُکھ کی ایک چھوٹی سی گھڑی کے مقابلہ میں بھی پیچ ہو جاتی ہیں۔ اور راحت کی گھڑیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ پس لمبی عمر انہیں عذاب سے بچا کر کہاں لے جائے گی۔ اور ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ یہ تو حماقت کی بات ہے۔ مگر وہ اس میں اسی طرح مبتلا ہیں جس طرح وہ اپنی اس پہلی حماقت میں مبتلا تھے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو انعام نبوت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی یہ احمق لوگ یہ خواہش تو نہیں کرتے کہ عذاب کو اُن سے ٹلا دیا جائے بلکہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ عذاب کچھ دیر پیچھے ہو جائے۔ حالانکہ اس سے انہیں کیا فائدہ؟ اصل علاج تو یہ تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے جس نے اُن کے لئے نجات کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ مگر بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کر کے اس عذاب کو ٹلا دیں یہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ پیچھے ہو جائے۔ حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس سے بچ جائیں اور خدا تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لیں۔

اس رکوع کی آیت نمبر ۸۸ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو بتایا تھا کہ دیکھو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء کی مخالفت کرتے آئے ہو اور گو اُن کی مخالفت تمہارے آباء نے کی مگر تم بھی اُس میں اس لئے شریک ہو کہ تمہاری اور اُن کی مخالفت کی وجہ ایک ہی ہے۔ یعنی اپنے منشاء کے خلاف نبی وقت کی تعلیم کا ہونا۔ پس اگر ان کے وقت میں تم ہوتے تو اُس وقت بھی تم وہی کچھ کرتے جو اب کر رہے ہو۔

آیت ۸۹ میں یہود کا ایک قول نقل فرمایا کہ نبیوں کے جواب میں ایسے اقوال سے تم ان کی ہنسی اڑایا کرتے یا اپنے تکبر کا اظہار کیا کرتے تھے۔

آیت ۹۰ میں بتایا کہ غضبِ الہی اور تمہاری آبائی عادت کا یہ نتیجہ ہے کہ جب وہ موعود رسول آیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے تو تم انکار کر بیٹھے۔ آیت ۹۱ میں اس کے انکار کی وجہ بتائی جو صرف یہ ہے کہ غیر قوم سے کیوں رسول آیا؟ آیت ۹۲ میں ان کے تہمیدانہ انکار کا نقشہ کھینچا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے اور دلائل پر غور کرنے کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو وہی مانیں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوا۔ حالانکہ یہ نبی بھی انہی انبیاء بنی اسرائیل کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے۔ پھر اُن کے اس مقابلہ کو یاد لا کر جو وہ انبیائے بنی اسرائیل کا وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں ان کو نادم کیا گیا ہے۔ کہ تم نے اُن کے وقت میں اُن کو بھی نہیں مانا

تھا۔ آیت نمبر ۹۳ میں بتایا کہ اور انبیاء تو الگ رہے خود حضرت موسیٰؑ کی تم نے مخالفت کی۔ آیت نمبر ۹۴ میں بتایا کہ یہ مخالفت ایسے وقت میں کی جب تم طور پر نیا نیا عہد باندھ کر آئے تھے۔ آیت نمبر ۹۵ میں بتایا کہ ان کا یہ عذر باطل ہے کہ ہم صرف بنی اسرائیل کے نبیوں کا کلام مانیں گے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نجات ہمارے لئے مخصوص ہے۔ اچھا اگر ان کو اس بات پر یقین ہے۔ تو مباہلہ کر لیں۔ آیت نمبر ۹۶ میں بتایا کہ وہ مباہلہ کے لئے ہرگز نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں اپنے جھوٹے ہونے کا علم ہے۔ آیت نمبر ۹۷ میں ان کی اس بُری حالت کو مشرکوں سے بھی بدتر بتایا۔ اور فرمایا کہ آخرت میں جانے سے تو اس لئے ڈرتے ہیں کہ وہاں سزا ملے گی لیکن ان کے لئے اس دُنیا میں بھی سکھ نہیں پس ایسے عذرات سے کیا حاصل ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ

تو (ان سے) کہہ دے کہ جو شخص اس وجہ سے جبریل کا دشمن ہو کہ اس نے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اس (کتاب)

بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى

کو اتارا ہے جو اس (کلام) کو جو اس سے پہلے موجود ہے سچا کرنے والی ہے۔ اور مومنوں کے لئے ہدایت اور

لِلْمُؤْمِنِينَ (۹۸)

بشارت ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - جِبْرِيلَ جبریل کا لفظ جبر اور ایل سے مرکب ہے۔ جبر کے معنی عبرانی زبان میں

خادم اور غلام کے ہوتے ہیں۔ اور ایل کے معنی خدا کے۔ پس جبریل کے معنی ہیں خدا کا خادم یا خدا کا غلام۔

عربی زبان میں (۱) جبر کے معنی اصلاح کرنے اور ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کے ہوتے ہیں (۲) دوسرے

معنی کسی کو کام پر مجبور کر دینے کے ہیں۔ (۳) تیسرے معنی **الْكِرْجُلُ الشَّجَاعُ** کے ہیں یعنی بہادر آدمی (اقرب)۔

چنانچہ جبر کا لفظ ایک شعر میں بھی بہادر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ عرب شاعر ابن عمر کہتا ہے۔

ع وَانْعَمَ صَبَاحًا أَيُّهَا الْجَبْرُ

اے بہادر آدمی تم پر صبح اچھی ہو۔ ”گڈ مارننگ“ Good Morning اسی سے لیا گیا ہے۔ پس جب جو

عبرانی میں خادم اور غلام کے معنے رکھتا ہے۔ اس کے یہ معنے عربی زبان میں بھی ملتے ہیں لیکن ایل کے معنوں میں عربی زبان اور عبرانی زبان میں بڑا فرق ہے۔ عبرانی میں عام طور پر یہ لفظ خدا کیلئے آتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنے عربی میں نہیں پائے جاتے۔ بلکہ ایل کا لفظ ہی عربی زبان میں نہیں آتا۔ لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی میں ایل کا لفظ آتا ہے۔ جو اَل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور اَل کے معنے ہیں۔ اُس نے تدبیر سے حکومت کی۔ چنانچہ اَل اَلْمَلِكِ رَعِيَّتُهُ کے معنے ہوتے ہیں۔ سَا سَهْمُهُ بادشاہ نے اپنی رعایا کی ضروریات کا انتظام کیا۔ اور اَل عُلَى اَلْقَوْمِ کے معنے ہیں۔ وَا لِي وَه توم کا بادشاہ بن گیا۔ غرض اَل کے عربی زبان میں کئی معنے ہیں۔ ایک معنے اس کے لوٹنے کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے اَل لوٹنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ (اقرب) پس اَل لُوٹنے والے، مدبر حاکم اور بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اور یہ سب الفاظ خدا تعالیٰ پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔ ان معانی کے لحاظ سے جبویل کے تین معنے ہوں گے (۱) بادشاہ کا بہادر اور اچھا خادم (۲) ایک مدبر ہستی کا بہادر اور اچھا غلام (۳) اپنے بندوں کی طرف بار بار رحمت کے ساتھ لوٹنے والے خدا کا بہادر اور اچھا خادم۔

عبرانی زبان میں بھی ایل کے معنے اَل سے ملتے جلتے ہیں۔ کیونکہ عبرانی کے بعض ماہر علماء کہتے ہیں۔ کہ ایل کے معنے طاقتور کے ہیں۔ (انسائیکلو پیڈیا بلیکا زیر لفظ EI) جو حاکم یا مدبر سے ملتے ہیں۔ لیکن عبرانی کے بعض دوسرے ماہر کہتے ہیں۔ کہ اس لفظ کے معنے ہیں۔ ”وہ وجود جو سب انسانوں کا مرجع ہے“۔ یہ ایل کے دوسرے معنی یعنی لُوٹنے والے سے کسی قدر فرق کے ساتھ ملتے ہیں۔

عربی زبان کو ملحوظ رکھتے ہوئے جبویل کے معنے ہیں بار بار لوٹنے والے یعنی تَوَابِ خدَا کا خادم۔ یہ خدا تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ وہ بار بار الہام نازل کرتا ہے اور بار بار اپنے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں عبرانی زبان کے ماہر کہتے ہیں کہ عبرانی میں ایل کے معنے ہیں وہ ذات جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں۔ اور جو سب انسانوں کا مرجع ہے۔ یہ معنے عربی زبان سے کسی قدر مختلف ہیں۔ گو جہاں تک لُوٹنے کا سوال ہے اس کا دونوں معنوں میں ذکر آتا ہے۔ صرف اس قدر فرق ہے کہ عبرانی نے اُسے مرجع بتایا ہے اور عربی نے راجع۔ یعنی عربی میں اس کے یہ معنے ہیں کہ وہ خدا جو بندہ کے پشیمان ہونے پر بار بار اپنے فضل کے ساتھ اُس کی طرف رجوع کرتا ہے اور عبرانی میں اس کے معنے ہیں وہ ہستی جس کی طرف لوگ بار بار رجوع کرتے ہیں۔ یہ تغیر ایسا ہی ہے۔ جیسے عبرانی میں ایلوہیم جس کے معنے مضبوط اور طاقتور ہونے کے ہیں اس کے معنے مضبوط کے ہو گئے ہیں اور اب محاورہ میں یہ لفظ ہر اس وجود کیلئے استعمال کر لیتے ہیں جو مضبوط اور طاقتور ہو۔ پس جس طرح یہاں معنوں میں تغیر

پیدا ہو گیا ہے اسی طرح اٹل کے معنی کوٹنے والے سے بدل کر ”جس کی طرف لوٹا جائے“ ہو گئے۔

اس کی زیادہ توجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہود خدا تعالیٰ کی تَوَّاب صفت کے قائل نہیں تھے اور وہ اس کے قائل ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ جو قوم یہ سمجھتی ہو کہ خدا تعالیٰ پر ہمارا حق ہے وہ ہمیں بہر حال نجات دے گا۔ وہ خدا تعالیٰ کو تَوَّاب کیسے مان سکتی ہے۔ وہ تو اُسے کبھی بھی تَوَّاب نہیں مانے گی۔ اُسے تَوَّاب وہی مان سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ اُس پر میرا کوئی حق نہیں۔ مگر یہود کا یہ عقیدہ نہ تھا۔ وہ خدا تعالیٰ پر اپنا حق جتاتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے ایل کے معنی کر دیئے ”وہ ہستی جس کی طرف لوگ لوٹتے ہیں“۔ نہ یہ کہ وہ خدا جو لوگوں کی طرف بار بار رحمت کے ساتھ لوٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبرانی زبان میں تَوَّاب کے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان نہیں ہوئی۔ لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کے اصل معنی لئے جائیں۔ یعنی بار بار لوٹنے والے خدا کا بہادر اور اچھا خادم یا ایک مدبر ہستی کا بہادر اور اچھا خادم۔

تفسیر۔ قرآن کریم اور بائبل دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ جبریل خدا تعالیٰ کے مقرب ملائکہ کا سردار ہے اور اس کا کام بندوں تک کلام الہی پہنچانا ہے۔ مگر یہود اپنے تنزل کے زمانہ میں جبریل کو لڑائی اور عذاب کا فرشتہ سمجھنے لگ گئے تھے۔ (انسائیکلو پیڈیا بلیکا۔ زیر لفظ جدیل) اور اسے اپنا دشمن تصور کرتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل اور ابن کثیر کی روایت ہے کہ یہود جب مسلمانوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل اور براہین سنتے اور کوئی جواب نہ دے سکتے تو کہہ دیتے کہ اچھا ہمیں یہ بتاؤ۔ کہ اُن کی طرف وحی کون لاتا ہے؟ اس کے جواب میں مسلمان کہتے کہ جبریل۔ اس پر یہود پکار اٹھتے کہ جِبْرِيْلُ ذَاكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَزْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ عَدُوًّا۔ (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ہذا بر حاشیہ فسخ البیان) یعنی جبریل تو وہ فرشتہ ہے جو جنگ و جدال اور عذاب لے کر نازل ہوتا ہے اور ہمارا دشمن ہے اس لئے ہم یہ کلام نہیں مان سکتے۔

یہود میں یہ خیال زیادہ تر طالمودی روایات اور ٹارگم کی تفسیروں سے پھیلا ہے۔ ورنہ بائبل جبریل کو کلام الہی لانے والا فرشتہ ہی قرار دیتی ہے چنانچہ دانیال باب ۸ آیت ۱۶، ۱۷ میں لکھا ہے۔

”اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبریل اس

شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اُس کے آنے سے

میں ڈر گیا اور منہ کے بل گرا۔ پر اُس نے مجھ سے کہا۔ اے آدم زاد سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانہ کی

بابت ہے۔“

اسی طرح دانیال باب ۹ آیت ۲۱ میں لکھا ہے:-

”میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رؤیا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزارنے کے وقت کے قریب مجھے چھوڑا اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کیں“۔

لوقا باب ۱۹ آیت ۱۹ میں بھی لکھا ہے:-

”فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا۔ میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس

لئے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔“

اسی طرح لوقا باب ۱ آیت ۲۶ میں لکھا ہے-

”چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا ایک

کنواری کے پاس بھیجا گیا۔“

مگر بعد میں یہودی احادیث میں جبرائیل کو عذاب کا فرشتہ قرار دے دیا گیا اور میکائیل کو وحی الہی لانے والا فرشتہ سمجھا جانے لگا۔ دانیال نبی کے وقت تک وہ مانتے تھے کہ جبرائیل کلام الہی لانے والا فرشتہ ہے۔ اور دنیوی ترقیات کا تعلق میکائیل کے ساتھ ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ وہ میکائیل کو کلام الہی لانے والا فرشتہ سمجھنے لگ گئے۔ اور جبرائیل جو کلام لاتا تھا وہ چونکہ نہ ماننے والوں کیلئے سزا کا بھی پیغام لاتا تھا اس لئے وہ اُسے ناپسند کرنے لگ گئے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہود کا یہ پختہ خیال ہو گیا کہ جبرائیل گرج اور عذاب کا فرشتہ ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا ہیلیکا زیر لفظ جبریل)

معلوم ہوتا ہے کہ یہود چونکہ مغضوب قوم تھی۔ اور جو نبی بھی اُن کی طرف آتا وہ اُنہیں ڈراتا اور کہتا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لئے وہ عذابوں کے پئے در پئے آنے کے سبب سے یہ سمجھنے لگ گئے کہ جبرائیل اُن کا دشمن ہے۔ کیونکہ وہ جو کلام بھی لاتا ہے اُس میں عذاب ہی عذاب کی خبریں ہوتی ہیں۔ پس وہ جبریل سے عداوت رکھنے لگ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کے ماننے کی ضرورت نہیں۔ اصل فرشتہ میکائیل ہے جس کی لائی ہوئی وحی ماننے کے قابل ہے۔ وہ جبرائیل کو لڑائی اور جھگڑے پیدا کرنے والا فرشتہ اس لئے کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ انبیاء کا انکار کرتے تھے۔ اور اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُن پر عذاب نازل کیا کرتا تھا۔ ان عذابوں کو وہ جبرائیل کی طرف منسوب کر دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ عذاب کا فرشتہ ہے۔ آج کل بھی لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیٹنگوں کے ماتحت

جب عذاب آتے دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں جو دنیا کو ہلاک کرنے کے لئے آئے ہیں یہی الزام جبرائیل پر لگایا گیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دُور کیا ہے۔

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ اس وجہ سے اُس سے عداوت کرتے ہیں کہ اُس نے قرآن مجید کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ اس جگہ فَإِنَّهُ لَآئِنَّہُ کے معنوں میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے جبریل سے عداوت کرتے ہیں کہ اُس نے یہ کتاب کیوں نازل کی۔ حالانکہ یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے اندر کئی قسم کی خوبیاں رکھتی ہے اور جن کو دیکھتے ہوئے اس سے دشمنی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ یہود کے مذکورہ بالا شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار جواب دیئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ کوئی فرشتہ اپنی طرف سے کلام نازل نہیں کر سکتا بلکہ اس کا نزول اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے۔ پس خواہ کوئی فرشتہ کلام نازل کرنے والا ہو۔ جبریل ہو یا میکائیل جسے وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں بہر حال کلام نازل کرنے والا تو خدا ہے اور اس کے کلام پر فرشتہ کی دشمنی کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ کلام لانیوالے کے فرق سے کلام میں فرق نہیں آ سکتا۔ پس اگر کسی قومی روایت کی وجہ سے جبرائیل سے نفرت بھی ہو تو اس کلام سے نفرت کس طرح جائز ہو سکتی ہے جو وہ لاتا ہے۔ وہ کلام تو بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور اُس کا قبول کرنا ضروری ہوگا۔

باقی رہا یہ کہ جبریل اسے کیوں لایا یا میکائیل کیوں نہیں لایا۔ سو جبرائیل نے اسے خود نازل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ اور جب خدا کے حکم سے اُس نے اسے اُتارا ہے تو اس سے دشمنی کیسی؟ اُس نے تو خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے۔

اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی برتری اور اس کی فضیلت کی ایک یہ بھی دلیل دی ہے کہ یہ تعلیم اس نبی کے دل پر اتاری گئی ہے جس کی وجہ سے اس تعلیم نے اس کے جذبات کو اس کے تابع کر دیا ہے۔

اس جگہ فلاسفوں کے خیالات اور نبیوں کے کلام میں یہ فرق بتایا گیا ہے کہ نبی پر جو کلام اُترتا ہے وہ اُس کے دل پر نازل کیا جاتا ہے۔ مگر فلاسفر کے خیالات کا نزول اُس کے دماغ پر ہوتا ہے۔ فلاسفر بھی اچھی باتیں کہتا ہے مگر اُس کے جذبات اُس کے افکار کے تابع نہیں ہوتے اور وہ جو کچھ کہتا ہے اُس کے مطابق اُس کا عمل نہیں ہوتا۔ لیکن نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے اُس کا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے۔ انگریزوں میں کئی بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں جن کی کتابیں اخلاقی باتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ لیکن اُن کا عمل دیکھ کر انسان کو سخت مایوسی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اُن کے فلسفہ کا نزول دماغ پر ہوتا ہے اور کلام الہی کا قلب پر جس کی وجہ سے کلام الہی انسان کی زندگی کو

پاک کر دیتا ہے۔ لیکن ایک فلاسفر کا فلسفہ اُس کے دل کو پاک نہیں کر سکتا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل نے اس کلام کو تیرے دل پر نازل کیا ہے یعنی اُس نے اس کلام کو تیرے جسم اور رُوح کے ذرہ ذرہ میں داخل کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ تو خود قرآن ہو گیا ہے جیسا کہ حضرت عائشہؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا۔ كَانْ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ (مجمع البحار حرف الخاء المعجمة "خلق") کہ آپ کے اخلاق معلوم کرنے ہوں تو قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لو جتنی باتیں قرآن کریم میں لکھی ہیں وہ سب آپ میں پائی جاتی تھیں۔

غرض نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں جہاں یہ جواب دیا گیا ہے کہ جبریل نے یہ کلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے۔ اس میں اُس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اُس نے تم سے دشمنی کی وجہ سے کسی اور پر وحی نازل کر دی ہے۔ وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ مطہر کا ذکر فرما کر اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تمہارا یہ خیال کہ جبریل نے تمہاری دشمنی کی وجہ سے بنی اسطعیل کے ایک فرد پر یہ کلام بلا وجہ نازل کر دیا ہے غلط ہے۔ یہ کلام اُس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُسی شخص پر نازل کیا ہے جو اس عظیم الشان امانت کا سب سے زیادہ اہل تھا۔

دوسری بات یہ بتائی کہ وہ کلام جو اس رسول پر نازل ہوا ہے اُن پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا ہے جو تمہاری کتب میں موجود ہیں۔ پس یہ تو عداوت نہیں بلکہ دوستی کی علامت ہے کہ ایسے کلام کا نزول ہوا جو تمہاری کتب کی صداقت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اگر یہ کلام نہ آتا تو تمہاری کتابیں جھوٹی ہو جاتیں اور اُن کی پیشگوئیاں باطل قرار پاتیں پس یہ تعلیم جو جبریل نے اتاری ہے ایسی ہے جو تمہاری کتابوں کی پیشگوئیوں کو پورا کرتی ہے۔ اگر یہ نبی اس زمانہ میں نہ آتا یا بنی اسطعیل میں سے نہ آتا تو بائبل کی پیشگوئیاں غلط ہو جاتیں۔ پس جبریل نے تمہاری دشمنی نہیں کی بلکہ خیر خواہی کی۔ اگر جبریل کی تمہارے ساتھ دشمنی ہوتی تو پھر یہ کلام تمہاری کتابوں کی تصدیق کیوں کرتا۔ پس اس وحی کے قبول کرنے میں ہی تمہاری عزت ہے۔ تمہیں اس کلام کو رد نہیں کرنا چاہیے۔

تیسری بات یہ بتائی کہ یہ کتاب لوگوں کے لئے ہادی اور رہنما ہے۔ یعنی اور باتوں کے علاوہ اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ہدایت کے صحیح راستہ کی طرف لے جاتی اور گمراہی سے بچنے کے ذرائع بیان کرتی ہے۔ اور اگر یہ قرآن تم کو تقویٰ اور پرہیزگاری اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہر حال اس کا قبول کرنا تمہارے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ تم اس کے ذریعہ سے پاک اور متقی بن جاؤ گے۔ اگر یہ کتاب باطل کی طرف لے جاتی تو پھر بے شک تم اس کا انکار کر سکتے تھے۔ مگر تم جانتے ہو کہ یہ کتاب باطل کی طرف نہیں بلکہ ہدایت کی طرف لے جاتی ہے

اور کسی کلام کے ماننے یا رد کرنے میں اصل سوال یہی قابل غور ہوتا ہے کہ وہ درست ہے یا غلط۔ پس اگر یہ کلام صحیح ہے اور اس میں بنی نوع انسان کی خیر خواہی اور اُن کی ترقی کی تعلیم دی گئی ہے تو تمہیں کسی اور امر کو مد نظر رکھ کر اُس سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔

چوتھی بات یہ بتائی کہ یہ تعلیم ایسی ہے جو اپنے ماننے والوں کے لئے بُشْرٰی ہے۔ یعنی اُن کو بڑے بڑے انعامات کا وعدہ دیتی ہے۔ گویا اگر کوئی شخص صرف اس لئے کسی صداقت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا کہ وہ بنفسہ صداقت ہے بلکہ وہ انعامات کا بھی طالب ہو تو اُسے یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص اس پر سچے دل سے عمل کرے گا اُسے بڑے بڑے انعامات بھی ملیں گے۔ پس اس کو چھوڑنا اپنا نقصان کرنا ہے۔ اس فقرہ میں بھی یہود کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ جبریل عذاب کا فرشتہ ہے۔ مگر اس کلام میں تو بشارتیں ہی بشارتیں بھری پڑی ہیں۔ پھر وہ عذاب کا فرشتہ کیسے ہوا؟

غرض بتایا کہ یہ بحث ہی لغو ہے کہ کلام الہی جبرائیل لاتا ہے یا میکائیل۔ کلام تو خدا نازل کرتا ہے۔ پس اگر کلام کی وجہ سے کسی سے دشمنی ہونی چاہیے تو خدا سے ہونی چاہیے۔ جبرائیل جو ایک درمیانی واسطہ ہے اُس سے دشمنی کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔ مگر تم خدا کو تو اپنا دوست قرار دیتے ہو اور جبرائیل جو اس کا اپنی ہے اُسے گالیاں دینے لگ جاتے ہو۔ پھر دوسری طرف تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جبرائیل اُس پر کلام کیوں لایا۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کلام تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اُن کی پیشگوئیوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ جبریل تمہارا دشمن ہے تو یہ عجیب دشمنی ہے کہ اُسی کے کلام سے تمہاری کتابیں سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر اس کا ہڈی اور بُشْرٰی ہونا بھی بتاتا ہے کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جبریل آگ اور عذاب کا فرشتہ ہے کیونکہ اس کے ذریعہ جو کلام نازل ہوا ہے۔ وہ ہدایت سے پُر ہے اور ایمان لانے والوں کو اعلیٰ درجہ کے روحانی انعامات سے سرفراز کرتا ہے۔ پس جبرائیل یا میکائیل کی بحث میں پڑ کر اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لینا چاہیے۔

میں نے اس آیت میں قَائِلُہ کے معنی لَائِلُہ کے کئے ہیں۔ کیونکہ میرے نزدیک یہاں قَاءِ لام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مگر قَاءِ کے عام معنی قائم رکھ کر دوسرے معنی بھی کئے جاسکتے ہیں۔ مگر اس صورت میں یہ جواب محذوف ماننا پڑے گا۔ کہ فَلَا وَجْهَ لِعَادَاتِهِ۔ اس سے عداوت رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیونکہ اُس نے اس

کلام کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے۔ اس میں بتایا کہ وہ لوگ جو جبریل سے دشمنی کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے اس رسول کے دل پر اتارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اتارا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق اتارا ہے۔ پس اس سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اگر تم دشمنی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے کرو گے نہ کہ جبریل سے (۲) وہ تعلیم تمہاری کتابوں کی پیشگوئیوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اگر جبرائیل کو تم سے دشمنی ہوتی تو وہ ایسی تعلیم جو تمہاری تعلیم کو پورا کرتی ہے نہ اتارتا۔ پس جبرائیل سے دشمنی کرنے کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنی کتابوں سے بھی دشمنی کر رہے ہو۔ (۳) پھر یہ کلام اس حال میں اُترا ہے کہ وہ ہادی اور مبشر ہے۔ جو شخص ہادی سے دشمنی کرتا ہے وہ گویا اپنی جان سے دشمنی کرتا ہے۔ اور جو شخص مبشر سے دشمنی کرتا ہے وہ اپنی آئندہ نسلوں سے دشمنی کرتا ہے۔ ہدایت انسان کے اپنے نفس سے تعلق رکھتی ہے اور بشارت آئندہ نسلوں کے ساتھ۔ ہدایت ورثہ میں نہیں دی جاتی۔ مگر دنیوی انعامات عام طور پر ورثہ میں چلے جاتے ہیں۔ پس فرمایا کہ یہودی لوگ منیع سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور درمیانی حالت سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور انتہائی حالت سے بھی دشمنی کرتے ہیں۔ (۱) منیع تو اللہ تعالیٰ ہے جس سے وہ دشمنی کرتے ہیں (۲) پھر وہ انبیاء جو دنیا میں اس کے ظل اور مظہر ہوتے ہیں اور ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ (۳) پھر اپنی ذات کے بھی دشمن ہیں اور آئندہ نسلوں سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور انہیں ان انعامات اور افضال سے جو ایمان لانے سے ان کو مل سکتے ہیں محروم کرتے ہیں۔ پس جبریل کی دشمنی کوئی معمولی دشمنی نہیں۔ جو اُس سے دشمنی کرتا ہے وہ دراصل اس سے نہیں بلکہ اللہ اور اپنی جان اور اپنی آئندہ نسلوں سے دشمنی کرتا ہے۔

دوسرے معنی کی صورت میں مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے آخر میں رکھا ہے۔ یعنی فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ مگر چونکہ فقرہ لمبا ہو گیا تھا اس لئے اس کے بعد پھر اس کے ذکر کو دہرایا ہے۔ اور ساتھ ہی میکائیل کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ کیونکہ جبرائیل کی دشمنی میکائیل کی بھی دشمنی ہے اور اس کے بعد اس کی اصل جزا بتا دی ہے۔

اوپر جو مضمون بیان ہوا ہے اس سے یہود کو یہ بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کا نزول خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور اسی نے ان کو نبی بنایا ہے۔ پس تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنا خدا تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے کلام کا انکار دراصل موسیٰ کا انکار ہے جس نے اس کی پیشگوئی کی تھی۔ اب تم خود سوچ لو کہ تم اس مخالفت میں کہاں تک حق بجانب ہو۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ

(تو اسے یاد رہے کہ) جو شخص (بھی) اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور

مِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۹﴾

میکائیل کا دشمن ہو تو (ایسے) کافروں کا اللہ بھی یقیناً دشمن ہے۔

تفسیر۔ اس میں بتایا کہ فرشتے تو ایک واسطہ ہیں جس طرح ہوا آواز پہنچانے کا واسطہ ہے۔ پس جو شخص اُن سے عداوت رکھتا ہے وہ درحقیقت اُس سے عداوت رکھتا ہے جس نے ان کو بھیجا۔ اور اُس پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے انتخاب میں غلطی کی۔ پس اس قسم کے خیالات کے یہ معنی ہیں کہ یہود خدا سے دشمنی کرتے ہیں۔ کیونکہ اپنی کی ہتک درحقیقت بادشاہ کی ہتک ہوتی ہے۔ پس جو شخص فرشتوں میں سے کسی کو بُرا کہتا ہے وہ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ اُس نے وحی الہی نازل کرنے کے لئے ایک ناقص ہستی کو تجویز کیا۔ پس جبریل کی دشمنی صرف ایک فرشتہ کی دشمنی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی دشمنی ہے۔ پھر جو جبریل کا دشمن ہے وہ تمام ملائکہ کا بھی دشمن ہے۔ کیونکہ جبریل خود ملائکہ میں سے ایک ملک ہے۔ پھر جبریل کی دشمنی کے نتیجے میں انسان تمام رسولوں کا بھی دشمن بن جاتا ہے کیونکہ جبریل ابتدا سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر کلام الہی لاتا رہا ہے۔

آخر پھر جبریل کا ذکر کر کے یہود کو متنبہ کیا ہے کہ اس کو اپنا دشمن مت سمجھو ورنہ اس کی دشمنی تمہیں خدا تعالیٰ کے دشمنوں میں شامل کر دے گی۔ اور خدا تعالیٰ کے افعال پر جرح کرنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سب ملائکہ اور رسولوں پر بھی معترض ہو کیونکہ ان سب کی عزت ذات باری تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ پس روحانی سلسلہ کے کسی ایک رکن پر الزام لگانا یا اُس سے عداوت کا اظہار کرنا انسان کو ہدایت سے بہت دُور لے جاتا ہے اور ایسے اشخاص آخر اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ یعنی اُن فیوض اور برکات سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں جو اس کے دوستوں پر نازل ہوتی ہیں اور اُن عذابوں کے مورد بن جاتے ہیں جو اُس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔

جبریل کے بعد میکائیل کا خصوصیت سے اس لئے ذکر کیا کہ یہود کا خیال تھا کہ میکال ان کا خاص مہربان فرشتہ

ہے۔ اور وہ اسے اسرائیل کا محافظ فرشتہ یا شہزادہ خیال کرتے تھے (انسانیکو پیڈیا ریٹیکا زیر لفظ Michael)

میکال کے معنی ہیں خدا کی مانند۔ جس کی وجہ تسمیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس فرشتہ کا کام زیادہ تر صفتِ ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یعنی اُس کے سپرد دنیا کا رزق اور خبر گیری ہے اور جبریل کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے اور وہ کلامِ الہی لاتا ہے۔ گویا ہدایت لانے کا کام جبرائیل کے سپرد ہے۔ اور بُشَریٰ یعنی دنیوی ترقیات کے سامان مہیا کرنا میکائیل کا کام ہے اور بُشَریٰ ہمیشہ ہدایت کے تابع ہوتی ہے۔ جب انسان اس تعلیم پر جسے جبرائیل لاتا ہے عمل کر کے مہدی بن جاتا ہے تب اُسے بُشَریٰ یعنی دنیوی انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ پس جو شخص مہدی نہ ہو وہ دنیوی انعامات بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شخص جبرائیل سے دشمنی کرے گا میکائیل خود بخود اس کا ساتھ چھوڑ دے گا اور دشمن ہو جائیگا۔ غرض یہود کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم جبریل سے دشمنی کرو گے تو میکال بھی تمہارا دشمن ہو جائے گا اور اس طرح تمہارا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔

جبریل اور میکال کے دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد تاکید بھی ہے۔ یعنی جو کوئی ان کا دشمن ہوگا اُسے یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی دشمنی میں اللہ اور اس کے ملائکہ اور اُس کے تمام رسولوں کی دشمنیاں بھی شامل ہیں۔

پھر ان فرشتوں کا دوبارہ ذکر اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ فرشتے اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں وہ صرف ایک درمیانی واسطہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرشتہ کی مثال ہوا سے دی ہے (توضیح مرام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۹۴) یعنی جس طرح کلام کرنے والے اور سُنے والے کے درمیان ہوا کا واسطہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان فرشتہ واسطہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس واسطہ سے دشمنی کرتا ہے جو ایک ضروری چیز ہے تو دراصل اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز سے نہیں بلکہ اُس سے دشمنی کرتا ہے جس نے اس واسطہ کو بنایا ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب میں غلطی کی ہے۔ پس دراصل جبرائیل کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے اور جو آقا کا دشمن ہوتا ہے ماتحت بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ میکائیل بھی ان کا دشمن ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آقا ہے اور باقی سب اس کے تابع ہیں۔ جو زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں۔ اگر زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ جائے تو ساری کی ساری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح جبریل کی دشمنی سے نہ صرف وہی بلکہ تمام ملائکہ دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک کڑی کے ٹوٹنے سے ساری زنجیر بے کار ہو جاتی ہے۔ یہود میکائیل کو اسرائیل کا شہزادہ اور اپنا دوست اور محافظ سمجھتے تھے۔ اس لئے اُس کا خاص طور پر ذکر کر کے بتایا کہ جبرائیل کی دشمنی سے وہ بھی تمہارا دشمن بن گیا ہے۔

پھر میکال کا اس لئے بھی خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب اُن کی کسی مقدس

بھلا کہو گے اور اپنی اس عادت کو ترک نہیں کرو گے تو پھر خدا بھی تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ اور تمہاری ناکامی و نامرادی میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُونَ ﴿۱۰﴾

اور ہم نے یقیناً تجھ پر کھلے کھلے نشانات نازل کئے ہیں اور نافرمانوں کے سوا انکار کوئی نہیں کرتا۔

تفسیر۔ عیسائی لوگ اس سورۃ کی آیت وَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ كَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ (البقرة: ۱۱۹) سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیوں ہم سے براہ راست اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا؟ یا کیوں ہمارے پاس تو کوئی نشان نہیں لاتا۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بینت کا لفظ آجائے جیسا کہ پچھلے رکوع میں ہی آچکا ہے تو وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسیح نبی نہیں تھا بلکہ نبیوں سے بالا ہستی تھی۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وہی الفاظ آجائیں تو نہایت خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ بلکہ کفار کے مطالبہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آیات نہیں دکھائی جاتیں اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نشان نہیں دکھایا۔ حالانکہ اگر کفار کے آیات مانگنے سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا تو پھر یہی اعتراض حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اور ان کے متعلق بھی یہی کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ چنانچہ متی باب ۱۲ آیت ۳۸، ۳۹ میں لکھا ہے کہ

”تب بعضے فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں کہا۔ کہ اے اُستاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا

چاہتے ہیں۔ اُس نے انہیں جواب دیا اور کہا کہ اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں

پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اُس وقت تک جب آپ نے یہود کو یہ جواب دیا تھا کوئی

معجزہ نہیں دکھایا تھا۔ اور پھر اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری عمر یہود کو کوئی نشان نہیں دکھایا

کیونکہ یونس نبی سے مماثلت کا نشان وہ ہے جو اُن کی موت کے وقت ظاہر ہوا۔ اور یہود کا سوال یہ تھا کہ ہمیں اب

کوئی نشان دکھایا جائے۔ مگر جب اُن سے کوئی نشان طلب کیا گیا تو انہوں نے بقول انجیل یہ کہا کہ اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگوں کو کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا۔ گویا انہوں نے دشمن کے مقابلہ میں اپنے عجز کا اقرار کر لیا۔ اور کہا کہ اُن کو سوائے یونس نبی کے معجزہ کے اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا اور آئندہ کے لئے بھی صرف ایک نشان کا انہوں نے وعدہ کیا مگر یہ وعدہ بھی غلط ہو گیا۔ کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر مر گئے تھے۔ اور مر کر ہی وہ قبر میں گئے تھے۔ حالانکہ یونس علیہ السلام سمندر میں گرے تو زندہ رہے۔ پھر مچھلی نے اُن کو نگلات بھی وہ زندہ ہی رہے۔ اور پھر اس کے پیٹ میں سے بھی زندہ ہی نکلے۔ مگر مسیح علیہ السلام تو اُن کے نزدیک صلیب پر ہی مر گئے تھے۔ گویا ایک ہی معجزہ جس کے دکھانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اُس کے متعلق مسیحیوں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں دکھایا گیا۔ اور اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کوئی نشان نہیں دکھایا۔

مگر اس کے مقابلہ میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی کثرت کے ساتھ معجزات دیئے گئے تھے۔ عیسائی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو معجزات منسوب کئے جاتے ہیں انہیں ہم معجزہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے مگر یہ کہنا کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا منکر ہے حد درجہ کا ظلم ہے۔ قرآن کریم نہایت واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے بڑے معجزات دیئے گئے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ** یعنی ہم نے یقیناً تجھ پر کھلے کھلے نشانات نازل کئے ہیں۔ اس جگہ آیات بیّنات سے وہ تمام نشانات مراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے اور جن کی نظیر نہ موسیٰؑ کے نشانات میں مل سکتی ہے اور نہ عیسیٰؑ کے نشانات میں۔ مگر فرمایا۔ **وَمَا يَكْفُرُ بِهِآ إِلَّا الْفٰسِقُونَ** باوجود اس کے کہ نشانات الہیہ کی بارش برس رہی ہے پھر بھی اطاعت سے نکل جانے والے لوگ انکار پر کمر بستہ ہیں۔ مگر اُن کا انکار اُنہیں کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ جس طرح پہلے نبیوں کے منکر تباہ ہوئے اُسی طرح یہ بھی تباہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سکیم کو پورا کر کے رہے گا جس کے لئے وہ متواتر اپنے نبیوں سے ہر زمانہ میں پیشگوئیاں کروا تا چلا آیا ہے۔

أَوْ كَلَّمَا عَهْدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ط بَلْ

اور کیا (یہ بری بات نہیں کہ) جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پھینک دیا۔

أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۱﴾

(یہی نہیں) بلکہ ان میں سے اکثر (تو) ایمان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔

تفسیر۔ فرماتا ہے۔ ہرنی کے وقت لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ مگر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ انہیں میں سے کچھ لوگ اُس عہد کو پس پشت پھینک دیتے ہیں۔ اور ان کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ مرض صرف یہود ہی میں نہیں بلکہ تمام اقوام اس مرض میں شریک ہیں۔ ہر قوم میں ایسے لوگ ہیں جن میں عہد و پیمان کو پس پشت پھینک دینے کا مرض پایا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ مرض کبھی دُور بھی ہوگا یا نہیں۔ نبی کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اُس وقت آسمان و زمین کے ذرہ ذرہ میں ایک ہجیان پایا جاتا ہے اور جس طرح ایک عورت کو بچہ جننے کے وقت دردِ زہ کی تکلیف ہوتی ہے اسی طرح نبی کے آنے کے وقت زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ میں دردِ زہ کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اُس کی صداقت ثابت کرنے کے لئے کہیں زلزلے آتے ہیں۔ کہیں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کہیں ستارے ٹوٹتے ہیں۔ کہیں بیماریاں پڑتی ہیں۔ کہیں قحط آتے ہیں۔ غرض سارے عالم میں ایک ہجیان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسی دردِ زہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا پر موت کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آخر دردِ زہ کی اس کیفیت کے بعد نیچر میں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی غور و پرداخت شروع ہو جاتی ہے۔ مگر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ کچھ لوگ فتنہ و فساد اور شرارت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان پھر اپنا سراٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس قسم کے شیطانی عنصر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اُن میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو حقیقی ایمان سے محروم ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بے ایمان بنا دیں۔ اور اُس مقصد کو باطل کر دیں جس کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا تھا۔

وَلَبَّآ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا رسول آیا جو اس (کتاب) کو جو ان کے پاس ہے سچا کرنے والا

مَعَهُمْ نَبَأٌ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۗ كَتَبَ اللَّهُ

ہے تو ان لوگوں میں سے جنہیں (وہ) کتاب دی گئی تھی ایک فریق نے اللہ کی (تازہ) کتاب کو اپنی پٹھوں کے پیچھے

وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۲﴾

پھینک دیا۔ گویا کہ وہ (اسے) جانتے ہی نہیں۔

تفسیر۔ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو ایک فریق اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ حالانکہ خدا کا بلاوا کوئی معمولی چیز نہیں۔ اگر ایک معمولی افسر کا بھی بلاوا آجائے تو بسا اوقات انسان پھولا نہیں سماتا۔ مگر خدا تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دل میں نور ایمان ہو تو اس آواز کو سن کر انسان پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو جانی چاہیے۔ دنیا کے اعزاز اس کے مقابلہ میں کیا چیز ہیں؟ خدا تعالیٰ خود بندوں کو یاد کرتا ہے۔ اور اپنا نبی ان میں بھیجتا ہے مگر لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں کہ وہ اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ اُس آواز پر لیک کہنا ان کے لئے فخر کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہود کو تو خوشی منانی چاہیے تھی کہ ہماری کتابوں کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے اور یہ نبی ان کی کتابوں اور بزرگوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مگر وہ قوم جو غلط رویہ اختیار کر چکی ہو وہ ایسا کس طرح کر سکتی ہے؟

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ سے یہی مراد ہے کہ اس رسول نے اپنی بعثت کے ساتھ ان پیشگوئیوں کو پورا کر دیا ہے جو خدا تعالیٰ نے ان کتابوں میں بیان فرمائی تھیں جو یہود کے پاس ہیں۔ گویا اس رسول کے ذریعہ اسرائیلی نبیوں کی صداقت واضح ہو رہی ہے۔ پس اس رسول پر ایمان لانا درحقیقت ان کا اپنے سابق الہامی کلام کی تصدیق کرنا اور اُس کے حکموں کی تعمیل کرنا ہے۔ اور اگر یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے تو یہ اپنی کتاب اور اپنے نبیوں کی پیشگوئیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُصَدِّقٌ ہیں موسیٰؑ کے۔ مُصَدِّقٌ ہیں تورات کے۔ مُصَدِّقٌ ہیں تمام اسرائیلی نبیوں کے مگر ان معنوں میں نہیں کہ تورات اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا موسیٰؑ اور عیسیٰؑ اور دوسرے نبیوں پر ایمان لانا ہی کافی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ وہ صرف

ان معنوں میں مُصَدِّق ہیں کہ آپ نے اپنی بعثت سے اُن کی پیٹھوں کو سچا ثابت کر دیا اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ اور دوسرے اسرائیلی نبیوں کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ اب یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنی کتاب کی لاج رکھتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں یا اسے رد کر دیں۔ مگر جیسا کہ آیت کے اگلے ٹکڑے میں بیان کیا گیا ہے یہود نے ان پیٹھوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔

اس جگہ کِتَابِ اللّٰهِ سے مراد تورات ہے اور اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دینے سے یہ مراد ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسی تذلیل کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ گویا وہ اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انہیں ادب کرنا چاہیے تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو الگ رہی نبیوں کے کلام کی تحقیر بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کو جو تبلیغی خط لکھا تھا وہ اُس نے اپنی بیوتونی سے پھاڑ ڈالا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا۔ اس نے ہمارا خط پھاڑا ہے خدا اس کی سلطنت کو تباہ کرے (بخاری کتاب العلم باب ما یذکر فی المناولہ۔۔۔)۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خط کو پھاڑ کر انسان اتنی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکنے والا اور اُس کی تذلیل کرنے والا کتنی سزا کا مستحق ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا خط پھاڑنے والے کو تباہ کر دیتا ہے تو وہ اپنے خط کی تذلیل کس طرح برداشت کر سکتا ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا

نیز وہ (یعنی یہودی) اس (طریق عمل) کے پیچھے پڑ گئے جس کے پیچھے سلیمانؑ کی حکومت کے زمانہ میں (اس کی

كُفْرَ سُلَيْمَانَ ۖ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ

حکومت کے) باغی پڑے رہتے تھے۔ اور سلیمانؑ کا فر نہ تھا بلکہ (اس کے) باغی کافر تھے۔ وہ لوگوں کو دھوکا دینے

السَّحَرِ ۚ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ

والی باتیں سکھاتے تھے اور (بزعم خود) اس بات کی (بھی نقل کرتے ہیں) جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت

مَارُوتٌ ط وَ مَا يُعَلِّمِن مِّنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا

پراتاری گئی تھی۔ حالانکہ وہ دونوں (تو) جب تک یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ہم (خدا تعالیٰ کی طرف سے) آزمائش کے

نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ

طور پر (مقرر ہوئے) ہیں۔ اس لئے (اے مخاطب! ہمارے احکام کا) انکار نہ کرنا۔ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جس

بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ط وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ

پروہ (یعنی اس زمانے کے لوگ) ان (دونوں) سے وہ بات سیکھتے تھے جس کے ذریعہ سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے

أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا

درمیان تفریق کر دیتے تھے اور وہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کو بھی اس (بات) کے ذریعہ سے ضرر نہیں پہنچاتے تھے۔

يَنْفَعُهُمْ ط وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي

اور (اس کے بالمقابل) یہ (یعنی رسول کریم صلعم کے دشمن) تو وہ بات سیکھ رہے ہیں جو انہیں ضرر دے گی اور نفع

الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ط وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ط

نہیں دے گی۔ اور یہ لوگ یقیناً جان چکے ہیں کہ جو اس (طریق) کو اختیار کر لے آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۳﴾

اور وہ چیز جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ رکھا ہے بہت ہی بُری ہے۔ کاش کہ یہ جانتے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - تَتَلَّوْا تَلَا سے مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تَلَا ماضی کا صیغہ ہے۔ جو

مختلف معنوں میں آتا ہے۔ جن میں سے ایک معنی پیچھے چلنے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ تاج العروس میں تَلَوْتُه تَلَوْتُہ

کے معنی لکھے ہیں تَبِعْتُهُ میں نے اُس کی پیروی کی۔ اور لکھا ہے وَذَلِكَ لِيَكُونَ بِالْحَيْسَمِ وَتَارَةً بِأَلَا فِتْنَاءِ فِي

الْحُكْمِ - یہ اقتداء ظاہری رنگ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اقتداء فی الحکم کے رنگ میں بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہری اتباع

کے معنی میں اس کا استعمال قرآن کریم میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَبْرِ إِذْ أَنْتَ لَهَا (الشمس: ۳) ہم چاند کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ اور معنوی پیروی کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ الَّذِينَ اتَّبَعْتَهُمْ يَتْلُونَ آيَاتِهِ حَقًّا تَلَاوِيَةً (البقرة: ۱۲۲) یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اسی طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ گویا وہ اتباع کا حق ادا کر دیتے ہیں۔

عَلَىٰ اور معنوں کے علاوہ فِي کے معنی میں بھی مستعمل ہے (معنی اللیب)۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ مِّنْ عَلَىٰ بِمَعْنَىٰ فِي ہی استعمال ہوا ہے۔

مَلِكٌ کے (۱) ایک معنی الْعِظْمَةُ وَالسُّلْطَانُ کے ہیں یعنی غلبہ اور دبدبہ (۲) اس کے دوسرے معنی ہیں إِحْتِيََاءُ الشَّيْءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَىٰ الْإِسْتِعْلَاءِ بہ یعنی کسی چیز پر کسی شخص کا قبضہ کر لینا۔ اس پر حاوی ہو جانا اور اس کو اپنے منشا کے مطابق کر لینا (لسان العرب) یہ معنی بھی دبدبہ کا ہی مفہوم رکھتے ہیں (۳) اس کے تیسرے معنی مَلِكٌ کے بھی ہیں جو عام مروج ہیں۔

سِحْرٌ اس کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ اول۔ كُلُّ مَا لَطَفَ مَا أَخَذَهُ وَدَقَّقَ۔ ہر وہ بات جس کا ماخذ نہایت باریک اور دقیق ہو۔ اور جس کی اصلیت معلوم نہ ہو سکے سحر کہلاتی ہے۔ دوم۔ فساد۔ سوم۔ إِخْرَاجُ الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ۔ باطل کو سچائی کی صورت میں پیش کرنا۔ چہارم۔ خِدَاعٌ یعنی دھوکا۔ پنجم۔ لمح سازی۔ ششم۔ راستہ سے ہٹا دینا۔ چنانچہ سِحْرٌ کے معنی ہوتے ہیں صَرْفَةٌ اسے ایک طرف کر دیا۔ (اقرب الموارد)

مَلَائِكِينَ مَلَكٌ کے اصل معنی فرشتہ کے ہیں۔ لیکن مجازاً مَلَكٌ کا لفظ نیک انسانوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس کی ایک قراءت مَلَائِكِينَ بھی آتی ہے (بحر محیط زیر آیت هَذَا) اور قراءت صحیح معنوں کی مفسر ہوتی ہے اس لئے یہ دوسری قراءت اس کے صحیح معنوں کو حل کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ اس جگہ دو فرشتے مراد نہیں بلکہ دو فرشتہ خصلت بزرگ مراد ہیں جن کو ان کی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے مَلَكٌ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ مَلَكٌ کا لفظ استعارۃً اچھے اور نیک انسان پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت آتا ہے کہ إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (یوسف: ۳۲) یعنی یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ بڑا بزرگ اور خوبیوں والا انسان ہے۔ مَلَكٌ کے اس استعمال کو مد نظر رکھ کر مَلَائِكِينَ کے معنی یہ ہوئے کہ دو نہایت اچھے شریف اور فرشتہ خصلت بزرگ۔ اور یہی معنی اس جگہ چسپاں ہوتے ہیں۔ مَلَكٌ سے مراد فرشتہ کی بجائے انسان ہم اس لئے بھی سمجھتے ہیں کہ اس جگہ ان دونوں کا کام یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے ملتے تھے اور انہیں اہم باتیں سکھاتے تھے۔

اور قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ ملائکہ انسانوں کی طرف اس طرح نہیں بھیجے جاتے کہ وہ انسانوں میں مل جل کر رہیں اور انہیں پڑھائیں اور سکھائیں۔ بلکہ ہمیشہ انسان رسول ہی لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کئے جاتے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (بنی اسرائیل: ۹۵) یعنی لوگوں کو ہدایت کے قبول کرنے سے سوائے اس بات کے اور کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی نبی آنا تھا تو کیا آدمیوں میں سے ہی آتا؟ فرماتا ہے تو انہیں جواب میں کہہ دے کہ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَنْشُرُونَ مَطَافِيئِهِمْ لَنُنزِّلنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (بنی اسرائیل: ۹۶) اگر زمین میں آدمیوں کی بجائے فرشتے ہوتے جو طمینان سے چلتے پھرتے تو ہم بے شک کسی فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ مگر چونکہ دنیا میں آدمی بستے ہیں اس لئے ہم بھی آدمیوں ہی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ہمیشہ آدمی ہی رسول بن کر آتے ہیں اس لئے اس جگہ بھی انسان ہی مراد ہو سکتے ہیں فرشتے نہیں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بطور واقعہ کے فرماتا ہے کہ جس قدر رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سب انسان ہی تھے۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (الانبیاء: ۸) یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے وہ سب کے سب انسان تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے اور اگر تم کو اس بات کا علم نہیں تو تم ان قوموں سے جن کے پاس کلام الہی ہے پوچھو کہ دنیا میں انسان نبی ہو کر آتے تھے یا فرشتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی آزمائش یا ہدایت کے لئے مَلَكٌ رسول نہیں آئے بلکہ ہمیشہ مرد رسول آتے رہے ہیں۔ اور فرشتے صرف انبیاء و اولیاء پر کلام الہی لے کر نازل ہوتے ہیں یا شاذ و نادر کے طور پر بعض دوسرے لوگوں کو بھی کشفی طور پر نظر آجاتے ہیں اور چونکہ اس آیت میں بتایا ہے کہ وہ دونوں مَلَكٌ دنیا میں رہتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس لئے اس جگہ مَلَكٌ سے دو فرشتے نہیں بلکہ دو فرشتہ خصلت بزرگ مراد ہیں جو اپنی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ میں شامل تھے۔ یعنی انہیں جو بھی حکم دیا جاتا اُس پر وہ چلتے تھے۔ اور اُس کی کسی حالت میں بھی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اور چونکہ ملائکہ کی بھی یہی صفت ہے۔ اس لئے ان کا نام بھی مَلَكٌ رکھا گیا۔

پھر اس کی ایک قرأت جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے مَلَكٌ بھی آئی ہے۔ اس سے بھی ان معنوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ هَاؤُتْ وَمَاؤُتْ دو فرشتے تھے جنہوں نے بابل میں آکر لوگوں کو سحر سکھایا اور اُن کے ایمان کی آزمائش کی وہ قرآن کریم کے مطالب سے آگاہ نہیں۔ ورنہ جب دنیا میں

فرشتے نہیں بستے تو فرشتے رسول بن کر کیوں آئیں پس یہ قطعی طور پر محال ہے کہ بجائے انسان کے فرشتے لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا کریں۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو ہمیشہ رَجُلٌ ہي بن نبی بن کر آیا ہے۔ نہ کبھی عورت نبی بنی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی غیر انسان نبی ہو کر آیا ہے۔

پس یا تو اس کے یہ معنی کرنے پڑیں گے کہ هَاوُوت و مَآرُوت دونوں ملکوتی صفات انسان تھے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اِنَّ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ۔ اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ اگر وہ واقعی فرشتے تھے تو وہ دونوں پر اترے تھے نہ کہ عام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے کیونکہ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّتَشَوْنُ مَطْمَئِنِّينَ (بنی اسرائیل ۹۶) سے ظاہر ہے فرشتے مُطْمَئِنِّينَ کی طرف آیا کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کی طرف جو نیک اور پاک اور خدا رسیدہ ہوں۔ بدیوں سے کُلی طور پر اجتناب کرنے والے ہوں۔ ہر قسم کے رذائل سے محفوظ ہوں اور الہی انعامات اور برکات کے مورد ہوں۔ مُطْمَئِنِّينَ کی یہ وہ تعریف ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان کی ہے يَا كَيْتِهَآ النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ۔ اُدْجِعِي اِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي۔ وَادْخُلِي جَنَّاتِي۔ (الفجر: ۲۸ تا ۳۱) پس مُطْمَئِنِّينَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نفس مُطْمَئِنِّتہ رکھنے والے ہوں۔ یہ مراد نہیں کہ اطمینان سے زمین میں کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہوں اور لڑائیوں سے اجتناب کرتے ہوں۔ اور درحقیقت ایسے ہی لوگوں پر ملائکہ کلام الہی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کفار پر ملائکہ نازل ہوئے ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے گئے ہوں۔

هَآرُوت سے نکلا ہے اور هَرَّتٌ کے معنی ہیں پھاڑنا۔ (تاج) پس هَاوُوت کے معنی ہیں بہت پھاڑنے والا۔ (المنجد)

مَآرُوت سے نکلا ہے جس کے معنی توڑنے کے ہیں۔ پس مَآرُوت کے معنی ہیں بہت توڑنے والا۔ (تاج)

فِتْنَةٌ وہ آزمائش جس کے ذریعہ سے کسی انسان کی خوبی یا برائی معلوم کی جائے۔ اور بھلے بُرے کو پرکھا جائے اور خیر و شر کا پتہ لگایا جائے۔ جیسے امتحان کے ذریعہ انسان کی خوبی یا نقص کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ (المنجد)

تفسیر۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام مئی ۱۹۰۸ء میں فوت ہوئے تھے۔ غالباً آپ کی وفات کے ایک ماہ بعد کی بات ہے کہ مجھے الہام ہوا۔ اِعْمَلُوْا اِلَّآءِ دَاوُدَ شُكْرًا۔ اے داؤد کی نسل شکرگذاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال بجالاؤ۔ اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سلیمان تو استعمال نہیں فرمایا مگر آل داؤد کہہ کر

حضرت سلیمانؑ کی بعض خصوصیات کا مجھ کو وعدہ دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اُن باتوں میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہمیشہ لوگوں کے لئے اضطراب کا موجب رہی ہے مجھ پر ابتدائی زمانہ ہی میں کھول دی تھی اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بھی پیشگوئی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد خلافت کے مقام پر مجھ کو کھڑا کیا جائے گا اور ان مشکلات کا بھی اِس میں ذکر تھا جو میرے راستہ میں آنے والی تھیں۔ چونکہ انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ تکالیف اور اعتراضات سے گھبراتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تکالیف اور اعتراضات کوئی بُری چیز نہیں ہیں بلکہ آلِ داؤد ہونے کے لحاظ سے تمہیں ان کا منتظر رہنا چاہیے۔ اور ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آیت زیر تفسیر میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعض اُن مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے جو اُن کو پیش آئیں۔ گو یہ آیت ہمارے نزدیک واضح ہے لیکن اس کے متعلق پہلے مفسرین کو بہت دقتیں پیش آئی ہیں اور آخر وہ اس کے یہ معنی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ دنیا میں دو دفعہ سحر سیکھا گیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں شیطان آدمیوں میں مل جُل گئے تھے اور وہ اُن کو سحر سکھایا کرتے تھے اور دوسری دفعہ بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت خدا تعالیٰ کی طرف سے اُترے تھے اور وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ مگر وہ لوگوں کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے آزمائش کے لئے بھیجا ہے اسی طرح جو لوگ اُن سے سحر سیکھنا چاہتے تھے اُن کو وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ سحر سیکھنا کفر ہے لیکن اگر تم کفر کرنا چاہتے ہو تو ہم تم کو کفر سکھا دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس جگہ ان دونوں واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

عوام میں اس کے متعلق عجیب عجیب کہانیاں مشہور ہیں ہم بچپن میں وہ کہانیاں سنا کرتے تو بڑے حیران ہوتے تھے۔ اب تو شاید ہی کبھی احمدی بچوں کے کانوں میں وہ کہانیاں پڑتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی برکت سے وہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ اُس کو حَتَّاجِہ سلیمانی کہتے ہیں۔ وہ انگوٹھی شیطانوں نے کسی بہانے سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے لی جس کی وجہ سے ساہا سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام بھٹکتے پھرے اور شیطان اُن کی صورت بن کر لوگوں پر حکومت کرتا رہا۔ ایک لمبے عرصہ کے بعد وہ انگوٹھی ایک شخص کو ملی اور اُس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ بادشاہت نصیب ہوئی۔

اسی طرح ہاروت و ماروت کے متعلق بھی عوام میں یہ قصہ مشہور ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جنہوں نے خدا تعالیٰ پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آدمؑ والے قصہ میں فرشتوں والی بات درست نکلی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا تُو ایسی مخلوق

بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ اور خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے۔ مگر آخر اُن کی بات درست نکلی کہ آدم کی نسل دنیا میں شیطان کے قبضہ میں چلی گئی۔ اُن فرشتوں نے خدا تعالیٰ کو کہا کہ اگر ہم دنیا میں ہوتے تو یہ شرارتیں کیوں ہوتیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو دنیا میں بھیج دیا۔ اور فرمایا کہ تم دنیا میں جاؤ ہم دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وہ دنیا میں آگئے اور لوگوں میں رہے۔ ان کو اسم اعظم اور جادو آتا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے رہے اور خدا تعالیٰ پر یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ لوگ جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ اس کا سیکھنا منع ہے۔ اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے سیکھ لے اور جس کی مرضی ہے نہ سیکھے مگر لوگ پھر بھی سیکھ لیتے۔ وہ صرف مردوں کو سحر سکھایا کرتے تھے جس کے نتیجے میں عورتوں سے جدائی ہو جاتی تھی۔ اسی دوران میں زہرہ نامی ایک کچنی اُن سے اسم اعظم سیکھنے کے لئے آئی۔ وہ دونوں اُس پر عاشق ہو گئے۔ چنانچہ اُن دونوں نے اُسے ایک دن شراب پلائی اور اُس کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہوئے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اُن سے پوچھا کہ اب بتاؤ اس کی سزا میں تم دنیا میں کنوئیں میں لٹکانا چاہتے ہو یا قیامت کے دن تم کو سزا ملے چونکہ انہوں نے خدا کا عذاب دیکھا ہوا تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہی ہمیں عذاب دے دیا جائے۔ چنانچہ باہل میں ایک اندھے کنوئیں میں گرائے گئے اور وہ اُس میں اب تک لٹکے ہوئے ہیں۔ اور زہرہ جس نے اسم اعظم سیکھا تھا عوام کے نزدیک ستارہ بن کر آسمان پر چلی گئی۔ (تفسیر محاسن التأویل للقاسمی زیر آیت ہذا) اُن کے نزدیک آسمان پر جو زہرہ ستارہ دکھائی دیتا ہے وہ وہی کچنی ہے جو ہاروت و ماروت کے پاس آئی تھی۔

کشمیریوں نے تو اس کے متعلق حد ہی کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کا کنواں کشمیر میں ہے۔ گویا وہ باہل سے اُٹھ کر وہاں جا پہنچے تھے۔ ان خرافات کو پیش کر کے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ درست نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدمؑ کو بھیجا۔ مگر اُس کی نسل خراب ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے۔ مگر وہ بھی انسانوں کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ حالانکہ اُن کا یہ نتیجہ سراسر غلط ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ ملائکہ سب کے سب نیک ہوتے ہیں اور اُن میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا مادہ ہی نہیں پایا جاتا۔ لیکن انسانوں میں بعض نیک اور بعض بد ہوتے ہیں۔ اگر انسان خراب ہو گئے تھے تو اعتراض ہوتا ہے کہ آدمیوں کے مقابلہ میں فرشتے بھی خراب ثابت ہوئے۔ اس سے تو اعتراض دور نہ ہوا بلکہ اور بھی پختہ ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے جن کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ نہیں بگڑیں گے۔ وہ بھی بگڑ گئے۔ انسانوں کے متعلق تو فرمایا تھا کہ اُن میں کچھ نیک اور کچھ بد ہمیشہ رہیں گے مگر فرشتوں کے متعلق تو یہ کہا گیا تھا کہ لا یعضون اللہ ما امرهم و یفعلون

مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ۷) ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اُس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ جو کچھ اُن کو کہا جاتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں مگر اس قصہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ خدا تعالیٰ کے صریح احکام کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور کبھی اُن کے مقابلہ میں زُہرہ بن جاتی ہے۔ اور وہ سزا کے طور پر کنوئیں میں لٹکائے جاتے ہیں بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم نے خود ان کو بابل کے کنوئیں میں لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اُن کی زیارت کی ہے مگر یہ سب خرافات اور واہیات قصے ہیں۔

میرے نزدیک یہ کہنا کہ دو فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادو جانتے تھے اور لوگوں کو سحر سکھاتے تھے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اس سے انبیاء اور ملائکہ دونوں پر اعتراض پڑتا ہے۔ اور پھر یہ بات تاریخ کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اس قسم کا سحر کوئی ہے ہی نہیں۔ مسمریزم بالکل اور چیز ہے۔ مگر یہ ادھر کچھ پھونکا اور ادھر کوئی عجیب چیز بن گئی بالکل غلط بات ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔

اصل بات یہ ہے کہ آیت زیر تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہود کی بعض خفیہ سازشوں اور شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ویسا ہی طریق کار اختیار کر رہے ہیں جیسے حضرت سلیمانؑ کے ایام حکومت میں اُن کے مخالف ان کے خلاف کیا کرتے تھے اور جن کے ذریعہ سے وہ آپ کی حکومت کو توڑ دینا چاہتے تھے۔ اور بتایا گیا ہے کہ یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر ان سازشوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

اگر مفسرین کے بیان کردہ قصے درست ہوں جن میں سے زوائد میں نے چھوڑ دیئے ہیں تو اس کا جوڑ بچھلی آیات سے کوئی نہیں بنتا۔ اور یہ آیت بے تعلق ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے اس مضمون سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولا ہے اس کا جوڑ بچھلی آیات سے قائم رہتا ہے اور ملائکہ پر بھی کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کے واقعات کے خلاف بھی کوئی بات نہیں رہتی۔ اور یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت بن جاتی ہے۔

میں بتا چکا ہوں کہ جو قصے اس آیت کے متعلق لوگوں میں مشہور ہیں وہ اوّل تو بے ثبوت ہیں۔ دوم وہ ایسے لغو ہیں کہ عقل اُن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور قرآن کریم کی عبارتیں ان کو رد کرتی ہیں۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہیں اور اس لئے کہ لوگ آسانی سے اس کے معنی سمجھ سکیں۔ میں وہ دماغی اور فکری عمل جو اس نتیجے تک پہنچنے کے لئے طبعی طور پر کام کرتا ہے مد نظر رکھوں گا اور اس کے مطابق تشریح اور تفسیر کروں گا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تین وقت کے اعمال کا ذکر ہے۔ وہ عمل جو تینوں دفعہ ہوا کوئی خفیہ بات یا سازش ہے۔ یہ عمل مندرجہ ذیل تین مواقع پر ہوا ہے۔

اوّل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں

دوم۔ بابل میں

سوم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت اس کا وقوع و اِتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ کے الفاظ سے ثابت ہے۔ اور بابل کے موقع کے لئے مَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَازُوتَ وَمَارُوتَ کے الفاظ شاہد ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس کا صدور و يَنْعَلَمُونَ مَا يَصُورُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ سے ثابت ہے۔ بلکہ دوسری آیت و كَوَّأَهُمْ أَمْنُوا وَاثَقُوا سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ غرض آیت کے یہ تین حصے اس عمل کے تین دفعہ صادر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

چوتھی بات اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ تینوں دفعہ اس عمل کا صدور یہود سے ہوا تھا۔ یہ چار باتیں ہمارے معنوں کو محدود کر دیتی ہیں۔ پس وہی معنی صحیح ہوں گے جو مذکورہ بالا چار باتیں اپنے اندر رکھتے ہوں یعنی وہی معنی ان آیات کے مطابق ہو سکتے ہیں جو

(۱) ایسے عمل پر دلالت کرتے ہوں جو تین دفعہ صادر ہوا ہو۔

(۲) جو کسی ایسے عمل پر دلالت کرتے ہوں جو خفیہ سازش یا خفیہ سوسائٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔

(۳) جو ثابت کرتے ہوں کہ اُن کا ایک وقوع حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت۔ دوسرا بابل میں اور تیسرا

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ہوا۔

(۴) جو معنی یہ بتائیں کہ تینوں واقعات یہود کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔

پس جو معنی اس کے خلاف ہوں گے آیت ان کو رد کر دے گی۔ اسی طرح جو معنی مشترکین نے بیان کئے ہیں

لازمًا اُن میں بھی ان چاروں پہلوؤں میں سے کوئی پہلو ضرور مفقود ہوگا

(۱) یا تو یہود کا ان سے تعلق نہ ہوگا۔

(۲) یا وہ تین دفعہ نہ ہوا ہوگا۔

(۳) یا ان تینوں موقعوں پر نہ ہوا ہوگا۔

(۴) یا اس میں خفیہ سازش اور سوسائٹیوں کا ذکر نہ ہوگا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی بات ہے جو ان چاروں اصول پر حاوی ہو۔ اور پھر تین زمانوں پر حاوی ہو اور انہیں زمانوں پر حاوی ہو جن کا اس جگہ ذکر ہے۔ ان چاروں اصولوں میں سے ایک اصل ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے جس پر ہم اپنی تحقیق کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ وہ معنی ایسی خفیہ سازش اور سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو مرد اور عورت کے درمیان تفریق پیدا کر دیتی تھی۔ یعنی وہاں یہ شرط پائی جاتی تھی کہ اس میں صرف مرد ہی داخل ہو سکتے ہیں عورتیں نہیں۔ اس شرط سے ہمارے لئے تحقیقات میں بہت سی سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی سوسائٹی ہے جو مرد اور عورت میں جدائی ڈالتی ہو اور آیا اس کا تعلق ان زمانوں کے ساتھ ہے؟ سو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی سوسائٹی ہے۔ جس میں مرد اور عورت میں تفریق پیدا کی جاتی ہے۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک نظر آتی ہے۔ بلکہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے تک بھی چلی آئی ہے۔ اور وہ فری میسنز کی سوسائٹی ہے۔ جو پنجاب میں جادو کی سوسائٹی کہلاتی ہے۔ یہ ایک خفیہ سوسائٹی ہے۔ جس کا اصول یہ ہے کہ عورتیں اس کی ممبر نہیں ہو سکتیں صرف مرد ہی ممبر ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہم اصل مضمون کے قریب ہو جاتے ہیں اور ہم اس پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ سوسائٹی مخفی بھی ہے اور پھر مردوں ہی کو اپنے اندر داخل کرتی ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ فری میسن سوسائٹی کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں اس میں صرف اُس فری میسن سوسائٹی کا ذکر ہے جس کا تعلق تین زمانوں سے ثابت ہو اور تاریخی واقعات سے بھی اُس کی تصدیق ہو۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ کسی فری میسن سوسائٹی کا آج تک تسلسل قائم نہیں رہا۔ کوئی چار سو سال تک رہی کوئی پانچ سو سال تک۔ کوئی بارہویں صدی میں مٹ گئی کوئی پندرہویں صدی میں۔ کوئی اٹھارویں صدی میں قائم ہوئی اور پھر اسی صدی میں مٹ گئی اور کوئی انیسویں صدی میں قائم ہوئی۔ پس ہم کسی ایک سوسائٹی کے اصول پر قطعی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ بہت سی سوسائٹیاں قائم ہوئیں اور انہوں نے پہلوں کی بعض باتیں لے لیں اور بعض ترک کر دیں۔ مگر ایک اصل میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایسی خفیہ سوسائٹی کا یہود سے تعلق ہونا چاہیے۔ کیونکہ ان تینوں باتوں کا یہود سے ہی تعلق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا فری میسن سوسائٹی کا یہود سے کوئی تعلق ہے؟

سو یاد رکھنا چاہیے کہ جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۵ جس میں یہودیوں کے متعلق فری میسنری Freemasonry کے ماتحت اس بات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فری میسنوں کا یہود سے کوئی تعلق ہے۔ اسی سے اس بات

کا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے کہ یہود کا فری میسنوں سے تعلق رہا ہے۔

اؤل تو انسان اسی مضمون سے سمجھ سکتا ہے کہ اُن کا اس سوسائٹی سے تعلق رہا ہے ورنہ انہیں جواب دینے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن اس کے علاوہ خود اس مضمون سے بھی واضح ہے کہ یہود کا اس سوسائٹی سے تعلق رہا ہے۔ چنانچہ جیوش انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فری میسن سوسائٹیوں کے اصولوں میں یہودی نشانات پائے جاتے ہیں اور یہ بات سوسائٹی کا ان سے تعلق ظاہر کرتی ہے۔ کیونکہ ان نشانات کا ابتدائی تعلق ان انجینئروں کے ساتھ ثابت ہے جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ معبد میں دخل تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس سوسائٹی کی علامات حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے تیار کردہ معبد کے انجینئروں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ سوسائٹی بھی تسلیم کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا پہلا معبد بنایا اس وقت سے ہماری سوسائٹی کی ابتدا ہوئی۔ بلکہ بعض لوگ اس سے بھی اوپر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہماری ابتدا ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہمارے گرینڈ ماسٹر ہیں۔ جیوش انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ ان کی روایات میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اُن کا حورام ابی سے تعلق ہے جس نے مسجد بنائی تھی اور جس کا ذکر ۲-تواریخ باب ۲ آیت ۱۳ و ۱۴ میں اس طرح آتا ہے۔

”اور اب میں حورام ابی ایک ہوشیار شخص کو جو کہ امتیاز کرنا جانتا ہے بھیجتا ہوں وہ دان کی بیٹیوں میں سے ایک عورت کا بیٹا ہے۔ پر اس کا باپ صُور کا ایک شخص ہے۔ وہ سونے اور روپے اور پیتل اور لوہے اور پتھر اور لکڑی اور ارغوانی اور آسمانی اور کتانی اور قمری اور ہر طرح کی نقاشی کا کام جانتا ہے۔ اور ہر ایک منصوبے کو جو اس سے پوچھا جاوے اس کی ایجاد کرنے میں ماہر ہے۔ وہ تیرے ہنرمندوں اور میرے مخدوم تیرے باپ داؤد کے ہنرمندوں کے ساتھ سب کام بناوے گا۔“

فری میسنوں کی روایات کے مطابق مسجد بننے کے بعد تین مزدوروں نے حورام ابی کو قتل کر دیا تھا۔ اور فری میسنوں کی رسموں میں اس کی موت کو بڑا بھاری بھید قرار دیا جاتا ہے۔

مصنف کہتا ہے کہ ہم اس کا حل یوں کر سکتے ہیں کہ ابی لٹریچر میں جو روایات آتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انجینئروں نے کام پورا کر لیا تو ان کو اس وجہ سے قتل کروا دیا گیا کہ وہ مسجد کو بُت خانہ نہ بنا دیں اور اس طرح اس کی ہتک نہ ہو۔ ان کی روایات میں یہ آتا ہے کہ حورام حنوک کے پاس آسمان پر بیٹھا ہے۔ فری میسنوں کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ باقی انجینئروں کو بھی قتل کروا دیا گیا تھا مگر حورام آسمان پر اُٹھ لیا گیا۔ مصنف کہتا ہے کہ ہماری

رائے ہے کہ باقی تاریخی کتب میں اس بات کا ذکر نہیں آتا۔

پھر وہ کہتا ہے کہ جو اصطلاحات و نشانات اور یہودی خیالات و روایات فری میسنوں میں پائی جاتی ہیں بالکل ممکن ہے کہ بغیر یہودیوں کے دخل کے خود انہوں نے بائبل سے نقل کر لی ہوں۔ لیکن بہر حال بہت سی روایات یہود سے لی گئی ہیں اور ان کے دوست فری میسنوں کی علامات میں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ چنانچہ دو عمود Jachin اور Boaz کو فری میسنوں کی علامات میں خاص اہمیت دی جاتی ہے۔

فری میسن سوسائٹی کا یہود سے تعلق اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ سکاٹ لینڈ کی فری میسنر سوسائٹی میں جو فری مین نے اور سال استعمال کئے جاتے ہیں وہ ابتدائی یہودی زمانہ کے استعمال کئے جاتے ہیں مگر جیوش انسائیکلو پیڈیا کا مصنف اس کے متعلق کہتا ہے کہ کیا پتہ ہے کہ وہ عیسائیوں کے ذریعہ سے ان میں داخل ہو گئے ہوں۔ وہ ان اصطلاحات کی لسٹ دیتا ہے جو ان میں داخل ہیں۔ اور وہ تیس چالیس کے قریب ہیں۔ اسی طرح فری میسنوں کی جو اصطلاحات ہیں ان میں حورام کا بھی نام آتا ہے اور وہ ساری رسوم اور اصطلاحات یہودی ہیں اور انسائیکلو پیڈیا میں اسے تسلیم کیا گیا ہے۔

فری میسنوں کی کتابوں میں یہ بھی روایت پائی جاتی ہے کہ ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے مقابلہ تھا۔ چنانچہ فری میسنوں کی ایک کتاب ”دنیا کی خفیہ انجمنیں“ ہے۔ اس کی جلد اول صفحہ ۱۰ تا ۱۰ میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت ان کا ایک انجینئر حورام تھا اُس پر بلقیس عاشق ہو گئی تھی اور وہ بلقیس پر عاشق تھا۔ سلیمان کو حسد پیدا ہوا اور انہوں نے حورام کے تین نابوں کو جو اس کے حاسد تھے اپنے ساتھ ملا کر اسے قتل کروا دیا اور خود بلقیس سے جبراً نکاح کر لیا۔ اور یہ کہ اسی وقت سے فری میسن چلے آ رہے ہیں۔ اور ان میں معماری کی علامات پائی جاتی ہیں۔ بلکہ فری میسنر Accepted Masons کے معنی ہی آزاد معماری کے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فری میسنر سوسائٹی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں کا گہرا تعلق تھا اور لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور فری میسنوں میں دشمنی ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور بھی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت ایک خفیہ سوسائٹی تھی جو آپ کے خلاف کام کر رہی تھی اور وہ ایک پرانی روایت ہے جو قدیم فری میسنوں میں مشہور تھی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بلقیس سے قبل بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حورام سے دشمنی تھی۔ وہ بڑا عقلمند اور ذہین تھا اور اسے بڑا سوخ حاصل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی عقل اور ذہانت پر حسد تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ اسے خفیہ طور

پر ہلاک کرنا چاہا اور اسے اُبلتے ہوئے تیل کے تالاب میں گرادیا۔ لیکن اس کے دادا قابیل کی روح نے اس کو وہاں سے نکال کر بچا لیا مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی خبر دے دی کہ آخر دشمن غالب آجائے گا۔ اسی کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاسدوں کو کچھ دے دلا کرتین انجینئروں کو قتل کروادیا جن میں یہ بھی شامل تھا۔

اس کی نسبت یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے کچھ خفیہ علامات مقرر کی ہوئی تھیں۔ جو اس نے خود وضع کی ہوئی تھیں۔ اور جو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے درمیان بطور راز کے تھیں جن کے ذریعہ وہ فوراً کٹھے ہو جاتے تھے۔ (سیکرٹ سوسائٹیز آف دی ورلڈ جلد ۲ صفحہ ۱ تا ۱۰) اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایکسپنڈ میسنرز (Accepted Masons) کے طریق سے پہلے تمام فری میسنرز سوسائٹیوں میں وہی علامات جاری تھیں جو حورام کے وقت جاری تھیں۔ ان میں جو نئے لوگ داخل ہوتے اور ممبر بنتے تھے ان کو کچھ خفیہ باتیں عمل کرنے کے لئے بتائی جاتی تھیں اور حورام کا واقعہ بھی ان کو سنایا جاتا تھا۔ (جلد دوم صفحہ ۱۰) یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جب کسی کو فری میسنر بناتے تھے تو اسے حورام کا قصہ کچھ زبانی سنایا جاتا تھا اور کچھ ڈرامے کے طور پر دکھایا جاتا تھا۔

انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں یہ ذکر ہے۔ کہ حورام کا ذکر فری میسنر کی علامات میں دُہرایا جاتا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ پتہ لگ جائے کہ وہ علامات کیا ہیں۔ مگر وہ علامتیں اُس کے گلے میں بندھی ہوئی تھیں۔ جب اسے حضرت سلیمانؑ نے قتل کیا تو انہیں اتار کر پھینک دیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خفیہ انجینئرز حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت موجود تھیں اور وہ آپ کی دشمن تھیں اور آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کیا کرتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُن کے لیڈر کو مروادیا تھا۔ اُس کے بعض متبع اُسے اتنا مقدس انسان سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ مرانہیں بلکہ آسمان پر اُٹھالیا گیا ہے۔ پس یہ لوگ یہودی تھے۔ ان میں یہود کی علامات اور رسوم کا پایا جانا اور اُن کو حورام کی طرف منسوب کرنا اور حورام کا اُن کے نزدیک آسمان پر اُٹھایا جانا بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت یقیناً ایک خفیہ سوسائٹی تھی جس کا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نقصان پہنچانا تھا۔

اس کے بعد ہم بائبیل کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کچھ سوسائٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف تھیں گو اُن میں حورام کا نام نہیں آتا مگر بائبیل سے یہ پتہ ضرور لگتا ہے کہ یہود کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے دشمنی تھی۔ وہ انہیں کافر کہتے تھے اور اُن کی طرف وہی بات منسوب کرتے تھے جس کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر آتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف خفیہ سازشوں اور منصوبوں اور دھوکا دینے والے اشارات میں مخالفانہ کارروائیاں کرنے والے لوگوں کا جو ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے اس کے متعلق ۱۔ سلاطین باب ۱۱ آیت ۳، ۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بت پرستی کا الزام لگایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ مشرک ہو گئے ہیں اور تو حید کو ترک کر دیا ہے۔

چنانچہ لکھا ہے:

”اُس کی سات سو جو روئیں بیگمات تھیں اور تین سو حرمیں۔ اور اُس کی جو روں نے اُس کے دل کو پھیرا۔ کیونکہ ایسا ہوا کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اُس کی جو روں نے اُس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا اور اُس کا دل خداوند اپنے خدا کی طرف کامل نہ تھا جیسا اس کے باپ دادوں کا دل تھا۔“

اسی طرح ۱۔ سلاطین باب ۱۱ آیت ۹، ۱۰ میں لکھا ہے:-

”اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اُس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا جس نے اُسے دوبار دکھائی دے کر اُس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اُس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر کہتے تھے اور آپ کی نسبت بت پرستی کا الزام لگایا جاتا تھا اور لوگوں میں اُسے پھیلا یا جاتا تھا۔ عَلِي مُلْكٍ سُلَيْمٰنٍ کے الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت اُن کو کافر کہنے کا عام رواج تھا۔

دوسری بات جس کا وہاں سے پتہ لگتا ہے یہ ہے کہ جو لوگ بظاہر ان کے ماتحت تھے وہی ان کے خلاف فساد کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بقول بائبل مشرک ہو گئے تھے اس لئے خدا نے اُن کے تین دشمن کھڑے کر دیئے تھے۔

اوّل: ادومی ہد ہد

دوم: الیدع کا بیٹا زون دمشق کا بادشاہ۔

سوم: یربعام جسے انخیاہ نبی نے سلیمان کی مخالفت پر ابھارا۔

چنانچہ ۱۔ سلاطین باب ۱۱ آیت ۱۴، ۲۳ و ۲۶ میں لکھا ہے:-

”سو خدا نے ادومی ہد ہد کو ابھارا کہ سلیمان کا دشمن ہو۔“

یہ ہد ہد اومی بادشاہوں کی نسل میں سے تھا اور حضرت داؤد کے وقت مصر بھاگ گیا تھا مگر سلیمان کے تخت نشین ہونے پر پھر واپس آ گیا اور اُس نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔

پھر لکھا ہے:

”اور خدا نے الیدع کے بیٹے رزون کو بھی ابھارا کہ سلیمان کا مخالف ہو۔..... اور اُس نے اپنے پاس لوگ جمع کر لئے اور جب داؤد نے ضوباہ والوں کو قتل کیا تو وہ ایک فوج کا سردار ہو گیا۔ اور وہ دمشق جا کر وہیں رہنے اور دمشق میں سلطنت کرنے لگے۔“

”اور صریدہ کے افرامی نباط کا بیٹا یربعام جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی صرود تھا اُس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا۔“

ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ آپ کے خلاف کئی اندرونی دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی طرف سے آپ کے خلاف خفیہ سازشیں بھی ہوتی تھیں۔ چنانچہ ۲۔ توارخ باب ۱۰ آیت ۲ تا ۴ میں لکھا ہے:

”اور ایسا ہوا کہ جب نباط کے بیٹے یربعام نے جو مصر میں تھا کہ وہاں سلیمان بادشاہ کے آگے سے نکل بھاگا تھا یہ سننا تو یربعام مصر سے پھر آیا اور لوگوں نے بھیج کر اُسے بلایا۔ سو یربعام اور سارے اسرائیلی آئے اور یربعام سے ہمکلام ہوئے اور بولے کہ تیرے باپ نے ہم پر بھاری جوا رکھا۔ سو اب تو اس سنگین خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ ہلکا کر تو ہم تیری خدمت کریں گے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کی وفات کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے آپ کے خطرناک دشمن یربعام کو مصر سے بلا بھیجا اور آپ کے بیٹے کے تخت نشین ہونے سے پہلے ہی اس سے بعض مطالبات منظور کروانے چاہے اور اپنی اطاعت کو اُن مطالبات کی منظوری کے ساتھ مشروط قرار دیا۔

بائبل سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اُن میں خفیہ علامتیں بھی مقرر تھیں۔ چنانچہ ۱۔ سلاطین باب ۱۱ آیت ۲۹ تا ۳۲ میں لکھا ہے:-

”اور ایسا ہوا کہ یربعام ایک بار یروشلم سے باہر گیا۔ اس وقت سیلانی انخیاہ نبی نے اُسے راہ میں پایا۔ اور وہ ایک نئی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے۔ سو انخیاہ نے اُس نئی

چادر کو جو اس پر تھی۔ پکڑ کے پھاڑا اور بارہ ٹکڑے کئے۔ اور یربعام کو کہا کہ دس ٹکڑے تولے کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لوں گا اور دس فرقے تجھے دوں گا۔ مگر ایک فرقہ میرے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلم کے لئے ہاں اس شہر کے لئے جسے میں نے بنی اسرائیل کے سارے فرقوں کے شہروں میں سے چُن لیا ہے اُسے دیا جائے گا۔“

اس حوالہ میں خدا تعالیٰ کا نام تو معلوم ہوتا ہے یہود بعد میں لے آئے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یربعام ایک دلیر آدمی تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ باڈی گارڈ کا افسر تھا اور حاجب کا عہدہ رکھتا تھا۔ اس لئے ایسے شخص کو ساتھ ملا یا گیا اور تصویری زبان میں بات کرنا اُس میلان کو ظاہر کرتا ہے جو فری میسنوں کی طرف ان لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ چنانچہ اس غرض کے لئے چادر کے بارہ ٹکڑے کئے گئے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے بارہ فرقے تھے اور دس ٹکڑے یربعام کو دیئے گئے۔ اُسے دس ٹکڑے دینے کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی دس قومیں تیرے ساتھ ہیں۔ تم حضرت سلیمانؑ کے خلاف بغاوت کر دو۔ چنانچہ اُس کے فوراً بعد بغاوت ہو گئی اور اُن دس فرقوں نے اُسے اپنا بادشاہ بنا لیا اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگایا جاتا تھا یا پھر یربعام نے سلطنت سنبھالتے ہی مختلف بتوں کے لئے مندر بنوانے شروع کر دیئے اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ ۲۔ توارنخ باب ۱۱ آیت ۱۵ میں اس کے متعلق یوں لکھا ہے۔

”اور اُس نے اپنے واسطے اونچے مکانوں کے اور شیطین کے اور اُن بچھڑوں کے لئے جو اُس نے بنائے تھے کا ہنوں کو مقرر کیا“۔

ان حوالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں لوگ تصویری زبان میں باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو یہ سبق دیا گیا تھا کہ تم اشارات میں اپنا کام کرو تا کہ سلیمانؑ کو اس کا پتہ نہ لگے۔ غرض لالچ دینا، عہدوں پر مقرر کرنا، رشوت دینا، خفیہ سازشیں کرنا اور اشاروں میں باتیں کرنا ان کا کام تھا۔

غرض وَ اتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَا لَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسِ السِّحْرِ كِي آيات میں اُن ساری سازشوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کرتے تھے اور بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہود بھی ویسی ہی شرارتیں کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی سازشوں میں ناکام رہیں گے۔

دوسرا موقع قرآن کریم نے بابل کا بیان کیا ہے۔ اُس وقت بھی بنی اسرائیل نے خفیہ سوسائٹیوں سے کام لیا

تھا۔ لیکن اُس وقت اُن کے سردار اور لیڈر خدا تعالیٰ کے دو نبی تھے جو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اُن کی رہائی کے لئے کوشش کر رہے تھے۔ اور اُن کا کام بنی اسرائیل کے دشمنوں کو توڑنا اور پھاڑنا تھا۔ یہ جن لوگوں کو اس مقصد کے لئے اپنے ساتھ ملاتے تھے انہیں کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہیں۔ ہمارے ذریعے سے نیکیوں اور بدوں میں فرق کیا جائے گا اس لئے ہماری بات کا انکار نہ کرنا کہ یہ کفر ہے اور وہ اپنے اس ارادہ اور سکیم سے عورتوں کو آگاہ نہ کرتے تھے اور نہ اُن کو اپنے ساتھ ملاتے تھے یہ ایک قدیم رسم ہے جو اکثر خفیہ سوسائٹیوں میں چلی آتی ہے کہ وہ عورتوں کو اپنے اندر شامل نہیں کرتیں۔ بنی اسرائیل اور اُن کے وہ نبی جن کا نام اس آیت میں ہاروت و ماروت رکھا گیا ہے اپنی ان خفیہ تدابیر سے صرف ان لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ان کے خلاف کوشش کرو اور انہیں نقصان پہنچاؤ۔ پس اب دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ بابل میں کیا واقعہ ہوا تھا؟

بابل کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چند سو سال بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر یہودیوں کو یروشلم سے پکڑ کر اور انہیں قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ بارہ قبیلے تھے جن میں سے دس کو وہ قید کر کے لے گیا اور دو کو چھوڑ گیا (۲-سلاطین باب ۲۵ آیت ۱۳ تا ۱۴)۔ (یہ دس قبیلے پھیل کر کشمیر وغیرہ کی طرف آ گئے) بنی اسرائیل کے جلاوطن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یرمیاہ نبی نے یہ خبر دی تھی کہ اگر تم سبت کا احترام نہ کرو گے تو تم پر تباہی آجائے گی (یرمیاہ باب ۱۷ آیت ۲۷)۔ چنانچہ اس کی وجہ سے وہ قید ہو کر بابل میں چلے گئے۔ بابل میں ان کو رہتے ہوئے عرصہ گزر گیا مگر اُن کو نجات نہ ملی۔ آخر انبیاء بنی اسرائیل کے ذریعے یہ پیشگوئیاں ہوئیں کہ وہ واپس اپنے مرکز میں لے جائے جائیں گے۔ چنانچہ ان پیشگوئیوں کے مطابق ستر سال کے بعد مید اور فارس کا ایک بادشاہ بنا جسے خورس اور انگریزی میں سائرس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کئے کہ اُس کی بابل کے بادشاہ کے ساتھ لڑائی ہوگئی۔ چونکہ یہ بادشاہ طاقت پکڑ رہا تھا اس لئے بابل اور دوسری حکومتوں نے اُس پر حملہ کرنا چاہا۔ مگر یہ اُن سے زیادہ دانا نکلا۔ اُس نے ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اور بابل پر بھی حملہ کر دیا۔ ہاروت و ماروت جو دو نبی تھے انہوں نے اُس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ باہر سے حملہ کرے تو یہود اندر سے اُس کی مدد کریں گے۔ اور اُس نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ بابل فتح ہونے پر تمہیں واپس یروشلم جانے کی اجازت ہوگی۔ بلکہ میں تمہیں معبد کی تعمیر کے لئے بہت کچھ مدد بھی دوں گا۔ چنانچہ اُس نے بابل پر حملہ کیا اور اندر سے یہود نے اُن کی مدد کی اور بابل فتح ہو گیا۔ اور انہیں واپس اپنے وطن یروشلم جانے کی اجازت ملی۔ اور عزرا نبی کے زمانہ میں یروشلم پھر آباد ہوا۔ اور

خورس نے ان کو بہت ساسامان اپنے پاس سے دیا جس میں لکڑی وغیرہ بھی تھی۔ چنانچہ ہسٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ۲ صفحہ ۱۲۶ میں یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ یہود نے خورس سے خفیہ معاہدہ کیا تھا اور اُس کے حملہ آور ہونے پر اندر سے اُس کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے وہ بابل پر قابض ہو گیا اور اُس کی مدد سے یہود بابل کی قید سے رہا ہو کر واپس اپنے وطن چلے گئے۔

هَارُوتَ وَمَارُوتَ جن کا اس جگہ ذکر آتا ہے یہ دو نبی ہیں جو جلا وطنی کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو واپس لانے پر مقرر ہوئے تھے۔ اور جنہوں نے مید اور فارس کے بادشاہ کی مدد سے آزادی حاصل کی۔ قرآن کریم نے ان دونوں نبیوں کے صفاتی نام لئے ہیں۔ یعنی ہاروت اور ماروت۔ ہاروت جیسا کہ حلّ لغات میں بتایا جا چکا ہے ہرت سے نکلا ہے جس کے معنی پھاڑنے کے ہیں۔ اور ماروت، مرت سے نکلا ہے جس کے معنی توڑنے کے ہیں (تاج العروس) پس ہاروت اور ماروت کے معنی ہوئے پھاڑنے اور توڑنے والے۔ چونکہ اُن نبیوں کے سپرد بعض حکومتوں یا جماعتوں کو پھاڑنے اور اُن کی طاقت کو توڑنے کا کام تھا اس لئے اُن کا یہ صفاتی نام رکھا گیا۔ بائبل پر غور کرنے سے اندازاً کہا جاسکتا ہے کہ یہ ججی نبی اور ذکر یاہ بن عدّ وہیں۔ چنانچہ عزرا باب ۵ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ججی اور ذکر یاہ نبی نے ہی یہود کی آزادی کے لئے کوششیں کیں۔ اور خورس سے مخفی سمجھوتہ کیا۔ اور اُس سے آرڈر لکھوائے۔ پس ہاروت و ماروت جی اور ذکر یاہ نبی ہیں۔ جنہوں نے خورس سے سمجھوتہ کیا اور اندر سے زور ڈالا جس کی وجہ سے باہر سے خورس نے حملہ کیا اور بابل فتح ہو گیا۔ ان سب واقعات کی طرف اشارہ وَمَا اَنْزِلَ عَلَي السَّلٰكِيْنَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمِيْنَ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يَفْعَلُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهٖ وَمَا هُمْ بِضٰلِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ مِلَّ مَا كَانُوْنَ عَلَيْهِ سٰبِقًا مِّنْ قَبْلِ هٰذَا وَمَا هُمْ بِمُعْتَدِلِيْنَ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَظٰلِمٌ لِّلظٰلِمِيْنَ

اب تیسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہود نے کبھی ایسی سازشیں کی تھیں یا نہیں؟ اس غرض کے لئے جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو یہود نے رسول کریم صلی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کعب بن اشرف کو بھڑکایا۔ اور اُس نے آپ کے خلاف تمام عرب میں مخالفت کی ایک خطرناک آگ بھڑکادی اور پھر اُس نے یہیں تک بس نہ کی بلکہ اپنے اشعار میں اُس نے مسلمان خواتین کی عزت و ناموس پر حملے کرنے شروع کر دیئے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی مقدس خواتین کو بھی اُس نے اپنے اوباشانہ حملوں کا نشانہ بنانے سے دریغ نہ کیا (سیرۃ النبی لابن ہشام زیر عنوان مقتل کعب بن اشرف)۔ مگر اس تمام مخالفت کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی حکومت روز بروز بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کا قدم

پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے تو انہوں نے بعض غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ مل کر اسلام کو مٹانے کی کوششیں شروع کر دیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرصہ قبل یہود کا ایران کے بادشاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم ہو گیا تھا۔ چنانچہ ہچنسن ہسٹری آف دی نیشنز اور انسائیکلو پیڈیا ہبلیکا صفحہ ۶۴۸ پر لکھا ہے کہ نصاریٰ کے ظلم سے تنگ آ کر یہود کا فارس کے بادشاہ کی طرف خاص میلان ہو گیا تھا۔ اُس زمانہ میں دو ہی بڑی حکومتیں تھیں۔ ایک مجوسیوں کی اور ایک مسیحیوں کی۔ مجوسیوں کی حکومت ایران میں تھی اور مسیحیوں کی روما میں۔ چونکہ ایرانیوں کو روما سے دشمنی تھی اور روما والے عیسائی تھے اور یہود کو بھی اُن سے عداوت تھی اور پھر اُن کے ملک میں ان کو تکلیف بھی بہت تھی اس لئے صرف ایک ہی حکومت ایرانیوں کی رہ جاتی تھی جس پر اُن کو کچھ بھروسہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی طرف توجہ کرے گی اور انہیں مدد دے گی۔ اس لئے یہود کا ایرانیوں سے اور ایرانیوں کا یہود سے تعلق قائم ہو گیا۔ وہاں اُن کو رُسوخ بھی حاصل تھا۔ کیونکہ اُس وقت کی مسیحی حکومتوں سے تنگ آ کر وہ لوگ ایران چلے گئے تھے۔ اور اُن کے ماتحت رہتے تھے۔ وہاں اُن کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔ وہیں اُن کی طالمود تیار ہوئی تھی اور وہیں اُن کے بڑے بڑے پادری رہتے تھے اور دربار میں اُن کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ خصوصاً جسٹینین (۵۲۷ء-۵۶۷ء) کے وقت سے تو مسیحیوں کی طرف سے اُن پر بہت ہی مظالم شروع ہو گئے تھے اور سوائے ایران کے اور کوئی جائے پناہ اُن کے لئے نہ رہی تھی۔ اور اُن کا مذہبی مرکز بچائے یہودا یا یروشلم کے بیلیو نیا ہو گیا تھا۔

(ہچنسن ہسٹری آف دی نیشنز زیر عنوان Hutchinson's History of the Nations-The Jews)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ حالت تھی کہ یہود مسیحیوں سے بالکل تنگ آ چکے تھے کیونکہ قیصر روم نے یہودیت کو مٹانے کے لئے کوئی دقیقہ فرگذاشت نہ کیا تھا۔ اور اس مقصد کے لئے وہ نہ صرف خود ہر قسم کا ظلم روا رکھتا تھا بلکہ یہودیوں سے جبراً تبدیلی مذہب بھی کراتا اور انہیں جلا وطن بھی کر دیتا پس آپ کے زمانہ میں اگر کسی حکومت پر یہودی اپنی مدد کا بھروسہ کر سکتے تھے تو وہ صرف حکومت فارس ہی تھی۔ جہاں اُن کے ہم مذہب بہت باز رُسوخ تھے اور انہیں شاہان ایران کے دربار میں خاص عزت کے مقام پر بٹھایا جاتا تھا۔ پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام کو مٹانے کے لئے کوئی سازش ہوئی تھی تو ماننا پڑے گا کہ وہ یہود کی سازش تھی۔ کیونکہ مشرکین عرب کا ایرانیوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔

اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ کہ آیا اسلام کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کوئی سازش ہوئی یا نہیں؟ سوتاریخ اس

بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایران کے بادشاہ خسرو ثانی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا حکم بھیجا تھا اُس نے اپنے یمن کے گورنر کے نام آرڈر لکھا کہ ہمیں رپورٹ پہنچی ہے کہ عرب میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اُسے پکڑ کر ہمارے پاس بھجوادو تاکہ اُسے سزا دی جائے۔ گورنر یمن نے اپنے دو سفیر آپ کی طرف بھیجے جنہوں نے آپ کو اطلاع دی کہ ہمیں آپ کی گرفتاری کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور انکار نہ کریں ورنہ ممکن ہے کہ ایران کے بادشاہ کو غصہ آئے اور وہ عرب پر حملہ کر دے۔ آپ نے ان کو دوسرے دن ملنے کے لئے فرمایا۔ جب وہ دوسرے دن آپ سے ملے تو آپ نے فرمایا۔ کہ میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ اُس نے آج رات تمہارے خداوند کو قتل کروا دیا ہے۔ انہوں نے نادانی سے سمجھا کہ شاید یہ نہ جانے کے لئے بہانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا کہ ہم آپ کی خیر خواہی کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ورنہ بادشاہ کو غصہ آئے گا۔ اور ممکن ہے کہ وہ سارے عرب کو ہی تباہ کر دے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے میرے خدا نے بتایا ہے کہ اُس نے آج رات تمہارے خداوند کو مار ڈالا ہے۔ اس لئے جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے وہی اپنے گورنر کو جا کر پیغام دے دو۔ انہوں نے واپس جا کر گورنر یمن کو یہی بات کہہ دی۔ گورنر نے کہا ہم چند دن انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے اگر یہ بات درست نکلی تو واقعی وہ سچا نبی ہے ورنہ عرب کی خیر نہیں۔ کسری سارے عرب کو تباہ کر دے گا۔ چند دن کے بعد بندرگاہ پر ایک جہاز پہنچا اور اُس میں سے ایک سفیر اُتر کر گورنر یمن کے پاس آیا۔ اور اُس نے گورنر کو ایک شاہی مکتوب دیا جو سر بہمہر تھا۔ مگر مہر کسی اور بادشاہ کی معلوم ہوتی تھی۔ خط کو دیکھتے ہی اُس کا ماتھا ٹھنکا۔ اور اُس نے کہا۔ عرب کے نبی کی بات سچ معلوم ہوتی ہے۔ پھر اُس نے خط کھولا تو وہ خسرو کے بیٹے شیرویہ کا خط تھا۔ جسے انگریزی میں سائروس Siroes کہتے ہیں۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمارا باپ سخت ظالم تھا۔ آخر اس کے ظلموں سے تنگ آ کر ہم نے اُسے قتل کر دیا ہے اور اب میں اس کا جانشین ہوں۔ تم ہمارے نام پر سب لوگوں سے اطاعت کا عہد لو اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرے باپ نے جو حکم عرب کے ایک مدعی نبوت کے گرفتار کرنے کے لئے بھیجا تھا وہ بھی ظالمانہ حکم تھا۔ اُسے بھی ہم منسوخ کرتے ہیں اور جب تک کوئی نیا حکم نہ آئے اس کے متعلق کوئی کارروائی نہ کرو۔ (طبری جلد ۳ صفحہ ۱۵۸۳، ۱۵۸۴ ایڈیشن اول)

غرض اسی رات جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہاماً یہ خبر دی گئی تھی کہ کسریٰ کو خدا تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور بیٹے کا اپنے باپ کو مارنا خدا ہی کا مارنا ہے۔ ورنہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ کوئی اس کام کے لئے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔

اس واقعہ کے متعلق لوگوں کو حیرت ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اور کیوں کسریٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے احکام جاری کئے۔ مگر یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایران کا بادشاہ جس کا عرب کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا اُسے بعض نے اُکسایا اور اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا حکم بھیجوا دیا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ

(۱) ایرانیوں کے بادشاہ کو عیسائی تحریک نہ کر سکتے تھے کیونکہ روما اور ایران کی آپس میں دشمنیاں تھیں۔

(۲) ایران کے بادشاہ کو عرب بھی تحریک نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ عرب بہت ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جبکہ مسلمانوں کی فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئیں کہا تھا کہ تم دو دو اشرفیاں لے لو اور واپس اپنے ملک میں چلے جاؤ۔ تم لوگ گوہیں کھانے والے ہو تمہیں ملکوں سے کیا واسطہ؟ (طبری زیر عنوان ذکر الاحداث التي كانت نبی سنة ۱۴ھ) پس ان کے نزدیک جب عرب ایسے ذلیل تھے تو عربوں کو یہ جرأت ہی کہاں ہو سکتی تھی کہ وہ شاہ ایران کو بھڑکائیں اور شاہ ایران فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا آرڈر دے دے۔

پھر عرب لوگ بالکل پراگندہ تھے اور ان کی کوئی تنظیم نہ تھی۔ پس اگر کوئی یہ کہے کہ عربوں نے فارس کے بادشاہ پر زور ڈالا تو یہ دور از قیاس امر ہے۔ عرب ایسے بے اثر اور متدن دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے لوگ اتنے بڑے بادشاہ پر جس کے ماتحت آدھی دنیا تھی اور جس سے وہ کچھ بھی تعلق نہ رکھتے تھے کس طرح زور ڈال سکتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایرانی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر یہودی لوگ فائز تھے اور وہاں بڑا رسوخ رکھتے تھے۔ اُن کا رئیس شاہان ایران کے دربار میں خاص عزت کے مقام پر بٹھایا جاتا تھا اور یہی وہ لوگ تھے جو اسلام اور بانی اسلام کے شدید ترین دشمن تھے۔ جب یہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے مختلف ذرائع سے شاہ ایران کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکسانا شروع کر دیا جس کے نتیجہ میں اُس نے وہ چٹھی لکھی جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید شاہ ایران کی اس کارروائی کا محرک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تبلیغی خط تھا جو آپؐ نے اُسے لکھا تھا۔ اس خط سے ناراض ہو کر اُس نے گورنر یمن کو حکم بھیجا کہ اس شخص نے ہماری گستاخی کی ہے اس لئے اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرو (طبری زیر عنوان ذکر الاحداث التي كانت نبی سنة ۵۶ھ)۔ اگر تاریخی شہادت سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ خط کی وجہ سے ہی اُسے طیش آیا تھا۔ تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہوگی۔ لیکن

اگر تاریخی شہادت اسے درست قرار نہ دے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی اور روایتیں اسے پہنچائی گئی تھیں جن کی وجہ سے اسے طیش آیا تھا۔

بعض مسلمان مؤرخین نے بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کو اس واقعہ کا محرک بتایا ہے مگر یہ غلط ہے۔ وہ خط اس امر کا محرک نہیں ہوا بلکہ کسریٰ کے افسر آپ کے خط سے پہلے ہی آپ کی گرفتاری کے لئے آپ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ زرقانی جلد ۲ صفحہ ۲۱۱، ۲۱۲ پر لکھا ہے کہ لَاقَ بَعَثَهُ لِلْمَلُوكِ اِنَّمَا كَانَ بَعْدَ الْعَوْدِ مِنْهَا فِي عُرَّةِ الْمُحَرَّرِ سَنَةَ سَبْعٍ كَمَا يَأْتِي (شرح العلامة الزرقانی امر الحديدية وفي هذه السنة كسفت الشمس المجلد ۳ صفحہ ۲۳۲) یعنی یکم محرم ۷ھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے تھے جو اس تاریخ کے لحاظ سے جو ہسٹوریز ہسٹری آف دی ورلڈ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی مقرر کی ہے (جلد ۸ صفحہ ۱۱۸) اس کی تاریخ ۱۲ اپریل ۶۲۸ء بنتی ہے۔ اور خسرو ثانی جس نے آپ کی گرفتاری کا حکم بھیجا تھا وہ ۲۵ فروری ۶۲۸ء کو پکڑا گیا اور ۲۹ فروری ۶۲۸ء کو قتل کیا گیا تھا۔ (ہسٹوریز ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ۸ صفحہ ۹۵) گویا خط اُس کے مارے جانے کے ایک ماہ بارہ دن بعد بھیجا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اس بات کا محرک ہوا تھا کہ خسرو ثانی آپ کی گرفتاری کا حکم بھیجے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اس کے قتل کے بعد مدینہ سے مدائن کی طرف جو ان دنوں ایران کا پایہ تخت تھا روانہ ہوا تھا۔ اگر آپ کے خط کو اس کا محرک سمجھا جائے تو وہ خط کم از کم تین چار ماہ قبل کا ہونا چاہیے یعنی اس صورت میں آپ کا خط دسمبر ۶۲۷ء کا ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ کا خط یکم محرم ۷ھ کو لکھا ہے جس کی تاریخ حساب کی رو سے ۴ مارچ ۶۲۸ء بنتی ہے۔ پس جو خط آپ نے ۴ مارچ ۶۲۸ء کو لکھا وہ اس حکم کا باعث نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا باعث وہی جھوٹی اور غلط روایتیں تھیں جو اسے یہود کی طرف سے پہنچتی تھیں اور جن سے مشتعل ہو کر اس نے یہ ظالمانہ حکم دے دیا اور چونکہ وہ ۲۵ فروری کو پکڑا گیا تھا اور ۲۹ فروری کو قتل کر دیا گیا اس لئے یہ خط بہر حال اس کی طرف نہیں ہو سکتا بلکہ دوسرے کسریٰ کی طرف تھا جو اس کے قتل کے بعد تخت نشین ہوا۔ یعنی اس خط کا مخاطب کسریٰ نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا شیر ویہ تھا جس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کو اس اشتعال کی وجہ قرار دیا ہے آخر ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ یہ باہر کی تحریک تھی جس سے متاثر ہو کر اُس نے یہ قدم اٹھایا۔ یہ تحریک گورنروں کی طرف سے نہیں ہو سکتی کیونکہ عرب کا علاقہ اس کے ساتھ نہ تھا۔ یہ صرف یہودیوں کی کارروائی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ جس طرح فارس والوں کے ساتھ مل کر ہم نے بابل کو تباہ کیا تھا۔ اسی طرح دوبارہ ایک بادشاہ

کو اکسائیں اور اس کی مدد سے مدینہ والوں کو تباہ کر دیں۔

یہود کی اس سازش کا سرولیم میور کو بھی اقرار کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب ”لائف آف محمد“ ایڈیشن دوم میں لکھتا ہے کہ کسری شاہ ایران کے افسر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچنے سے پہلے روانہ ہو چکے تھے۔ اور پھر وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہودی آپ کے خلاف ایرانی بادشاہ کو اکسایا کرتے تھے۔ عربوں کی تو ایرانی بادشاہ کے دربار میں کوئی رسائی نہ تھی۔ عیسائی اس کے دشمن تھے اس لئے وہ بھی اُسے اکسانہ سکتے تھے (لائف آف محمد صفحہ ۳۸۴، ۳۸۵)۔ باقی صرف یہودی رہ گئے۔ اُن کے ذہن میں یہ خیال سما یا ہوا تھا کہ جس طرح فارس کے بادشاہ کی مدد سے بابل والے تباہ ہو گئے تھے اسی طرح مدینہ بھی ہم فتح کر لیں گے۔ اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ یہودیوں کی طرف سے متواتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کئے گئے۔ اور آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ آپ پر جس قدر خفیہ حملے کئے گئے ہیں وہ سب یہودیوں ہی کی طرف سے ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک یہودی عورت کی طرف سے آپ کو زہر دینا ثابت ہے (سیرۃ النبی لابن ہشام أمر خیبر قصۃ شاة المسومة)۔ اسی طرح خفیہ طور پر آپ پر ایک بڑی بھاری پتھر کی سِل پھینک کر مارنے کی کوشش بھی یہودیوں کی طرف سے ہوئی تھی (سیرۃ النبی لابن ہشام أمر اجلاء بنی النضیر)۔ یہ لوگ خفیہ سازشوں میں کوئی عار نہ سمجھتے تھے حالانکہ بہادر اور شریف دشمن ایسی باتوں کو عار سمجھتے ہیں اور سامنے آکر مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر یہ لوگ ایسے گرے ہوئے تھے کہ انہوں نے خفیہ طور پر آپ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ پھر گھر پر بلا کر مارنے کی کوشش کی اور جب یہ لوگ خود اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہ پہننا سکے تو انہوں نے ایران کے بادشاہ کو اکسایا آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔

اس ساری تحقیق سے ثابت ہے کہ

(۱) خفیہ سوسائٹیوں کی ابتداء یہود سے ہوئی۔

(۲) یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں سے تعلق رکھتے تھے۔

(۳) تین دفعہ انہوں نے خفیہ کوششیں کیں۔

(i) حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف۔ (ii) بابل کے خلاف۔ (iii) اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے خلاف۔

جب ان تمام واقعات کی کڑی مل گئی تو ثابت ہو گیا کہ ان آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں

اور خورس اور بابل کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایرانی

بادشاہ کی نالائق حرکت اور یہود کی اُن تمام کوششوں کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروانے کے لئے کی تھیں۔

اب ہمیں ایک ایسے واقعہ کا علم ہو گیا جو ان تمام اصولی باتوں کو جو اس آیت سے مستنبط ہوتی ہیں پورا کرتا ہے یعنی **وَالتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ** والی ایک جماعت ہمیں نظر آگئی جو اس کام کے مشابہ کام کرتی تھی جو شیاطین یعنی بدی کے سرداروں نے ملک سلیمان کے خلاف کیا تھا اور اس فعل سے ایک جزئی مشابہت رکھتا تھا جو ملکین یعنی ہاروت و ماروت نے بابل میں کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں زمانوں میں ایک ہی قسم کا فعل ہوا تھا اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام اپنے اندر ایک حد تک اخفا کا پہلو رکھتا تھا۔

پس ان واقعات کی روشنی میں زیر تفسیر آیات کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس چیز کی پیروی کر رہے ہیں جس کی شیطان صفت لوگ یعنی بدی کے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ میں کیا کرتے تھے اور وہ یہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگا یا کرتے تھے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ بے دین اور مشرک ہو گیا ہے۔ بتوں کی پرستش کرتا ہے یا ایسی تعلیم دیتا ہے جو دین کے خلاف ہے۔ اور وہ یہ باتیں لوگوں میں مخفی طور پر مشہور کیا کرتے تھے۔ وہ آپ کے متعلق یہ بھی مشہور کیا کرتے تھے کہ اس پر بیویوں کا قبضہ ہے اور وہ ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے معبودانِ باطلہ کی پرستش کرتا ہے۔ حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سلیمان نے ہرگز ایسا نہیں کیا بلکہ یہ شیطان یعنی بدیوں کے سردار خدا تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے میں نے پہلے بیان نہیں کیا۔ اور وہ یہ ہے کہ یہاں دو دعوے کئے گئے تھے۔ اول یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت دشمنوں کی طرف سے کفر کا الزام لگا یا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ اس کی حکومت کے باغی لوگ خود کافر اور بے ایمان تھے۔ اس کے متعلق چونکہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ممکن ہے کافر کہنے والے مخالف دیانت داری سے ان کی طرف یہ الزام منسوب کرتے ہوں یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے ان کی مخالفت ہو یا انہوں نے اُن پر الزام تو شرارت سے لگا یا ہو مگر ان کی اپنی حالت درست ہو۔ اس لئے فرمایا کہ الزام لگانے والے مخالف نہ تو دیانت داری سے الزام لگاتے تھے اور نہ ہی کسی غلط فہمی کی وجہ سے اور نہ ہی یہ صورت تھی کہ وہ صرف شرارت سے الزام لگاتے ہوں اور ان کی ایمانی حالت درست ہو بلکہ وہ اپنی بد عملی اور بے دینی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ یہ مزید دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کا حوالہ ۱۔ سلاطین باب ۱۱ آیت ۳، ۴، ۵، ۱۰ ہے جو پہلے گزر چکا پھر آیت ۲۹ تا ۳۳ میں ذکر آتا ہے کہ یربعام جس نے بعد میں بغاوت کر دی تھی اُس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا مقابلہ کر کے دس قوموں کو اپنے قبضہ میں کر لیا تھا اور اُس نے خاص طور پر اُن پر الزام لگایا تھا۔ اس میں یربعام اور اس کے ساتھی اخیاہ کے ذریعہ (جسے نبی کہا گیا ہے) حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے بت پرستی کی ہے اور کفر کیا ہے اور شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ الزام لگانے والے خود بت پرست تھے اور بت پرستی قائم کرنا چاہتے اور اُس میں دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے۔

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا اس کا بھی کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ سو اس کا ثبوت کہ انہوں نے بت پرستی کی ۲۔ تواریخ باب ۱۳ آیت ۸ سے ملتا ہے کہ یربعام کی حکومت کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ابیہاکو کھرا کیا۔ یہ یربعام کے مقابلہ کے لئے فوج لے کر گیا اور اُس کو مخاطب کر کے کہا:-

”اب تم کو یہ گمان ہے کہ تم خداوند کی بادشاہت جو داؤد کی اولاد کے ہاتھ میں ہے اس کا سامنا

کر سکو گے۔ اور تم بڑے انبوہ ہو۔ اور تمہارے ساتھ وہ سنبلے بچھڑے ہیں جنہیں یربعام نے بنایا

کہ تمہارے معبود ہووین۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ گوسالہ پرستی کر رہے تھے۔ اس کا مصر بھاگ جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ پہلے بھی مصر ہی سے گوسالہ پرستی کی بیماری آئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصری کمزور لوگوں کو خرید لیا کرتے تھے۔ اور اس طرح اپنے معبود کی عظمت کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بت پرستی کا الزام لگاتے تھے۔ حالانکہ وہ خود بت پرست تھے۔ اگر یہ الزام نہ لگاتے تو اُن کی قوم جو موحد تھی نہ بھڑکتی اس لئے انہوں نے آپ پر ایسا الزام لگایا جس سے قوم بھڑک اُٹھی اور جب وہ مشتعل ہو گئی تو انہوں نے بت بنانا کر شرک کو رائج کر دیا جس کا بائبل سے ثبوت ملتا ہے۔

يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّاجِدِينَ فِيهَا لِقَاءَ رَبِّهِمْ فِي ذَلِكَ يَوْمٍ

باطن کچھ اور۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اُن کے دل میں شرک تھا۔ مگر زبان سے توحید کا اظہار کرتے تھے۔ کیونکہ اس کے بغیر اُن کی قوم ان کے ساتھ نہ مل سکتی تھی۔ پس وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم موحد ہیں اور سلیمانؑ مشرک ہے۔ ہم دنیا میں خدا تعالیٰ کی توحید قائم کرنا چاہتے ہیں۔ منافق بھی ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہا

کرتے ہیں کہ اِنَّكُمْ لَنْ تُصْلِحُوْنَ (البقرة: ۱۲) ہم تو اصلاح کی غرض سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پر کمزور ایمان والے کہتے ہیں۔ کہ یہ لوگ بڑی اچھی بات کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں ان کی تائید کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ بھی لوگوں کو ملع سازی کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ وَمَا اَنْزِلَ عَلَي الْمَلٰٓئِكِيْنَ بِبَابِلَآءَ هٰذُوْتًا وَمَا ذُوْتًا کے دو طرح معنی ہو سکتے ہیں۔

(۱) اول اس طرح کہ واؤ عطف کے لئے ہو۔ اس صورت میں مَا تَتَّبِعُوْنَ الشَّٰطِطِيْنَ کے ساتھ مل کر اس آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ اس دوسرے زمانہ میں بھی ویسا ہی کام ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف سوسائٹی بنی تھی اسی طرح ایک اور بادشاہ کے مقابلہ میں بھی اس قسم کی سوسائٹی بنی۔ مگر فرماتا ہے کہ یہ مشابہت صرف ظاہری ہے ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہونے والے کافر تھے اور دوسرے وقت بابل کا بادشاہ کافر تھا اور جو مقابلہ کر رہے تھے وہ مومن تھے۔ پہلے زمانہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لئے یہ قوم کھڑی ہوئی تھی اور دوسرے زمانہ میں خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک کافر بادشاہ کو نقصان پہنچانے کے لئے یہ قوم کھڑی ہوئی تھی۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی ہمیشہ یہ تعلیم رہی ہے کہ حکومت وقت کے خلاف کھڑا ہونا درست نہیں مگر یہاں تو بغاوت قابل تعریف فعل نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر اپنی حکومت کے خلاف کھڑا ہونا بھی درست ہے۔ یہ اعتراض بظاہر روزنی معلوم ہوتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم استثناء رکھتی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم میں ہی یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی قوم کسی حکومت کو چھوڑ کر جانا چاہے اور وہ حکومت اُسے جانے نہ دے تو پھر وہ قوم اُس کی مخالفت کر سکتی ہے اور اُسے اجازت ہے کہ وہ چاہے مخفی بغاوت کرے یا کھلم کھلا۔ وہ اس کا ہر رنگ میں مقابلہ کر سکتی ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ جب تم بادشاہ پر خوش نہ ہو اور ناخوشی معمولی ہو تو اُس وقت تک تم انتظار کرو کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل تم پر نازل کرے۔ اور اگر وہ ناخوشی غیر معمولی ہو اور تم انتظار نہ کر سکو۔ تو پھر اس حکومت سے نکل جاؤ۔ اور اس ملک کو چھوڑ دو۔ لیکن اگر وہ حکومت تمہیں زبردستی روکے اور وہاں سے جانے نہ دے اور ظلم بھی دُور نہ کرے تو اس صورت میں تم اس کا مقابلہ وہاں رہ کر کر سکتے ہو۔ یہودی لوگ بابل میں قید تھے اور ان کو واپس اپنے وطن جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اپنے وطن سے باہر ایک غیر علاقہ میں تھے۔ اس علاقہ کو چھوڑنے کی انہیں اجازت نہ تھی اور یہ ایک رنگ میں اُن کے مذہب میں دخل اندازی تھی۔ اس صورت میں ظاہری یا مخفی طور پر بغاوت یا مقابلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ گویا

مومن جن باتوں کو برداشت کر سکتا ہے اُن کو تو برداشت کر لیتا ہے مگر جن کو وہ برداشت نہیں کر سکتا اُن کے متعلق وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے کہ ہم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ تم ہماری جائیدادیں سنبھالو۔ ہمارے مال زمینیں اور مکانات لے لو۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ اور اگر حکومت پھر بھی نہ جانے دے تو اس کا مقابلہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ کیونکہ مومن اس بات کو پیش کر کے کہ ہماری جائیدادیں سنبھالو اور ہمیں جانے دو۔ اپنی طرف سے امن قائم کر دیتا ہے لیکن اگر حکومت پھر بھی نہ جانے دے تو مومنوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ظاہر یا مخفی مقابلہ کریں۔ کیونکہ اس صورت میں بادشاہ خود امن برباد کرتا ہے اور مقابلہ کی صورت پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی حالت تھی اور اس حالت میں بادشاہ کا مقابلہ کرنا جائز تھا۔ کیونکہ نہ تو ان کو واپس اپنے وطن جانے کی اجازت تھی اور نہ وہاں کے لوگوں کو اپنے شہر کے آباد کرنے کی اجازت تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یروشلم کے آباد کرنے کی صورت پیدا کی۔ چنانچہ عزرائیلی کی کتاب باب آیت ۳۳ میں آتا ہے کہ

”شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس میں اس خاطر کہ خداوند کا کلام جو یرمیاہ کے مُنہ سے نکلا تھا پورا ہووے۔ خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل اُبھارا کہ اُس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کروائی اور اُسے قلمبند بھی کر کے یوں فرمایا۔ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی ساری مملکتیں مجھے بخشیں اور مجھے حکم کیا ہے کہ یروشلم کے بچ جو یہودہ میں ہے اس کے لئے ایک مسکن بناؤں۔ پس اس کی ساری قوم میں سے تمہارے درمیان کون کون ہے اس کا خدا اس کے ساتھ ہووے اور وہ یروشلم کو جو شہر یہودہ ہے جاوے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر بناوے کہ وہی خدا ہے جو یروشلم میں ہے۔“

یہ وہی خورس ہے جس کی یہود نے مدد کی اور جس نے آکر اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل واپس یروشلم جاسکتے ہیں۔ پھر یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر سورہ کہف میں ذوالقرنین کے نام سے آتا ہے۔ اُسے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے دینا۔ چنانچہ اُس نے اُن سے دوستی قائم کی اور بابل کی حکومت کو شکست دی۔ بابل کی حکومت سینکڑوں سال سے چلی آتی تھی جس کے مقابلہ میں اُس کی حکومت ایک معمولی ریاست تھی۔ لیکن خورس کی ترقی دیکھ کر چند حکومتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے کچل دیں۔ اُسے کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا چنانچہ اُس نے اندرونی طور پر یہودیوں سے سمجھوتہ کر لیا۔ اور بابل پر حملہ کر دیا۔ اور خدا تعالیٰ کی تائید سے اُسے فتح کر لیا۔

ان واقعات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہود انہی افعال

کی نقل کر رہے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں شیطانی لوگ اُس کی حکومت کو نقصان پہنچانے کے لئے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ اُن باتوں کی بھی پیروی کرنا چاہتے ہیں جو بابل میں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھیں۔ مگر یہ نہیں سوچتے کہ سلیمان کا مقابلہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو گندے اور ناپاک تھے اور ہاروت و ماروت سے خفیہ تدابیر سیکھنے والے وہ لوگ تھے جو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اُس میں حصہ لیتے تھے کیونکہ وہ بابل کے بادشاہ سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لئے کھڑے کئے گئے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہماری بات مان لو اور اندر ہی اندر تیار ہو جاؤ۔ جب خورس اور اس کی قوم باہر سے حملہ آور ہو تو تم اندر سے حملہ کر دو۔ اور وہ یہ بات عورتوں کو نہیں بتاتے تھے کیونکہ وہ کمزور دل ہوتی ہیں۔ اور اُن کے متعلق خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں دوسروں کو نہ بتادیں۔ پس فرمایا کہ تمہاری خفیہ تدابیر اور اُن تدابیر میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ خدا کے حکم سے لوگوں کو سکھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہماری ان باتوں کو رد نہ کرنا ورنہ کفر ہو جائے گا۔ کیا یہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر کر رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے کر رہے ہیں۔ اور کیا یہ اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ جو اُسے رد کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باغیوں سے مشابہ ہیں نہ کہ بابل کے باغیوں سے۔

وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ مِّنَّا يَا بَلِيلُ مَا لَكَ مِنَ الْهَمِّ كَمَا لَكَ مِنَ الْهَمِّ يَا بَلِيلُ مَا لَكَ مِنَ الْهَمِّ
تھے۔ وہ اگر کسی کو نقصان پہنچاتے تھے تو خدا کے الہام کے ذریعہ۔ اپنے منشا سے ایسا نہیں کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ بھی الہام کے مدعی ہیں؟ کیا یہ بھی خدا کے کسی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں؟ کیا انہیں بھی یہ الہام ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو؟ مگر باوجود اس کے کہ ان کو ایسا کوئی الہام نہیں ہوتا۔ جب ان کو ان باتوں سے منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی اجازت مل چکی ہے۔ ہم بابل میں یہی کام کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ باتیں اور صورتیں اور وجوہات تمہیں یہاں نظر آتی ہیں۔ تمہارے مقابل پر تونبی ہے جس کے خلاف تم کام کر رہے ہو اور اُس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام نازل ہوتا ہے۔ پس تمہاری صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں اور دشمنوں سے مشابہت ہے، جس طرح وہ لوگ اُن کو کافر کہتے تھے اُسی طرح تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے ہو۔ اور جس طرح وہ اُن کے خلاف جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلاتے تھے اُسی طرح تم یَحْدِفُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ کے ماتحت ہیر پھیر کرتے ہو۔ مگر بابل میں خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق دونوں کے ماتحت ایسی قوم کے

خلاف باتیں کی جاتی تھیں جس کی ہلاکت کا خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ الہام کے ماتحت کام کر رہے تھے نہ کہ اپنی طرف سے۔ وہاں خدا تعالیٰ کے نبیوں کی اتباع میں کام ہو رہا تھا۔ نہ کہ نبیوں کے خلاف۔ مگر اب تم چاہتے ہو کہ جس طرح دو ملانکہ صفت انسانوں نے بابل کی حکومت کو تباہ کیا اسی طرح تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ تباہ کر دو مگر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ تمہاری اُن کے ساتھ مشابہت نہیں بلکہ تمہاری مشابہت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں سے ہے۔ وہاں بھی تم مخفی سمجھوتے کرتے تھے۔ مگر آخر تم ہی جلا وطن ہوئے تھے۔ اسی طرح یہاں بھی ہو گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں تم ناکام و نامراد رہو گے۔

مَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ فِي حَقِّقَتِ جَمَلَةٌ مُنْتَأَنَفَةٌ ہے اور مطلب یہ ہے کہ سلیمانؑ کے دشمنوں کی بات اور ہے اور ہاروت اور ماروت پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ اور ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم ہاروت اور ماروت کے وقت کے لوگوں کے مشابہہ ہیں غلط ہے کیونکہ وہ جو کچھ کرتے تھے الہام الہی کے ماتحت کرتے تھے۔ پس ان کی مشابہت صرف سلیمانؑ کے دشمنوں سے ہی ہے جنہوں نے ایک نبی کی مخالفت کی اور تباہ ہوئے۔ ہاروت و ماروت کے وقت کے لوگوں کے ساتھ نہیں۔

(۲) دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی مشابہت دو گروہوں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں سے اور بابل کے مخالفوں سے۔ پہلوں سے یہ صحیح معنوں میں مشابہہ ہیں اور دوسروں سے صرف سطحی رنگ میں۔

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اِس میں بتایا کہ یہود کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم بابل سے فارس اور مید کے بادشاہ کی مدد سے آزاد ہو گئے تھے اسی طرح اب بھی غیر حکومتوں سے ریشہ دوانیاں کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے آزاد ہو جائیں گے مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاروت و ماروت کے وقت اُن کی کامیابی کا باعث یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ لیکن اب یہ اس کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس لئے اب ان کا سلیمانؑ کے مخالفوں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہنا اور کسری سے مخفی سمجھوتہ کرنا اور بیرونی دشمنوں سے مل کر آپ کا مقابلہ کرنا جیسے خیر کے وقت کیا گیا۔ اُن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تباہ کرنے کی بجائے یہ یہودی لوگ خود تباہ ہوں گے گویا اس جگہ اُن کے متعلق پیشگوئی کر دی اور انہیں سمجھا یا کہ وہ دو وقت خفیہ تدابیر سے مقابلہ کر چکے ہیں۔ ایک سلیمانؑ کے وقت جبکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے نبی کی مخالفت کی تھی اور دوسرے ہاروت و ماروت کے وقت جبکہ بابل میں انہوں نے آزادی کے حصول کے لئے

خوس سے مخفی سمجھوتہ کیا۔ اب نتائج سے مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ تمہاری کن لوگوں سے مشابہت ہے۔ پہلی سازش جو ایک نبی کے خلاف کی گئی تھی اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی طاقت کمزور ہو گئی اور آہستہ آہستہ ایسے ذلیل ہوئے کہ ایک وقت زبردستی بابل کی طرف جلاوطن کر دیئے گئے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے دشمن یربعام کے لئے بھی سوائے اس کے کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ بھاگ کر مصر چلا جائے (۱۔ سلاطین باب ۱۱ آیت ۴۰)۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کے دونوں کے ماتحت انہوں نے وہی تدابیر اختیار کیں تو جلاوطنی سے اپنے وطن واپس آ گئے اور ان کا دشمن تباہ ہو گیا۔

ان دو مثالوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ اس وقت یہود اُسی راستہ پر قدم مار رہے ہیں جس راستہ پر سلیمانؑ کے دشمنوں نے قدم مارا تھا۔ اس لئے جس طرح سلیمانؑ کے دشمن جلاوطن کئے گئے تھے۔ اُسی طرح یہود کو بھی جلاوطن کیا جائے گا۔ اور اُن کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے سلیمانؑ کے دشمنوں سے ہوا اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ جھوٹے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں سے مشابہ ہیں۔ چنانچہ یہود کو پہلے مدینہ سے جلاوطن کیا جائے گا۔ پھر خیبر سے بھی نکال دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اُن کے ایرانی منصوبوں کی وجہ سے آخر اُن کو عرب سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اور خطہٴ عرب ان کے وجود سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ چنانچہ اُن کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ کسریٰ بھی ہلاک ہوا اور وہ خود بھی عرب سے جلاوطن کئے گئے۔ پہلے اُن کو مدینہ سے نکالا گیا۔ اور یہ لوگ خیبر میں چلے گئے پھر وہاں سے بھی نکالے گئے اور آخر اُن کو عرب کا ملک چھوڑنا پڑا جو بالکل اُس نتیجہ کے مطابق تھا جو حضرت سلیمانؑ کے خلاف سازش کرنے کا ہوا تھا۔

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ مِّنْ يُّوَدٍ يُّبَايِعُكُمْ بِغُلُوبِكُمْ وَلَئِنَّكُمْ لَفِي قَلْبِهِمْ مُّشْرِكَةٌ مَّا تَدْرِيْنَ

اور ایسے گھناؤنے کام کرنے والوں کا آخری زندگی کے انعامات میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ لوگ اس قسم کی کارروائیوں سے باز نہیں آتے۔ چنانچہ ایک دفعہ یہود کے دو عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جب واپس گئے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ اُس نے کہا۔ معلوم تو سچا ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس نے کہا کہ پھر کیا رائے ہے آیا قبول کر لیا جائے؟ اُس نے جواب دیا کہ جب تک جان میں جان ہے ماننا نہیں۔ دوسرے نے کہا۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے (السیرة النبویہ لابن ہشام شہادۃ عن صفیة)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ دلائل اور سابقہ پیشگوئیوں کی وجہ سے دل میں آپؐ کی سچائی کا اقرار کرتے تھے۔ مگر زبان سے آپؐ کی سچائی کو نہیں مانتے تھے۔ فرماتا ہے کہ ان کے بڑے

بڑے لوگ جو شرارت کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اُکساتے ہیں اور وہ اس بات کی بُرائی کو بھی جانتے ہیں کہ ایسے کام اچھا نتیجہ پیدا نہیں کرتے۔ مگر پھر بھی ان کاموں سے باز نہیں آتے۔

وَلَيْسَ مَا شَرُّوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ - یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ذریعہ سے ہم نے اپنی جانوں کو خرید لیا ہے یعنی انہیں ہلاکت سے بچا لیا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے اُلٹ ہے۔ یہ لوگ اسی کے ذریعہ ہلاک ہوں گے۔ چنانچہ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کو سزا دیں گے اور ادھر ہم آخرت میں انہیں عذاب میں گرفتار کریں گے۔

كُوْا كَاَنُوْا يَعْلَمُوْنَ - انہیں کیا معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر طاقت حاصل ہو جائے گی کہ وہ انہیں عرب سے نکال دیں گے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن بادشاہت اور حکومت مل جائے گی اور ان کے لئے عرب میں ٹھہرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام خفیہ منصوبوں اور خفیہ سوسائٹیوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اور بائبل کا واقعہ ایک استثنائی رنگ رکھتا ہے۔ کیونکہ وہاں جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہوا۔

وَلَوْ اَنَّهٗمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكُنْثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۗ ط

اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو (انہیں معلوم ہو جاتا کہ) اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ (بہتر)

۴۰۲

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۱۰۳ ع

بہترین (بدلہ) ہے کاش کہ یہ جانتے۔

تفسیر - فرماتا ہے۔ اگر یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اُن کو دین و دنیا میں بڑی ترقی ملتی۔ مگر یہ محض اس ضد کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں کہ کیوں ہم میں سے کسی پر الہام نازل نہیں کیا گیا۔ بنو سلیع کا کیا حق تھا کہ اُن کے ایک فرد پر یہ کلام اُتاراجاتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہمارے لئے کیا کیا عذاب مقدر ہے اور مسلمانوں کو کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں۔ اور انہیں معلوم ہوتا کہ مستقبل میں حالات کیا شکل اختیار کر نیوالے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عظمت اور شوکت حاصل کرنی ہے، تو یہ دوڑتے ہوئے آتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتے مگر ان کو مستقبل کا علم نہیں صرف دنیا طلبی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے مخالفت کا شور مچا رہے ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مکہ کا ایک لیڈر تھا۔ اب ذلیل ہو گیا مگر اسلام سے پہلے اُن کی اس سے زیادہ کیا عزت ہو سکتی تھی کہ دو سو یا تین سو آدمی ان کا نام عزت سے لیتے ہوں گے۔ لیکن اسلام کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت اور بادشاہت کی برکت سے نوازا۔ اور انہیں دنیا بھر میں دائمی عزت اور ایک لازوال شہرت کا مالک بنا دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کئے گئے تو کسی نے مکہ میں جا کر یہ خبر سنائی کہ ابو بکرؓ خلیفہ تسلیم کر لئے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ کے والد ابو قحافہ بھی اُسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون ابو بکرؓ؟ خبر لانے والے نے بتایا کہ ابو قحافہ کا بیٹا! آپ کے والد نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ کون ابو قحافہ؟ جب انہیں معلوم ہوا کہ خود اُنہی کا بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ منتخب ہوا ہے تو انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور کہا کہ آج مجھ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت منکشف ہو گئی ہے۔ اگر آپ سچے نہ ہوتے تو ابو بکرؓ کی کیا حیثیت تھی کہ اس کو اتنی بڑی عزت ملتی (تاریخ الخلفاء للسيوطی، ابو بکر صدیقؓ)۔ غرض کہاں ایک قبیلہ کی لیڈری اور کہاں یہ کہ تمام مسلمانوں کا خلیفہ اور مملکتِ عرب کا بادشاہ ہونا۔ جس نے ایران اور روم سے ٹکری اور انہیں نیچا دکھایا۔ پس فرمایا۔ اسلام کے لئے جو قربانیاں انہیں دینی پڑیں گی۔ وہ اُن فوائد کے مقابلہ میں بہت حقیر ہیں جو انہیں اسلام سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ کاش وہ جانتے اور اس کی قدر کرتے۔

آخر میں اس شبہ کا ازالہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ **وَالْتَبَعُوا** میں ماضی کا صیغہ کیوں رکھا گیا ہے۔ چاہیے تھا کہ **يَتَّبِعُونَ** کہا جاتا۔ اور مضارع کا صیغہ استعمال کیا جاتا۔ اس کے لئے یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں جس فعل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ وہ شرارتیں ہیں جو انہوں نے ایرانی بادشاہ خسرو ثانی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے کے لئے کی تھیں۔

لیکن خسرو ثانی کے بعد ایک ایسا بادشاہ تخت نشین ہوا۔ جس کی پالیسی سابق فرمانروا کے خلاف تھی یعنی شیروہ۔ وہ تخت حکومت پر بیٹھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی ظالمانہ شکایات کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس وجہ سے یہاں مضارع کا صیغہ نہیں بلکہ ماضی کا صیغہ ہی استعمال ہو سکتا تھا۔ اگر **يَتَّبِعُونَ** کہا جاتا تو پھر یہ سمجھا جاتا کہ خسرو ثانی کی پالیسی بعد میں بھی جاری رہی تھی حالانکہ وہ مارا گیا تھا۔ اور اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے حکم کو منسوخ کر دیا تھا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ **تَقْتُلُوا** مضارع ہے حالانکہ یہاں ماضی زیادہ مناسب تھی۔ مفسرین نے تو اس کا یہ

جواب دیا ہے کہ یہ اصل میں كَانَتْ تَتْلُوْا ہے۔ کانت کو اڑا کر تَتْلُوْا کر دیا گیا اور الفاظ کو حذف کر دینا عربی زبان کی اُن خصوصیات میں سے ہے جو اُسے دوسری زبانوں سے ممتاز کرتی ہیں (البحر المحيط زیر آیت بقرة: ۱۹۲)۔ دوسری زبانوں میں زور دینے کے لئے تشبیہ کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں صرف حذف سے ہی یہ فائدہ اٹھالیا جاتا ہے۔ چنانچہ كَانَتْ تَتْلُوْا سے صرف تَتْلُوْا کر کے یہ مضمون واضح کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے دشمنوں نے بڑے زور سے یہ کام کیا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اُنہی کے نقش قدم پر چل کر اسلام کو مٹانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں۔

لیکن اس کے علاوہ عربی محاورات میں جب کسی لمبی عادت کا ذکر کرنا ہو تو عرب ماضی کی جگہ مضارع استعمال کرتے ہیں جیسے قرآن کریم کی آیت فَلَمَّ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ (البقرة: ۹۲) میں تَقْتُلُوْنَ سے قَتَلْتُمْ مراد ہے اسی طرح یہاں جو مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس سے یہود کی اُن لمبی سازشوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ سے کرتے چلے آئے تھے اور جو اُن کی ایک رنگ میں طبیعت ثانیہ بن چکی تھیں۔ اسی لئے ماضی کی بجائے یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔

میں نے پچھلے رکوع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کی اُن مخالفتوں کا ذکر کیا ہے جو وہ سابق انبیاء کے مقابلہ میں کرتے چلے آئے ہیں۔ اور اُن کی بد اعمالیوں کے سلسلہ کا ذکر کرتے ہوئے بات کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ انہوں نے انبیاء سابقین کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مخالفت کی۔ اب اس رکوع میں اُس سلسلہ مخالفت کی بعض اور کڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مخالفت کر رہے ہیں یہ اُن کا ایک دیرینہ مشغلہ ہے۔ اور اُن کی یہ مخالفت انہیں خدا تعالیٰ کی مخالفت پر بھی آمادہ کر رہی ہے۔

چنانچہ آیت نمبر ۹۸ میں بتایا کہ یاد رکھو۔ اس کلام کی دشمنی درحقیقت کلام بھیجنے والے کی دشمنی ہے اور آیت نمبر ۹۹ میں بتایا کہ خدا تعالیٰ کی دشمنی گویا تمام اسباب روحانی اور جسمانی کی دشمنی ہے جو انسانی ترقی کے مدد و معاون ہیں۔ اس لئے یہ نہ سمجھو کہ قرآن کریم کا انکار ایک معمولی بات ہے بلکہ یہ خالق اسباب اور قوموں کو ترقی و تنزل دینے والے سے جنگ ہے۔ آیت نمبر ۱۰۰ میں بتایا کہ قرآن مجید کا انکار بلاوجہ ہے کیونکہ اس کی صداقت کے زبردست دلائل موجود ہیں۔ آیت ۱۰۱، ۱۰۲ میں بتایا کہ یہ اپنے انبیاء سے عہد کر چکے ہیں کہ ہم آنے والے رسول کو مانیں گے

مگر پھر بھی نہیں مانتے۔ آیت ۱۰۳ میں بتایا کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف انکار ہی نہیں کرتے بلکہ آپ کے ہلاک کرنے کے لئے طرح طرح کے منصوبے کر رہے ہیں جن میں بعض بادشاہوں سے خفیہ خط و کتابت بھی شامل ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ سلسلہ تباہ ہو جائے گا۔ مگر یہ اُن کی غلطی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔

یہ وہی مضمون ہے جو اَفْکَلِمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ اِیَّاہَا لَا تَهْوٰی اَنْفُسُکُمْ اَسْتَكْبِرُوْکُمْ (البقرة: ۸۸) میں بیان کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کی شہادت کے طور پر فرمایا کہ ان کا یہ دیرینہ اصول ہے کہ مخالفت ضرور کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس رکوع میں اس کی ایک مثال دی جو تینوں زمانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک تو انتہائی ترقی کے وقت پر چسپاں ہوتی ہے یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے وقت پر۔ دوسرے درمیانی وقت پر یعنی حجی اور زکریاہ نبی کے زمانہ پر۔ اور آخری مثال اُن کے منزل کے زمانہ کی ہے گویا کوئی زمانہ بھی اُن کی مخالفت سے خالی نہیں رہا۔ آیت نمبر ۱۰۴ میں بتایا کہ ایمان لانا اور شیوہ اِتِّعَاءِ اِخْتِیَارِکُمْ اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَّ قُوْلُوْا اَنْظُرْنَا

اے ایمان دارو! (رسول کو مخاطب کر کے) رَاعِنَا مت کہا کرو اور اَنْظُرْنَا کہا کرو

وَاَسْمِعُوْا وَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۵﴾

اور (توجہ سے اس کی) بات سنا کرو۔ اور (یاد رکھو کہ) منکروں کے لئے دردناک عذاب (مقدر) ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ رَاعِنَا یہ مرکب ہے رَاعٍ اور نَا سے اور رَاعٍ باب مفاعله سے امر کا صیغہ ہے۔ رَاعِي الرَّجُلُ کے معنی ہیں (۱) اِلْتَفَقَتِ اِلَيْهِ مَحْسَبًا۔ اُس نے شفقت سے کام لیتے ہوئے دوسرے کی طرف توجہ کی۔ (۲) ایک دوسرے کے ساتھ رعایت اور نرمی کا معاملہ کیا (اقرب)۔ لیکن چونکہ رَاعِنَا باب مفاعله سے ہے اور باب مفاعله کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مقابلہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسا عمل کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے رَاعِنَا کے معنی یہ ہوں گے کہ تم ہمارا لحاظ کرو تو ہم تمہارا کریں گے۔ تم ہماری رعایت کرو تو ہم تمہاری رعایت کریں گے۔ یہ معنی علاوہ ان معنوں کے ہیں جو اوپر کئے گئے ہیں کہ احسان سے توجہ فرمائیے اور مہربانی کی نظر کیجئے۔

اُنْظُرْنَا کے معنے ہیں ہماری طرف توجہ کیجیے۔ ہمارا انتظار کیجیے۔ ہمیں ساتھ شامل کرنے کے لئے ذرا ٹھہر جائیے۔ (لسان) گویا اُنْظُرْنَا کے بھی وہی معنے ہیں جو رَاعِنَا کے ہیں۔ مگر اس میں وہ شرط نہیں پائی جاتی جو رَاعِنَا میں پائی جاتی ہے۔

تفسیر۔ لَا تَقُولُوا رَاعِنَا۔ یہود مسلمانوں کے خلاف دو قسم کی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ اول بیرونی اور دوم اندرونی۔ یہاں اُن کی اُن شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برگشتہ کرنے اور اُن کے دلوں میں آپ کا ادب اور احترام کم کرنے کے لئے کیا کرتے تھے۔ وہ جس طرح اسلام کو تباہ کرنے کے لئے بیرونی لوگوں کو بلکہ حکومتوں تک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا کرتے تھے اسی طرح وہ مسلمانوں کو بھی اسلام سے بدظن کرنے کے لئے کئی قسم کے حیلے اور تدابیر اختیار کرتے۔ جہاں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی فوراً اس سے ہمدردی کا اظہار شروع کر دیتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آ کر ایسے الفاظ استعمال کرتے جن کے دو معنے ہوتے تھے ایک اچھے اور ایک بُرے تاکہ مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگیں۔ اور اس طرح ان کے دلوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا احترام جاتا رہے۔ اور اُن میں گستاخی اور بے ادبی کی رُوح پیدا ہو جائے۔ مثلاً تضحیک کرنے کے لئے وہ آپ سے بعض دفعہ کوئی بے معنی سا سوال کر دیتے۔ اور اس سے اُن کی غرض یہ ہوتی کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رُعب جاتا رہے اور ان کا خلاص کم ہو جائے یا شرمندہ کرنے کے لئے عبرانی کے متعلق کوئی سوال کر دیتے یا کوئی حوالہ پوچھ لیتے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے فی الحقیقت کسی کی عزت کم ہو جائے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہوتا تو آپ اعتراف فرما لیتے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے چند صحابہؓ کو دیکھا کہ وہ کھجور کے نرمادہ کا آپس میں پیوند کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہو۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا چھوڑ دیا۔ لیکن جب درختوں کو پھل نہ آیا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ آپ کی ہدایت پر ہم نے کھجور کے نرمادہ کو آپس میں ملانا چھوڑ دیا تھا مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھل نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا۔ اس قسم کے معاملات کے متعلق تم مجھ سے زیادہ واقف ہو۔ جب میں تمہیں کوئی دینی حکم دوں تو اُس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ لیکن اگر کسی دنیوی معاملہ کے متعلق رائے دوں۔ تو میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو۔

(مسلم کتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معاش الدنيا على سبيل الرأى)

غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہ ہوتا تو آپ صاف طور پر فرما دیتے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ لیکن یہود کا مقصد چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام مسلمانوں کے دلوں سے کم کرنا تھا اس لئے وہ مجالس میں آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال کر دیتے جس سے اُن کی یہ غرض ہوتی تھی کہ اگر آپ کو ان کا جواب نہ آئے گا تو آپ شرمندہ ہوں گے۔ اور مسلمانوں میں بددلی پیدا ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے الہام کے ذریعہ آپ کو اُن کی شرارتوں سے محفوظ کر دیتا۔ انہیں شرارتوں میں سے اُن کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جن سے اندرونی طور پر ہتک ہوتی تھی۔ لیکن اگر کوئی روکتا تو وہ کہہ دیتے کہ تم ہماری بات سمجھ نہیں۔ ہماری تو اس سے یہ غرض نہیں تھی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہود بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو **السَّامُ عَلَيكُمْ** کہنے کی بجائے **السَّامُ عَلَيك** کہہ دیا کرتے تھے۔ **سُنَّه** والا تو سمجھتا کہ انہوں نے سلام کیا ہے مگر اُن کے مد نظر **سَام** ہوتا جس کے معنی تباہی اور ہلاکت کے ہیں۔ ایک دفعہ بعض یہودیوں نے ایسا ہی کیا۔ تو حضرت عائشہؓ بھانپ گئیں اور انہوں نے فوراً کہا **عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ** یعنی تم پر ہی ہلاکت اور تباہی نازل ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عائشہ سختی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ رفق اور نرمی سے کام لینا زیادہ پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! آپ نے سنا نہیں کہ یہود نے کیا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں کیا جواب دیا کرتا ہوں۔ میں اُن کے اس فقرہ کے جواب میں صرف **عَلَيْكُمْ** کہہ دیا کرتا ہوں۔

(بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی یہ عادت تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے جو گستاخانہ بھی ہوتے اور عامیانہ بھی اور اس سے اُن کا مقصد محض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذلیل اور آپ کا استخفاف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اُن کے اس اندرونی بغض کی ایک مثال دیتا ہے فرماتا ہے اے مومنو! تم **رَاعِنَا** مت کہو بلکہ **اُنْظُرْنَا** کہا کرو۔ حالانکہ **رَاعِنَا** کے بھی وہی معنی ہیں جو **اُنْظُرْنَا** کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ **رَاعِنَا** نہ کہو بلکہ **اُنْظُرْنَا** کہو۔ اس کی وجہ جیسا کہ خود قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر صراحت کی ہے یہ ہے کہ یہود کا یہ طریق تھا کہ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے **رَاعِنَا** کا لفظ استعمال کرتے۔ گو **رَاعِنَا** کے لغتاً یہ معنی ہیں کہ آپ ہماری رعایت رکھیں اور ہم سے مہربانی کا سلوک کریں مگر قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ سیدھی طرح یہ لفظ استعمال

نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی زبان کو پیچ دے کر اور اس لفظ کو ایسے رنگ میں بگاڑ کر استعمال کرتے تھے کہ بادی النظر میں تو رَاعِنَا ہی سمجھا جاتا مگر درحقیقت وہ ایک طنزیہ کلام یا گالی بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ اُن کی اس شرارت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ نساء میں فرماتا ہے۔ **مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَ أَسْمِعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَ رَاعِنَا كَيْفًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنَا فِي الدِّينِ ۗ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أَسْمِعُ وَ أَنْظَرْنَا لَكُنَّا خَيْرًا لَّهُمْ وَ أَقْوَمَ (النساء: ۴۷)** یعنی یہودیوں میں سے بعض لوگ خدا تعالیٰ کے الہامات کو اُن کے اصل مقام سے ادھر ادھر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اور کہتے ہیں۔ ہماری باتیں سن تجھے خدا کا کلام کبھی نہ سنا یا جائے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رَاعِنَا یعنی ہمارا لحاظ کر۔ مگر یہ بات اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اگر وہ اس شرارت اور فتنہ انگیزی کی بجائے یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور کہتے کہ ہماری معروضات سُن اور ہمارا بھی لحاظ رکھو تو یہ امر اُن کے لئے بہت بہتر اور بہت زیادہ درستی اخلاق کا موجب ہوتا۔

مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں بکریاں بھی چرائی تھیں اس لئے فتنہ پرداز یہودی ذرا لہجہ بدل کر رَاعِنَا کی بجائے رَاعِينَا کہہ دیا کرتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تُو تو ہمارا چرواہا ہے اب تُو نبی کس طرح بن گیا (البحر المحیط زیر آیت ہذا)۔ مگر علامہ اصفہانی صاحب مفردات لکھتے ہیں کہ كَانَ ذَالِكَ قَوْلًا يَقُولُونَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيلِ التَّهْكِيمِ يَقْصِدُونَ بِهِ رَمِيئَهُ بِالرُّعُونََةِ وَ يُؤْهِمُونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ رَاعِنَا أَيْ إِحْفَظْنَا، مِنْ قَوْلِهِمْ - رَعْنُ الرَّجُلِ يَزَعْنُ رَاعِنًا فَهُوَ رَاعِنٌ وَ أَرَعْنُ - (مفردات زیر لفظ رَعْن) یعنی یہودی رَاعِنَا کا لفظ محض ہنسی اور مذاق کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اُن کا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حماقت سے متہم کرنا ہوتا تھا لیکن وہ سُننے والوں کو اس وہم میں بھی مبتلا رکھنا چاہتے تھے کہ وہ رَاعِنَا کا لفظ إِحْفَظْنَا کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں حالانکہ وہ رَاعِنَا نہیں بلکہ رَعِنَا کہہ رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ اہل عرب بیوقوف اور احمق انسان کو رَعِنٌ اور أَرَعْنُ کہا کرتے ہیں۔ اس لفظ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لفظ رَعِنٌ سے بھی بن سکتا ہے جس کے معنی احمق خود پسند اور متکبر انسان کے ہیں۔ منادئ ہو کر یہ لفظ رَعِنَا ہوا اور چونکہ وہ كَيْفًا بِأَلْسِنَتِهِمْ کے ماتحت اپنی زبان کو پیچ دے کر یہ لفظ استعمال کرتے تھے تا اُن کی منافقت پر بھی پردہ پڑا ہے اس لئے وہ رَعِنَا کو ایسے رنگ میں ادا کرتے کہ وہ رَاعِنَا بھی سمجھا جاتا۔ اور چونکہ آخری الف خطاب کے لئے ہے اس لئے رَعِنَا کے معنی یہ ہوتے کہ اے بیوقوف یا اے دھوکہ خوردہ انسان۔

گویا بظاہر تو یہی دکھائی دیتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے معزز اور بزرگ ہیں۔ آپ ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم آپ کی باتیں سنیں۔ مگر وہ کہتے یہ تھے کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا یہ بڑا متکبر اور خود پسند انسان ہے۔ اور اگر انہیں کہا جاتا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو تو وہ فوراً کہہ دیتے کہ ہم نے ذاعنا کہا ہے اور آپس میں اشارے کر کے خوش ہوتے کہ دیکھو ہم نے انہیں کیسا بیوقوف بنایا ہے۔

مگر میرے نزدیک ایک اور وجہ بھی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کو ذاعنا کہنے سے روکا گیا ہے۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ ذاع باب مفاعله سے امر کا صیغہ ہے اور اس باب میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ تم مقابل میں ایک بات کرو گے تب ہم تمہارے لئے ایسا کریں گے۔ پس ذاعنا میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ آپ ہماری رعایت مد نظر رکھیں گے تب ہم بھی آپ کی رعایت ملحوظ رکھیں گے ورنہ نہیں۔ مگر انظرنا کے صرف یہی معنی ہیں کہ آپ ہماری رعایت رکھیے یا ہماری طرف نظر عنایت کیجئے۔ پس ذاعنا کے معنی اگرچہ عام محاورہ میں یہی ہیں کہ آپ ہماری رعایت رکھیں۔ لیکن اس لفظ کے مادہ میں چونکہ بے ادبی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور کسی بڑے آدمی کو جس کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے یہ کہنا کہ ہم آپ کی رعایت اور ادب صرف اسی صورت میں کریں گے جب آپ بھی ہماری رعایت رکھیں گے ایک سخت بے ادبی کا کلام ہے۔ اور یہ ایک قسم کا سودا بن جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے منافی تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے مخالفت فرمائی اور اسی مفہوم کو ایسے لفظ میں ادا کرنے کا حکم دیا جس میں بے ادبی کا کوئی احتمال نہیں۔

غرض میرے نزدیک مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے اس لئے نہیں روکا گیا کہ ان کی یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ کیونکہ اگر نیت نہ ہو تو مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس لئے روکا گیا ہے۔ کہ ذاع مَرَاعَاةً سے ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ تو میری رعایت کرتو میں تیری رعایت کروں گا۔ جیسے قاتل کے معنی ہیں یہ اُس سے لڑا اور وہ اس سے لڑا۔ اور باہل کے معنی ہیں۔ اُس نے اس پر لعنت کی اور اس نے اُس پر۔ اسی طرح اگرچہ ذاعنا کے عام استعمال میں یہی معنی لئے جاتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کریں مگر لغت میں اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ تم ہماری رعایت کرو تب ہم تمہاری رعایت کریں گے اور اس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی ہے۔ یہودیوں کا منشاء تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ بار بار استعمال کریں تا ان سے سن کر مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگ جائیں۔ اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے دور ہو جائے۔ اس بدی کا سد باب کرنے کیلئے خدا تعالیٰ نے سختی سے حکم دے دیا کہ کوئی

شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ لفظ استعمال نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں جو تباہی اور خرابی پیدا ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ کہ انہوں نے ادب اور احترام کے الفاظ گندے معنوں میں استعمال کرنے شروع کر دیئے۔ ان کی حکومتیں مٹ گئیں۔ سلطنتیں برباد ہو گئیں صرف اس لئے کہ ان کے نزدیک بادشاہ کے معنی بیوقوف کے ہو گئے۔ جہاں بادشاہ بیوقوف کو کہا جائے گا وہاں بادشاہ کا ادب کہاں رہے گا۔ اور جب بادشاہ کا ادب مٹ گیا تو حکومت بھی تباہ ہو گئی۔ اسی طرح علماء اور بزرگوں کا ادب مسلمانوں کے دلوں سے اس طرح اٹھا کہ حضرت کا لفظ جو ان کے متعلق استعمال ہوتا تھا وہی لفظ شریروں اور بد معاشوں کے متعلق بھی استعمال کرنے لگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کا ادب مٹ گیا اور ان کی بے ادبی شروع ہو گئی۔ اسی طرح دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے لفظ کی بے ادبی سے مسلمانوں پر کس طرح تباہی اور بربادی آئی ہے۔ جب کسی کے پاس کچھ نہ رہے تو کہتے ہیں اب تو اللہ ہی اللہ ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اللہ کے معنی صفر کے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اللہ ان کے مد نظر ہے۔ یا حضرت ابوبکرؓ والا اللہ ان کے ذہن میں ہے جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبکہ وہ اپنا سارا مال خدا کی راہ میں دینے کے لئے لے آئے تھے پوچھا تھا کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا اللہ (ترمذی ابواب المناقب ابوبکرؓ)۔ یہ بالکل اور رنگ تھا لیکن مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ ہی اللہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں رہا۔ غرض اس رنگ میں اللہ کے لفظ کے استعمال کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے خدا تعالیٰ پر ایمان اٹھ گیا اور ان میں دہریت آ گئی۔ پس اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ ادب اور احترام کے الفاظ کبھی گندی اور بری جگہ استعمال نہیں کرنے چاہئیں ورنہ قابل احترام چیزوں کا ادب بھی اٹھ جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آیت، معجزہ، کرامت، نبی، رسول، شہید وغیرہ تمام الفاظ تمہارے نزدیک بڑے معزز و مکرم ہونے چاہئیں۔ ورنہ اگر ان الفاظ کا ادب اٹھ گیا تو پھر ان لوگوں کا ادب بھی اٹھ جائے گا جن کے متعلق یہ الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں اور اس طرح اباحت اور بے دینی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے اَللّٰھُ یَقْتُلُ کُلَّھَا اَدَبٌ۔ یعنی روحانیت کی تمام تر بنیاد ادب پر ہے (ملفوظات جلد سوم صفحہ ۴۵۵)۔ اگر ادب ملحوظ نہ رکھا جائے یا ایسے الفاظ استعمال کر لئے جائیں جو ذمہ معنی ہوں تو بعض دفعہ اس کا نہایت خطرناک نتیجہ نکلتا ہے۔

انشاء اللہ خان انشاء ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ اور ہمیشہ اس امر کی کوشش کیا کرتے تھے کہ بادشاہ کی

تعریف میں دوسروں سے بڑھ کر بات کہیں۔ ایک دن دربار میں بادشاہ کی تعریف ہونے لگی۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے بادشاہ بڑے نجیب ہیں۔ انشاء اللہ خان نے فوراً کہا۔ نجیب کیا حضور تو آنجیب ہیں۔ اب آنجیب کے ایک معنی تو زیادہ شریف کے ہیں۔ مگر ساتھ ہی اس کے ایک معنی لونڈی زادہ کے بھی ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ بادشاہ تھا بھی لونڈی زادہ۔ تمام دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اور سب کی توجہ لونڈی زادہ والے مفہوم کی طرف پھر گئی۔ بادشاہ کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی۔ اور انشاء اللہ خان کو اُس نے قید کر دیا اور آخر اسی قید میں انہیں جنون ہو گیا اور وہ مر گئے (تاریخ ادب اردو باب ۷ صفحہ ۲۴)۔ غرض اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت دیتا ہے کہ دیکھو تم رَاعِنًا مت کہا کرو۔ بلکہ اُنْظُرْنَا کہا کرو۔ اور ایسے طریق جن سے خدا کے رسول کی بے ادبی ہوتی ہو چو۔

لَبَّيَّا کے معنی بھی اِخْفَاءٌ وَ كَيْفَمَا نَا کے ہیں۔ جس میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ رَاعِنًا کا لفظ تو اُن کی زبانوں پر ہوتا تھا مگر اس چیز کو چھپاتے ہوئے جو اُن کے مد نظر ہوتی تھی وہ اس لفظ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی زبانوں پر تو یہی لفظ ہوتا مگر دل میں کچھ اور مطلب ہوتا۔ اصل میں تو یہ مراد ہوتی کہ تو بڑا احمق اور خود سراسر انسان ہے مگر جب پوچھا جاتا تو صاف کہہ دیتے کہ ہم تو ان کی نظر عنایت کے طلبگار ہیں۔ اور رَاعِنًا عرض کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر وہ الگ ہو کر کہا کرتے کہ دیکھا ہم نے نعوذ باللہ اسے اُس کے تبیین میں کیسا ذلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یہود دلیر ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی انہیں کچھ وقعت نہیں دیتے۔ بے شک اُنْظُرْنَا کے بھی یہی معنی ہیں کہ ہماری طرف توجہ کیجئے مگر اس میں برابری کا وہ مفہوم نہیں پایا جاتا جو رَاعِنًا میں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کے مفہوم میں بھی یہ بات ہوتی کہ تو توجہ کر تو پھر ہم بھی توجہ کریں گے تو بے شک بے ادبی ہوتی مگر اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔

اُنْظُرْنَا کے یہ بھی معنی ہیں کہ ہمارا انتظار کیجئے یا ہمیں مہلت دیجئے یا ہمیں موقع دیجئے کہ ہم اپنی معروضات کو پوری طرح پیش کر سکیں۔ پس یہ ادب کے الفاظ ہیں اور ایسے ہی الفاظ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ایک مومن کیلئے ضروری ہوتا ہے۔

وَالْمَعْمُورِ ا میں بتایا کہ ہم نے تمہیں جو یہ حکم دیا ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اسے قبول کرو اور توجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنا کرو تا کہ تمہیں دوسری دفعہ آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آوے اور یہ الفاظ تمہیں استعمال ہی نہ کرنے پڑیں۔ اگر پہلے توجہ نہ کرو گے۔ اور آپ کی باتوں کو پورے غور کے ساتھ نہ سنو گے تو تمہیں یہ کہنا پڑیگا کہ ہمیں پھر سمجھائیے اس لئے خدا کے رسول کی باتوں کی طرف تم ایسی توجہ رکھو کہ یہ

بات ہی پیدا نہ ہو اور دوسری دفعہ تمہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ غرض **وَاسْمَعُوا** کے دونوں مفہوم ہیں یہ بھی کہ تم ہماری بات مان لو اور یہ بھی کہ تم توجہ سے اس کی باتیں سنو تا کہ یہ صورت ہی پیدا نہ ہو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو یاد رکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بن جائیں گی اور تمہارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی۔ کیونکہ ظاہر کا باطن پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ مگر ظاہری آداب سے وہ باتیں مراد نہیں جو انسان کو دوسرے کا غلام بنا دیں مثلاً دوسرے کے پاؤں یا گھٹنے کو ہاتھ لگانا۔ یہ ایک مومن کی انتہائی ذلت ہے جو کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ دوسرے کا ادب بغیر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے بھی ہو سکتا ہے پس جس بات میں ذلتِ نفس پائی جائے اُسے کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے اور نہ اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے۔

وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ میں کفار سے مراد وہی مفسد اور فتنہ پرداز یہود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور مسلمانوں میں منافقت کا بیج بونے اور ان کے دلوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کم کرنے کے لئے اس قسم کی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی حرکات سے باز نہ آئے تو ایک دن انہیں ان کی شرارتوں کا دردناک انجام دیکھنا پڑے گا۔

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

اہل کتاب میں سے اور نیز مشرکوں میں سے جن لوگوں نے (ہمارے رسولوں کا) انکار کیا ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ

أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ

تم پر تمہارے رب کی طرف سے کسی قسم کی خیر (اور برکت) اتاری جائے اور (بھول جاتے ہیں کہ) اللہ تعالیٰ

بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝۱۰۶

جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ بڑا افضل کرنے والا ہے۔

تفسیر۔ فرمایا نہ اہل کتاب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم پر خدا کا فضل نازل ہو اور نہ ہی مشرک۔ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری ادب ترک کر دو۔ اور تمہارے دلوں میں ان کی وقعت کم ہو جائے اور اس طرح تم میں تفرقہ اور شقاق اور فساد پیدا ہو جائے اور تمہارا اتحاد جس کی

وجہ سے تمہیں طاقت حاصل ہے جاتا رہے۔ اس لئے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ دشمن کی غرض تو ہنسنا اور تضحیک کا پہلو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مگر وہ جانتا نہیں کہ اس سے خود اُس کی کمی نگلی ظاہر ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑتا ہے۔

وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ۔ فرماتا ہے۔ ان باتوں سے کیا بنتا ہے۔ خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کر لیتا ہے۔ اس وقت اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی رحمت کو مخصوص کر دیا ہے۔ پس تم چاہے کتنی گالیاں دے لو۔ خدا کا نبی جیتتا چلا جائے گا۔ کیونکہ اس کیلئے خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی ہوئی ہے۔

وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ میں اس طرف توجہ دلائی کہ اُس کی رحمت عام ہے۔ اس لئے اگر تم ایمان لے آؤ تو ہماری رحمت ختم نہیں ہوگی۔ اگر تم توبہ کرو تو تمہیں بھی ہماری رحمت سے حاصل جانے گا۔

مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ

جس کسی پیغام کو بھی ہم منسوخ کر دیں یا بھلوا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسا (پیغام) ہم (دوبارہ دنیا میں) لے آتے

مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾

ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر ایک امر پر (جس کا وہ ارادہ کرے) پورا قادر ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ نَسَخَ الشَّيْءَ کے معنی ہیں آزالہ و اَبْطَلَهُ و مَسَخَهُ۔ اُس نے کسی چیز کو مٹا دیا۔ باطل کر

دیا اور نسخ کر دیا۔ (اقرب)

نُنسِهَا اَنْسَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ کے معنی ہیں حَمَلَهُ عَلَي نِسْيَانِهِ۔ اُسے بھول جانے پر آمادہ کر دیا۔

(اقرب) پس نُنسِهَا کے معنی ہیں ہم بھلوا دیں اور ذہنوں سے محو کر دیں۔

الْآيَةِ کے معنی ہیں الْرِسَالَةُ۔ رسالت۔

تفسیر۔ یہ آیت ایسی اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس آیت کے متعلق جو غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی تھی اگر

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام صرف اسی کو دُور کرتے تو میرے نزدیک یہی ایک بات آپ کی نبوت اور

ماموریت کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوتی۔ اس کے متعلق مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں اُن کی

موجودگی میں اسلام کو سچا مذہب قرار دینا یا اُسے قلبی تسلی اور اطمینان کا موجب سمجھنا ناممکن تھا۔ کیونکہ اس زمانہ میں اس آیت کے معنی مسلمانوں میں یہ رائج تھے کہ ہم قرآن کریم کی جو آیت بھی منسوخ کر دیں یا اُسے بھلا دیں ہم اُس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت لے آتے ہیں۔ اس آیت کے یہ معنی کر کے وہ اس سے قرآن کریم میں نسخ کا ثبوت نکالا کرتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات یقیناً منسوخ ہو گئی تھیں۔ اور منسوخ کے وہ یہ معنی لیتے تھے کہ اُن کے احکام کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اور بعض آیات کے متعلق وہ سمجھتے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا تھا۔ اس نسخ کے متعلق مسلمانوں کے مختلف نظریات ہیں۔

اُن کے نزدیک نسخ کی ایک قسم یہ ہے کہ آیت کے معنی تو قائم ہوتے ہیں مگر الفاظ مٹ کر دینے جاتے ہیں۔ گویا ایک آیت معناً تو قرآن کریم میں موجود ہوتی ہے مگر اُس کے الفاظ اس میں نہیں ہوتے۔ وہ اس کی مثال یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے یہ آیت موجود تھی کہ **الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُوهُمَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ**۔ (روح المعانی زیر آیت ہذا) یعنی ”اگر کوئی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت زنا کریں تو اُن دونوں کو سنگسار کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔“ مگر پھر اسے نکال دیا گیا لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری آیت جو اُن کے خیال میں قرآن کریم سے نکال دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ **لَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَآدِيَانِ مِنْ مَّالٍ لَا يَبْغِي وَآدِيَانُ لَغَاوًا يَمْتَلِكُ جَوْفَهُ إِلَّا التُّرَابَ** (فتح البیان زیر آیت ہذا) یعنی اگر ابن آدم کے پاس مال و دولت سے بھری ہوئی دو دویاں بھی ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ ایسی ہی اُسے ایک تیسری وادی بھی مل جائے۔ اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔

دوسری قسم کا نسخ وہ یہ بتاتے ہیں کہ الفاظ آیت تو قائم رکھے جاتے ہیں۔ مگر اُس کا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کے ثبوت میں آیت **لَا اِكْرَاكَ فِي الدِّينِ** (البقرة: ۲۵۷) کو پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کا حکم اُن کے نزدیک منسوخ ہے مگر الفاظ قائم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو آیات جہاد نے منسوخ کر دیا ہے۔ اور اب کفار کو ڈنڈے مار مار کر اسلام میں داخل کرنا جائز ہے۔ اس کی دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَبْتُمْ الرَّسُولَ فَمَنْ مَوَّابِينَ يَدْعِي نَجْوَكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطَهَرُ** (المجادلة: ۱۳) یعنی اے مومنو! جب تم رسول سے الگ مشورہ کرنا چاہو تو اپنے مشورہ سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے اچھا ہو گا اور تمہارے دل کو پاک کر نیکا موجب ہو گا اُن کے نزدیک اس آیت کے حکم کو اگلی آیت نے منسوخ کر دیا ہے کہ

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَلِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المجادلة: ۱۳) یعنی کیا تم مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ سو چونکہ تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل فرما دیا ہے۔ پس تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰتیں دو۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔

تیسری قسم کا نسخ وہ ہوتا ہے جس میں اُن کے نزدیک آیت کے الفاظ اور معنی دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال وہ توجیل قبلہ کا حکم بتاتے ہیں کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اب اس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں (تفسیر کبیر لایمام رازی زیر آیت ہذا)۔ حالانکہ نہ اس کا حکم موجود ہے اور نہ ہی عملاً اب مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔

غرض یہ تین قسمیں وہ منسوخ آیات کی بتاتے ہیں اور نُنْسِهَا کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حصہ ذہنوں سے اُتر جاتا ہے۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ دو صحابہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سورۃ سیکھی۔ پھر وہ دونوں ایک رات اسے پڑھنے لگے۔ مگر اس کا ایک لفظ بھی ان دونوں کو یاد نہ رہا۔ صبح ہوئی تو وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ سورۃ ہمارے ذہنوں سے اُتر گئی ہے آپ نے فرمایا اِنَّهَا جِئَتْ نُسُخًا وَنُسِخَ لِي یعنی یہ سورۃ بھی منسوخ آیات میں سے تھی جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور اسے جُھلا دیا گیا ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت امام قرطبی نے بھی لکھی ہے۔

بعض نے نُنْسِهَا کی بجائے نُنْسِهَا پڑھا ہے۔ اُن کے نزدیک اس کے معنی جُھلانے کے نہیں بلکہ یہ ہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ہم اسے قرآن کریم میں ہی رہنے دیتے ہیں بدلے نہیں۔ (فتح البیان زیر آیت ہذا)

بعض نے اسے نُنْسِهَا ہی رکھا ہے۔ مگر اس کے معنی نُنْسِهَا کے لئے ہیں۔ یعنی ہم اسے غائب کر دیتے یا ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں۔ گویا وہ اس کے معنی بھول جانے کے لیتے ہیں۔ مگر ہر شخص معمولی تدریس سے بھی کام لے کر سمجھ سکتا ہے کہ نسخ کا عقیدہ تسلیم کرنے کے بعد قرآن کریم کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ خدا تعالیٰ نے فلاں آیت کا حکم منسوخ کر کے اُسے قرآن کریم سے نکال دیا ہے تو یہ بات کم از کم قرآن مجید کے متعلق شبہ پیدا کرنے والی نہ ہوتی۔ یا جن آیات کو خدا تعالیٰ نے تبدیل کرنا تھا اُن کو قرآن کریم میں درج ہی نہ کیا جاتا بلکہ ان کی

بجائے جو مستقل حکم دینا تھا صرف اُسے ہی درج کر دیا جاتا تب بھی کوئی بات تھی لیکن اگر ان کی بجائے کوئی مستقل حکم نہ لانا تھا تو منسوخ شدہ آیات کو قرآن کریم میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے شک یہ درست ہے کہ بعض وقتی احکام منسوخ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ صحیفہ ابراہیمؑ کو صحیفہ موسیٰؑ نے منسوخ کر دیا اور صحیفہ موسیٰؑ کو قرآن کریم نے منسوخ کر دیا۔ پس احکام الہیہ کا منسوخ ہونا کوئی قابلِ تعجب امر نہیں جو معیوب بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرف جو ایک دائمی شریعت ہے اس بات کو منسوب کیا جائے کہ قرآن کریم میں بعض آیات کو درج کر کے پھر انہیں نکال دیا گیا تھا پھر اگر ان کو خارج کر دیا جاتا تب بھی اتنی خطرناک بات نہ تھی۔ لیکن جب کوئی شخص یہ بات کہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہیں اور ان کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں اور وہ اس کے ثبوت میں کوئی وحی الہی پیش نہ کر سکے بلکہ صرف اپنا قیاس پیش کرے تو اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ انسانی دماغ کے کئی مدارج ہوتے ہیں۔ بعض باتوں کو ایک دماغ سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ اگر اس بات کا فیصلہ انسانی دماغ پر رکھا جائے کہ قرآن مجید میں سے کوئی آیت قابلِ عمل ہے اور کوئی منسوخ تو ایک رنگ میں سارا قرآن ہی منسوخ ہو جائے گا۔ کیونکہ کسی حصّہ کو کوئی نہیں سمجھتا اور کسی کو کوئی۔ یہی وجہ ہے کہ پانچ آیات سے لے کر گیارہ سو آیات تک منسوخ قرار دی جاتی ہیں۔ گویا جس کی سمجھ میں پانچ آیتیں نہ آئیں اُس نے پانچ منسوخ کر دیں اور جس کی سمجھ میں سو نہ آئیں اُس نے سو منسوخ کر دیں اور جس کی سمجھ میں ہزار نہ آئیں اُس نے ہزار منسوخ کر دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آکر بتایا کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا قرآن قابلِ عمل ہے بِسْمِ اللّٰهِ کی بابت سے لے کر وَاللّٰتِیْسِ کی سب تک قرآن کریم قائم اور قیامت تک کے لئے قابلِ عمل ہے۔ آپ کے یہ الفاظ مجھے خوب یاد ہیں کہ جب کوئی انسان اس بات کا قائل ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر ایسی آیات بھی موجود ہیں جو منسوخ ہیں تو اُسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ قرآن کریم پر غور کرے اور سوچے اور اُس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ تو کہے گا کہ جب اس میں ایسی آیات بھی ہیں جو منسوخ ہیں تو میں ان پر غور کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کروں۔ ممکن ہے میں جس آیت پر غور کروں مجھے بعد میں معلوم ہو کہ وہ منسوخ ہے لیکن جو شخص یہ کہے گا کہ یہ کلام تمام کا تمام غیر منسوخ ہے اور اس کا ہر شوشہ تک قابلِ عمل ہے وہ اس کے سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا اور اس طرح قرآن اس کی معرفت کی ترقی کا موجب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بڑے بڑے علم والے لوگ پیدا کئے ہیں۔ مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا علم قرآن حاصل کر لیا ہے۔ میں بھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بے شمار معارف کھولے ہیں نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کا سارا علم میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اگر

ایسا ہوتا کہ کوئی شخص اس کے تمام معارف سمجھ لیتا تو قیامت آجاتی۔ کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لئے ہے۔ اور اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔ جب اس میں سے نئے نئے مضامین نکلنے بند ہو جائیں گے اُس وقت قیامت آجائے گی۔ پس اس کے معارف کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور یہ کتاب ہمیشہ نئے نئے مطالب دنیا میں ظاہر کرتی رہے گی۔ اگر مفسرین! اسے سمجھ نہ سکتے تھے تو کم از کم انہیں اس کی طرف اس قسم کی باتیں تو منسوب نہیں کرنی چاہئیں تھیں کہ جن کو کوئی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں جب تفسیریں دیکھتا اور ان میں نسخ کی بحث پڑھتا ہوں تو مجھے تو ایک بھی آیت ایسی نظر نہیں آتی جو منسوخ ہو۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ کہ نسخ ماننے سے قرآن کریم کا وجود ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس آیت کے جو معنی کئے گئے ہیں قرآن کریم کی رو سے قطعاً غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى (الاعلیٰ: ۷) یعنی ہم یہ قرآن تجھے اس طرح پڑھائیں گے کہ اس کے نتیجے میں تو بھولے گا نہیں۔ اگر نَدْسِيهَا كَالْفُطْرِ قَرَأْنِ كَرِيمِ کے لئے ہے تو سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى بھی تو قرآن کریم ہی کے لئے فرمایا گیا ہے۔ اب جو معنی وہ لوگ کرتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ان دونوں میں سے ایک آیت ضرور منسوخ ہوگی۔ اگر دوسری کو منسوخ قرار دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تو قرآن کریم ہمیشہ بھولا کرے گا اور وہ تجھے کبھی یاد نہیں رہے گا۔ حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے بھی عجیب کام ہوتے ہیں۔ اس نے بھی یہ تدبیر کی کہ فَلَا تَنْسَى والی آیت کو منسوخ کر نیکا خیال کسی کو بھی نہ سوجھا۔ حالانکہ اگر قرآن کریم میں نسخ قرار دینا تھا تو انہیں سب سے پہلے اس آیت کو منسوخ کرنا چاہیے تھا مگر انہوں نے اسے منسوخ قرار نہیں دیا۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُزَلِّنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَءَلْمُحْفُظُونَ (الحجر: ۱۰) کہ ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دائمی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم مستقل طور پر قرآن کریم کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ پس جس کلام کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اٹھایا ہے اُس کے بھول جانے یا اس میں کسی آیت کے منسوخ ہونے کے کیا معنی ہیں؟ اور اگر وہ بھول گیا یا اُس میں نسخ ہو گیا تو پھر اُس کی حفاظت کے کوئی معنی نہیں رہتے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ قابل عمل ہے اور یہ قیامت تک قائم رہنے والی شریعت ہے۔ میں نے ایک دفعہ رویا میں دیکھا کہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا ہر لفظ اور ہر زبر اور ہر زیر اپنے اندر معنی رکھتی ہے اور قرآن کریم میں چھوٹے چھوٹے فرق سے اُس کے معانی بدلتے جاتے ہیں۔

اور اس میں جس قدر حکمتیں ہیں کوئی کتاب ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ ساری حکمتیں ہر شخص پر کھل جائیں۔ ہاں ہر زمانہ میں قرآن کریم کے کچھ نئے معنی کھلتے ہیں اور ان کے علاوہ کچھ زائد معنی ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے رکھے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

جو لوگ قرآن کریم میں نسخ قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کے ثبوت کے طور پر اس قسم کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فلاں آیت منسوخ ہے۔ یا آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آیت منسوخ کر دی ہے یا لوگ آپ کی مجلس میں آئے ہوں اور آپ نے فرمایا ہو کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آج رات یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ صرف استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ فلاں آیت کا فلاں آیت کے مخالف مفہوم ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ناسخ ہے اور دوسری منسوخ۔ گویا جو آیت بھی ان سے حل نہیں ہوتی اُسے وہ منسوخ قرار دے دیتے ہیں۔ اور یہ محض عدم علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ ادھر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ احاد احادیث قرآن کریم کو منسوخ نہیں کرتیں۔ اور یہ بات صحیح ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک چھوڑ کر وڑ احاد احادیث بھی قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ نہیں کر سکتیں مگر دوسری طرف وہ اپنے ظن اور قیاس سے کام لے کر قرآن کریم کی آیات کو منسوخ قرار دینے لگ جاتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ منسوخ کی وہ قسم کہ جس کے الفاظ بھی منسوخ ہوں اور حکم بھی منسوخ ہو اس کی وہ کوئی مثال پیش نہیں کرتے حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی کوئی مثال پیش کرتے اور بتاتے کہ فلاں آیت قرآن کریم میں تھی اور اس کے الفاظ اور حکم دونوں منسوخ ہیں۔ وہ صرف تحویل قبلہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا حکم قرآن کریم میں تھا مگر اس کے الفاظ وہ پیش نہیں کرتے اس لئے ان کا یہ دعویٰ قابل اعتبار نہیں سمجھا جاسکتا۔

پھر جن آیات کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہؓ کو بھول گئی تھیں۔ ان کا بھولنا تو ایک معجزہ بن جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا تو اس کے متعلق سارے صحابہؓ میں شور پڑ جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ آپ سینکڑوں آدمیوں کو قرآن کریم سکھاتے اور حفظ کرواتے تھے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک لڑائی میں ستر قاری شہید ہو گئے تھے (بخاری کتاب المغازی باب غزوة الرجیع.....)۔ جب صرف ایک لڑائی میں شہید ہونے والوں کی تعداد اس قدر ہو تو اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں کس قدر قاری پائے جاتے تھے اور یہ سینکڑوں حفاظ ان پانچ حفاظ کے علاوہ تھے۔ جنہیں آیات نازل ہونے کے فوراً بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کروا دیتے تھے (بخاری کتاب العلم)۔ یہ پانچ خاص حفاظ تھے۔ اور آگے ان کے سینکڑوں شاگرد تھے جن کو آیات قرآنیہ حفظ

تھیں۔ پس اگر بعض آیتیں یکدم ذہنوں سے محو ہو گئی تھیں تو مسلمانوں میں شور مچ جانا چاہیے تھا۔ اور چاہیے تھا کہ اس قسم کی بیسیوں روایات ہوتیں۔ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مثلاً حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ وغیرہ کہتے کہ فلاں سورۃ ہمیں یاد تھی مگر پھر اچانک بھول گئی۔ اسی طرح اگر لوگوں کو کوئی آیت بھول جاتی تو وہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ سے پوچھتے۔ وہ کہتے کہ ہمیں بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ حضرت عثمانؓ سے پوچھتے۔ وہ کہتے کہ مجھے بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ حضرت علیؓ سے پوچھتے۔ وہ کہتے کہ مجھے بھی بھول گئی ہے۔ پھر وہ سارے مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے پوچھتے تو آپؐ فرماتے کہ اسے تو فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں اور مجھے بھی یاد نہیں رہی اس طرح تو ایک شور پڑ جانا چاہیے تھا۔ مگر کہا یہ جاتا ہے کہ صرف دو آدمیوں کو جن کے باپ کا نام بھی معلوم نہیں ایک سورۃ بھول گئی تھی۔ اور پھر یہ عجیب لطیفہ ہے کہ وہ رات کو اکٹھے لیٹے اور پھر وہ اکٹھے ہی نماز کے لئے اٹھے اور پھر وہ آیتیں اکٹھی ہی اُن کو بھول گئیں اور صبح کو پھر وہ اکٹھے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لئے گئے۔ اور پھر یہ بھول اتنی بڑھی کہ اس روایت کے راویوں کے نام بھی لوگ بھول گئے۔ اور انہیں یاد نہ رہا کہ یہ دو کون آدمی تھے (فتح البیان زیر آیت ہذا)۔ بھول کا یہ لطیفہ کوئی احمق ہی درست تسلیم کر سکتا ہے عقلمند انسان تو اسے بالکل مان نہیں سکتا۔

جن آیات کے الفاظ منسوخ اور معنی قائم قرار دیئے جاتے ہیں۔ اُن کے متعلق قابل غور بات یہ ہے کہ جب حکم قائم تھا تو اُن کے الفاظ کو کیوں باطل کیا گیا؟ یہ بات بھی ایسی ہے۔ جسے کوئی عقل تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ اس کے ثبوت میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے رجم کا حکم تھا مگر اب نہیں۔ لیکن رجم کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ اسی طرح قرآن کریم میں پہلے یہ آیت ہوا کرتی تھی کہ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا مگر اب یہ حکم تو قائم ہے مگر الفاظ نکال دیئے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ الفاظ کیوں نکال دیئے گئے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ حکم تو موجود رہا پھر الفاظ کیوں غائب کر دیئے گئے؟

اس سے بڑھ کر یہ لطیفہ ہے کہ ایک اور آیت میں یہ ذکر آتا ہے کہ انسان بڑا حرص ہے۔ اس کے متعلق بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ حالانکہ وہ ایک واقعہ ہے نہ کہ حکم۔ اور واقعہ کے متعلق سب مفسرین متفق ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اَمَّا الْاَخْبَارُ فَلَا يَكُونُ فِيهَا تَاْسِخٌ وَلَا مَدْخُوْخٌ لِيَعْنِي خَبْرًا اور واقعات میں کوئی نسخ نہیں ہوتا۔ (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ہذا) پس واقعہ والی آیت کو منسوخ کرنے کے کیا معنی؟ اس کے تو یہ معنی بنتے ہیں کہ واقعہ کے متعلق خدا تعالیٰ کو غلطی لگ گئی تھی۔ حکم کے نسخ کے تو کچھ معنی بھی ہو سکتے

ہیں۔ لیکن غیر حکم میں تو نسخ نہیں ہوتا۔ پھر وہ کیوں منسوخ ہو گیا؟

غرض یہ باتیں اپنی ذات میں اتنی مضحکہ خیز ہیں کہ کوئی انسان انہیں درست تسلیم نہیں کر سکتا اور پھر منسوخ شدہ آیات کے جو الفاظ بتاتے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں مثلاً الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا ذَرَبَا فَاَرْجَمُوهُمَا میں شیخ کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ اول عالم یا قوم یا قوم کارئیس اور سردار۔ دوم شادی شدہ مرد کیونکہ عربی زبان میں شَيْخُ الْمَرْأَةِ عورت کے خاوند کو کہتے ہیں۔ سوم بوڑھا اور ضعیف انسان (اقرب)۔ ان معنوں کے لحاظ سے اس فقرہ کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اگر کوئی بڑا عالم یا معزز شخص زنا کرے تو اُسے رجم کر دو۔ چھوٹا کرے تو نہ کرو۔ دوسرے معنی یہ بنتے ہیں کہ اگر میاں بیوی آپس میں زنا کریں تو ان کو رجم کر دو۔ کیونکہ شَيْخُ اور شَيْخَةُ کے معنی اس جگہ میاں بیوی کے بھی لئے جا سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ میاں بیوی بھی آپس میں زنا کیا کرتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ بنتے ہیں کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو ناقابل جماع ہوتے ہیں زنا کریں تو ان کو رجم کر دو۔ غرض تینوں جگہ ناممکنات تسلیم کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی ناقابل جماع مرد اور عورت آپس میں زنا کریں۔ یا میاں بیوی زنا کریں تو ان کو رجم کر دو۔ یا بڑے آدمی زنا کریں تو ان کو رجم کر دو اور اگر چھوٹے کریں تو نہ کرو۔ غرض جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اسے کوئی شخص قرآنی آیت قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔

پھر سوال یہ ہے کہ یہاں نسخ آیات کے ذکر کا موقع ہی کیا تھا۔ یہاں تو یہودیوں کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی ہی کتاب مانیں گے۔ پس اگر یہاں نسخ کا ہی ذکر تسلیم کیا جائے تو پھر اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ یہاں صحفِ ماضیہ کے نسخ کا ذکر ہے۔ یعنی تورات وغیرہ کا۔ مگر مفسرین کہتے ہیں یہاں قرآن کریم کے نسخ کا ذکر ہے۔ حالانکہ اس بات کا پہلے مضمون کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ پہلے یہ مضمون ہے کہ یہود کہتے ہیں ہم خدا تعالیٰ کے خاص فضلوں کے وارث ہیں ہم اپنے نبیوں کے کلام کو مانتے ہیں۔ غیر کے کلام کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اُن کے سامنے یہ کیا دلیل پیش کی کہ میرا قرآن بھی منسوخ ہو جاتا ہے اور جھلا بھی دیا جاتا ہے اس لئے تم اسے مان لو۔

حقیقت یہ ہے کہ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا میں قرآن کریم کی آیات کے منسوخ ہونے کا کہیں ذکر نہیں۔ بلکہ جیسا کہ ترتیب مضمون سے ظاہر ہے پچھلی آیات میں یہود کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کسی قسم کی خیر نازل ہو۔ اور سب سے بڑی خیر الہام الہی ہے۔ پس اس آیت میں کوئی ایسا ہی ذکر ہو سکتا ہے۔ جو پچھلی آیات کے مطابق ہو۔ کوئی مضمون بلا تعلق نکالنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا اور وہ مضمون

یہی ہے کہ یہود تو پسند نہیں کرتے کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے۔ پس اس نے تم پر خیر نازل کر دی ہے یعنی قرآن کریم لیکن چونکہ اس پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ پہلے شراعیع کے ہوتے ہوئے نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب یہ دیا کہ ان کتب کے بعض حصص اس قابل تھے کہ منسوخ کر دیئے جاتے اور بعض ایسی باتیں تھیں کہ مرور زمانہ سے لوگوں کو بھول گئی تھیں۔ اور آہستہ آہستہ کتب سماویہ سے محو ہو گئی تھیں۔ اُن کا دوبارہ بیان کرنا ضروری تھا۔ پس ایک حصہ کو ہم نے منسوخ کر دیا اور اس سے بہتر تعلیم اس کتاب میں بیان کر دی۔ اور وہ تعلیم جو بھول گئی تھی اُس کو پھر اسی طرح بیان کر دیا اور اہل کتاب اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خود اُن کی کتابوں میں نئی شریعت کی خبر موجود ہے۔ چنانچہ یرمیاہ باب ۳۱ آیت ۳۱، ۳۲ میں لکھا ہے۔

”دیکھو وے دن خداوند کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کے ساتھ

نیا عہد باندھوں گا۔ اس عہد کے موافق نہیں جو میں نے اُن کے باپ دادوں سے کیا۔“

اسی طرح عبرانیوں باب ۸ آیت ۸، ۹ میں لکھا ہے۔

”دیکھو خداوند فرماتا ہے۔ وے دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے

خاندان کے لئے ایک نیا عہد باندھوں گا یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے اُن کے باپ دادوں سے

اُس دن کہ جب میں نے اُن کا ہاتھ پکڑا کہ انہیں سرزمین مصر سے نکال لاؤں باندھا تھا۔ اس واسطے

کہ وے میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔“

یہی معنی ہیں جو سیاق آیت اور قرآن کریم کے مضمون کے مطابق ہیں۔ ورنہ وہ معنی جو بعض مفسرین نے کئے ہیں

اور جو اوپر بیان ہو چکے ہیں ہرگز درست نہیں۔ نہ تو الفاظ قرآن کریم اُن کے متحمل ہیں اور نہ سیاق آیت اُن پر شاہد

ہے اور نہ عقل ان کی تائید کرتی ہے اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات مروی ہے جو اُن کے خیال کی

مؤید ہو۔ قرآن کریم سب کا سب قابل عمل ہے۔ چنانچہ اپنی وفات کے دن تک آپ قرآن کریم کے تمام احکام

کے عامل رہے اور اس پر عمل کرواتے رہے۔ اور قرآن کریم بھی کھلے الفاظ میں اپنے محفوظ ہونے کی شہادت دے

رہا ہے جیسا کہ آیت۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَكُلِّ لَكِحْفُظُوْنَ۔ (الحجر: ۱۰) سے ظاہر ہے۔ پس ان واقعات کی

موجودگی میں یہ خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہوں۔ اس وقت جو قرآن کریم دنیا میں

موجود ہے۔ اُس میں سے ایک آیت بھی منسوخ نہیں۔ اور اس میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں جس کے مٹانے کے لئے

قیاساً ہمیں کسی نسخ کے جواز کا فتویٰ دینا پڑے۔ وہ اپنی موجودہ صورت میں کامل اور بے عیب ہے۔ اور اسلام کے

تمام مخالفین مل کر بھی اگر اس میں کوئی اختلاف ثابت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو علمی حیثیت رکھتا ہو یا کوئی مخالف جماعت قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنا چاہے تو ہم قرآن کریم سے ہی اُس کا رد کر سکتے ہیں۔

غرض اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزشتہ زمانوں میں جو پیغام آتے رہے ہیں یا آئندہ آئیں گے ان سب کے متعلق ہمارا ایک قانون جاری ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں مٹا دیا جائے اور ان کی جگہ ایک نیا نظام آسمان سے اُتارا جائے اور کبھی لوگ انہیں بھلا دیتے ہیں اور صرف اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نظام لوگوں کی غفلت کی وجہ سے الہی نظام کی جگہ قائم ہو گیا ہے اُسے مٹا کر پھر نئے سرے سے وہی پہلا الہی نظام قائم کیا جائے۔ جب الہی نظام ہی اپنی ضرورت پوری کر کے مٹائے جانے کے قابل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُس سے بہتر نظام دنیا میں بھجوا دیتا ہے۔ اور جب وہ نظام صحیح ہو اور لوگوں نے اُسے بھلا دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اُسی پہلے نظام کو بچسہ پھر دنیا میں قائم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں قدرتیں حاصل ہیں۔

پھر فرماتا ہے اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَكُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ہم ایک انقلاب عظیم کے پیدا کرنے کے لئے اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پیدا کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار کو صرف اس امر کا تو غصہ نہ تھا کہ اُن کے خیالات کے خلاف ایک نیا خیال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیش کرتے ہیں۔ انہیں جس بات کا خطرہ تھا اور جس کا تصور کر کے بھی انہیں تکلیف محسوس ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ کہیں قرآن کی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ پس فرمایا اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَكُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ۔ اے انکار کرنے والو! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے پس جب اس نے اس بادشاہت کو ایک نئے رنگ میں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے فیصلہ کے پورا ہونے کو کون روک سکتا ہے۔

غرض قرآن کریم نے مذاہب کے بارہ میں یہ قاعدہ بتایا ہے کہ ہر مذہبی نظام جو قائم کیا جاتا ہے۔ وہ کچھ عرصہ کے بعد یا تو ناقابل عمل ہو جاتا ہے یا لوگ اُسے بھول جاتے ہیں۔ ناقابل عمل وہ دو طرح ہوتا ہے یا لوگ اُس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں یا زمانہ کے مطابق اُس کی تعلیم نہیں رہتی۔ یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس تعلیم میں تصرف کر دیتے

ہیں اور یا پھر تعلیم تو محفوظ ہوتی ہے مگر زمانہ چونکہ ترقی کر جاتا ہے اس لئے وہ قابل عمل نہیں رہتی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے کسی کا لباس پھٹ جائے اور اُسے نیا لباس سلوانے کی ضرورت پیش آئے۔ یا بچہ ہو اور اُس کا لباس تو اچھا ہو لیکن قدر بڑھ جانے کی وجہ سے اس کے قدر پر اب پہلا لباس درست نہ آتا ہو اور نیا لباس تیار کروانا پڑے۔ اسی طرح تعلیم یا تو اس لئے بدل جاتی ہے کہ وہ خراب ہو جاتی ہے یا اس لئے بدل جاتی ہے کہ انسانی حالت میں ایسا تغیر آ جاتا ہے کہ پہلی تعلیم اس کے مطابق نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اب اس کے لئے دوسری تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ جو تعلیم کے خراب ہو جانے کی صورت ہے یہ بھی درحقیقت اسی وقت واقع ہوتی ہے جب وہ تعلیم ناقابل عمل ہو جائے۔ ورنہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہوتا ہے۔ ہاں جب اس تعلیم کی ضرورت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے کہ اب بے شک اس میں تغیر و تبدل کر لو مجھے پروا نہیں۔ جیسے گھر میں بعض دفعہ کوئی خراب اور پھٹا پڑا ناکپڑا ہو اور بچہ اُسے پھاڑ دے تو ہم پروا نہیں کرتے۔ اسی طرح مذہب میں قطع و برید کی اجازت اللہ تعالیٰ اسی وقت دیتا ہے جب زمانہ کو اس تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی اور انسان کے حالات نئی تعلیم کا تقاضا کرتے ہیں۔ پس اس وقت اللہ تعالیٰ اس فرسودہ مذہب کی حفاظت چھوڑ دیتا ہے اور بندوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ اس میں تصرف کریں اور اس سے کھیلیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تعلیم سے کھیل رہا ہے۔ حالانکہ خدا اس تعلیم کو زمانہ کے مطابق نہ پا کر اسے بندوں کے حوالے کر چکا ہوتا ہے اور اپنی حفاظت کا ہاتھ اس سے اٹھا چکا ہوتا ہے۔ پس فرمایا کہ پیغام الہی کے متعلق دو ہی صورتیں ہیں (۱) جب وہ ناقابل عمل ہو جاتا ہے تو ہم اس سے بہتر تعلیم لاتے ہیں۔ بہتر کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ پہلی تعلیم ناقابل عمل ہو چکی ہوتی ہے اور اب اُس سے بہتر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بہتر کی ضرورت نہ ہوتی تو پہلی تعلیم ہی کافی ہوتی۔ اسی حقیقت کے اظہار کے لئے نأتِ بِحَدِيثٍ مِّنْهَا کے الفاظ استعمال فرمائے (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ جب تعلیم تو قابل عمل ہو مگر لوگ اس پر عمل ترک کر دیں اور اپنے لئے خود ایسے قواعد تجویز کر لیں جو الہی تعلیم کے مخالف ہوں۔ اس حالت میں نئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پُرانی تعلیم کی حکومت کو اُز سر نو قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا۔ اَوْ مَثَلًا۔ یعنی جب تعلیم اپنی اصلی حالت میں موجود ہو صرف لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہو تو پھر ہم ویسی ہی تعلیم لے آتے ہیں۔ یعنی اسی تعلیم کو دوبارہ قائم کر دیتے ہیں۔ مثل کا لفظ خدا تعالیٰ نے اس لئے استعمال کیا ہے تا یہ بتائے کہ پہلی تعلیم چونکہ مرجحی ہوتی ہے اس لئے ہم اُس میں نئی زندگی پیدا کرتے ہیں اور اس طرح وہ ایک رنگ میں پہلی تعلیم کا مثل ہوتی ہے۔

پس اس آیت میں بتایا گیا کہ کلام الہی بھی ایک عرصہ کے بعد یا تو قابل عمل نہیں رہتا یا لوگ اس پر عمل ترک کر دیتے ہیں۔ قابل عمل نہ رہنا دو طرح ہوتا ہے۔ (۱) لوگ اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں (۲) یا زمانہ کے مطابق تعلیم نہیں رہتی۔ ان دونوں حالتوں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی بھی دو سنٹیں جاری ہیں۔ جب کلام ناقابل عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُسے منسوخ کر دیتا ہے اور اس سے بہتر تعلیم بھیج دیتا ہے کیونکہ زمانہ ترقی کی طرف جا رہا ہوتا ہے لیکن جب لوگ عمل ترک کر دیں اور تعلیم محفوظ ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کلام کو دہرا دیتا ہے اور اُس کا مثل نازل کر دیتا ہے یعنی اسی تعلیم میں ایک نئی زندگی ڈال دیتا ہے اس آیت کے آخر میں یہ جو فرمایا کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں۔ ان الفاظ سے وہ معنی جو عام طور پر اس آیت کے کئے جاتے ہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں قرآنی آیات کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے رد ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ قرآنی آیات کے منسوخ ہونے سے قدرت الہی کے اظہار کا کوئی تعلق نہیں۔ قدرت کا مفہوم انہی معنوں میں پایا جاتا ہے جو میں نے کئے ہیں۔

پھر یہ جو فرمایا کہ اَللّٰهُ تَعَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ لَكُمْ مَلِكٌ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر کلام جب آئے یا اُسے دوبارہ زندہ کیا جائے وہ ایک انقلاب چاہتا ہے اور یہی امر لوگوں کے خیال میں ناممکن ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسے انقلاب پر قادر ہے۔ خواہ نئے کلام کے ذریعہ سے وہ انقلاب پیدا کر دے خواہ پرانے کلام ہی کو زندہ کر کے انقلاب پیدا کر دے۔

یہ معنی جو میں نے کیے ہیں گوجدید ہیں۔ لیکن آیت کے تمام ٹکڑوں کا اصل انہی معنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے مفسر اس کے معنی یہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں بعض آیتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا اور پھر انہیں منسوخ کر دیتا ہے۔ مخالف ان معنوں پر تمسخر کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ وہ آیت نازل کر کے اُسے منسوخ کیوں کرتا ہے۔ کیا اُسے حکم نازل کرتے وقت یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ حکم لوگوں کے مناسب حال نہیں۔ دوسرے نسخ سے تو اس کی کمزوری ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس فقرہ کے کیا معنی کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ مگر جو معنی میں نے کئے ہیں اُن میں ایک زبردست قدرت کا اظہار ہے۔ یہ آسان کام نہیں کہ ایک ایسے قانون کو جو لوگوں کے دلوں پر نقش فی الحجر کی طرح جما ہوا ہو اور جسے چھوڑنے کیلئے وہ کسی صورت میں بھی تیار نہ ہوں مٹا کر اس کی جگہ ایک نیا قانون قائم کر دیا جائے۔ یا جبکہ ایک قوم مر گئی ہو اور اپنے قانون کو پس پشت ڈال چکی ہو اور اس کی خوبیوں سے غافل ہو گئی ہو پھر اس مردہ قوم میں سے ایک حصہ کو زندہ کر کے اس بھلائی ہوئی تعلیم کی حکومت دُنیا میں قائم کر دی جائے۔ یقیناً یہ نہایت ہی مشکل کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت پر دلالت کرتا ہے اور اس قدرت کے مزید اظہار کیلئے ہی آیت کے آخر

میں یہ الفاظ بڑھادیئے گئے ہیں کہ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَكُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ كَيْفَ تَتَّبِعُوْنَ مَا نُنسِخُ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنسِهَا بِاٰيَةٍ خَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلَهَا کہ ہمارے احکام جب لوگوں کے ذہنوں سے اتر جاتے ہیں تو ہم ویسے ہی احکام پھر اتار دیتے ہیں۔ یعنی دوبارہ ان کو زندہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس زمانہ میں ایک ایسا نبی آیا جو نئی شریعت نہیں لایا۔ اور تورات کے بعض مضامین کو اس نے نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح موجودہ زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ آپ وہ دوسری قسم کا انقلاب پیدا کریں۔ جسے اس آیت کے آخری حصہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کبھی انقلاب اس طرح بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ کتاب وہی واجب العمل رہتی ہے جو پہلے سے موجود ہو مگر خدا تعالیٰ دوبارہ اس کی مردہ تعلیم کو زندہ کرنے کیلئے ایک انسان اپنی طرف سے کھڑا کر دیتا ہے جو لوگوں کو پھر اس تعلیم پر از سر نو قائم کرتا ہے۔ اسی کی طرف سورۃ جمعہ میں بھی ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاَوَّلِيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَيَفِيْضُنَّ عَنْهُمْ لِيَنۢبَأُوْا بِالَّذِي لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔ (الجمعة: ۳، ۴) یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے امتیوں میں اپنا رسول بھیجا جو ان پر آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ان کا تزکیہ نفس کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور وہ خدا ہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور پھر آپ کے ذریعہ ایک ایسی جماعت پیدا کرے گا جو صحابہؓ کے رنگ میں کتاب جاننے والی پاکیزہ نفس اور علم و حکمت سے واقف ہوگی۔ گویا وہی کام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نئے سرے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کرنا ہے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کلام الہی جو اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا قانون نازل کیا جاتا ہے تو کیا قرآن کریم بھی کسی وقت منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی نسبت اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَكُلِّفُظُوْنَ (الحجر: ۱۰) یعنی یقیناً ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور جس تعلیم کی حفاظت کی جائے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی تمام تعلیموں سے افضل رہے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا نُنسِخُ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلَهَا کہ اگر کوئی کلام منسوخ ہو تب اس سے بہتر لایا

جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ جس کلام کو منسوخ نہ کیا جائے اُس سے بہتر اور کوئی کلام نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم نہ صرف گزشتہ تمام الہامی کتابوں سے افضل ہے بلکہ ہمیشہ افضل رہے گا اور اس کی تفسیح کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔

فرماتا ہے اَلَمْ نَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم لائے۔ اور جو باتیں مٹ گئی ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ آخر بائبل کے مٹے ہوئے حصے کون دوبارہ لاسکتا تھا۔ جبکہ یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس وقت تمام پرانے صحیفے تباہ ہو گئے تھے (انسائیکلو پیڈیا ہبلیکا زیر لفظ Nebuchadnezzar) اسی طرح کنفیوشس کی کھوئی ہوئی تعلیم کو کون لاسکتا تھا۔ وید کے بھولے ہوئے ٹکڑوں کو کون لاسکتا تھا۔ ژندا اور اوستا کی بھولی بسری تعلیم کو کون لاسکتا تھا؟ صرف خدا ہی ان کو لاسکتا تھا۔ ورنہ سارے یہود مل کر بھی تورات کے گم شدہ حصے نہیں لاسکتے تھے۔ اسی طرح کنفیوشس کے ماننے والے مل کر بھی اُس کی تعلیم کو نہیں لاسکتے تھے۔ صرف خدا ہی اُسے لاسکتا تھا اور وہی لایا۔ اور قرآن کریم کے ذریعہ لایا۔ غرض اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ ان کو کون لاسکتا ہے فرمایا ہم لاسکتے ہیں۔ اور ہم لاکر دکھا دیں گے۔ قرآن کریم نے یہود پر یہ دوسری حجت قائم کی ہے کہ تمہاری کتابیں مٹ چکی تھیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ دنیا میں لارہے ہیں۔ اگر تمہیں اس کے ماننے میں گریز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ اور اُسے رد کرتے ہو۔ جب یہ پہلے سے بہتر تعلیم لایا ہے اور ایسی کتاب لایا ہے جس میں انسانی ضروریات جذبات احساسات تمدن سیاست اور معاملات وغیرہ کے بارہ میں مکمل احکام موجود ہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم خوش ہوتے اور اسے فوراً مان لیتے۔ اور اگر تم اسے تسلیم نہیں کرتے تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے ناقص احکام بہر حال انسانی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہود کو یہ بات بری لگتی تھی کہ اُن کی بجائے نبوت بنی اسمعیل میں کیوں آگئی۔ اور تورات کی بجائے قرآن کریم کی شریعت کیوں نازل ہوگئی؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ بائبل کو منسوخ کر کے اس سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم کی شکل میں لے آئیں اور موسیٰؑ سے اعلیٰ اور بڑا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں بھیج دیں۔ تورات کے متعلق خود یہود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بخت نصر کے وقت اُسے بالکل مٹا دیا گیا تھا۔ بلکہ عزرائیلی کے وقت تک جو تقریباً چار سو سال قبل مسیح ہو تورات اور دوسرے انبیاء کی کتابوں کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا۔ تب عزرا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ”الہی دنیا تاریکی میں ہے اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں

بغیر روشنی کے ہیں۔ کیونکہ تیرا قانون جل گیا۔ پس کوئی نہیں جانتا اُن چیزوں کو جو تو کرتا ہے اور ان کاموں کو جو شروع ہونے والے ہیں لیکن مجھ پر اگر تیری مہربانی ہے تو روح القدس کو مجھ میں بھیج اور میں لکھوں۔ جو کچھ کہ دنیا میں ابتداء سے ہوا ہے اور جو کچھ تیرے قانون میں لکھا تھا تاکہ تیری راہ کو پاویں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی نازل کی۔ کہ تُو چالیس دن کی عیلاجی اختیار کر۔ اور پانچ زود نویس اپنے ساتھ لے میں تیرے دل میں سمجھ کی شمع روشن کرونگا۔ جو نہ بجھے گی تا وقتیکہ وہ چیزیں پوری نہ ہوں جو تو لکھنا شروع کرے گا۔ چنانچہ حضرت عزرا اور پانچ زود نویس چالیس روز تک دوسروں سے الگ تھلک جا بیٹھے اور انہوں نے الہامی تائید سے ان کتب کو مکمل کیا۔

(Apocrypha 11 - Esdras 14)

غرض اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم تو اپنی تعلیموں کو بھی بھول گئے تھے۔ مگر ہم نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہاری بھولی ہوئی تعلیم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ تم اس نعمت کی قدر کرتے تم نے اس کا انکار کر کے اپنی تعلیم سے بھی بے اعتنائی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔

اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا

کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ (تعالیٰ) ہی کی ہے؟

لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّا لَا نَصِيْرٌ ﴿۱۰۸﴾

اور اللہ (تعالیٰ) کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔

تفسیر۔ اس آیت میں اَلَمْ تَعْلَمُ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ ہر انسان مراد ہے۔ چنانچہ اس آیت کا یہ اگلا کلمہ کہ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّا لَا نَصِيْرٌ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اَلَمْ تَعْلَمُ میں خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے نہیں ہے بلکہ فرداً فرداً ہر قاری سے یا ہر سامع سے یا ہر انسان سے ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اے انسان! یا اے قرآن کے پڑھنے والے یا اے قرآن کریم کے سننے والے کیا تو اس بات کو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے قبضے میں ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ دنیوی بادشاہتیں بُرے لوگوں سے لے کر قابل ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ اسی طرح روحانی بادشاہت بھی وہ بعض دفعہ ایک قوم سے لے کر دوسری قوم کو دے دیتا ہے۔ اور جب آسمان اور زمین دونوں ایک ہی

بادشاہ کے تابع ہیں تو لازماً دونوں میں قانون بھی ایک ہی جاری ہونا چاہیے اور آسمانی قانون کا زمینی قانون پر اور زمینی قانون کا آسمانی قانون پر قیاس کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ کہ جب تمہارے پاس کوئی نص موجود نہ ہو تو تم قانون شرعی کا جو کہ آسمانی قانون ہے قانون قدرت پر جو کہ زمینی قانون ہے قیاس کر لیا کرو۔ کیونکہ جس طرح آسمانی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے زمینی بادشاہت بھی اُسی کے قبضہ میں ہے اور یہ ممکن نہیں کہ ان دونوں میں کوئی تخالف ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس اصول کو ہمیشہ پیش فرمایا کرتے تھے۔ کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے۔ اور قانون قدرت اس کا فعل ہے اور یہ ناممکن ہے کہ دونوں کا بنانے والا تو ایک ہو اور ان میں کوئی اصولی اختلاف پایا جاتا ہو (ملفوظات جلد ۱ صفحہ ۱۳۵)۔ جس طرح زمین میں یہ قانون جاری ہے کہ جب تک کوئی قوم بادشاہت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتی رہتی ہے اس کے پاس بادشاہت رہتی ہے اور جب وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے قاصر جاتی ہے تو بادشاہت اُس سے چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح جو مذہب دنیا کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے ان کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر اعتراض کرنا قانون قدرت کے خلاف ہے۔ بہر حال کوئی نہ کوئی کلام اس وقت لوگوں کی ہدایت کے لئے آنا چاہیے تھا۔ اگر یہ شخص نہ آتا تو کوئی اور آجاتا۔ بہر حال جب پہلی کتابیں اپنی اصلاح کی قابلیت کو کھو بیٹھیں تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کوئی اور کتاب بھیج دیتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی بعثت کے متعلق بھی اسی قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ع

میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

یعنی زمانہ چاہتا تھا کہ کوئی مصلح آئے۔ پس اگر میں نہ آتا تو کوئی اور آجاتا۔ یہی مضمون اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری یہ ناراضگی کہ محمد رسول اللہ کیوں نبی بن گئے بلا وجہ ہے۔ تم ساوی قانون کا قانون قدرت پر قیاس کرو۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جب کوئی چیز مفید نہیں رہتی تو وہ مٹا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے۔ کہ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكْتُبُ فِي الْكِتَابِ (الرعد: ۱۸) یعنی ہمارا یہ قانون ہے کہ جو چیز نفع رساں ہو اسے زمین میں قائم رکھا جاتا ہے اور جو چیز نفع مند نہ رہے اُسے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہی قانون شریعت کے متعلق بھی ہے کہ جب وہ زمانہ کی غرض کو پورا نہیں کرتی تو اُسے منسوخ کر دیا جاتا ہے۔

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْبٍ پہلے ہر فرد کو مخاطب کیا تھا اور اسے عام رکھا تھا۔ اب صرف

مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تمہارے لئے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ جب تم نے

ساری دنیا کی کتابوں کو منسوخ قرار دے دیا ہے تو پھر تمہارا کون دوست ہوگا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے کلام کو منسوخ کرتے تو بے شک یہود اُن کے دشمن ہوتے مگر ہندوؤں کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ اور اگر کوئی ہندوؤں کے کلام کو منسوخ کرتا تو ہندو تو اُس کے دشمن ہوتے مگر دوسروں کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اُس سے دشمنی کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی زرتشتیوں کے کلام کو منسوخ کرتا تو زرتشتی تو اس کے دشمن ہو سکتے تھے مگر یہودیوں کو اُس سے دشمنی کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب نے تو تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور یہ نبی تمام قوموں اور افراد کی اصلاح کرنے کے لئے آیا ہے اور جب یہ تمام کتابوں کی غلطیاں درست کرنے والا ہے اور ہر کتاب میں سے اس کا کچھ حصہ منسوخ کر دیتا ہے اور کچھ حصہ جو لوگوں کو بھول چکا ہوتا ہے اُسے تازہ کرتا ہے تو اس نے تو ہر ایک کے گھر میں تہلکہ مچا دیا۔ اس لئے تمام لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ گو اصل حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی خیر خواہی کرتے ہیں مگر وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتے۔ پس فرماتا ہے کہ جب تمہاری اس کتاب نے دوسروں کی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے تو تمہارا کوئی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ سب لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ ان الفاظ میں اس پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر پیدائش باب ۱۶ آیت ۱۲ میں اس طرح آتا ہے کہ

”اُس کا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے۔“

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بھجوایا تو فرمایا کہ اس کے بھائیوں کی تلوار ہمیشہ اس کے مقابلہ میں اور اس کی تلوار ان سب کے مقابلہ میں اٹھی رہے گی۔ یعنی ساری دنیا اس کی دشمن ہوگی۔ یہی حالت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے۔ کیونکہ آپ تمام اقوام کی طرف معبود ہوئے ہیں۔ اس لئے تمام اقوام آپ کی مخالف ہیں۔ اور ہر ایک کی چوٹ ہم پر پڑتی ہے شریف لوگ بے شک ایسا نہیں کرتے۔ وہ بحیثیت افراد ہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر بحیثیت جماعت نہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ ہماری مخالفت میں ہندو، عیسائی اور مسلمان سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں قومیں اسلام پر تمبر چلاتی ہیں۔ مگر احمدیت کے مقابلہ میں اسلام کا سارا درد ہندوؤں اور عیسائیوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سب لوگوں کی اصلاح کے لئے آئے ہیں۔

غرض بتایا کہ چونکہ یہ رسول یہود و نصاریٰ اور زرتشتیوں کی کتابوں کو منسوخ کرتا ہے اس لئے آج روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں۔ پہلے بتایا تھا کہ یہودی چاہتے ہیں کہ تم میں بگاڑ پیدا ہو اس لئے اُن کی ظاہری حالت پر مت جاؤ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اب بتایا کہ صرف یہود ہی کا سوال نہیں دنیا کی کوئی قوم تمہاری دوست نہیں ہو سکتی۔ یہ مضمون بھی واضح کرتا ہے کہ پہلی آیت میں قرآن کریم کی آیات کے منسوخ

ہونے کا ذکر نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی کُتب کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے۔ ورنہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کیوں غصہ آتا۔ اگر قرآن کریم کی آیات منسوخ ہو گئی تھیں تو اس پر انہیں کیوں غصہ آتا۔ ان کی دشمنی صاف بتا رہی ہے کہ چونکہ قرآن کریم نے ان کی کتابوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس لئے وہ ناراض ہو گئے۔ پس پہلی آیت میں قرآن کریم کے نسخ کا ذکر نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کے منسوخ کئے جانے کا ہی ذکر ہے۔

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ

کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح (اس سے) پہلے موسیٰؑ سے سوال کئے گئے تھے

مِنْ قَبْلُ ۗ وَ مَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ

اور (بھول جاتے ہو کہ) جو شخص کفر کو ایمان سے بدل لے تو سمجھو کہ وہ سیدھے

سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۰۹

راستے سے بھٹک گیا۔

حَلُّ لُغَاتٍ - تَبَدَّلَ یہ باب تَفَعَّلَ سے ہے۔ اور باب تَفَعَّلَ کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں کسی چیز کو اختیار کر لینے کے معنی ہوتے ہیں اس لئے مَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ایمان چھوڑ کر اس کے بدلہ میں کفر لے لیتا ہے۔ (اقرب)

ضَلَّ دو طریق پر استعمال ہوتا ہے (۱) ضَلَّ الظَّرِيقَ (۲) ضَلَّ عَنِ الظَّرِيقِ - اسے راستہ نہ ملا۔ یا بھول گیا (اقرب) اسی طرح ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور ضَلَّ عَنِ سَوَاءِ السَّبِيلِ آتا ہے۔

سَوَاءَ کے معنی ہیں سیدھا اور مستقیم جس میں کوئی کجی نہ ہو۔ پس معنی یہ ہوئے کہ درست یا صحیح راستہ سے جس میں کوئی کجی نہ ہو وہ گمراہ ہو گئے یا اُسے بھول گئے۔ (المنجد)

تفسیر۔ نادان عیسائی مصنف اعتراض کیا کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اپنی کم علمی چھپانے کے لئے صحابہؓ کو سوال کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ صحابہؓ کو سوال کرنے سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے لوگوں جیسے سوال کرنے سے روکا گیا تھا۔

اصل بات یہ ہے کہ کوئی سوال زیادتی علم کے لئے ہوتا ہے اور کوئی کج بحثی کے لئے۔ کوئی بے ادبی کے لئے ہوتا ہے اور کوئی تحقیر و تذلیل کے لئے۔ غرض ہر سوال الگ رنگ رکھتا ہے۔ معقول انسان کبھی بھی کسی غیر معقول سوال کی دوسرے کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی لڑکا کالج میں پروفیسر کے سامنے کھڑے ہو کر سوال پر سوال کرتا چلا جائے تو وہ لازماً اُسے ڈانٹنے گا۔ اور کہے گا کہ تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ پروفیسر اپنی کم علمی کی وجہ سے اسے سوال کرنے سے روک رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے لغو اور بے ہودہ سوالات کو ناپسند کیا ہے کہ محض سوالات کو چنانچہ سُئِلَ مَوْسَىٰ فِي سَمَاءٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ اَلَّذِي كَبُرَ مِن ذٰلِكَ فَقَالُوا اَرِنَا اللّٰهَ بِجَهَنَّمَ (النساء: ۱۵۴) یعنی یہ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آسمان سے اُن پر ایک کتاب اُتار کر لے آئے۔ یہ سوال تو انہوں نے پھر بھی کم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا گیا تھا۔ اور کہا گیا تھا کہ تُو خدا کو پکڑ کر ہمارے سامنے لے آتے ہم ایمان لائیں گے۔ اسی طرح تورات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات بات پر سوال کیا کرتے تھے۔ مگر صحابہؓ کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے ہیں۔ ہم اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھے گا کہ ہم بھی سُن لیں (بخاری کتاب العلم باب القراءة والعرض)۔ گویا انہیں اس قدر وقار اور ضبط نفس حاصل تھا کہ خود کوئی سوال پوچھنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ بہر حال مسلمانوں کو صرف ایسے سوال کرنے سے روکا گیا ہے جو سنت اللہ اور قانون شریعت کے خلاف ہوں یا اپنے اندر گستاخی اور بے ادبی کا رنگ رکھتے ہوں۔ یا جن سے محض وقت کا ضیاع ہوتا ہو۔ کوئی حقیقی فائدہ حاصل نہ ہو۔

مجھے یاد ہے حافظ روشن علی صاحب اور میں دونوں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا کرتے تھے بعض اور دوست بھی ہمارے اس سبق میں شریک تھے۔ حافظ صاحب کی عادت تھی کہ وہ بات بات پر بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے اور بڑی سختی سے جرح کرتے تھے۔ ابھی ہم نے بخاری کا سبق شروع ہی کیا تھا اور صرف دو چار سبق ہی ہوئے تھے کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُن کے سوالوں سے تنگ آ گئے۔ وہ سبق کو چلے ہی نہیں دیتے تھے۔ پہلے ایک اعتراض کرتے اور جب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتے تو وہ اس جواب پر اعتراض کر دیتے۔ پھر جواب دیتے تو جواب الجواب پر اعتراض کر دیتے۔ اور اس طرح اُن کے سوالات کا ایک لمبا

سلسلہ شروع ہو جاتا۔ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ میری عمر اس وقت بیس اکیس سال کی تھی اور طبیعت بھی تیز تھی حافظ صاحب کو سوالات کرتے دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ میں کیوں پیچھے رہوں چنانچہ چوتھے دن میں نے بھی سوالات شروع کر دیئے۔ ایک دن تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ چُپ رہے۔ مگر دوسرے دن جب میں نے بعض سوالات کئے تو آپ نے فرمایا۔ حافظ صاحب کے لئے سوالات کرنے جائز ہیں تمہارے لئے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ دیکھو تم بڑی مدت سے مجھ سے ملنے والے ہو اور تم میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ میں بخیل ہوں یا کوئی علم میرے پاس ایسا ہے جسے میں چھپا کر رکھتا ہوں۔ میں نے کبھی کوئی بات دوسروں سے چھپا کر نہیں رکھی۔ جو کچھ آتا ہے وہ بتا دیا کرتا ہوں۔ اب خواہ تم کتنے اعتراض کرو۔ میں نے تو بہر حال وہی کچھ کہنا ہے جو میں جانتا ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ بتا نہیں سکتا۔ اب کسی بات کے متعلق دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو جو بات میں نے بتائی ہے وہ معقول ہے تم اُسے سمجھ نہیں۔ یا پھر جو بات میں نے بتائی ہے وہ غلط ہے اور تمہارا اعتراض درست ہے۔ اگر جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں بددیانتی سے تم کو دھوکا دینے کے لئے کوئی بات نہیں کہتا۔ جو کچھ کہتا ہوں اُسے صحیح سمجھتے ہوئے ہی کہتا ہوں۔ اس صورت میں خواہ تم کتنے اعتراض کرو میں تو وہی کہتا چلا جاؤں گا جو میں نے ایک دفعہ کہا۔ اور اگر میں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے تو اُس پر اعتراض کرنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسی حالت میں اگر تم اعتراض کرو گے تو اس سے تمہاری طبیعت میں ضد پیدا ہوگی۔ فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لئے میری نصیحت یہ ہے کہ تم سوالات نہ کیا کرو بلکہ خود سوچنے اور غور کرنے کی عادت ڈالو۔ اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں آجائے تو اسے مان لیا کرو اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے دُعا کیا کرو کہ وہ خود تمہیں سمجھائے اور اپنے پاس سے علم عطا فرمائے۔ اس نصیحت کے بعد میں نے پھر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ دن گزرے تو آپ نے حافظ صاحب کو بھی ڈانٹ دیا کہ وہ دورانِ سبق میں سوالات نہ کیا کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے روزانہ بخاری کا آدھ آدھ پارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بے شک اور علوم بھی ہم پڑھتے تھے لیکن بہر حال آدھ پارہ روزانہ تبھی ختم ہو سکتا ہے جب طالب علم اپنے مُنہ پر مہر لگالے اور وہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اُستاد سے کچھ نہیں پوچھنا۔ جو کچھ وہ بتائے گا اُسے سُننا چلا جاؤں گا۔ بہر حال حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے اس روکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے خود قرآن کریم پر غور کرنا شروع کر دیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں ابھی طالب علم ہی تھا کہ میں نے خود درس دینا شروع کر دیا۔ گویا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالات سے روک کر میرے ذہن کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ مجھے خود بھی قرآن کریم پر غور

کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سوالات سے روک کر ان کی فطرت اور ذہنیت کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔ بے شک بعض اوقات دوسرے سے بھی کوئی بات پوچھنی پڑتی ہے مگر زیادہ تر خود ہی غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے قرآن کریم میں آدمؑ کا قصہ آجائے تو لوگ بڑی کثرت سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ اگر سوال کرنے کی بجائے وہ خود سوچیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ اس جگہ صرف ایسے ہی سوالات سے روکا گیا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں اور اُس کے اندر کفر پیدا کر دیتے ہیں۔ ورنہ عام سوالات سے جو تحقیق کی غرض سے کئے جائیں اسلام منع نہیں کرتا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْكَ الْكَافِرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ صَلَّىٰ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ فرماتا ہے۔ سوال کی اصل غرض تو علم کی زیادتی ہوتی ہے۔ مگر جو شخص گستاخانہ سوالات کرتا رہتا ہے اور خدا اور اس کے رسول اور اس کے کلام کا ادب ملحوظ نہیں رکھتا۔ وہ اس گستاخی کے نتیجے میں اپنے پہلے ایمان کو بھی کھو بیٹھتا ہے اور ایمان میں ترقی کرنے کے بجائے کفر کی دلیلیں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ دائرہ ادب کے اندر رہتے ہوئے نیک نیتی سے سوال کرتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے قلب کا جائزہ لیتا رہے اور لغو بحثوں اور لغو سوالات میں حصہ نہ لیا کرے۔ حضرت مولوی عبداللہ صاحب غزنوی جنہوں نے ایک دفعہ روایا میں دیکھا تھا کہ قادیان سے ایک ٹورنگلا ہے مگر میری اولاد اس سے محروم رہی ہے۔ اُن کے پاس ایک دفعہ کوئی مولوی بحث کے لئے آگیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بحث کے لئے تیار ہوں بشرطیکہ مولوی صاحب کی نیت بخیر ہو۔ معلوم ہوتا ہے وہ مولوی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا تھا اُس نے یہ فقرہ سنتے ہی کہہ دیا کہ میں آپ سے بحث نہیں کرتا کیونکہ مناظرات میں عموماً نیت بخیر نہیں ہوتی بلکہ صرف اتنا ہی مقصد ہوتا ہے کہ دوسرا فریق ذلیل ہو جائے۔ اور لوگوں میں واہ وا کا ایک شور مچ جائے۔ غرض چونکہ بعض سوال حق پانے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ اُن کی غرض محض بحث و مباحثہ لڑائی اور دوسرے کو شرمندہ کرنا ہوتی ہے۔ اس لئے فرماتا ہے کہ مومنوں کو اس قسم کے سوالات سے بچنا چاہیے۔

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ

اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ بعد اس کے کہ حق ان پر خوب کھل چکا ہے اس حد کی وجہ سے جو ان کی اپنی ہی

إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا

جانوں سے (پیدا ہوا) ہے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں۔ پس تم اس وقت

تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ

تک کہ اللہ (تعالیٰ) اپنے حکم کو نازل فرمائے انہیں معاف کرو اور (ان سے) درگزر کرو۔

بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱۰﴾

اللہ یقیناً ہر ایک امر پر پورا (پورا) قادر ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - وَدَّكَ کے معنے چاہنے کے ہیں۔ اور وَدُّوْهُدُ بہت محبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ لَوْ کے معنے

کاش کے ہوتے ہیں۔ اور یہ ”اگر“ کے معنے بھی دیتا ہے۔ اسی طرح مصدری معنے بھی دیتا ہے۔

يُرْدُّوْنَكُمْ يهٖ اَنْ يُّرْدُّوْكُمْ کا قائم مقام ہے۔ چونکہ اس جگہ دو مفعول آئے ہیں اس لئے یہ صَيَّرُوْكُمْ

کے معنے دیتا ہے جس کے معنے بنا دینے کے ہیں۔ كُمْ مفعول اول اور كُفَّارًا مفعول ثانی ہے۔ اور حَسَدًا مفعول لہ۔

عَفُوْ کے معنے مٹا دینے کے ہیں۔ لیکن جب یہ لفظ کسی مذہبی امر کے متعلق ہو تو اس کے معنے گناہ کو مٹا دینے

کے ہوتے ہیں۔ (اقرب)

صَفَّحَ کے معنے ہیں ”پہلو پھیر لیا“۔ جب انسان مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو سامنے آتا ہے۔ اور اُس کا ناک آنکھ

مُنہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب مقابلہ نہ کرنا چاہے تو دوسری طرف چلا جاتا ہے اس لئے اس کے معنے درگزر کرنا۔ مُنہ

پھیر لینا۔ (المنجد)

تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر میں اُن کا پلوٹھا بیٹا اسمعیلؑ ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا اور

اس کے بعد اُن کی پہلی بیوی سارہ کے بطن سے اسحاقؑ پیدا ہوا (پیدائش باب ۱۶ و ۱۸)۔ سارہ چونکہ حضرت ابراہیم

علیہ السلام کے ماموں کی بیٹی تھی ان کو خیال تھا کہ میں خاندانی ہوں اور ہاجرہ باہر کی ہے۔ اس لئے وہ اپنا درجہ بڑا

سمجھتی تھیں۔ اتفاقاً حضرت اسمعیلؑ جو بچے تھے ایک دفعہ حضرت اسحاقؑ کی کسی حرکت پر یا کسی اور وجہ سے تہقہہ مار

کر ہنس پڑے۔ حضرت سارہ نے سمجھا کہ اس نے میری اور میرے بچے کی تحقیر کی ہے اور تہقہہ مارا ہے شاید یہ بھی

خیال کیا کہ یہ اس بات پر خوش ہے کہ یہ بڑا بیٹا ہے اور یہ وارث ہوگا اور اسحاق وارث نہیں ہوگا۔ تب انہوں نے غصہ

میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس کو اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دو کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی

کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ تیرا بیٹا وارث ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اس بات کو برا منایا۔ اور اس کام سے رُکے۔ مگر خدا تعالیٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ظاہر کرنا چاہتا تھا اُس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ جو کچھ تیری بیوی سارہ کہتی ہے وہی کر۔ (پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۲) چنانچہ خدا کے حکم کے ماتحت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیلؑ کو وادی حرم میں چھوڑ گئے اور سارہ اور اسحاقؑ کے سپرد کنعان کا علاقہ کر دیا گیا۔ حضرت اسمعیلؑ کی نسل نے مکہ میں بڑھنا شروع کیا اور وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمعیل کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مگر یہ رقابت یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی ماں سے کہا تھا۔ اسی طرح ہوا کہ

”اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے“۔ (پیدائش باب ۱۶ آیت ۱۲)

یعنی ایک زمانہ تک اسماعیلی نسل تھوڑی ہوگی اور اسحاقؑ کی نسل زیادہ ہوگی اور وہ سب کے سب مل کر اسماعیلی سلسلہ کی مخالفت کریں گے۔ اور کوشش کریں گے کہ وہ کامیاب نہ ہو قرآن مجید نے اس کا یوں ذکر فرمایا ہے کہ وَكَذَّبُوا عَنْ آلِهَتِهِمْ كَذَّبُوا عَنْ آلِهَتِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَيَسْخَرَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَّبُوا وَعَدُّوا أَنَّهُم مُّلاقُوا آلِهِمْ وَآلِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (البقرة ۲۵) یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسمعیلی نسل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اُسے چھوڑ کر پھر کافر ہو جائیں اور یہ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کی وجہ سے نہیں بلکہ اُن کے اپنے دلوں سے پیدا شدہ بغض کی وجہ سے ہے اور رقابت کی وجہ سے ہے۔ وہ سارہ اور ہاجرہ کی لڑائی کو دو ہزار سال تک لمبا لے جانا چاہتے ہیں۔ پس اُن کی اس خواہش کی بنیاد کسی جذبہ خلوص پر نہیں بلکہ اُن کے حسد پر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر تم اُن سے نیکی اور تقویٰ میں بڑھ گئے ہو۔ پس اب وہ اس کا ازالہ اس رنگ میں کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان سے محروم کر دیں۔ حالانکہ اگر وہ خود ایمان لے آئیں تو وہ بھی مسلمانوں کے دوش بدوش نیکی اور تقویٰ میں ترقی کر سکتے ہیں۔ مگر اُن کے دلوں میں یہ جلن ہے کہ تم نے مان لیا اور وہ محروم رہ گئے۔ اور اس حسد اور بغض کی وجہ سے وہ تمہاری کسی نیکی اور خوبی کو برداشت نہیں کر سکتے۔

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ دُورًا مِّمَّا يَكْفُرُونَ (البقرة ۲۶) اس لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ یہ جذبہ خود اُن کے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تمہارا کوئی فعل اس کا باعث نہیں۔ دنیا میں حسد دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو باعث کے لحاظ سے اچھا ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو باعث کے لحاظ سے بھی بُرا ہوتا ہے اور نفس کے لحاظ سے بھی بُرا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی غیر مسلم مال و دولت میں بڑھ جائے اور کوئی مسلمان اس پر حسد کرے تو یہ حسد اس وجہ

سے بھی ہو سکتا ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹے کیونکہ خدا تعالیٰ کفر کو ناپسند کرتا ہے اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا نفس اس بات کو برداشت نہ کر سکتا ہو کہ کسی غیر مسلم کو زیادہ دولت مل جائے اور پھر یہ حسد نفسانی بھی ہو سکتا ہے جس میں کسی دینی جذبہ کا دخل نہ ہو۔ محض دنیوی خواہشات اس کی پشت پر کام کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُن کا حسد من عند انفسہم ہے۔ یعنی یہ حسد اُن کے اپنے نفسوں کی خرابی اور نیک کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا موجب مسلمانوں کا کوئی فعل نہیں۔ اگر مسلمان ان کو چڑاتے اور اس وجہ سے ان کو غصہ آتا تو پھر حسد کا باعث مسلمان ہوتے لیکن مسلمان تو اُن کی خیر خواہی کرتے اور اُن کی ترقی کی کوشش کرتے ہیں پس اُن کا حسد اُن کے اپنے نفس سے پیدا ہوا ہے۔

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ مسلمانوں کو کافر بنانے کی خواہش دو وجوہ سے ہو سکتی تھی۔ اول اس وجہ سے کہ اہل کتاب غلطی سے یہ سمجھتے ہوں کہ مسلمانوں کی حالت کفار سے گری ہوئی ہے اس لئے بہتر ہے کہ وہ پھر کفر اختیار کر لیں۔ دوسرے اہل کتاب غلطی سے نہیں بلکہ علی وجہ البصیرت سمجھتے ہوں کہ مسلمانوں کی حالت اہل مکہ کی حالت سے بھی گری ہوئی ہے اور سمجھتے ہوں کہ اگر یہ اس پہلی حالت پر رہتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر واقعہ میں اُن کی یہ خواہش نیک نیتی پر مبنی ہوتی تو اور بات تھی مگر ان کی یہ خواہش اس لئے نہیں کہ مکہ والے ان سے اچھے ہیں بلکہ یہ لوگ محض حسد کی وجہ سے ایسی خواہش کرتے ہیں۔ دوسرے یہ خواہش کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ مکہ والوں کی حالت ان سے ادنیٰ ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے پھر بھی یہ مسلمانوں کو کافر بنا دینے کے درپے ہیں۔ پس یہ مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں۔ اس جگہ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ نے واضح کر دیا ہے کہ باوجود اس بات کے جاننے کے کہ اس مذہب کو فضیلت حاصل ہے پھر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کفر پھیلے اور ہدایت کا دائرہ زیادہ سے زیادہ تنگ ہوتا چلا جائے۔ مسلمانوں کے متعلق اہل کتاب کی جس خواہش کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے قرآن کریم کے بعض اور مقامات میں بھی اس کا بیان ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَذَاتِ ظُلُمَاتٍ مِّنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يٰضِلُّوْكُمْ ۗ وَمَا يٰضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ (آل عمران ۷۰) یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ آرزو رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْكِتٰبَ يَزِدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كُفْرًا (آل عمران: ۱۰۱) کہ اے مومنو! اگر تم ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے کسی فریق کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لے

آنے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں گے۔

فَاعْفُوا۔ گناہوں کو تین رنگ میں مٹایا جاتا ہے۔ اول دنیوی نتائج کے لحاظ سے جیسے گناہگار کو جسمانی سزا سے بچالینا۔ دوم اخروی نتائج کے لحاظ سے جیسے گناہگار کو شرعی سزا سے بچالینا۔ سوم گناہ کے زنگ اور اُس کے سیلان تک کو مٹا دینے کے لحاظ سے۔ یہ عفو کامل سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں دل پر جو گناہ کا زنگ لگ جاتا ہے اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ چونکہ اس جگہ مسلمان مخاطب ہیں۔ اس لئے اس جگہ اخروی شرعی سزا مراد نہیں بلکہ دنیوی سزا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم ان کو خود سزا دینے کی کوشش نہ کرو۔ بلکہ عفو سے کام لو۔

فَاعْفُوا کی فاء سے ظاہر ہے کہ یہ حکم اہل کتاب کے کسی پہلے فعل کے نتیجہ میں دیا گیا ہے۔ اور وہ پہلا فعل یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کو پھر کافر بنانا چاہتے تھے۔ پس **فَاعْفُوا** کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ یہ لوگ تمہیں دین سے منحرف کرنا چاہتے ہیں اس لیے تم انہیں معاف کر دو کیونکہ معافی کا موجب ہمیشہ کوئی نیکی ہوا کرتی ہے اور نیکی انہوں نے کوئی کی نہیں بلکہ الٹا یہ خطرناک دشمنی کی کہ مسلمانوں کی مرکزیت کو تباہ کر کے پھر انہیں لامركزیت کی طرف لے جانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ایسی صورت میں اُن کی کسی نیکی کو اس معافی کا موجب نہیں سمجھا جاسکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی بلکہ ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے پھر مرتد کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں **فَاعْفُوا** و **اصْفَحُوا** کا حکم کیوں دیا گیا؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں **عفو** اور **صفح** سے عفو کی تین مذکورہ بالا قسموں میں سے صرف اوّل قسم مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ تم انہیں جسمانی سزا دینے کی کوشش نہ کرو۔ کیونکہ اُن کے اس فعل کی سزا ہم خود انہیں دیں گے۔ اور عفو کے ساتھ **صفح** کو جس کے معنی منہ پھیر لینے کے ہیں اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ نہ صرف اُن کو کوئی سزا نہ دو بلکہ یوں بھی سختی سے پیش نہ آؤ۔ بلکہ اُن سے اعراض کرو۔ اسی لئے فرمایا کہ **كَلِّمِي يَا قَوْمِي اللَّهُ بِامْرٍءٍ**۔ یعنی تم اُن سے درگزر کرو۔ یہاں تک کہ اُن کے لئے خدا تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جائے۔ یا اُن پر عذاب نازل ہو جائے۔ اس جگہ **امر** سے مراد جہاد کا حکم نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نافذ کرے۔ یعنی مختلف عذابوں سے انہیں ہلاک کرے۔ آخر جو لوگ جسمانی، قلبی، دماغی اور روحانی لحاظ سے اتنے بڑے جرائم کے مرتکب ہو جائیں اور یہ جاننے کے باوجود کہ کفار اُن سے ادنیٰ ہیں پھر بھی مسلمانوں کو کفر کی طرف لوٹانا چاہیں اور پھر یہ لوگ حاسد بھی ہوں اور حسد کا موجب ان کے اپنے نفسوں کی کمیٹنگی اور گندگی ہو تو اُن کو سوائے خدا کے اور کون سزا دے سکتا ہے۔ انسان صرف جسمانی سزا دے سکتا ہے۔ وہ دماغی، فکری، قلبی اور روحانی سزا کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ قطعی اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے کیونکہ

انسان کے دماغ، قلب، جسم اور رُوح پر اُسی کا قبضہ ہے اس لئے فرمایا کہ ان پر ہم چوٹ لگائیں گے تم انہیں ہمارے لئے چھوڑ دو۔ ہم ان کے دماغ پر بھی چوٹ لگائیں گے۔ ہم ان کے فکر پر بھی چوٹ لگائیں گے۔ ہم ان کے قلب پر بھی چوٹ لگائیں گے۔ ہم ان کی رُوح پر بھی چوٹ لگائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہود مدینہ نے زبانی باتوں سے گزر کر سیاسی طریقوں سے مسلمانوں کو دکھ پہنچانا چاہا اور قتل تک کی سازشیں کیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن سے جنگ کی اجازت ہوئی اور مسلمانوں کی قلیل جماعت کے ہاتھوں یہود سخت ذلیل اور رسوا ہوئے۔

وَاقْبُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

اور نماز کو (مطابق شرائط) قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور (یاد رکھو کہ) جو نیکی بھی تم

مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

اپنی ذات کے لئے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اللہ (تعالیٰ) تمہارے

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱﴾

اعمال کو یقیناً دیکھ رہا ہے۔

تفسیر۔ خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم ان لوگوں کو سزا نہ دو بلکہ اسے ہم پر چھوڑ دو چونکہ مسلمانوں پر گراں گزر سکتا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تمہیں دشمن کے مقابلہ میں اپنی بے بسی کو دیکھ کر غصہ آئے اور تمہارے لئے صبر کرنا مشکل ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر جھک جاؤ اور نمازوں میں ہم سے دُعا نہیں مانگو۔ کہ اے اللہ تو خود ان کو ہدایت دے اور اگر ان کے لئے ہدایت مقدر نہیں تو ہمیں ان کے ضرر سے محفوظ رکھ۔ اور انہیں ہمارے راستہ سے ہٹا دے۔

وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ تم زکوٰۃ کے ذریعہ غرباء کی مدد کرو۔ یتامیٰ و مساکین اور بیوگان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قوم کے کمزور طبقہ کو اونچا کرنے کی کوشش کرو۔ اور وہ لوگ جو کفار میں سے نیک نیتی کے ساتھ مذہب کی تحقیق کرنا چاہیں اُن کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرو۔ اس میں اشارہ فرمایا کہ ان لوگوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے ہم بچانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حسن سلوک کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لو۔ جب وہ ان

میں سے نکل آئیں گے تو باقیوں کو ہم ہلاک کر دیں گے۔

وَمَا تَقْتُلُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ حَيٍّ تَحْيُونَهُ عِنْدَ اللَّهِ - اس میں بتایا کہ تم جو بھلائی کے کام کرو گے اُسے تم خدا تعالیٰ کے حضور پاؤ گے۔ یعنی تم یہ خیال مت کرو کہ یہ صبر کی تعلیم نقصان دہ ہے۔ صبر کرنا اپنی ذات میں ایک بڑی نیکی ہے اور وہ تمہارے نیک اعمال میں اسی طرح شمار کی جاتی ہے جس طرح نماز اور روزہ وغیرہ۔ چونکہ گالیاں سُن کر صبر کرنا ایک بڑا مجاہدہ ہے اس لئے فرمایا کہ جب اس کی جزا تمہیں قیامت کے دن ملے گی تو یہ ایک نیکی ڈھیروں ڈھیروں کی صورت میں تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور تم اسے دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے اور کہو گے کہ ہم نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی جس کی اتنی بڑی جزا ہو۔ مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ نیکی اسی جزاء کی مستحق ہوگی۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا صبر کو بڑی سمجھتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اس نیکی سے محروم رہتی ہے۔ حالانکہ صبر اور بڑدلی میں بڑا بھاری فرق ہے۔ صبر کے معنے یہ ہیں کہ وہ امور جن کی شریعت نے حد بندی کر دی ہے۔ ہم اس کے اندر رہیں۔ ورنہ صبر کے یہ معنے نہیں کہ انسان اپنے حقوق چھوڑ دے یا اپنے مقاصد کو نظر انداز کر دے۔ حقیقی صابر اور بڑدل میں فرق ہی یہی ہے کہ صابر اُس وقت صبر کرتا ہے جب شریعت کہتی ہے کہ صبر کرو۔ لیکن جہاں دین کے وقار اور اعزاز کا سوال آ جائے وہ دُنیا کو دکھا دیتا ہے کہ اس جیسا بہادر کوئی نہیں اور وہ کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لیکن بڑدل کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کا صبر شریعت کے احکام کے ماتحت نہیں ہوتا۔ وہ جو رو یہ خود بخود اختیار کرتا ہے اس کا نام صبر رکھتا ہے لیکن اس کا انجام ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ صبر نہیں تھا بلکہ بڑدلی تھی۔ صبر کے معنے یہ ہیں کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو تم اسے گالی نہ دو۔ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس وقت تک ظلم کا جواب نہ دو جب تک شریعت تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن صبر کے یہ معنے نہیں کہ تم اپنا دفاع چھوڑ دو اور دین کے معاملہ میں ذلت برداشت کر لو۔ کیونکہ اس طرح بہادری اور دلیری نہیں بلکہ بڑدلی پیدا ہو جائے گی اور بڑدلی خوبصورتی نہیں بلکہ بدصورتی ہے۔ پس مومن کا کام یہ ہے کہ جہاں اُس کی قربانی کی ضرورت ہو وہاں قربانی کرے خواہ ساری دنیا اس کی مخالف ہو۔ اور جہاں شریعت کہے کہ خاموش رہو اور صبر سے کام لو وہاں خاموش رہے۔ مگر وہ اس لئے خاموش نہ رہے کہ دشمن طاقت ور ہے اور وہ اس سے ڈرتا ہے بلکہ اس لئے خاموش رہے کہ اس موقع پر خاموش رہنے کے لئے خدا تعالیٰ کہتا ہے ورنہ جسے ایک لمحہ بھر کے لئے بھی یہ خیال آتا ہے کہ دشمن طاقتور ہے اس لئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے وہ بڑدل ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی مقدس جماعت میں کوئی بڑدل انسان شامل ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔

صبر کے معنے یہ ہیں کہ انسان متواتر اور استقلال کے ساتھ ان بدیوں کا مقابلہ کرے جو اس کو اپنی طرف کھینچ

رہی ہوں۔ اور اُن بدیوں کے مقابلہ کے لئے تیار رہے جو اس کو آئندہ پیش آنے والی ہوں۔ اسی طرح صبر کے ایک معنی یہ ہیں کہ انسان استقلال کے ساتھ اُن نیکیوں پر قائم رہے جو اس کو حاصل ہو چکی ہوں اور اُن نیکیوں کے حصول کی کوشش کرے جو اس کو ابھی ملی نہیں۔ غرض استقلال کے ساتھ بدیوں کا مقابلہ کرنے، استقلال کے ساتھ نیکیوں پر قائم رہنے اور استقلال کے ساتھ آئندہ نیکیوں کے حصول کے لئے کوشش کرنے کا نام صبر ہے۔

دوسرے معنی صبر کے یہ ہیں کہ انسان جزع فزع نہ کرے۔ جب کوئی مصیبت آپڑے تو گھبرائے نہیں اور ہمت نہ ہارے۔ اگر اس کا کوئی عزیز مرتا ہے یا اس کا مال کھو یا جاتا ہے۔ یا اسی قسم کا کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اس امر کو مد نظر رکھے کہ جو کچھ اُس کے پاس ہے وہ اُس کا نہیں بلکہ بطور انعام خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے اور صبر سے کام لے۔ پھر اس صبر کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک اُن معاملات میں صبر کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بندوں کا ان میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے اُن معاملات میں صبر کرنا جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جو معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اُن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا یا بیمار ہو گیا۔ یا ملک میں قحط پڑ گیا یا کوئی ایسی جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے اُس کے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا۔ یہ ایسے واقعات ہیں کہ ان میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ ان میں خدا تعالیٰ کی رضا پر استقلال کے ساتھ قائم رہنا صبر کہلاتا ہے۔ لیکن ایسے معاملات جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اُن میں بعض دفعہ انسان ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اس پر سختی کرتا اور اس کو دکھ دیتا ہے تو وہ مقابلہ نہیں کرتا مثلاً کوئی اُس کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ آگے سے بولتا نہیں۔ خدا تعالیٰ تو اگر اُس کی جان بھی لے لے تو وہ بول نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اُسے تھپڑ مارے تو یہ بھی مناسب جواب دے سکتا ہے۔ اگر اس کو تھپڑ مارنا ہی مناسب ہو۔ تو تھپڑ مار سکتا ہے اور اگر اس وقت تھپڑ مارنا قومی فوائد کے لحاظ سے یا اس شخص کی اصلاح کے نقطہ نگاہ سے مناسب نہ ہو تو تھپڑ نہیں مارتا۔ بہر حال ایسی حالت میں اگر کوئی شخص خاموش رہتا ہے تو یہ صبر کہلاتا ہے لیکن اس حالت میں ضروری ہے کہ یہ شخص بزدل نہ ہو اور اس وجہ سے چپ نہ ہو کہ دوسرا شخص بھی مجھے آگے سے مارے گا۔ خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں تو اس کا چُپ رہنا اور صبر کرنا عدم مقدرت پر مبنی ہوگا۔ لیکن انسانوں کے مقابلہ میں اس کا صبر عند المقدرت ہوگا۔ یعنی اگر وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس لئے بدلہ نہیں لیتا کہ شاید بدلہ نہ لینے سے کوئی مفید نتیجہ نکل آئے تو یہ اس کا صبر کہلائے گا۔ مگر خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں یہ بدلہ لینے کی مقدرت ہی نہیں رکھتا وہاں اُس کا چُپ رہنا یا نہ رہنا برابر ہوگا۔ اس لئے وہاں صبر کے یہی معنی ہوں گے کہ گھبرائے نہیں اور ہمت ہار کر بیٹھ نہ رہے لیکن بندوں کے مقابلہ میں اس کو بدلہ لینے کی مقدرت ہو

اور پھر صبر کرے تو صبر صبر کہلانے کا مستحق ہوگا کیونکہ یہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے اگر کوئی شخص قید میں کوٹھڑی کے اندر بند ہو۔ کوئی راستہ اُس کے نکلنے کا نہ ہو۔ اور وہ کہے کہ میں صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو یہ اس کا صبر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر دروازہ کھلا ہوتا اور کوئی اُس کو نہ روکتا تو وہ ضرور قید سے نکل جاتا۔ اس کا اس وقت قید میں چپ بیٹھے رہنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اُس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ پس اُس کا یہ صبر نہیں کہلائے گا۔ غرض انسانوں کے مقابلہ میں صبر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو عند المقدرت ہو۔ بے شک بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہوتا ہے۔ اس میں بدلہ لینے کی طاقت اور ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ اچھا میں صبر کرتا ہوں۔ مگر اُس سے ہم صبر نہیں کہہ سکتے۔ صبر یہی ہے کہ وہ دیکھے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں بدلہ لے سکتا ہوں لیکن پھر بھی وہ عفو سے کام لے۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ

اور وہ (یعنی یہودی اور مسیحی یہ بھی) کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے ان (لوگوں) کے جو یہودی ہوں یا

نَصْرًا ۱۱۳ تِلْكَ أَمَانِيهِمْ ۱۱۴ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن

مسیحی ہوں ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا یہ (محض) ان کی آرزوئیں ہیں۔ تو (انہیں) کہہ دے کہ اگر تم

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۱۱۳

سچے ہوتو اپنی دلیل پیش کرو۔

تفسیر۔ یہ مضمون مختلف شکلوں میں قرآن کریم میں تین دفعہ آیا ہے۔ پہلی دفعہ سورہ بقرہ آیت ۸۱ میں یہ مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۱۱۳ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں چند دن سے زیادہ نہیں چھوے گی۔ گویا اہل کتاب دوزخ میں جائیں تو سہی۔ مگر اللہ تعالیٰ ان سے رعایت کا معاملہ کرے گا اور چند دنوں کے بعد جو ان کی کتابوں میں زیادہ سے زیادہ بارہ ماہ تک شمار کئے گئے ہیں ان کو دوزخ میں سے نکال لیا جائے گا۔ بلکہ بارہواں مہینہ بھی ختم نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے نکال لے گا۔

دوسری دفعہ یہ مضمون سورہ بقرہ آیت ۹۵ میں اس طرح آیا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ

اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْهُمُ الْمَوْتُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ۔ یعنی اہل کتاب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے صرف وہی مستحق ہیں اور جنت میں داخل ہونے کے وہی حقدار ہیں۔ اور کوئی قوم جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ بعض یہودی کا یہ دعویٰ تھا کہ انہیں عذاب ملے گا ہی نہیں بلکہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے اور کسی غیر یہودی کو جنت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو اور دریافت کرو کہ اگر یہ صحیح ہے کہ جنت کے صرف تم ہی مستحق ہو اور کوئی قوم اس میں داخل نہیں ہوگی تو تم رضائے الہی کے لئے وہ کوشش کیوں نہیں کرتے جو موت کے مترادف ہوتی ہے۔ یا اس بات کے لئے مبالغہ کیوں نہیں کرتے۔ دوسروں کو تو تم اس سے محروم قرار دیتے ہو اور جنت صرف اپنے لئے مخصوص کرتے ہو۔ لیکن اگر یہ درست ہے تو تمہارے لئے تو خدا کے لئے اپنی زندگی وقف کرنا اور اس کی رضا کے حصول کے لئے کوشش کرنا اولین فرض ہو جاتا ہے۔ پھر تم کیوں ایسا نہیں کرتے۔

تیسری جگہ جہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے یہ آیت ہے۔ اصل میں یہ دو الگ الگ فقرے ہیں جن کو عربی زبان کے محاورہ کے مطابق مختصر کر دیا گیا ہے اصل عبارت یوں ہے کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَقَالَتِ النَّصَارَى لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ نَصَارَى يَهُود كِهْتُمْ هِيَ جَنَّتْ مِیْن صَرْفِ یَهُودِی دَاخِل هُونْگے اور کوئی داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف نصاریٰ ہی داخل ہونگے اور کوئی داخل نہیں ہو گا۔ پس یہ ایک فقرہ نہیں۔ کیونکہ کوئی یہودی یہ نہیں کہتا کہ جنت میں صرف یہود اور نصاریٰ ہی داخل ہوں گے اور نہ نصاریٰ میں سے کوئی کہتا ہے کہ صرف یہود اور نصاریٰ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ پس یہ الگ الگ فقرے ہیں۔ جن کو یکجا کر دیا گیا ہے۔

یہ تیسرا دعویٰ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ غیروں کو تو اہل کتاب جنت سے محروم کرتے ہی تھے ان کا آپس میں بھی اس قدر اختلاف ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو جنت سے محروم قرار دیتا ہے۔ گویا ایک جماعت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہودی دوزخ میں جاتا تو سکتے ہیں مگر وہ جلدی ہی نکال لئے جائیں گے۔ چنانچہ سیل نے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہود کے نزدیک یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ کوئی یہودی خواہ کیسا ہی گنہگار ہو گیا رہے یا بارہ ماہ سے زیادہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ سوائے دو یہودیوں دا تھن اور ایبی رام کے یا سوائے دہریوں کے جو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اسی طرح جیوش انسائیکلو پیڈیا میں بھی طالمود کے حوالہ جات سے یہود کے اس عقیدہ کو ثابت کیا گیا ہے (جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Gehenna) لیکن دوسری جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہود کو عذاب ملے گا

ہی نہیں۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو نجات کو اور بھی تنگ کر دیتی ہے اور یہودی صرف یہود کو اور عیسائی صرف عیسائیوں کو ہی نجات کا مستحق قرار دیتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ چنانچہ عیسائیوں میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ دوزخ دو قسم کی ہے۔ ایک مستقل اور دوسری عارضی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عیسائی دوزخ میں جائیں گے تو وہ عارضی دوزخ میں جائیں گے۔ پھر وہاں سے نکال لئے جائیں گے۔ انہیں مستقل دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ذرہ بھر بھی محبت ہوگی۔ وہ کسی حالت میں بھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور غلطی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ گو عیسائی بھی تورات اور بائبل پر ایمان لاتے ہیں مگر وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ گو یہود بائبل پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ صرف عیسائی ہی اس میں داخل ہوں گے۔ ترتیب مضامین کے لحاظ سے ان تین آیتوں میں سے پہلی آیت سورہ بقرہ کے نویں رکوع میں آتی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہودی آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ مگر ان کی یہ مخالفت ایمانداری کے طریق سے نہیں۔ یوں مخالفت ناجائز نہیں ہوتی کیونکہ اگر کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ مخالفت کرنے کا حق رکھتا ہے اور اگر وہ کوئی بات غلط سمجھ کر مخالفت کرتا ہے تو وہ معذور ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مجلس میں بات سن کر اور سمجھ کر جاتا ہے اور پھر باہر جا کر اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے تو اس کی مخالفت دینداری پر مبنی نہیں ہوتی۔ پس مخالفت جائز ہے بشرطیکہ وہ دینداری سے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر قسم کی علمی ترقی رک جاتی۔ کیونکہ تمام علمی ترقیات اختلاف سے وابستہ ہوتی ہیں۔ پس مخالفت جائز ہے مگر وہ دینداری پر مبنی ہونی چاہیے اور اظہار اختلاف کا طریق شریفانہ ہونا چاہیے کسی قسم کی ضد اور ہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ضد اور ہٹ سے کام لیتے ہیں اور جان بوجھ کر قرآن کریم کی باتیں غلط رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ پس ان کی باتیں ایمانداری پر مبنی نہیں۔ ان کی مخالفت اسی صورت میں دینداری پر مبنی ہو سکتی ہے جبکہ یہ حقیقۃً ان کو غلط سمجھتے ہوں اور ان کے غلط ہونے کی دلیل بھی دیتے ہوں۔ لیکن اگر یہ لوگوں کے سامنے حقیقت پر پردہ ڈال کر اسے غلط طریق سے پیش کرتے ہیں یا اس کے مقابلہ میں کوئی دلیل نہیں دے سکتے تو پھر یہ محض ان کی شرارت ہے اور یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ہم آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور جب کوئی قوم نجات کو ورثہ کے ساتھ وابستہ کرتی ہے تو اس قوم میں سے تقویٰ مٹ جاتا ہے۔ دنیا میں بالعموم دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض احسان اور محبت سے

مانتے ہیں اور بعض ڈر اور خوف سے مانتے ہیں۔ عذاب کا ڈر ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے ہوتا ہے جو انہیں ناشائستہ حرکات سے روکتا ہے۔ لیکن اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے احسان اور محبت ہوتی ہے جو ان کو اس قسم کی حرکات سے باز رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے ادنیٰ درجہ کے لوگ ہیں کہ یہ صرف عذاب سے ہی ڈر سکتے تھے۔ مگر ان کی قوم نے ان سے کہا کہ تم عذاب سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیئے گئے ہو۔ اس لئے ان کے دلوں سے عذاب کا خوف نکل گیا۔ جس کی وجہ سے یہ جیسا سوز حرکات کرتے ہیں۔ اگر انسان کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو تو پھر بھی وہ مادر پدر آزاد ہو سکتا ہے مگر یہ باوجود مذہبی آدمی ہونے کے ایسی حرکات کرتے ہیں جو مادر پدر آزاد بھی نہیں کرتے۔

دوسری آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو قومیں انعامات الہیہ کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیتی ہیں وہ ہدایت کی جستجو بھی ترک کر دیتی ہیں۔ ہدایت کی جستجو کوئی قوم بھی کرتی ہے جب وہ یہ یقین رکھتی ہو کہ ہدایت اور انعامات کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جو قوم یہ یقین رکھتی ہو کہ ہدایت صرف ہماری ہی قوم کے ساتھ مخصوص ہے وہ تو صرف انہی باتوں کو جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوں درست سمجھے گی اور دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم نجات کو صرف اپنے تک محدود کر کے اُسے تنگ کر دیتی ہے اور اس میں نا واجب ضد پیدا ہو جاتی ہے جو اُسے تقویٰ سے دُور لے جاتی ہے۔

زیر تفسیر آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اس قسم کے عقائد کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قومیں دائرہ نجات کو محدود کرتی جاتی ہیں اور پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کو نجات سے محروم کر دیتی ہیں اور تقویٰ جو اصل معیار ہے وہ اُن کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے حالانکہ کسی وقت بھی کسی شخص کو ہدایت کا دروازہ بند نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ جو کلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو اس کو قبول کر لینے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ *لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا* کا یہ مطلب نہیں کہ یہود کا یہ کہنا کہ صرف یہودی ہی نجات پائے گا کوئی بُری بات ہے۔ کیونکہ ہر مذہب والا اپنے آپ کو ہی نجات یافتہ کہتا ہے بلکہ ایک مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے۔ پس اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہود اپنے مذہب میں نجات کو کیوں محدود قرار دیتے ہیں یا عیسائی عیسائیت میں نجات کیوں سمجھتے ہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ نجات کو مخصوص قرار دے کر یہ لوگ خدا تعالیٰ کے وسیع فیضان کو محدود کرتے ہیں اور دنیا کے ایک بڑے حصہ کو اُس کی رحمت سے محروم قرار دیتے ہیں۔ ورنہ قرآن کریم کا یہ منشاء نہیں کہ اُن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہودیت کے بغیر نجات نہیں یا عیسائیت کے بغیر نجات نہیں۔ اسلام کا بھی تو یہی دعویٰ ہے کہ اس کے

بغیر نجات نہیں مگر جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی بنی نوع انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ وہاں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے دروازہ کو بند نہیں کرتا۔ بلکہ کہتا ہے کہ **وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ**۔ یعنی مومنوں کی یہ علامت ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی تازہ کلام نازل ہو وہ فوراً اُس پر ایمان لے آتے ہیں۔ پس وہ نجات کو کلامِ الہی پر ایمان لانے کے ساتھ وابستہ قرار دیتا ہے۔ خواہ وہ کلام کسی پہلے زمانہ میں نازل ہو چکا ہو یا آئندہ نازل ہو۔ اس کے مقابلہ میں عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہودی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بغیر نجات نہیں اور وہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ دوسروں میں سے کسی کی نجات کے قائل نہیں۔ وہ صرف اپنی قوم کے ساتھ نجات کو مخصوص کرتے ہیں نہ کہ اپنے مذہب کے ساتھ لیکن عیسائی اپنی قوم کے ساتھ نجات مخصوص نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ اُسے مخصوص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسروں میں سے ہر شخص عیسائیت میں داخل ہو کر نجات پاسکتا ہے گویا عیسائیت کو اسلام سے ایک ظاہری مشابہت یہ حاصل ہے کہ عیسائی بھی تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور ہدایت کو کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں کرتے اور اسلام بھی تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے اندر شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے اور ہدایت کو کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں کرتا۔ اور چونکہ ان دونوں میں یہ ایک ظاہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس لئے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر عیسائیوں کا یہ کہنا کہ صرف عیسائی مذہب میں نجات ہے قابل اعتراض ہے تو اسلام کا یہ کہنا کہ صرف اسلام میں نجات ہے کیوں قابل اعتراض نہیں؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام اور عیسائیت کے ان دعویوں میں جو ظاہری مشابہت پائی جاتی ہے وہ درحقیقت کوئی حقیقی مشابہت نہیں بلکہ ایک خود ساختہ مشابہت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا عیسائی تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں مگر اُن کا مذہب اُن کو غیر مذاہب کے لوگوں کو اپنے اندر شامل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا ثبوت ہمیں اناجیل سے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ متی باب ۷ آیت ۶ میں لکھا ہے۔

”وہ چیز جو پاک ہے کتوں کو مت دو۔ اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ پھینکو ایسا نہ ہو کہ وہ

انہیں پامال کریں اور پھر کر تمہیں پھاڑیں۔“

اس حوالہ میں بتایا گیا ہے کہ مسیحؑ ناصری کی معرفت جو تعلیم تم لوگوں کو ملی ہے وہ موتیوں کی طرح ہے۔ وہ صرف اسرائیلیوں کے لئے رہنی چاہیے۔ اسے غیر قوموں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیونکہ بقول انجیل غیر قوموں میں سوروں اور کتوں کی طرح ہیں۔ اگر یہ تعلیم اُن کے سامنے گئی تو وہ اُسے توڑ کر رڈی کی طرح چھینک دیں گی۔ اور اس کے غلط

معنے کر کے اس پر حملہ کریں گی اور اس کی ہتک کار نکاب کریں گی۔

(۲) متی باب ۱۰ آیت ۵، ۶ میں لکھا ہے۔

”ان بارہوں کو یسوع نے فرما کے بھیجا کہ غیر قوموں کے طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر

میں داخل نہ ہونا بلکہ پہلے بنی اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیحؑ نے اپنے حواریوں کو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے

لئے ہی بھیجا تھا۔ اور انہیں واضح طور پر یہ ہدایت دی تھی کہ غیر اقوام کو تبلیغ نہ کریں۔ اس جگہ عیسائی ایک لفظ سے فائدہ

اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ”پہلے“ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں

صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ محدود ہوگی۔ مگر آئندہ زمانہ میں انہیں اپنی تبلیغ وسیع کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن اسی

باب کی آیت ۲۳ اس مفہوم کو رد کر دیتی ہے۔ اُس میں لکھا ہے۔

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے جب تک کہ ابن آدم

نہ آئے۔“

اس میں حضرت مسیحؑ کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میری آمد ثانی تک تمہاری یہ تبلیغ غیروں میں شروع

نہیں ہوگی اور جب تک کہ ابن آدم دوبارہ دنیا میں نہ آئے تمہارا یہ مشن جو بنی اسرائیل میں قائم کیا گیا ہے ختم نہیں ہو

گا۔ ہاں جب وہ آجائے گا تو پھر اجازت ہوگی کہ دوسروں کو بھی تبلیغ کی جائے۔ پس ”پہلے“ کی تشریح اس باب کی

آیت نمبر ۲۳ نے کر دی ہے۔

اسی طرح متی باب ۱۵ آیت ۲۴ میں لکھا ہے:-

”اُس نے جواب میں کہا۔ میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی

پاس نہیں بھیجا گیا۔“

یہاں حضرت مسیحؑ اس بات کا صاف طور پر اقرار کرتے ہیں کہ میں اسرائیلیوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں بھیجا

گیا۔ پس پہلے اور بعد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اسی طرح مرقس باب ۷ آیت ۲۷ میں آتا ہے:-

”یسوع نے اُسے کہا کہ پہلے فرزندوں کو سیر ہونے دے۔ کیونکہ فرزندوں کی روٹی لے کے

کتوں کے آگے ڈالنا لائق نہیں۔“

یہاں بھی متی باب ۱۰ والے حوالہ کا مضمون ہے اور اس میں بھی غیر اسرائیلیوں کو کتے قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ روٹی کتوں کے لئے نہیں بلکہ صرف اسرائیلیوں کے لئے ہے۔ اس کے مقابلہ میں اسلام اپنی تبلیغ کو کسی خاص قوم تک محدود نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيلاً (الاعراف: ۱۵۹) یعنی اے رسول! تو کسی ایک قوم کو نہیں بلکہ تمام دنیا کی قوموں کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری جگہ سورہ سبأ میں فرماتا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبأ: ۲۹) یعنی ہم نے تجھے تمام بنی نوع انسان کی طرف ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو مومنوں کو خوشخبری دینے والا اور کافروں کو ہوشیار کرنے والا ہے لیکن انسانوں میں سے اکثر اس حقیقت سے آگاہ نہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں

كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ۔ (مسلم کتاب المساجد، باب المساجد و مواضع الصلوة) یعنی مجھ سے پہلے جس قدر انبیاء تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے مگر مجھے ہر اسود و احمر کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ غرض قرآن کریم میں بھی یہ دعویٰ موجود ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے کہ آپ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔

ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً (مسلم کتاب المساجد)۔ مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پس گو بظاہر اسلام اور عیسائیت کے متبعین کا دعویٰ مشترک معلوم ہوتا ہے۔ مگر عیسائی ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے اپنے مذہب کے خلاف ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے عیسائیت کو غیر مذاہب والوں کے لئے رکھا ہی نہیں تو وہ اُسے قبول کر کے نجات کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ایک گورنمنٹ کسی کو کہیں جانے کا حکم دے اور وہاں کوئی اور چلا جائے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر اسرائیلی عیسائی ہو جائے گا تو وہ انعام کا نہیں بلکہ سزا کا مستحق ہوگا۔

پھر ایک اور نقطہ نگاہ سے بھی اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق ہے۔ اور وہ یہ کہ یہود و نصاریٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ دَاوًّا وَنَظْرِي کہ یہود اور نصاریٰ کے سوا اور کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں کسی ابتدائی زمانہ کا ذکر نہیں بلکہ یہ ذکر ہے کہ سو، ہزار، لاکھ بلکہ کڑوں سال کے بعد بھی یہود اور نصاریٰ کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ مگر اسلام کی تعلیم اس سے مختلف ہے۔ وہ دوزخ کے عذاب کو دائمی قرار نہیں دیتا۔ بلکہ کہتا ہے کہ کوئی انسان خواہ دہریہ بھی ہو آخر ایک دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ

خدا تعالیٰ کا عبد بنے۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہو تو انسان کی پیدائش لغو قرار پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذّٰریت: ۵۷) یعنی میں نے جن وانس کو کسی اور غرض کے لئے نہیں بلکہ صرف اپنا عبد بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِيْ۔ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ۔ (الفجر: ۳۰، ۳۱) یعنی اے نفس مطمئنہ کے حامل تُو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کو لے لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیدائش انسانی کی غرض باطل ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض واقع ہوتا کہ اُس نے انسان کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا تھا وہ پورا نہ ہوا۔ غرض اسلام لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ ذَا اَوْ نَصَارًا كُوْنًا مَّرَدًّا دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں تو وہ ہر شخص کو جنت کا حق دار قرار دے دیتا ہے۔

پھر اسلام اور عیسائیت کے نظریہ نجات میں ایک نمایاں فرق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مسلمان تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے جاری ہے اور جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے تازہ وحی آئے اُس کا قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن عیسائیت یہ نہیں کہتی بلکہ وہ کلام الہی کو حضرت مسیح علیہ السلام تک محدود قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کوئی تازہ کلام بطور تشریح اور تفسیر بھی نہیں آسکتا۔ اس لئے اگر کوئی تازہ کلام وحی یا تشریح کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ تو وہ اپنے اس عقیدہ کی وجہ سے اُسے رد کر دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان اُسے قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک سچے مسلمان کی یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ بِالْاِخْوَةِ هُمْ يُؤْتُونَ (البقرة: ۵۷) یعنی وہ ہر آنے والی ہدایت پر اُسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح پہلی ہدایتوں پر اُن کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے جو اسلام اور عیسائیت کے نظریہ نجات میں پایا جاتا ہے۔ عیسائی نجات کو محدود کرتے ہیں کیونکہ وہ وحی کا دروازہ بند سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام اُسے کھلا رکھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایمان کو تازہ کرنے اور انسانی علوم کو بڑھانے کے لئے جو وحی آتی ہے اُس کا قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن عیسائی اس قسم کی وحی کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ اور بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم کرتے ہیں۔ اسلام نے انہیں توجہ دلائی ہے کہ تم وحی الہی کا دروازہ بند کر کے خدا تعالیٰ کی ہدایت کو محدود نہ کرو۔ خدا صرف یہودیوں اور عیسائیوں کا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا خدا ہے اور ابتدائے آفرینش سے اپنے تمام بندوں کی ہدایت کا سامان کرتا چلا آیا ہے اور آئندہ بھی وہ اس سلسلہ کو ہمیشہ جاری رکھے گا۔ پس خدا تعالیٰ کے وسیع فیضان اور اُس کی رحمت کے بے کنار سمندر کو ایک خشک چشمہ کی شکل مت دو۔ اور نجات کو صرف اپنے لئے مخصوص کر کے خدا تعالیٰ کو قومی خدا مت بناؤ۔

غرض اس آیت میں نہایت واضح طور پر نجات کو اس ایمان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے کہ جو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے میں اُسے خوشی کے ساتھ قبول کرونگا۔ ورنہ عیسائی جو تمام کے لئے نجات کا دروازہ کھلا بتاتے ہیں کیوں قابل الزام ہوتے؟ وہ اسی بناء پر قابل الزام ہیں کہ آئندہ الہام کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ پس اگر مسلمان بھی یہی مقام اختیار کریں تو اس آیت کے مضمون کے مطابق وہ بھی مجرم بن جائیں گے۔

تِلْكَ اٰمَاتُهُمْ - فرماتا ہے جب کوئی قوم ترقی سے محروم ہو جاتی ہے اور اپنا قدم آگے بڑھانے کی بجائے پیچھے ہٹانا شروع کر دیتی ہے تو وہ عمل اور کردار کا اعلیٰ نمونہ بننے کی بجائے صرف حسرتوں اور آرزوؤں کی ایک تصویر بن کر رہ جاتی ہے اور جہاں محنت اور مشقت اور قربانیوں سے کام لینے والے لوگ دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر رہے ہوتے ہیں وہاں محنت سے جی چرانے والے اور گیدڑ کی طرح صرف شیر کا مارا ہوا کھانے والے اسی قسم کے تصورات میں مبتلا رہتے ہیں جس قسم کے تصورات شیخ چلی میں پائے جاتے تھے۔ یہ کہنا کہ ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں ہم موسیٰؑ کی امت میں سے ہیں ہم عیسیٰؑ پر ایمان لانے والے ہیں یا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں کسی کو کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ تم اُن جیسے کام کرو تب تو کوئی بات بھی ہے لیکن اگر تم اُن جیسے کام نہیں کرتے تو منہ کا دعویٰ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - فرماتا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو تم اس بات کی کوئی دلیل پیش کرو۔ کہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لئے نجات ہے اور کسی کے لئے نہیں۔ یہ دلیل وہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اگر تمہاری بات سچ ہے کہ نجات صرف تمہی میں ہے غیروں میں نہیں تو خدا تعالیٰ کے افضال اور اُس کی برکات اور اس کا کلام تم سے وابستہ ہونا چاہیے اگر نجات یہودیوں میں محدود ہے تو یہ چیزیں اُن کے ساتھ وابستہ ہونی چاہئیں۔ اگر عیسائیوں کے ساتھ مخصوص ہے تو اُن سے یہ باتیں وابستہ ہونی چاہئیں۔ اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے اور اپنے نشانات ہماری تائید میں نازل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مومن کو دو جنتیں ملتی ہیں۔ ایک اس جہان میں اور ایک اگلے جہان میں۔ وہ فرماتا ہے وَلَيَنْ حٰفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الزحمن: ۴۷) کہ جو شخص اپنے رب کی شان اور عظمت سے ڈرتا ہے اُسے دو جنتیں ملتی ہیں۔ پس اگر اُن کی یہ بات صحیح ہے کہ وہ نجات یافتہ ہیں تو وہ اپنی دنیوی جنت دکھائیں اور بتائیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام اور اس کا فضل اور اس کی برکات اُن پر نازل ہوتی ہیں؟ نازک مواقع پر خدا تعالیٰ اُن کے لئے غیرت دکھاتا ہے۔ اور ان کی تائید کے غیر معمولی سامان پیدا کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر بے شک وہ نجات کے مستحق ہیں لیکن اگر اُن کے ساتھ اس

کا یہ سلوک نہیں تو اُن کو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اُن سے اپنی برکات چھین لی ہیں اور انہیں مرکز بھی نجات حاصل نہیں ہوگی۔

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ

(اور بتاؤ کہ دوسرے لوگ) کیوں نہیں (داخل ہوں گے) جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیک

عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۳﴾

۱۳

کام کرنے والا (بھی) ہو تو اس کے رب کے ہاں اس کے لئے بدلہ (مقرر) ہے اور ان کو (یعنی ایسے لوگوں کو آئندہ کے متعلق) کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ (کسی سابق نقصان پر) غمگین ہوں گے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - أَسْلَمَ کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا یا کئی طور پر سونپ دینا۔ (اقرب)

وَجْهٌ کے کئی معنی ہیں (۱) توجہ (۲) نَفْسُ الشَّيْءِ کسی چیز کا وجود (۳) چہرہ۔ یہ سب معنی یہاں چسپاں ہو سکتے ہیں۔ اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ (۱) جو اپنی توجہ پورے طور پر خدا کو سونپ دے یعنی تمام توجہ خدا کی طرف لگا دے۔ (۲) جو اپنی ذات کو کامل طور پر خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اسے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے (۳) جو اپنا چہرہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ہر وقت اس کی طرف نظر رکھے اور اُس کی نگاہ کبھی غیر اللہ کی طرف نہ اُٹھے۔ (اقرب)

مُحْسِنٌ احسان کے دو معنی ہیں (۱) دوسرے کو انعام دینا بغیر اُس کے کسی کام کے اُس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا یا اس کے کام کے بدلہ سے اُسے زیادہ دینا (۲) انسان کا اپنے ذاتی کام میں کمال کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا۔ یعنی اُسے اپنے کام کے متعلق اچھا علم حاصل ہو۔ یا جو عمل کرے وہ اچھا ہو۔ غرض احسان یہ ہے کہ (۱) غیر کے ساتھ بغیر بدلہ کے نیک سلوک کرے (۲) اپنے علم اور عمل میں نیکی مد نظر رکھے اور اُس میں بدی کو داخل نہ ہونے دے۔ (مفردات) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ **أَلْتَأَسُّ آئِبْنَا ۖ مَا يُحْسِنُونَ** کہ لوگ اس چیز کے بیٹے ہوتے ہیں جسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یعنی انسان کی عزت اس علم کے مطابق ہوتی ہے جسے وہ اچھی طرح سیکھتا ہے اور اس عمل کے مطابق ہوتی ہے جسے وہ بہتر سے بہتر کر سکتا ہے۔ جیسے ایک شخص نجار کہلاتا ہے وہ کئی اور کام بھی

جانتا ہے۔ مثلاً وہ روٹی پکا سکتا ہے۔ زراعت کا علم رکھتا ہے اور اُسے کر سکتا ہے یا لوہار کا کام بھی جانتا ہے اور اس سے کام چلا سکتا ہے مگر وہ کہلاتا نجار ہے اس لئے کہ سب سے زیادہ اُسے نجاری کا کام آتا ہے۔ اسی طرح کاتب کئی اور کام بھی جانتا اور کر سکتا ہے مگر کاتب کہلاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ کتابت جانتا ہے اور یہ اُس کا پیشہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر باوجود کئی اور کام جاننے کے صرف ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ ڈاکٹری کا کام سب سے زیادہ جانتا ہے۔ پس محسن وہ ہے جو کامل علم رکھنے والا یا کامل عمل کرنے والا ہو۔

اسی طرح أَحْسَنُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں جَعَلَهُ حَسَنَةً اُسے اچھا بنایا۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ (السَّجدة: ۸) کہ جس نے ہر چیز پیدا کی اور کام کے لحاظ سے اُسے بہتر سے بہتر طاقتمیں بخشیں۔

احسان، انعام سے مختلف چیز ہے۔ انعام صرف دوسرے پر ہوتا ہے اور احسان اپنے نفس پر بھی ہوتا ہے اور دوسروں پر بھی پس تمام بنی نوع انسان سے نیک سلوک کرنا احسان ہے۔

عدل کے لحاظ سے بھی احسان مقام بلند ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جتنا کسی کا حق ہو اتنا ہی انسان اُسے دے دے اس سے زیادہ نہ دے مگر احسان یہ ہے کہ جو کسی کا حق ہو اس کو اصل سے زیادہ ادا کیا جائے۔ اور جو لینا ہو وہ حق سے کم لیا جائے۔ (مفردات راغب)

اقرب میں اس سے زیادہ مختصر معنی یہ لکھے ہیں کہ آتَى بِالْحَسَنِ۔ اچھی بات کہی یا اچھی بات جانی۔ یا اچھا کام کیا۔ یہ اِنْسَاء کی ضد ہے۔ یعنی بدسلوکی کے مخالف معنی دیتا ہے۔ پس اس کے معنی بھی حسن سلوک ہی کے ہیں۔

أَحْسَنَهُ کے معنی عَلِمَهُ کے بھی ہیں یعنی اُسے اچھی طرح سے جان لیا۔ کہتے ہیں فُلَانٌ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ فلاں شخص قراءت کا خوب علم رکھتا ہے اور أَحْسَنَ لَهُ وَبِهِ کے معنی ہیں اچھا عمل کیا یا کسی کے ساتھ نیکی کی۔ (اقرب) اسلامی نقطہ نگاہ سے اَسْلَمَ وَجْهَهُ اور وَهُوَ مُحْسِنٌ کے یہ معنی ہیں کہ ایسا شخص رسول کی اتباع کرتا ہو۔

اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرمانبرداری کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ نَا فَهُوَ رَدٌّ (بخاری کتاب البیوع باب النجش۔۔۔) کہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں یا جس میں ہماری اجازت نہیں وہ مقبول نہیں ہوگا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلامِ الہی کے لانے والے ہیں وہی خدا تعالیٰ کے منشا کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا

کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَمَا نَتَّكَ تَرَاهُ قِيَانٌ لَّمَّ تَكُنْ تَرَاهُ قِيَانَهُ يَرَاكَ (بخاری کتاب الایمان باب سوال العجریل النبوی عن الایمان۔۔۔) کہ تُو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی طرز پر کرے کہ وہ تجھے نظر آجائے یا کم از کم تجھے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ درحقیقت یہ ایک معیار ہے انسان کی روحانی ترقی پہچاننے کے لئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ عبادت الہی اتنی کامل ہو جائے کہ خدا تعالیٰ نظر آنے لگے۔ یا اُس پر اتنی ہیبت طاری ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ خدا کو نظر کے سامنے رکھنے سے انسان کا دل بڑھ جاتا ہے جس طرح بھاگتی فوج بادشاہ کے آنے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ محسن نہیں رہتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی رو سے مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ کے یہ معنی ہیں (۱) کہ جو اپنی توجہ کو خدا کے سپرد کر دے اور وہ پورے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مطیع ہو۔ دوسری روایت کی رو سے یہ معنی ہیں (۲) کہ جو اپنی توجہ کو پورے طور پر خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور روحانی طور پر اتنا کامل ہو جائے کہ اُسے خدا تعالیٰ نظر آنے لگ جائے یا خدا کے حکم کے مطابق اس کا عمل ہو جائے۔ گویا ایک طرف خدا تعالیٰ کے منشا کے مطابق اس کا عمل ہو اور دوسری طرف اس کا علم کامل ہو اور اس کا عمل عرفان کے درجہ تک پہنچ جائے۔

لُغْتِی کی رو سے اس کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص اپنی نظر خدا تعالیٰ کی طرف رکھے۔ کسی انسان سے اُس کی اُمید وابستہ نہ ہو۔ اس کی امید گاہ وہی ہو۔ اور دوسری طرف وہ محسن بھی ہو یعنی اس کا عمل اتنا وسیع ہو کہ کوئی شخص اُس کے حسن سلوک سے باہر نہ رہے گویا اُس کا احسان ساری دنیا سے وابستہ ہو۔

تفسیر۔ یہ آیت وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ ذَا اَوْ نَضْرِي کے جواب میں نازل کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اسلام کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق درست رکھنا اور خدا تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا۔ پس نجات کا مستحق صرف وہی شخص ہے جو ایک طرف تو اپنے آپ کو کلیۃً اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر ڈال دے اور جو کچھ مانگتا ہو اُس سے مانگے۔ اور دوسری طرف اُس کا دامن اتنا وسیع ہو کہ آپ دوسروں سے لینے کے لئے تیار نہ ہو بلکہ ہر ایک کو دینے کے لئے آمادہ رہے۔ اسی مضمون کا ایک شعر میں نے بھی کہا ہے کہ۔

تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو

یہ محسن کا کمال ہے کہ وہ اپنے لئے خدا تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سب دنیا کو دیتا ہے۔ اور درحقیقت انابت الی اللہ۔ توجہ الی اللہ اور شفقت علی الناس ہی اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ

حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دو باتیں اسلام کا خلاصہ ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ سو وہ خلاصہ اسی آیت میں درج ہے مَنْ أَسْلَمَ فِي انابَتِ اِلَى اللّٰهِ آجَاتِي هُوَ وَهُوَ مُحْسِنٌ فِي لُؤْغُوں پَر شَفَقَتِ آجَاتِي هُوَ هِيَ اَوْر بَلِي كَهْم كَرِهَتَا دِيَا كَه نَجَاتِ صَرَفِ اُنْهِي لُؤْغُوں كَه سَاتْهَ مَخْصُوصِ هُوَ نَه كَه تَمَهَارَے سَاتْهَ۔ ايسے لُؤْغُوں كَه لِنے اُن كَه رُب كَه پَاس اُن كَا اِحْرَافِ مَحْفُوظِ رَهِي گَا۔

اس میں ایک لطیف بات بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا نجات ہمارے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجات کا گرو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے نہ کہ کوئی خاص مذہب اختیار کرنا پس محض نام نجات نہیں دلا سکتا بلکہ جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی نیا حکم آئے تو اُسے قبول کرنا ہی حقیقی اسلام ہے اور اُس کا انکار کرنا نجات کے مخالف۔ باقی رہا یہ کہ ان کے علاوہ کوئی ناجی ہے یا نہیں؟ سو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام قانون کے طور پر صرف انہی لوگوں کو نجات کا مستحق بتاتا ہے جو أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ كَه ماتحت آتے ہوں۔ باقی خدا تعالیٰ مالک ہے جسے چاہے بخش دے۔ اگر وہ کسی ہندو کو بخشنا چاہے یا کسی سکھ کو بخشنا چاہے یا کسی عیسائی اور یہودی کو بخشنا چاہے تو اُسے کون روک سکتا ہے۔

بَلِي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ فِي اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر سچے مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سارے وجود کو خدا تعالیٰ کے لئے وقف کر دے۔ اور اپنی دنیوی حاجات کو بھی دینی حاجات کے تابع کر دے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقتاً اسلام اور دیگر ادیان میں یہی فرق ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم علم حاصل نہ کرو۔ نہ یہ کہتا ہے کہ تم تجارتیں نہ کرو۔ نہ یہ کہتا ہے کہ صنعت و حرفت نہ کرو۔ نہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنی حکومت کی مضبوطی کی کوشش نہ کرو۔ وہ صرف انسان کے نقطہ نگاہ کو بدلتا ہے۔ دنیا میں تمام کاموں کے دو نقطہ نگاہ ہوتے ہیں۔ ایک قشر سے مغز حاصل کرنے کا نقطہ نگاہ ہوتا ہے اور ایک مغز سے قشر حاصل کرنے کا نقطہ نگاہ ہوتا ہے جو شخص قشر سے مغز حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے بلکہ اکثر وہ ناکام رہتا ہے۔ لیکن جو شخص مغز حاصل کرتا ہے۔ اس کو ساتھ ہی قشر بھی مل جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اتباع کی تمام جدوجہد دین کے لئے تھی لیکن یہ نہیں کہ وہ دنیوی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہوں۔ جن لوگوں کو دین ملے گا دنیا لوٹنی کی طرح اُن کے پیچھے دوڑتی آئے گی لیکن دنیا کے ساتھ دین کا ملنا ضروری نہیں۔ بسا اوقات وہ نہیں ملتا اور بسا اوقات رہا سہا دین بھی ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے۔

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خوف آئندہ آنے والی باتوں کے لئے ہوتا ہے اور حُجُونِ ماضی پر۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ ان کو کوئی قوم نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ان کی ماضی بھی ان کو کبھی پریشان نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ماضی معاف نہ کرتا تو انہیں فکر ہی لگی رہتی کہ ہم نے تیس، چالیس، پچاس، ساٹھ یا سو سال کی عمر ضائع کر دی اور نافرمانیاں کرتے رہے۔ مگر ادھر وہ آسکلمَ وَجْهًا پر عمل کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے اور ادھر اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا مومن کی ماضی اُسے کبھی پریشان نہیں کر سکتی۔ کیونکہ وہ ایمان لانے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ اگر بعد میں وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو بے شک وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائیگا۔ مگر توبہ کے بعد پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ غرض اس آیت میں بتایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے اور مخلوق خدا پر بھی اس کے احسان کا دائرہ وسیع ہو اُسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حُجُون۔ کیونکہ ایسا شخص خدا تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ خوف اس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جو یا تو آخرت پر قطعی طور پر ایمان نہیں رکھتا اور سمجھتا ہے کہ جب مر گئے تو خاک ہو جائیں گے اس لئے وہ موت سے ڈرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے عیش کے دنوں کو لمبا کرے اور یا پھر خوف اس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد آئیوالی زندگی پر ایمان تو رکھتا ہے مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو خدا کو کیا جواب دوں گا۔ لیکن وہ جو آخرت پر سچا ایمان رکھتا ہے اور اُس ایمان کے مطابق اعمال بھی بجالاتا ہے اُس کے دل میں کوئی خوف نہیں رہتا۔ دوسری چیز حُجُون ہے۔ خوف آئندہ کے متعلق ہوتا ہے لیکن حُجُون ماضی کے متعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سچے مومن ہوں اُن کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ انہیں حُجُون بھی نہیں ہوتا۔ ایک صدمہ ایسا ہوتا ہے جو اتصال اور محبت کی وجہ سے کسی چیز کے ضائع ہونے پر ہوتا ہے۔ اس صدمہ کو محسوس کرنے اور اس کے اظہار سے خدا نے منع نہیں فرمایا۔ لیکن حُجُون یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی گزشتہ کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اُس کی کوئی تائید نہیں کرے گا۔ فرماتا ہے جسے خدا پر کامل ایمان ہو حُجُون اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ کیونکہ وہ اپنے خدا کی محبت اور اُس کی قدرتوں پر کامل یقین رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ خدا اپنے مخلص بندوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔

ترتیب و ربط: گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس منصوبہ کا ذکر کر کے جو وہ غیر سلطنتوں سے کرتے تھے آیت ۱۰۵ و ۱۰۶ میں اُن کے دوسرے منصوبہ کا ذکر کیا جو وہ خود مسلمانوں میں بدامنی پیدا کرنے کے لئے کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان گستاخی میں مبتلا ہو کر انعامات الہیہ سے محروم ہو جائیں آیت ۱۰۷ میں بتایا کہ ہم کسی کلام کو منسوخ کرتے ہیں تو اُس سے بہتر لاتے ہیں۔ پس یہود سوچیں کہ کیا موسیٰؑ اور دیگر انبیاء پر جو

کلام نازل ہوتا تھا اس کے اثر اور اشاعت کو کوئی قوم روک سکی تھی جو اب یہ روک لیں گے۔
 آیت ۱۰۸ میں بتایا کہ یہ کلام زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی مخالفت کا
 نتیجہ خطرناک ہوگا۔ آیت ۱۰۹ و ۱۱۰ میں یہودی کی تیسری تدبیر کا ذکر ہے جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے خلاف کیا کرتے تھے۔ اور وہ یہ کہ نہایت لغو اور بیہودہ سوالات کرتے تاکہ مسلمان بھی اُن کی دیکھا دیکھی اس
 مرض میں مبتلا ہو جائیں اور آہستہ آہستہ دین الہی کی عظمت اُن کے دلوں سے مٹ جائے۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں
 کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ حضرت موسیٰؑ سے ایسے سوالات کر کے ہلاک ہو چکے ہیں اور اب تمہیں غافل اور
 گستاخ اور کافر بنانا چاہتے ہیں۔ آیت ۱۱۱ میں اُن کے شر سے بچنے کی تدبیر بتائی کہ عبادت میں لگ جاؤ اور مخلوق
 کی ہمدردی کرو۔ آیت ۱۱۲ میں مسیحیوں کا بھی ذکر کر دیا (جو موسوی مذہب کی ایک شاخ تھے مگر یہودیوں سے بالکل
 الگ ہو چکے تھے) اور فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک نیا عہد باندھا ہے اور اُن کی کتابوں میں اس کی خبر ہے تو اب
 اس سے منہ موڑ کر صرف یہودی یا عیسائی کہلانے سے کیونکر نجات ہو سکتی ہے۔ آیت ۱۱۳ میں اُن کے خیالات کو
 رد فرما کر نجات کا حقیقی ذریعہ بتایا جو خدا تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری اور اس کی مخلوق پر شفقت سے کام لینا ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَ قَالَتِ

اور یہودی کہتے ہیں کہ مسیحی کسی (سچی) بات پر قائم نہیں ہیں۔ اور مسیحی کہتے ہیں

النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ

کہ یہودی کسی (سچی) بات پر قائم نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ دونوں (ایک ہی) کتاب (یعنی تورات) پڑھتے ہیں۔

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ فَاَللّٰهُ يَحْكُمُ

اسی طرح وہ (دوسرے) لوگ جو علم نہیں رکھتے انہی کی سی بات کہا کرتے تھے۔

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِئًا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝۱۱۳

سو جس (بات) میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کے متعلق اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔

تفسیر۔ فرمایا یہ لوگ تمہیں تو غیر ناجی قرار دیتے ہیں لیکن خود ان کی یہ حالت ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ

نصاری میں کوئی خوبی نہیں پائی جاتی اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود اپنے اندر کوئی نیکی اور روحانیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل پر ہمارا ایمان ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل پر ہمارا ایمان ہے۔ صرف انجیل کے متعلق ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی یہود تو اسے کوئی مقدس کتاب تسلیم نہیں کرتے اور عیسائی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بائبل جس میں تمام عہد نامہ قدیم شامل ہے اس پر یہود اور عیسائی دونوں ایمان رکھتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ اس میں کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مگر ایک کتاب پر ایمان رکھنے کے باوجود ان میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہودی عیسائیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خوبی نہیں اور عیسائی یہودیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خوبی نہیں۔

اس سے پہلے یہود کے تین دعوؤں کا ذکر آچکا ہے۔ اب ان کے متعلق یہ چوتھی بات بیان کی گئی ہے درحقیقت پہلی دو باتیں آپس میں مشابہ تھیں اور آخری دو باتیں آپس میں مشابہ ہیں۔ پہلے کہا تھا کہ یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ كُنْ تَبَسَّنَا التَّائِبِينَ إِلَّا أَيُّهَا مَعْذُورُونَ ہمیں آگ صرف چند دن چھوئے گی اور گیارہویں رکوع میں اُن کا یہ دعویٰ بیان کیا گیا تھا کہ اگلا جہان صرف ہمارے لئے مخصوص ہے۔ گویا پہلے دعویٰ سے دوسرا دعویٰ بڑھ گیا۔ پہلا دعویٰ یہ تھا کہ اگر ہم دوزخ میں جائیں گے تو صرف چند دن ہی اُس میں رہیں گے۔ اور دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں ہمارے سوا اور کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلے دعویٰ سے بڑھ کر دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دعوؤں کا رد کر دیا۔ اب تیسرا اور چوتھا دعویٰ آپس میں مشابہ ہیں۔ مگر چوتھا تیسرے سے بڑھ کر ہے۔ تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا کہ یہود کے نزدیک یہود یوں کے سوا اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور عیسائیوں کے نزدیک عیسائیوں کے سوا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھا دعویٰ یہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہے کہ دوسروں کے جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہود کے نزدیک عیسائیوں میں کوئی نیکی نہیں اور عیسائیوں کے نزدیک یہود میں بھی بعض نیکیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ آخر ایک یا دو نیکیوں سے انسان جنت میں نہیں جاسکتا۔ جنت میں انسان اسی صورت میں داخل ہوتا ہے جب نیکیاں زیادہ ہوں اور بدیاں کم ہوں۔ مگر یہ لوگ ایک دوسرے کو دوزخی قرار دینے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے سوا دوسروں میں کوئی نیکی پائی ہی نہیں جاتی۔ گویا قطعی طور پر وہ کسی نیکی کو دوسرے کی طرف منسوب کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی نیکیوں کو تم جانے دو۔ تم یہ بتاؤ کہ عہد عتیق کا پڑھنا نیکی ہے یا نہیں؟ وہ کم از کم اسے تو پڑھتے ہیں اور جب وہ یہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو پھر کھلی طور پر کسی کی نیکی کا کیوں انکار کرتے ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر مذہب اپنے اندر بعض صداقتیں رکھتا ہے اور سچے مذہب کے صرف یہی معنی ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نسبت اپنے اندر بہت زیادہ خوبیاں اور کمالات رکھتا ہے اور ہر قسم کے نقائص سے منزہ اور پاک ہوتا ہے۔ ورنہ تھوڑی بہت صداقت تو ہر مذہب میں پائی جاتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ عام طور پر اس اصل کو نہیں سمجھا جاتا۔ جس کا نتیجہ شدید مذہبی عداوت کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔ اسلام اس کم حوصلگی بلکہ غلط بیانی کا شدید مخالف ہے۔ اور اپنی صداقت کے دعویٰ کے ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ ہر مذہب اپنے اندر بعض خوبیاں رکھتا ہے اور مختلف مذاہب کے پیروؤں کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر اندھا دھند حملہ نہ کیا کریں۔ بلکہ دوسروں کی خوبیوں کو بھی دیکھا کریں۔ اور بلا غور و تحقیق مذہبی تعصب کی بنا پر یہ خیال نہ کر لیا کریں کہ دوسرا مذہب سر سے پائتک عیوب کا مجسمہ ہے اور ہر قسم کی خوبی اس میں مفقود ہے۔ چنانچہ آیت مذکورہ بالا میں یہودیوں اور مسیحیوں کو ملامت کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اس قدر سخت عداوت رکھتے ہیں کہ دوسروں کی کسی خوبی کے قائل ہی نہیں بلکہ تعصب مذہبی سے اندھے ہو کر فریق مخالف کو سراسر غلطی پر خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اور کچھ نہ ہو تو کم از کم دونوں ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے ہیں۔ پس اس ایک خوبی میں تو دونوں مشترک ہیں۔ اگر قرآن کریم کی اس تعلیم پر لوگ عمل کریں تو دُنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ اور ہر قسم کے جھگڑے اور مناقشات دُور ہو کر صحیح معنوں میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تمام مذہبی جھگڑوں کی بنیاد اسی غلط فہمی پر ہے۔ لوگ مخالف مذہب پر غور کرنے سے پہلے اُس کی تردید شروع کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیروؤں کے دل میں بھی اس حملہ آور کے مذہب کی نسبت بُعوض پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح ٹھنڈے دل سے مختلف مذاہب پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور پُلا غور کئے تمام مذاہب کے پیرو صرف دشمنوں کی روایات کی بنا پر دوسرے مذاہب کے عقائد کو بعید از عقل اور مجموعہ توہمات اور اُس کے احکام کو ناقابل عمل اور دنیا کے امن کے منافی خیال کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں اُن مذاہب سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہمدردانہ غور ہو تو ہر ایک مذہب میں بہت کچھ خوبیاں اور کسی قدر کمزوریاں نظر آئیں گی سوائے اس ایک سچے مذہب کے جو سب نقصوں سے پاک ہوتا ہے۔ پس اس غور کا لازمی نتیجہ باہمی صلح اور آشتی ہوگا۔ ایک دوسرے کے مذہب پر ناجائز حملہ کرنے کی عادت لوگوں کو اس قدر پڑ گئی ہے کہ اس زمانہ میں وہ ایک شغل خیال کیا جاتا ہے حالانکہ اس کے نتائج بحیثیت مجموعی تمام دنیا کے لئے خطرناک ہیں اور قرآن کریم نے اصولی طور پر اس آیت میں اسی نقص کے ازالہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اسلامی فرقوں کا بھی یہی حال ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک کتاب پر ایمان رکھتے

ہیں۔ ایک رسول پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی وہ ذرہ ذرہ سے اختلاف پر ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں۔
 كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ وَمِثْلَ قَوْلِهِمْ - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عیب صرف یہود اور نصاریٰ میں ہی
 نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو علم صحیح سے بے بہرہ ہیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حملے کرتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کی
 خوبیوں کو بالکل نظر انداز کر دینا اور لڑائی جھگڑے کے وقت نیکی اور بدی کا موازنہ نہ کرنا صرف جہلا کا کام ہے۔ یہ
 کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خدا کو ماننا ہو اور پھر اُس میں کوئی نیکی نہ ہو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک چیز
 موجود ہو اور پھر اُس میں کوئی خوبی نہ پائی جاتی ہو۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کوئی چیز بھی ایسی پیدا نہیں کی
 جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ بلکہ اب تو سانپ اور بچھو کے زہر تک میں فوائد تسلیم کر لئے گئے ہیں۔ پھر انسان کے متعلق یہ
 خیال کرنا کہ اس میں کوئی بھی خوبی نہیں سراسر ظلم اور خدا تعالیٰ پر حملہ ہے۔

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - فرماتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہود میں کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں یا کہتے ہیں
 کہ نصاریٰ میں کوئی نیکی نہیں اُن کا یہ قول درست نہیں۔ ہاں اُن میں غلطیاں ضرور ہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ اُن میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں وہ ان کی اصلاح کرے مگر یہ کہنا درست نہیں کہ اُن
 میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ ہاں اُن میں نیکیاں کم اور بدیاں زیادہ پائی جاتی ہیں اور جب دنیا میں نیکیاں کم اور بدیاں
 زیادہ ہو جائیں اور عالمگیر خرابی پیدا ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی نبی مبعوث فرماتا ہے
 تاکہ بدیاں کم اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں اور لوگ پھر خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔

وَمَنْ اٰظَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذَكَّرَ فِيْهَا

اور اس (شخص) سے بڑھ کر کون ظالم (ہو سکتا) ہے جس نے اللہ کی مساجد سے (لوگوں) کو روکا کہ ان میں اس کا نام

اسمہ و سغی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان

لیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو گیا۔ ان (لوگوں) کے لئے مناسب نہ تھا کہ ان (مساجد) کے اندر داخل

يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خٰفِیْنَ ۗ لَہُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ

ہوتے مگر (خدا سے) ڈرتے ہوئے۔ ان کے لئے دنیا میں (بھی) رسوائی ہے اور آخرت

وَالَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۱۵﴾

میں (بھی) ان کے لئے بڑا عذاب (مقدر) ہے۔

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے دے اور اُس کی عبادت سے لوگوں کو روکے اور اس طرح اُن کو ویران کرنے کی کوشش کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے جو اسلام نے پیش کی ہے۔ اسے سامنے رکھ لو دنیا کا کوئی مذہب اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ مسلمانوں کا عمل جانے دو بلکہ اس حکم اور تعلیم کو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کا حق نہیں کہ ذکر الہی سے کسی کو روکے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں جا کر ذکر الہی کرنا چاہے یا اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالانا چاہے تو اس سے روکنا بالکل ناجائز ہے۔ کوئی ہندو، سکھ یا عیسائی آجائے اور مسلمانوں کی مسجد میں اپنے رنگ میں عبادت الہی کرنا چاہے تو کسی مسلمان کو اُسے روکنے کا حق نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ باجا بجانا اور ناچنا اُن کی عبادت میں شامل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کام وہ باہر کر لیں۔ جتنا حصہ ذکر الہی کا ہے وہ مسجد میں آکر ادا کر لیں۔ اس آیت میں ان تمام قسم کی زیادتیوں اور تعدیوں کو جو ایک مذہب کے پیروں دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں یا عبادت کے متعلق کرتے ہیں یک قلم موقوف کر دیا ہے اور سب مذاہب کے پیروں کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ عبادت خانوں اور عبادتوں کے متعلق اپنے دلوں اور اپنے حوصلوں کو وسیع کریں کیونکہ اُن کا موجودہ طریق عمل نہایت ظالمانہ اور جاہرانہ ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ ظالمانہ طریق جو عبادت خانوں یا عبادت کے متعلق زمانہ نزول قرآن کے وقت برتے جاتے تھے یا اب بھی برتے جاتے ہیں اور جن سے قرآن کریم منع فرماتا ہے یہ ہیں:-

اول۔ اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر فتح پاتا تو اُس کے عبادت خانوں کو گرا دیتا یا انہیں مقفل کر دیتا یا اس

مذہب کے پیروں کو اُس میں عبادت نہ کرنے دیتا۔

دوم۔ ہر مذہب کے پیرو اپنی اپنی عبادت گا ہوں میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے اور ان میں دوسروں کو داخل ہونے تک کی بھی اجازت نہ دیتے۔ یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بڑے زور سے رائج تھیں اور مختلف مذاہب کے پیروں کی عادت میں داخل ہو گئی تھیں اور اُس زمانہ میں یہ باتیں عیب نہیں بلکہ حق اور ضروری سمجھی جاتی تھیں اور تاریخ عالم بتاتی ہے کہ یہ اس زمانہ کی ایجاد نہ تھی بلکہ ہمیشہ سے دنیا انہی امور کی خوگر چلی آتی تھی۔ اس لئے کسی انسان کی طبیعت ان سے گھبراتی نہ تھی بلکہ اس زمانہ میں بھی ایک یا

دوسری شکل میں یہ سب باتیں دنیا میں رائج ہیں اور گو علوم کی ترقی نے عبادت خانوں کو گرا دینا یا ان کو بند کر دینا بڑی حد تک دُور کر دیا ہے لیکن اپنی عبادت گاہوں میں دوسرے مذاہب کے پیروؤں کو عبادت کرنے کی اجازت نہ دینا تو اس زمانہ میں بھی ایک عام بات ہے۔ ایک مسیحی گرجا میں ایک مسلمان کو اور ایک یہودی گرجا میں ایک مسیحی کو اور ایک مندر میں ایک مسیحی کو اور ایک پارسی صومعہ میں ایک ہندو کو اپنی عبادت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی اور اگر کوئی ایسا کرے تو یورپ کے علوم و فنون سے آگاہ ممالک سے لے کر افریقہ کے نیم وحشی قبائل تک کے لوگ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض تو اپنے عبادت خانوں میں دوسروں کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ قرآن کریم اس ظالمانہ کارروائی سے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ گویا خیالات متفرق ہیں لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اُس کو اُس شہنشاہ حقیقی کے نام لینے اور اُس کی عبادت کرنے سے روکنا یا مساجد میں کسی کو نہ آنے دینا اور اس طرح اُن کو ویران کرنے کی کوشش کرنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا بلکہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہر ایک مذہب کے پیروؤں کو خواہ وہ مفتوح ہوں یا فاتح مساجد کے استعمال کی کامل آزادی ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک مذہب کے عبادت خانہ میں کسی دوسرے مذہب کا کوئی انسان اپنے طریق پر خدا تعالیٰ کا نام لینا چاہے اور اُس کی عبادت کرنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ کیونکہ مساجد ایک ایسا مقام ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ پس ان کے بارے میں انسان کو ڈر کر کام کرنا چاہیے اور آپس کے اختلافات کو اُن تک وسیع نہیں کرنا چاہیے ورنہ جو لوگ اس بات کی پروا نہیں کریں گے اور اس عمل میں غلو سے کام لیں گے اس دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی وہ سزا سے بچ نہیں سکتے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن کریم نے مختلف مذاہب کے معبودوں کے احترام اور اُن کی عبادت کے متعلق دی ہے۔ کسی اور مذہب کی تعلیم کو اس سے ملا کر دیکھو اور مقابلہ کرو کہ وہ کونسی تعلیم ہے جو ایک طرف تو عقل اور فہم کے مطابق ہے اور دوسری طرف دنیا میں امن قائم کرنے والی ہے۔ اس تعلیم کے ہوتے ہوئے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ایک متعصب مذہب ہے۔ مگر یہ اعتراض تہی قابل قبول ہو سکتا ہے جب اس سے بڑھ کر عمدہ اور لطیف تعلیم دنیا میں کسی اور مذہب کی طرف سے پیش کی جائے۔ ورنہ زبانی اعتراض تو ہر مذہب کے لوگ دوسروں پر کر سکتے ہیں۔ دعویٰ بلا دلیل بجائے نفع دینے کے عقلمندوں کی نظر میں انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وسعتِ حوصلہ جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سب سے پہلا انسان جس نے اس پر عمل کیا وہ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے نجران کے مسیحیوں کو اپنی مسجد میں گرجا کرنے کی اجازت دے دی۔ زاد المعاد میں لکھا ہے۔ لَمَّا قَدِمَ

وَقَدْ نَجَرَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُوا عَلَيْهِ مَسْجِدَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَقَامُوا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِهِ فَأَرَادَ النَّاسُ مَنَعَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَعُوهُمْ" فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ فَصَلُّوا صَلَاتَهُمْ (زاد المعاد، فصل في قدوم وفد نجران عليه صلى الله عليه وسلم) یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کا عیسائی وفد آیا۔ تو وہ لوگ عصر کے بعد مسجد نبویؐ میں آئے اور گفتگو کرتے رہے۔ گفتگو کرتے کرتے ان کی عبادت کا وقت آ گیا (غالباً وہ اتوار کا دن ہوگا) چنانچہ وہ وہیں مسجد میں اپنے طریق کے مطابق عبادت کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ وہ انہیں روک دیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "ایسا مت کرو"۔ چنانچہ انہوں نے اسی جگہ مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنے طریق کے مطابق عبادت کر لی۔

پس مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ اگر تمام اقوام اس بات پر عمل کرنے لگ جائیں تو تمام باہمی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اگر ہر قوم اپنے معبد میں دوسروں کو آنے اور وہاں عبادت اور ذکر الہی کرنے کی اجازت دے دے تو کبھی آپس میں مناقشت اور جھگڑا پیدا نہ ہو اور دنیا میں ہر طرف امن قائم ہو جائے۔ مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا وہ اس تعلیم پر پوری طرح عمل کرتے ہیں جو قرآن کریم دیتا ہے۔ اور جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا یا اس کے خلاف اپنے خود ساختہ اصول پر عمل کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت غیر احمدیوں اور ہم میں ایک فیصلہ کن آیت ہے۔

قرآن کریم میں مَنْ أَظْلَمُ کے الفاظ تین قسم کے لوگوں کے لئے آئے ہیں۔ اول جھوٹے مدعیان نبوت کے لئے۔ دوم سچے نبی کو جھوٹا کہنے والے کے لئے۔ جیسا کہ آتا ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ (یونس: ۱۸) کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر افترا کرتا ہے یا سچے نبی کے الہام کو جھٹلاتا ہے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ سوم۔ مساجد میں عبادت الہی سے روکنے والوں کے متعلق جیسا کہ اس جگہ ہے اب سوال یہ ہے کہ آیا بانی سلسلہ احمدیہ نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا ہے یا غیر احمدی ایک سچے نبی کے منکر ہیں؟ بہر حال دونوں میں سے ایک مَنْ أَظْلَمُ میں ضرور شامل ہے۔ اس سوال کو یہ تیسری آیت بالکل حل کر دیتی ہے کیونکہ جہاں جماعت احمدیہ میں ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی کہ اس نے اپنی مساجد میں کسی کو عبادت کرنے سے روکا ہو وہاں مسلمانوں میں ایسی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے افراد کو اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھنے سے روکا اور ان پر سختیاں کیں۔ پس اس آیت نے ثابت کر دیا کہ بانی سلسلہ احمدیہ کے مخالفین اپنے عمل

کے لحاظ سے اس گروہ میں شامل ہیں جس کے متعلق مَنْ أَظْلَمُ کے الفاظ آتے ہیں اور جو خدائی منشاء کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں۔

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ فرماتا ہے کہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا گھر ہو اور پھر یہ ذلیل لڑائیاں ہوں۔ حالانکہ اُن کے لئے یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ اس قسم کی ظالمانہ حرکت کرتے۔ یا ان کا کوئی حق نہ تھا کہ خدا تعالیٰ کے گھر میں عبادت کرنے سے دوسروں کو روکتے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کے گھر جاتے وقت خوف سے اُن کا دل لرزتا اور اس قسم کے فسادات پر کمر بستہ نہ ہوتے۔

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ ہمارے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم بھی ان کے گھروں کو برباد کر دیں گے اور یہ دنیا میں بھی رُسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی انہیں عذاب عظیم ملے گا۔ کیونکہ جنت خدا تعالیٰ کا گھر ہے جس کا ظل مسجد ہے۔ جب انہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تو ان کو اگلے جہان میں کہاں امن میسر آسکتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ مساجد کی پناہ میں آنے والے لوگوں کو اسلامی شریعت نے قانون سے بالا سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ (رکوع ۱۳) میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حکومت وقت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف خفیہ کارروائیاں کرنے کے لئے ایک مسجد تیار کی تھی اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست بھی کی تھی کہ آپ تشریف لا کر اس میں نماز پڑھیں اور دُعا فرمائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر حقیقت کھول دی اور بتا دیا کہ ان لوگوں نے یہ مسجد صرف اس لئے تیار کی ہے کہ ان کی منافقت پر پردہ پڑا رہے اور یہ لوگ یہاں جمع ہو کر اسلام کے خلاف منصوبے کرتے رہیں اور مسلمانوں کو تباہ کریں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گروا دیا اور اس کی جگہ کھاد کا ڈھیر لگوادیا۔ پس مسجد اپنی ذات میں کسی مجرم کو نہیں بچا سکتی۔ اگر مسجد میں کوئی بُرا کام کیا جائے گا تو اس کو بُرا سمجھا جائے گا اور اگر اچھا کام کیا جائے گا تو اس کو اچھا سمجھا جائے گا بلکہ اور مساجد تو الگ رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ وہ کسی مجرم یا قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو پناہ نہیں دیتا اور نہ قتل کر کے بھاگنے والے کی پناہ گاہ بن سکتا ہے اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو بچا سکتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگ پکڑے جائیں گے اور انہیں قانونی گرفت میں لایا جائے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ اِبْنِ اَحْطَلِ جس کے قتل کا آپ نے حکم دیا تھا کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر کھڑا ہے تو آپ نے فرمایا اُسے وہیں قتل کر دو۔ چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا (السيرة الحلبية باب ذكر مغاذية فتح مكة)

پس اگر بعض مجرموں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بھی قتل کر دینے کا حکم دیا تھا تو دوسری مسجدوں کی خانہ کعبہ کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے کہ ان میں خلاف آئین کام کرنے والے لوگوں کو قانون سے بالا سمجھا جائے۔ پس مساجد تقویٰ کے قیام کے لئے قائم کی گئی ہیں نہ کہ قانون شکنی کے لئے۔ اگر مسجد میں بھی قانون شکنی کے اڈے بن جائیں تو پھر شیطان کے لئے تو کوئی گھر بھی بند نہیں رہتا جن گھروں کو خدا تعالیٰ نے امن کے لئے، تسکینِ قلوب کے لئے، روحانیت کے لئے، تقویٰ کے قیام کے لئے، تعاون اور اتحاد باہمی کے لئے بنایا ہے ان گھروں کو مسلمانوں میں فتنہ ڈلوانے کا ذریعہ بنانا یا ان گھروں کو حکومت سے بغاوت کرنے کا ذریعہ بنانا یا ان گھروں کو فتنہ و فساد کی بنیاد رکھنے کی جگہ بنانا ایک خطرناک ظلم ہے جس کی اسلام کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا۔

اس آیت میں ان لوگوں کے لئے جو عبادت گاہوں میں خدا تعالیٰ کا نام بلند کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ دو سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ایک یہ کہ انہیں دنیا میں ذلت نصیب ہوگی اور دوسرے آخرت میں انہیں سخت سزا ملے گی۔ ذلت کی سزا اس لحاظ سے تجویز کی گئی ہے کہ مساجد اور معابد بنانے کی صرف ایک ہی غرض ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ان میں خدا تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ پس جو شخص ان میں لوگوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے وہ دنیا کی نگاہ میں اپنے لئے ذلت اور رسوائی کے سامان پیدا کرتا ہے جو اس فعل کی ایک طبعی سزا ہے۔

یہ الفاظ مشرکین مکہ کے متعلق ایک عظیم الشان پیشگوئی پر بھی مشتمل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کعبہ میں داخل ہونے سے روکا اور آخر جب مکہ فتح ہوا تو انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَآيِنَمَا تَوَلَّوْا فِئْتُمْ وَجْهَ اللّٰهِ ط

اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ اس لئے جہر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی توجہ ہوگی۔

إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۱۶﴾

اللہ (تعالیٰ) یقیناً وسعت دینے والا (اور) بڑا جاننے والا ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - وَجْهٌ کے تین معنی ہیں۔ (۱) نَفْسُ الشَّيْءِ یعنی کسی چیز کی ذات (۲) توجہ (۳) منہ۔

پس فَئْتُمْ وَجْهَ اللّٰهِ کے معنی ہوئے۔ ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے (۲) ادھر ہی اللہ کی توجہ پاؤ گے (۳) ادھر ہی اللہ کا

منہ پاؤ گے۔ (اقرب)

وَ اِیَّیْهِمْ بَرِّیْ وَسَعْتِ الْاِیَّیْهِمْ وَسَعْتِ بَحْشَتِهِ وَاللّٰہِ - (اقرب)

تفسیر - عیسائی لوگ جو ہمیشہ قرآن کریم پر کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں وہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کا قبلہ بدلا ہے اور زیادہ تر افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض مسلمان مفسرین نے بھی اپنی ناواقفیت کی وجہ سے انہیں اس اعتراض میں مدد دی ہے۔ حالانکہ یہ آیت ان آیات میں سے سچی جاتی ہے جنہیں منسوخ قرار دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ مشرق اور مغرب سب خدا کا ہے۔ اس لئے جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو پھر حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور آخر میں یہ حکم دے دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ گویا ان کے نزدیک یہ پہلی آیت ہے جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ حالانکہ اس آیت کا قبلہ کے ساتھ دُر کا بھی تعلق نہیں۔ نہ تو اس آیت میں نماز کا ذکر ہے اور نہ اس آیت سے پہلے اس کا کوئی ذکر ہے۔ ہاں مساجد کا ذکر ضرور آتا ہے مگر ان کے ذکر کے بعد **لِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** کے کوئی معنی نہیں بنتے کیونکہ مساجد کے ذکر کے ساتھ ایک مخصوص جہت کی تعیین بھی ضروری تھی تاکہ سب مسلمان ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور ایسا نہ ہوتا کہ کسی کا منہ ایک طرف ہوتا اور کسی کا دوسری طرف۔ مگر مساجد کے ذکر کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ مشرق و مغرب سب خدا کا ہے تم جدھر چاہو منہ کر لیا کرو۔ اور پھر اگلی آیت میں بھی نہ نماز کا ذکر آتا ہے اور نہ قبلہ کا پس یہ معنی کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی آیات سے یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصاریٰ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سوائے ان کے کسی اور مذہب میں نجات نہیں اور مشرک جو کسی دین کے پابند نہیں یا دہرہ یہ جو خدا تعالیٰ کے قائل نہیں۔ یہ لوگ بلاوجہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں دخل اندازی کرتے ہیں اور انہیں خدائے واحد کے آگے سر بسجود ہونے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چونکہ قاعدہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی سے کوئی دولت چھینتا ہے تو پھر کسی اور کو جو اس کا حقدار ہوتا ہے دے دیتا ہے اور چونکہ اس قسم کے افعال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کے اموال اور جائیدادیں چھین لی جائیں اور انہیں ذلیل کیا جائے۔ اس لئے **لِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم اپنی بے بسی پر غم نہ کھاؤ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ ہم ان لوگوں سے حکومت چھین لیں گے اور ان کی جگہ تمہیں مشرق و مغرب کا حکمران بنا دیں گے۔

غرض اس جگہ صرف دنیوی فتوحات کا ذکر ہے، یہاں نماز کا ذکر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ مشرق و مغرب ہمارے ہیں اس لئے اَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ جدھر بھی تم اپنے لشکر لے کر نکلو گے وہیں تم اللہ تعالیٰ کی توجہ یا اللہ تعالیٰ کا منہ یا خود اللہ تعالیٰ کا وجود پاؤ گے کیونکہ تمہارے سامنے ایک ہی مقصد ہوگا جس کو پورا کرنے کے لئے تم جدوجہد کر رہے ہو گے۔

میں نے ایک دفعہ رویا میں بھی دیکھا کہ میں اپنی جماعت کے دوستوں کے سامنے اسی آیت پر تقریر کر رہا ہوں۔ اور میں انہیں کہتا ہوں کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر جماعت کا مقصد ایک ہو تو اس ایک مقصد کو سامنے رکھ کر پھر خواہ اس کے افراد مختلف جہات کی طرف جائیں ان میں تفرقہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ بحیثیت قوم کام کرنے والے ہوں گے اور اگر کسی مقصد کے بغیر جماعت ایک طرف بھی چلتے ہیں اس کے افراد پر اگندہ اور متفرق ہوں گے پس یہ مت خیال کرو کہ تم پر سب کا ایک جہت میں جانا ہی ضروری ہے بلکہ اگر تم مختلف جہات کی طرف ایک ہی مقصد لے کر جاؤ گے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک تم اکٹھے ہی سمجھے جاؤ گے اور خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہیں ہر مقام پر اپنا چہرہ دکھائے گا۔

وَجْهَ اللّٰهِ کے جو معنی اوپر بیان کئے گئے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے (۱) اللہ تعالیٰ کی توجہ کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح مسلمان متوجہ ہوں گے اسی طرف خدا تعالیٰ ان کی کامیابی کے سامان پیدا کرنے لگے گا اور ان کو فتوحات پر فتوحات حاصل ہوں گی۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے مونہہ کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کی نگرانی کرتا رہے گا۔ (۳) خود اللہ تعالیٰ کو پانے کا یہ مفہوم ہے کہ اگرچہ یہ ملکی فتوحات بظاہر دنیوی کام نظر آئے گا مگر چونکہ یہ خدا تعالیٰ کی مسجدوں اور معبدوں کی حفاظت کے لئے ہے۔ اس لئے یہ دنیوی کام بھی دینی ہی متصور ہوگا۔ اور اس سے مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ گویا ان فتوحات کے ذریعہ انہیں صرف دنیا ہی نہیں ملے گی بلکہ ان کے ہر کام میں رضاء الہی کے سامان ہوں گے اور ہر کام جو وہ خدمت دین کا کریں گے اس کے نتیجے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے وہ بھی ایک نیکی کا کام کرتا ہے (بخاری کتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل)۔ حالانکہ اگر وہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے مگر چونکہ وہ یہ کام خدا تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے اس لئے اسے اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے اسی طرح اور لوگ فتح حاصل کرتے ہیں تو ان کو صرف دنیا ملتی ہے مگر مسلمانوں کو دین و دنیا دونوں چیزیں ملیں گی۔ انعام بھی ملے گا

اور ملک بھی فتح ہوں گے۔

یہ پیشگوئی اس وقت کی گئی تھی جب مُٹھی بھر مسلمان ہر قسم کے مصائب میں سے گزر رہے اور آزمائشوں میں ڈالے جا رہے تھے اور ان کا مستقبل سخت تاریک دکھائی دیتا تھا۔ لیکن یہ پیشگوئی جلد ہی فتح مکہ کی شکل میں پوری ہو گئی اور تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا۔ اور ایک صدی سے بھی کم عرصہ میں اسلام کا جھنڈا قریباً تمام ممالک میں لہرانا شروع ہو گیا۔

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کے الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اسلام کے لئے پہلے مشرق میں پھیلنا مقدر ہے اور پھر آخری زمانہ کے موعود کی بعثت کے بعد وہ مغرب میں بھی پھیل جائے گا۔ سو مغرب کو اس کے لئے تیار رہنا چاہیے کیونکہ وہ زمانہ اب دُور نہیں۔ سورج نکل چکا ہے اور اس کی شعاعیں انہیں بیدار کر رہی ہیں۔

إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس آیت کا قبلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ وہ جسے چاہے دولت میں بڑھاوے اور پھر وہ علیم بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کن لوگوں کے پاس لوگ سکھ اور آرام پاسکتے ہیں۔ جس کے پاس رہ کر لوگوں کو آرام ملتا ہے اسی کو حکومت ملا کرتی ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری جماعت کے متعلق بھی پیشگوئیاں ہیں کہ اُسے دنیوی ترقیات حاصل ہوں گی۔ مگر اللہ تعالیٰ دنیوی حکومتیں اُسی کو دیتا ہے جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کر سکیں۔ پس تم بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نافع الناس وجود بناؤ اگر تمہاری بھی وہی حالت ہو کہ خدا کے بندے تم سے دکھ پائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ دنیا کی باگ ڈور تمہارے ہاتھ میں دی جائے۔ اور ایک ظالم کو بدل کر دوسرا ظالم کھڑا کر دیا جائے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ لَكِنَّ اِسْبٰحٰنَهُ ط بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ

اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے (اپنے لئے) ایک بیٹا بنا لیا ہے (ان کی بات درست نہیں) وہ (تو ہر کمزوری سے) پاک

وَالْاَرْضِ ط كُلُّ لَّهٗ قٰنُوْنٌ ﴿۱۷﴾ ۙ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

ہے۔ بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کو (بغیر

وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۸﴾

کسی سابق نمونہ کے) پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب وہ کسی امر (کے عالم وجود میں لانے) کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے متعلق وہ صرف یہ کہتا ہے کہ تو ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔

حَلُّ لُغَاتٍ۔ قَضَىٰ کے معنے ہیں (۱) تَخَلَّقَ۔ ان معنوں میں اس لفظ کا استعمال قرآن کریم میں اور جگہ بھی آتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔ فَكَضَّهِنَّ سَنَعًا سَلَوَاتٍ (خم السجدة: ۱۳) یعنی جو دنیا اُس نے پیدا کی تھی اُسے اس نے سات آسمانوں کی صورت میں بنایا (۲) اَعْلَمَ یعنی اُس نے اُسے بتا دیا۔ علم دے دیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَ قَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ (بنی اسرائیل: ۵) ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی تھی (۳) اَمَرَ حکم دیا۔ جیسے آتا ہے۔ وَ قَضَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ (بنی اسرائیل: ۲۴) کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اُسی کی عبادت کرو۔ (۴) حجت پوری کر دینا۔ الزام قائم کر دینا۔ جیسے کہتے ہیں۔ قَضَىٰ عَلَيْهِ الْقَاضِيُ۔ قاضی نے اُس پر حجت قائم کر دی یا اُس کے متعلق فیصلہ کر دیا۔ (۵) پورا کر دینا۔ جیسے آتا ہے۔ فَالْمَا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْاَجَلَ (القصص: ۳۰) جب موسیٰ نے اپنی مقررہ مدت پوری کر دی (۶) ارادہ کرنا۔ جیسا کہ فرمایا۔ فَادَا قَضَىٰ اَمْرًا (البقرة: ۱۱۸)۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے۔ (اقرب)

اَمْرٌ کے بھی کئی معنے ہیں۔ (۱) دین جیسے ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ کے معنے ہیں اللہ کے احکام نازل ہو گئے (۲) بات جیسے آیت اِذَا جَاءَ اَمْرًا (هود: ۴۱) میں ہے ہماری بات کے پورا ہونے کا وقت آ گیا (۳) عذاب۔ جیسا کہ قَضَىٰ الْاَمْرُ (البقرة: ۲۱۱) میں ہے (۴) قَضَىٰ اَمْرًا کے معنے قرآن کریم سے الہام الہی کے نزول کے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ان معنوں کے علاوہ اس کے اور بھی کئی معنے ہیں۔

تفسیر۔ یہود کا یہ دعویٰ کہ نجات بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہے گو ایک غلط دعویٰ تھا مگر ان میں اتنی معقولیت ضرور پائی جاتی تھی کہ وہ دوسروں کو تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ مگر عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ نجات ان سے مخصوص ہے نہ صرف ایک غلط دعویٰ ہے بلکہ اس میں یہ غیر معقولیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اس دعویٰ کے باوجود دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں اور انہیں اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اس غیر معقولیت کی بناء اس غیر معقول عقیدہ پر رکھتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ تھا اور اب وہی لوگ نجات پاسکتے ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں کئی دلائل دیتا ہے اور فرماتا ہے خدا تعالیٰ کے لئے کسی ولد کا ماننا اس لئے درست نہیں کہ وہ پاک ہے یعنی

ولد کے ماننے سے اللہ تعالیٰ میں کئی نقائص ماننے پڑتے ہیں۔

اول۔ ولد کے لئے شہوت کا ہونا ضروری ہے اور شہوت دوسری چیز کی طرف توجہ کرنے اور اس کی احتیاج

پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

دوم۔ ولد کے لئے بیوی کا ہونا ضروری ہے اور یہ ایک اور احتیاج ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔

سوم۔ بیٹے میں جزیت ہوتی ہے یعنی وہ اپنے باپ کا جزو ہوتا ہے اور اس کا خون اس میں شامل ہوتا

ہے اگر اللہ تعالیٰ کا بھی ولد تسلیم کیا جائے تو اُس کے متعلق یہ ماننا پڑے گا کہ اُس کے اجزاء بھی تقسیم ہوئے۔

چہارم۔ بیٹا ماننے سے اُس کا فنا ہونا لازم آتا ہے کیونکہ بیٹے کی ضرورت ہمیشہ فانی وجودوں کو ہی ہوتی ہے

ورنہ جو چیزیں اپنے مقصد پیدائش تک قائم رہنے والی ہیں اُن کو کسی قائم مقام کی ضرورت نہیں جیسے سورج، چاند،

ستارے، آسمان اور زمین وغیرہ ہیں۔ یہ چیزیں چونکہ اُس وقت تک چلتی چلی جائیں گی جب تک کہ ان کی ضرورت

قائم ہے۔ اس لئے نہ تو یہ فنا ہوتی ہیں اور نہ اُن کے کسی قائم مقام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن انسان چونکہ فنا ہو

جاتا ہے اس لئے اسے قائم مقام کی بھی ضرورت ہوتی ہے پس اگر خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا جائے تو اس کے لئے بھی فنا

ماننی پڑے گی۔ حالانکہ وہ اس نقص سے منزہ ہے۔

دوسری بات لکہ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ میں یہ بیان کی ہے کہ ایک بادشاہ کو بعض دفعہ بیٹے کی ایک اچھے مددگار

کے طور پر ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اُس کی سلطنت کو وسیع کر سکے۔ مگر خدا تعالیٰ کو کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں

کیونکہ مدد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ایسی چیز ذاتی کوشش سے حاصل نہ ہو سکے۔ مگر جب تمام

مخلوق خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے تو پھر اُسے کسی مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کی ضرورت تو تب ہو جب اُسے نئی

فتوحات کی ضرورت ہو یا نئے ممالک پر حکمرانی کی خواہش ہو۔ لیکن جب ہر چیز اُسی کی پیدا کردہ ہے تو پھر اُس نے

بیٹا کیسے بنا لیا؟

پھر بعض اوقات بادشاہ کو یہ مشکل پیش آجاتی ہے کہ ملک کا کوئی حصہ باغی ہو جاتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے کہ

سلطنت کے شورش زدہ یا دُور افتادہ علاقوں پر کنٹرول کرنے کے لئے کوئی دست و بازو بنے اور مددگار کے طور پر کام

آئے مگر اللہ تعالیٰ کی حکومت سے تو کوئی بھی باہر نہیں۔ كُلُّ لَهٗ قٰدِرٌ مِّنْ حَيْثُ وَاٰرَافِ رُفٰدٍ

ہیں۔ ایسی صورت میں اُس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اُس نے ایک شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

پھر ہو سکتا تھا کہ کوئی کہہ دیتا کہ اب تو اُس کا کام چل گیا ہے لیکن زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے وقت تو کام

بہت زیادہ تھا اس لئے اُسے بیٹے کی ضرورت تھی اس کے لئے فرمایا کہ بِدَائِجِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ زمین و آسمان کو خود پیدا کرنے والا ہے۔ اُسے پیدا کرتے وقت بھی کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی کہ اُسے کسی بیٹے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ اس میں اُن مسیحی فرقوں کی تردید کی گئی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں مسیح بھی اللہ تعالیٰ کا شریک تھا۔ فرماتا ہے تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ اُسے پیدائش عالم کے وقت بھی کسی مددگار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ عیسائی جو حضرت مسیحؑ کو زمین و آسمان کی پیدائش میں خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں اُن سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹے نے زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا کام کیا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ کچھ نہیں تو پھر بیٹے کا وجود بے فائدہ ہوا اور اگر وہ کہیں کہ اُس نے دنیا پیدا کی ہے تو اُن سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اکیلا باپ خُدا اُسے پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اس کا جواب دیں کہ نہیں۔ تو انہیں خدا باپ کو ناقص تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ اُسے کامل قرار دیں تو انہیں ماننا پڑے گا کہ اکیلا باپ خدا ہی اُسے پیدا کر سکتا تھا۔ مسیحؑ نے اس کی پیدائش میں کوئی حصہ نہیں لیا۔

دوسری بات ان سے یہ پوچھنی چاہیے کہ آیا رُوح القدس اُسے پیدا کر سکتا تھا یا نہیں؟ یہاں بھی اُن کے جواب کی دو ہی صورتیں ہوں گی۔ اگر وہ کہیں کہ وہ پیدا نہیں کر سکتا تھا تو رُوح القدس میں نقص لازم آئے گا اور اگر کہیں کہ اُس نے پیدائش میں حصہ لیا ہے تو باپ خدا میں نقص لازم آئے گا۔ آخر باپ بیٹا اور رُوح القدس میں سے اگر ہر ایک علیحدہ علیحدہ بھی دنیا کو پیدا کر سکتا تھا تو ان سب کو کیا ضرورت تھی کہ مل کر پیدا کرتے۔ اس کی تو ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک پنسل صرف ایک شخص اٹھا سکتا ہے اُسے کسی اور مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر وہ اوروں کو بھی بلائے اور کہے کہ آئیے تاکہ سب مل کر ایک پنسل اٹھائیں تو ہر شخص اُسے بے وقوف کہے گا۔ پس جب خدا تعالیٰ اکیلا زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا تھا تو عیسائیوں کا یہ کہنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی پیدائش میں حصہ لیا خدا تعالیٰ کو بے وقوف ٹھہرانا ہے کہ اُس نے خواہ مخواہ ان کو اپنے ساتھ ملایا حالانکہ ان کے بنانے میں اسے کوئی مشکل نہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں اگر اسی دلیل سے کام لیا جائے تو ہر عیسائی اس کے جواب سے اسی طرح عاجز آ جائے گا جس طرح ایک دفعہ ڈھوزی میں سیالکوٹ کے ایک بڑے پادری کو میرے ساتھ گفتگو میں عاجز آنا پڑا اور اُسے اقرار کرنا پڑا کہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث کا مسئلہ ایسا ہے جسے کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں بَدَع کے معنی نیست سے ہست کرنے کے ہوتے ہیں (مفردات) یعنی ایسی چیز پیدا کرنا جس کا پہلے کوئی وجود نہ ہو۔ ان معنوں کے لحاظ سے اسلام رُوح و مادہ کو بھی حادث قرار دیتا ہے اور ہندو مذہب کی اس تھیوری کو باطل قرار دیتا ہے کہ رُوح و مادہ ازلی ہیں۔

پھر فرمایا وَاِذَا قَضَىٰ اَمْرًا فَاِنَّهٗا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے ارادہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی۔ وہ ادھر کُنْ کہتا ہے اور ادھر اس کا فیصلہ دنیا میں نافذ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک تو اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ نہ صرف پیدائش عالم خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بلکہ فنا بھی اُسی کے اختیار میں ہے اور اس غرض کے لئے بھی اُسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت نہیں۔ اس شبہ کا ازالہ اس لئے کیا گیا ہے کہ ممکن تھا بعض لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا کہ خدا تعالیٰ نے سب چیزیں پیدا تو کر لیں اور وہ سب کی سب خدا تعالیٰ کے قانون کی بھی تابع ہیں لیکن ممکن ہے اس عالم موجودات کو فنا کرنے کے لئے اُسے کسی ساتھی اور مددگار کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا یہ خیال بھی درست نہیں۔ فنا بھی اُسی کے اختیار میں ہے پس اس غرض کے لئے بھی اُسے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔

عیسائیت کے ذکر میں وَاِذَا قَضَىٰ اَمْرًا فَاِنَّهٗا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ فرما کر عیسائیوں کے اس عقیدہ پر بھی ایک لطیف رنگ میں چوٹ کی گئی ہے کہ مسیح مصلوب ہو گیا تھا۔ فرماتا ہے جس خدا نے اپنے بیٹے کو جسے تم خدا تسلیم کر رہے ہو صلیب پر مار دیا اُسے دنیا کے فنا کرنے میں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے وہ سب کو آسانی سے موت کے گھاٹ اُتار سکتا ہے اور کوئی چیز اس کے فیصلہ میں روک نہیں بن سکتی۔

اِذَا قَضَىٰ اَمْرًا فَاِنَّهٗا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ الہام الہی کا اجرا بھی خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور جب وہ کوئی نیا کلام دنیا میں نازل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے نزول کو روک نہیں سکتی۔ اس میں عیسائیوں کے اس نقطہ نگاہ کا رد کیا گیا ہے کہ حضرت مسیحؑ پر جو آخری الہام نازل ہونا تھا وہ ہو چکا اب آئندہ کے لئے کسی پر کوئی نیا الہام نازل نہیں ہو سکتا۔ مسیحی کتب میں حضرت مسیحؑ کو کلام کہا گیا ہے اور قرآن کریم نے بھی ان کے لئے کلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عیسائی اس کے غلط معنے کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ کلمہ اور کلام کے چلے جانے کے بعد الہام کا سلسلہ بند ہو چکا ہے مگر فرمایا تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ جس طرح وہ پہلے الہام الہی نازل کرتا رہا۔ اسی طرح وہ آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اور جس طرح پہلے روحانی نظام کے قیام کے لئے اُسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں تھی اسی طرح آئندہ بھی اسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت نہیں۔

كُنْ فَيَكُوْنُ کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے یہ معنے نہیں کہ خدا تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوری طور پر ایک آن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کے صرف یہ معنے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے اس امر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کی طرح حرکت کرے اور اس کام کے کرنے کے لئے چل کر

جائے بلکہ وہ صرف یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ایسا ہو جائے اور پھر کوئی چیز اس کے فیصلہ میں مزاحم نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ آیت کسی خاص وقت کے تعین پر بھی دلالت نہیں کرتی بلکہ کم یا زیادہ جتنا وقت بھی کسی چیز کی تکمیل کے لئے ضروری ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے بعد وہ اتنے عرصہ میں اپنی تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔

غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسیحؑ کی ابنیت کی پانچ دلائل سے تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں وہ اس قسم کی تمام احتیاجوں سے بالا اور ارفع ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اناجیل میں مسیح کی نسبت خدا تعالیٰ کے بیٹے کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں لیکن بائبیل کا معمولی مطالعہ رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ یہود میں ابن اللہ کے معنی خدا کے پیارے یا اس کے نبی کے ہوتے ہیں۔ اور یہ لفظ متعدد مقامات پر اوروں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس میں مسیحؑ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ چنانچہ لوقا باب ۲۰ آیت ۳۴ تا ۳۶ میں آتا ہے۔

”یسوع نے جواب میں اُن سے کہا اس جہان کے لوگ بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں لیکن

جو لوگ اُس جہان کے اور قیامت کے شریک ہونے کے لائق ٹھہرتے نہ بیاہ کرتے ہیں اور نہ بیاہے

جاتے۔ پھر نہیں مرنے کے۔ کیونکہ وہ فرشتوں کی مانند ہیں۔ اور قیامت کے بیٹے ہو کر خدا کے

بیٹے ہیں۔“

اس جگہ حضرت مسیحؑ نے ان تمام لوگوں کو جو اپنی زندگی دین کے لئے وقف کرتے ہیں خدا کے بیٹے قرار دیا ہے۔

اسی طرح متی باب ۵ آیت ۹ میں لکھا ہے۔

”مبارک و بے صلح کرانے والے ہیں کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔“

اس جگہ حضرت مسیحؑ نے فرمایا ہے کہ صلح کرانے والے خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ پھر متی

باب ۵ آیت ۴۵ میں لکھا ہے۔

”تا کہ تم اپنے باپ کے، جو آسمان پر ہے فرزند ہو۔“

اس میں تمام مومنوں کو خدا تعالیٰ کا فرزند اور بیٹا کہا گیا ہے۔ متی باب ۵ آیت ۴۸ میں آتا ہے۔

”پس تم کامل ہو۔ جیسا تمہارا باپ، جو آسمان پر ہے کامل ہے۔“

اس میں بھی مسیح علیہ السلام سب مومنوں کو خدا کے بیٹے قرار دیتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی

سب مومنوں کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا گیا ہے۔ لکھا ہے۔

”تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔“ (استثاباب ۱۴ آیت ۱)

خروج باب ۴ آیت ۲۲ میں آتا ہے۔

”اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹھا ہے۔“

اس حوالہ کو مدنظر رکھتے ہوئے تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا حق حضرت مسیحؑ کی بجائے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاصل ہے کیونکہ وہ پلوٹھے ہیں اور حضرت مسیح بیٹے تھے۔ پلوٹھے کے ہوتے ہوئے بیٹے کا کیا حق تھا کہ وہ جائیداد پر قبضہ کرتا۔ غرض عہد عتیق اور عہد جدید دونوں کی رُو سے تمام مومن خدا کے فرزند ہیں۔ حضرت مسیحؑ کی اس میں کوئی تخصیص نہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا

اور وہ لوگ جو (خدا تعالیٰ کی حکمتوں کا) علم نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کیوں ہم سے (براہ راست) بات نہیں کرتا

آيَةٌ ۱۰ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ

یا (کیوں) ہمارے پاس کوئی نشان (نہیں) آتا؟ اسی طرح (بالکل) انہی کی سی بات (وہ بھی) کہا کرتے تھے جو

تَشَابَهَتْ قُلُوبَهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۹﴾

ان سے پہلے (زمانہ کے) لوگ تھے۔ ان سب کے دل ہم رنگ ہو گئے ہیں۔ ہم تو ایسے لوگوں کے لئے جو یقین لے آتے ہیں ہر طرح کے نشانات کھول کر بیان کر چکے ہیں (مگر یہ لوگ مانتے نہیں)۔

تفسیر۔ بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر کسی حکمت کے یونہی ایک شخص کو نبی بنا کر بھیج دیتا ہے اور وہ انتخاب میں کسی اہلیت کو مدنظر نہیں رکھتا اور پھر اس غلط خیال کے نتیجے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں براہ راست کیوں حکم نہیں دے دیتا کہ ایسا کرو۔ اور ایسا نہ کرو۔ تاکہ کوئی جھگڑا ہی پیدا نہ ہو۔ آخر اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا اور اگر ہم اس بات کے مستحق نہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ باتیں کرے تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ کوئی دلیل ہی مہیا کر دی جاتی جس کی وجہ سے ہم اسے مجبوراً مان لیتے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی کفار کے آیت طلب کرنے کا ذکر آتا ہے وہاں اس سے مراد ہمیشہ عذاب ہی ہوتا ہے۔ بشرطیکہ اُس کے خلاف وہاں کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ چنانچہ وہ تمام مقامات جہاں کفار کی

طرف سے آیت کا مطالبہ کیا گیا ہے اُن پر غور کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر جگہ آیت سے مراد عذاب ہی ہوتا ہے۔ اس جگہ بھی یہی مراد ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم پر نازل ہونا اور ہم اسے مان لیتے۔ کیونکہ اگر یہ اس کا بندہ ہے تو ہم بھی اُسی کے بندے ہیں۔ پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ تم اس کے بندے تو ہو مگر تم عذاب کے مستحق ہو تو ایسی صورت میں ہم پر عذاب نازل ہونا چاہیے۔ گویا دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ہم اُس کے بندے ہیں تو ہم پر بھی کلام نازل ہونا چاہیے اور اگر کہو کہ تم گندے ہو گئے ہو تو پھر ہمیں ہلاک کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ہمیں ہلاک بھی نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم گندے نہیں اس لئے ہم پر بھی کلام نازل ہونا چاہیے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے کہ صرف اُسی پر کلام نازل ہوتا ہے۔

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ اللّٰهُ تَعَالٰى فَرَمَاتَا هٖ كَهٗ اَسِي طَرَحْ اُنْ لُوْغُوْنَ نِيْ بِيْ جُو اِنْ سِيْ سِيْ پِيْ لِيْ كُذْرِيْ
 ہیں کہا تھا اور بالکل ان کی بات کے مشابہ کہا تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کے مقابلہ میں ایک ہی قسم کے اعتراض ہوتے چلے آئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب منہاج نبوت کا ذکر فرمایا کرتے تو دشمن چڑ جاتے اور کہتے کہ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیوں نام لیتے ہو۔ مولوی محمد علی صاحب جو اُس وقت ریویو آف ریپبلشر کے ایڈیٹر تھے اس کا یہ جواب دیا کرتے تھے کہ حضرت مرزا صاحب انبیاء میں شامل ہیں۔ پس اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال نہ دیں تو اور کس کی دیں۔ لیکن بعد میں وہی مولوی محمد علی صاحب کہنے لگے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ نیا عقیدہ ہے جو قادیان والوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کا اعتراض صحیح ہے تو پھر تمام انبیاء کی نبوتیں باطل ٹھہرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تھا کہ اُن کو الہام ہوتا ہے تو اس وقت اوروں کو الہام نہیں ہوا بلکہ صرف موسیٰؑ کو ہوا۔ پھر باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یکدم تباہ بھی نہیں کیا۔ ہاں حجت کے بعد وہ ہلاک ہوئے اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب الہام ہوا تو اُن کے زمانہ میں بھی باقی لوگوں کو الہام نہیں ہوا اور پھر باقی لوگوں کو یکدم تباہ بھی نہیں کیا گیا پس اگر یہ دلیل صحیح ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہم پر الہام نازل کرے اور اگر ہم الہام کے مستحق نہیں تو ہمیں تباہ کر دے تو اس دلیل کو پہلوں پر چسپاں کر کے دیکھ لو کہ کیا یہ صحیح قرار پاتی ہے یا غلط؟ اور اگر تمہاری یہ دلیل پہلوں پر چسپاں نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ تمہارا یہ مطالبہ منہاج نبوت کے خلاف ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی جواب بن نہ آئے تو وہ آگے سے ایسا عذر تلاش کرتا ہے جس پر

بحث ختم ہو کر اس کا پیچھا چھوٹے۔ سچے نبیوں کے مقابلہ میں ہمیشہ سے یہ طریق اختیار کیا جاتا رہا ہے جب اُن کے مخالفوں کو اُن سے بحث کرنے میں ندامت ہوئی ہے تو فوراً انہوں نے ایسے مطالبات پیش کر دیئے ہیں کہ جن کی نسبت اُن کو یقین تھا کہ ایک یا دوسری وجہ سے اُن کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ کبھی تو سنت اللہ کے خلاف کسی بات کا مطالبہ کر دیتے کبھی کسی دیر میں ہونے والی بات کو فوراً پورا کرنے کا مطالبہ کرتے۔ کبھی ایسے امر کا مطالبہ کرتے جو خلاف شان الہی ہوتا اور پھر علاوہ اس قسم کے مطالبات کے یہ جواب بھی دیا کرتے کہ اچھا ہم لوگ جھوٹے ہیں تو عذاب الہی کیوں نہیں آتا۔ ہم پر عذاب الہی نازل ہو تب ہم مانیں گے ورنہ نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سلوک میں دوسرے نبیوں سے مستثنیٰ نہ تھے بلکہ جس قدر آپ کا درجہ بلند تھا اُسی قدر آپ سے آپ کے دشمنوں نے زیادہ غیر معقولیت کے ساتھ معاملہ کیا۔ جب اُن کو کوئی جواب نہ آتا تو قسم قسم کے سوال کرتے جن میں سے دو اس جگہ بیان کئے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر سچے ہو تو خدا تعالیٰ ہم سے خود کلام کرے اور ہم سے کہے کہ یہ شخص سچا ہے اس کو مان لو۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کے زمانہ میں یہ نہیں کیا کہ ملک کے ہر آدمی کو الہام ہوا ہو کہ فلاں شخص سچا ہے اسے مان لو۔ یہ تو ہو جاتا ہے کہ بعض اشخاص کو خدا تعالیٰ رو یا اور کثوف کے ذریعہ بتا دیتا ہے کہ یہ مامور سچا ہے مگر سب لوگوں کو بتانا اس کی سنت کے خلاف ہے اور جن کو بتاتا ہے اُن کی شہادت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اُن پر بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی منصوبوں میں شامل ہیں۔ پھر سب کو الہام ہونا اس لئے بھی بے فائدہ ہے کہ ایمان تنہی مفید ہوتا ہے جبکہ وہ انسان کو کوشش سے حاصل ہو۔ اگر خدا تعالیٰ کا کلام سب پر نازل ہو تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اور انسان کی پیدائش کی اصل غرض فوت ہو جاتی ہے اور دوسری مخلوق اور انسان میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ پس فرمایا کہ یہ لوگ سنت اللہ سے واقف نہیں اور نہیں جانتے کہ ایمان کس صورت میں نافع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کلام کرے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو پہلے نبیوں سے بھی ہوتا رہا ہے جن کو یہ مانتے ہیں لیکن انہوں نے اسے پورا نہیں کیا۔ پھر اس نظیر کے موجود ہوتے ہوئے اس رسول سے کیوں ایسا مطالبہ کرتے ہیں۔ درحقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل پہلے انبیاء کے منکرین کے دلوں کے مشابہ ہو گئے ہیں۔

دوسرا مطالبہ یہ بیان کیا کہ ہمیں کوئی آیت دکھاؤ۔ اس کا جواب یہ دیا کہ ایسی آیات تو ہم دکھا چکے ہیں جن سے اگر کوئی فائدہ اٹھانے والا انسان ہو تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ضد سے کام لینا ہوا اور ہٹ پر قائم رہنا ہو اُن کا کوئی علاج نہیں۔

اس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں تو آیت کا لفظ اللہ تعالیٰ اور اُس کے انبیاء اور مومنوں

کی طرف سے استعمال کیا گیا ہے وہاں تو اس کے معنی عام ہوتے ہیں یعنی کوئی نشان جو کسی صداقت پر دلیل ہو۔ خواہ وہ عذاب ہو یا انعام۔ خواہ کوئی ایسا نشان ہو جو ان دونوں قسموں میں سے نہ ہو اور صرف ایک علامت کے طور پر ہو۔ لیکن جب کفار کے منہ سے یہ لفظ بیان کیا جائے تو اس کے معنی جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے ہمیشہ عذاب کے ہوتے ہیں پس تَأْتِيْنَا آيَةً سے مراد یہ ہے کہ ہم پر ایسا عذاب نازل ہو جو ہمیں تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں تمہارا یہی کام تھا کہ تم اس قسم کے اعتراض کرتے اس لئے کہ جن لوگوں کے تم جانشین ہو وہ بھی یہی کہتے آئے ہیں۔ کیونکہ جس طرح نبی کا نبی مثیل ہوتا ہے اسی طرح اس نبی کے وقت کے کافر پہلے نبیوں کے کافروں کے مثیل ہوتے ہیں۔ پس اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نشان نہیں دکھایا تو ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰؑ کے دشمنوں کے مثیل تھے اور اگر حضرت عیسیٰؑ کو ان کے دشمن کہتے تھے کہ یہ کوئی نشان نہیں لایا تو سچ کہتے تھے کیونکہ وہ حضرت موسیٰؑ کے دشمنوں کے مثیل تھے۔ اور اگر حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو بھی ان کے مخالفوں نے یہی کہا تو ان کا کہنا حق تھا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کے مثیل تھے اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نہ ماننے والوں نے یہ کہا تو ان کا حق تھا کیونکہ وہ حضرت نوحؑ کے دشمنوں کے مثیل تھے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل مل گئے ہیں۔ اس لئے کہتے ہیں کہ کوئی نشان نہیں لایا۔ حالانکہ ماننے والوں کے لئے بہتیرے نشان ہیں۔ ہاں نہ ماننے والوں کے لئے کوئی نہیں۔

تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ سے ظاہر ہے کہ انبیاء کی جماعتوں اور ان کے مخالفین کا ایک ہی طریق عمل ہوتا ہے نبیوں کی مشابہت نبیوں سے۔ ان کی جماعتوں کی مشابہت پہلی جماعتوں سے۔ اور ان کے مکفرین کی مشابہت پہلے مکفرین سے ہوتی ہے۔ جس طرح انبیاء اور ان کی جماعتیں ایک ہی راستہ پر قدم مارتی چلی جاتی ہیں اسی طرح ان کے مخالفین بھی اپنے پیشروؤں کی سنتوں پر عامل ہوتے ہیں خصوصاً جن انبیاء کی آپس میں مشابہت اور مماثلت ہو اور ایک ہی قسم کے کام ان کے سپرد ہوں ان کے حالات تو آپس میں بہت ہی ملتے جلتے ہیں۔

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ میں بتایا کہ عذاب تو تم صداقت معلوم کرنے کے لئے مانگتے ہو حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سی آیات ظاہر کر دی ہیں جو اس رسول کی صداقت ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں بشرطیکہ تمہاری نیت ماننے کی ہو اور تم ضد اور تعصب سے کام نہ لو۔ پس اگر تمہارا مطالبہ دیانت داری پر مبنی ہے تو تم ان دلائل و براہین پر کیوں غور نہیں کرتے اور صرف عذاب کا مطالبہ ہی کیوں کرتے ہو۔ اگر انبیاء کی بعثت کی غرض یہ ہوتی کہ لوگوں کو تباہ کیا جائے تو ادھر نبی آتا اور ادھر خدا تعالیٰ تمام منکروں کو تباہ کر دیتا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر ماننا کون؟ اس لئے

اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انبیاء کی بعثت کے بعد پہلے رحمت کی آیات ظاہر ہوتی ہیں تاکہ جس نے ماننا ہو مان لے اور پھر جو ضدی طبع نہیں مانتے اُن پر عذاب آجاتا ہے۔ اس آیت میں لِقَوْمٍ يُؤْفُونَ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف فرمایا ہے کہ نشان تو بہت ظاہر ہو چکے ہیں مگر جو شخص ہر بات میں شبہ پیدا کرے اُسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے۔ اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی شکلی طبیعت کو چھوڑو اور یقین کا مادہ پیدا کرو۔ ورنہ جو لوگ صرف یہی کہنا جانتے ہیں کہ ”اور نشان دکھاؤ“ اُن کے لئے کہاں سے نشان آسکتے ہیں۔ ہماری زبان میں بھی مشہور ہے کہ سوتے کو سب جگا سکتے ہیں لیکن جاگتے کو کوئی نہیں جگا سکتا۔ اسی طرح جو لوگ ہر نشان کا انکار کر دیں اُن کے لئے کوئی نشان بھی ہدایت کا موجب نہیں بن سکتا۔

یہاں آیات سے قرآن کریم کی آیات مراد نہیں بلکہ ہر قسم کے دلائل اور براہین مراد ہیں جو کسی نبی کی صداقت ثابت کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ اس آیت نے عیسائیوں کے اس اعتراض کو بھی باطل کر دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نشان نہیں دکھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یقین رکھنے والی قوم کے لئے ہر قسم کے نشانات کھول کر بیان کر چکے ہیں۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ

ہم نے یقیناً تجھے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا (بنا کر) حق (اور راستی) کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور دو زنجیوں کے

أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۳۰﴾

متعلق تجھ سے کوئی باز پرس نہ کی جائے گی۔

حَلَّ لُغَاتٍ - بِالْحَقِّ میں باء کے معنی ساتھ اور معیت کے ہیں۔ بِالْحَقِّ اس جگہ حال واقع ہوا ہے اور

حال فاعل کا بھی ہو سکتا ہے اور مفعول کا بھی۔ اس جگہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ (إِفْلَاءً مَّامَنَ بِهِ الرَّحْمَنُ)

تفسیر۔ قرآن کریم کے معانی کے متعلق یہ اصول ہے کہ اگر کسی آیت کے کئی معنی ہوں اور وہ معنی دوسری

آیات کے خلاف نہ ہوں تو وہ سارے کے سارے معنی چسپاں کئے جاسکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم جن معنوں کو رد

کرنا چاہتا ہے اُن کو دوسری جگہ رد کر دیتا ہے لیکن جو معنی قرآن کریم کی کسی اور آیت سے رد نہ ہوں وہ تمام کے تمام

چسپاں ہو سکتے ہیں۔ یہاں بھی بِالْحَقِّ کے چار معنی ہو سکتے ہیں۔

اگر اسے فاعل کا حال قرار دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ ہم نے تجھے ایسی حالت میں بھیجا ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے آگے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ ہم نے تجھے ایسے حال میں بھیجا ہے کہ حق کا خزانہ صرف ہمارے ہی پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں۔ اگر کوئی اور شخص تعلیم بنا کر پیش کرتا تو اس میں کئی قسم کی غلطیوں کی آمیزش ہوتی اور وہ دنیا کو تباہ کر دیتی۔ پس خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی سچی تعلیم نہیں دے سکتا تھا جس میں جھوٹ کی کوئی ملوثی نہ ہوتی۔ اگر اور کوئی تعلیم دیتا تو یقیناً اُس میں دانستہ یا نادانستہ کئی قسم کی غلطیاں ہوتیں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بھیجا ہے اور ایسے حال میں بھیجا ہے کہ ہمارے پاس حق ہے۔ سچائی کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ اس لئے ہمارا ہی حق تھا کہ ہم تعلیم بھیجتے۔ کسی دوسرے کا حق نہیں تھا کہ وہ بھیجتا۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے تعلیم آتی تو وہ دنیا کو تباہ کر دیتی۔ کیونکہ اس میں جھوٹ کی ملوثی ہوتی یا اس میں غلطیاں ہوتیں مگر جو تعلیم ہماری طرف سے آتی ہے وہ تباہی والی نہیں ہو سکتی بلکہ وہ حقیقی اور سچی تعلیم ہوتی ہے اور وہی دوسروں کو حقیقی ہدایت دے سکتی ہے۔ پس یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دیں۔

بِالْحَقِّ کے دوسرے معنی مَعَ الْحَقِّ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے تجھے بھیجا ہے اور اس حال میں بھیجا ہے کہ ہم ہی اسے بھیجنے کے حقدار تھے۔ گویا جس طرح ہم بَرِيْعَ السَّنُوْبِ وَالْاَرْضِضِ ہیں اسی طرح ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ یہ تعلیم بھیجتے۔ آخر جس نے اس نظام کو پیدا کیا ہے اُسی کا حق ہے کہ وہ حکم دے دوسرے کا کیا حق ہے کہ وہ اس میں دخل دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس تعلیم کو بھیجنے کے حقدار تھے کیونکہ ہم خالق اور مالک ہیں۔ آریہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رُوح و مادہ کا خالق نہیں لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قانون بناتا ہے حالانکہ جب وہ خالق نہیں تو اس کا کیا حق ہے کہ وہ قانون بنائے۔ پس فرمایا کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم قانون بنائیں کیونکہ ہم خالق و مالک ہیں۔ اور جو خالق و مالک ہو وہ حق رکھتا ہے کہ اپنی مخلوق کے لئے قانون بنائے کیونکہ وہی مخلوق کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ جس نے پیدا ہی نہیں کیا اُسے کیا معلوم کہ انسانی قلب میں کیا کیا جذبات اُٹھتے ہیں۔ اور اسے کیا معلوم کہ کونسی باتیں اچھی ہیں اور کونسی بُری۔ اس لئے یقیناً وہ غلط قانون بنائے گا جو لوگوں کی ٹھوکر کا موجب ہوگا۔

پھر مفعول کے لحاظ سے بھی اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اس حالت میں تجھے بھیجا ہے کہ تیرے ساتھ سچ ہے۔ اگر انسانی تعلیم ہوتی تو اُس میں غلطی یا جھوٹ کا امکان ہوتا یا کوئی اور نقص ہوتا۔ مگر جو تعلیم تیرے پاس ہے وہ ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے اور جب وہ بالکل پاک ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ ہماری طرف سے ہے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہم نے تجھے اس حال میں بھیجا ہے کہ تو ہی اس بات کا حق دار تھا کہ تجھے بھیجا جاتا اور تجھ پر کلام الہی نازل ہوتا۔ یہ اَوْ تَأْتِيَنَّكَ آيَةٌ کا جواب ہے۔ فرماتا ہے کہ چونکہ تو ہی حقدار تھا اس لئے ہم نے تجھے بھیج دیا۔ وہ لوگ حقدار نہ تھے۔ اگر وہ حقدار ہوتے تو ہم ان کا حق انہیں دے دیتے اور انہیں بھیج دیتے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر کس درجہ میں ہیں؟ سو اس کے متعلق فرماتا ہے کہ باقی دو درجوں میں ہیں۔ اول اگر وہ اس مستحق شخص کے ذریعہ اس کلام کو مان لیں گے تو بشارات سے حصہ لیں گے۔ دوم اگر وہ نہیں مانیں گے تو منکرین میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ کے عذاب سے حصہ پائیں گے۔ اسی لئے فرمایا کہ تو بشیر اور نذیر ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے لئے تو بشارتیں لایا ہے اور کچھ لوگوں کے لئے انذار لایا ہے یہ دو قسم کی آیات ہیں جو بعض کو بچانے والی اور بعض کو تباہ کرنے والی ہیں۔ بشارت والی آیات پہلے ہوتی ہیں اور انذار والی آیات پیچھے ہوتی ہے۔ پہلے تو بشیر ہے اس لئے پہلے بشارت والی آیات آئیں گی پھر تو نذیر ہے جس کے نتیجے میں انذار والی آیات آئیں گی۔ یہ قانون قدرت ہے کہ اگر بعض کو بچانا اور بعض کو تباہ کرنا ہو تو پہلے بچانے والی آیات کا ظہور ہوتا ہے تاکہ جنہوں نے بچنا ہے وہ بچا لئے جائیں۔

غرض فرماتا ہے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تیرے تین مقامات ہیں۔

اول: تجھے اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ کا مقام حاصل ہے۔

دوم: بشیر ہونے کا مقام حاصل ہے جس کا تعلق اُن بندوں سے ہے جو ایمان کی وجہ سے بچائے جاتے ہیں۔

سوم: نذیر ہونے کا مقام ہے جس کا اُن بندوں سے تعلق ہے جو انکار کرنے کی وجہ سے تباہ کر دیئے جاتے ہیں۔

بِالْحَقِّ کے ماتحت تجھ پر آیات کا نزول ہوتا ہے۔ بشیر ہونے کی وجہ سے رحمت کی آیات کا نزول ہوگا اور پھر

نذیر ہونے کی وجہ سے عذاب اور تباہی والی آیات کا نزول ہوگا۔

وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ فرماتا ہے ہمارا رسول صرف کلام الہی پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ لوگوں سے

منوانا اس کا کام نہیں اگر وہ سب لوگوں کو نہ منوا سکے اور کچھ لوگ رہ جائیں اور اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مورد بن

جائیں تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ وہ سب کی نجات کا ٹھیکیدار نہیں۔ وہ تو مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے جو اس کے

ذریعہ مان لیں گے وہ بچا لئے جائیں گے اور نہ ماننے والے آہستہ آہستہ تباہ کر دیئے جائیں گے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیرے پاس حق ہے اور تیرے ماننے والوں کے لئے کامیابی اور

تیرے منکروں کے لئے تباہی اور ناکامی مقدر ہے۔ اور یہ وہ نشانات ہیں جو تیری صداقت کے لئے ظاہر کئے گئے

ہیں مگر دلیل اس کے لئے کافی ہوتی ہے جو ماننے کے لئے تیار ہو۔ لیکن جو شخص یہ کہتا ہو کہ خواہ کچھ ہو میں نے ماننا ہی نہیں اس کو دلیل کچھ کام نہیں دیتی۔ جیسا کہ یہود کے دو علماء ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جب واپس گئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اُس نے کہا معلوم تو سچا ہی ہوتا ہے مگر جب تک دم میں دم ہے ماننا نہیں۔ دوسرے نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے (سیرۃ النبی لابن ہشام شہادۃ صفیۃ)۔ پس جب کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ ماننا نہیں تو سب دلائل بے کار ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے کس طرح ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں۔ ہم نے تو انسان کو آزاد بنا دیا ہے اور ہم نے اُسے کامل مقدرت اور اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ قبول کرے اور چاہے تو رد کر دے۔ اور پھر ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ ایسے لوگوں کی موجودگی میں ہم تجھے کس طرح ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ

اور (یاد رکھ کہ) جب تک تو ان کے دین کی پیروی نہ کرے۔ یہودی تجھ سے ہرگز خوش نہ ہوں گے اور نہ ہی مسیحی

مِلَّتَهُمْ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَاللِّين

(خوش ہو گئے) تو (ان سے) کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی یقیناً اصل ہدایت ہے۔ اور اگر تو (اے مخاطب) اس

اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا

علم کے بعد (بھی) جو تیرے پاس آچکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو اللہ (کی طرف) سے

لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيرٍ ﴿۱۲۱﴾

نہ کوئی تیرا دوست ہوگا اور نہ مددگار۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ ھَوٰی۔ محاورہ میں ایسی خواہش کے معنوں میں آتا ہے جو گری ہوئی ہوتی ہے۔ اصل میں ھَوٰءِ گڑھے یا قعر کی چیز پر دلالت کرتا ہے۔ (اقرب) اس لئے یہ لفظ گری ہوئی خواہش کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ اُن کی یہ خواہش نیچے کی طرف لے جانے والی ہے۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اصلی اور حقیقی معنی بھی الفاظ میں مد نظر رکھتا ہے۔

وَلِيٌّ جو کسی کے کاموں کو چلائے۔ محاورہ میں اس کے معنی دوست کے ہیں جو ذمہ دار ہو جائے۔ اور **وَلَايَةٌ** کے معنی حکومت کے بھی ہوتے ہیں پس **وَلِيٌّ** وہ ہے جو ایجنٹ اور وکیل اور ذمہ دار ہو۔ (المنجد)

نَصِيْرٌ مددگار کے معنی دیتا ہے اس میں آدمی کام تو خود کرتا ہے مگر دوسرا اُسے سہارا دیتا ہے اور اُس کے لئے سہولت پیدا کرتا ہے۔ مدد و طرح کی ہوتی ہے اول یہ کہ انسان کلی طور پر دوسرے کا بوجھ اٹھالے۔ دوم جزئی طور پر بوجھ اٹھالے۔

تفسیر۔ اس آیت میں اختلاف کی اصل وجہ بتلائی کہ یہود اور نصاریٰ تم سے اُس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اُن کی بات نہ مان لو اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے خود صداقت کی طرف ہدایت دی ہے پھر جب کہ یہ لوگ صرف رسمی ایمان رکھتے ہیں اور اُن کے ایمان کی بناءً نسلی تعصبات پر ہے نہ کہ دلائل و براہین پر۔ اور باوجود صداقت پیش کرنے کے یہ لوگ اُسے قبول نہیں کرتے۔ تو جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے وہ مشاہدہ کے بعد صداقت کو کب چھوڑ سکتا ہے۔

قُلْ اِنَّ هَدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى۔ تو اُن کو کہہ دے کہ ان رسمی ایمانوں کو ترک کرو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ثابت ہو جائے اُسے قبول کرو۔ کہ اصل ہدایت وہی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ورنہ اپنی طرف سے ہدایت کے ذرائع تجویز کرنا اور اُن سے نجات کو وابستہ کرنا جھوٹ ہے۔ نجات کے قابل صرف وہی شخص ہوتا ہے جو اس ہدایت کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے مان لے اور اُس پر چلے۔

وَ لٰكِن اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ میں گو مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن مراد آپ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا ایک عام اسلوب بیان ہے ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بہت بالا و ارفع ہیں کہ آپ کی نسبت یہ کہا جائے کہ شاید آپ بھی خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ کی نسبت واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبِّبْكُمْ اللّٰهُ** (ال عمران: ۳۲) یعنی اے رسول! تو لوگوں سے یہ کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** (الاحزاب: ۲۲) یقیناً تمہارے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نیک نمونہ پایا جاتا ہے۔ اگر تم نیک اور پاک بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو۔ پس اس جگہ آپ سے نہیں بلکہ اُمت سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور ہوی کا لفظ رکھ کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بُری خواہشات انسان کو ادنیٰ حالت کی طرف لے

جاتی ہیں اور اعلیٰ خواہشات دینی ترقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ فرماتا ہے اگر انسان بُری خواہشوں کو قبول کرے تو وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنے مقام کو کھو بیٹھتا ہے اگر کوئی اندھیرے میں گر پڑے اور ٹھوکر کھائے تو وہ درگزر کے قابل سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گر پڑے تو وہ قابل معافی نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کو دھوکا لگا ہوا ہو اور وہ غلطی میں پڑا ہوا ہو وہ قابلِ عفو ہو سکتا ہے لیکن جس شخص پر سچائی کھل جائے اور وہ پھر بھی نہ مانے تو وہ قابلِ عفو نہیں ہو سکتا۔

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَايٍ وَلَا نَصِيٍّ فِيں فرمایا کہ نہ کلی طور پر کوئی بوجھ اٹھانے والا ملے گا اور نہ جزئی طور پر۔ اور مِنْ اللَّهِ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کو یہی مدد مل سکتی ہے جو ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع ہو۔

الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْكُتُبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ط أُولَٰئِكَ

وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی (اسی طرح) پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے۔

يُؤْمِنُونَ بِهِ ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۲۲﴾

وہ لوگ اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کا انکار کریں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ تِلَاوَتِهِ تَلَا يَتْلُوْا کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ پس يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ کے معنی یہ

ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے یا جس غور و فکر سے اس کو پڑھنا چاہیے اسی غور و فکر سے اُسے پڑھتے ہیں۔

(۲) تِلَا کے معنی پیچھے چلنے کے بھی ہیں۔ یعنی کہنے کے مطابق عمل کرنا۔ پس يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ کے یہ بھی

معنی ہیں کہ يَتَّبِعُوْنَهُ حَقَّ اِتِّبَاعِهِ (اقرب)۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اُس پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں۔ ان معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے۔ فرماتا ہے۔ وَالْقَمَرَ اِذَا تَلَّهَا (الشمس: ۳)

کہ ہم چاند کو بطور شہادت کے پیش کرتے ہیں جبکہ وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ اس صورت میں حَقَّ تِلَاوَتِهِ حال ہے۔ دوسری صورت میں یہ خبر بنتا ہے حال نہیں رہتا۔ یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اُن کی خبر یہ

ہے کہ وہ اس پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں۔

تفسیر۔ اس جگہ لوگوں نے غلطی سے اَلْكِتَاب سے مراد بائبیل لی ہے۔ مگر یہ معنی اس جگہ کسی طرح چسپاں نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اگر اس سے بائبیل مراد لیں تو اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے بائبیل دی ہے وہ اس کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے اور وہ اس کی صداقت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں حالانکہ نہ یہودی تورات پر عمل کر رہے تھے اور نہ عیسائی انجیل پر عمل کرتے تھے۔ پس یہ معنی یہاں چسپاں ہی نہیں ہو سکتے۔ یہاں اَلْكِتَاب سے مراد وہی کتاب ہو سکتی ہے جس کے ماننے والے اس کی کامل پیروی کرتے تھے۔ جب بائبیل کے احکام پر عمل ہی نہیں کیا جاتا تھا تو اَلْكِتَاب سے تورات کس طرح مراد ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تورات و انجیل سب محرف و مبدل ہو چکی تھیں۔ اور اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہی تھیں جیسا کہ وہ یہود کے متعلق فرماتا ہے کہ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِاَيِّدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (البقرة: ۸۰) یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے تورات میں بعض باتیں بڑھا دیتے اور پھر کہہ دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ الہام ہے۔ اتنی بڑی تحریف کے بعد ان کی خوبیاں بیان کرنے اور تعریف کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن کریم کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تورات اور انجیل ہی لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھیں۔ پس یہاں اَلْكِتَاب سے مراد قرآن کریم ہے نہ کہ تورات۔ چونکہ دوسری جگہ یہود کے لئے بھی اہل کتاب کا لفظ آیا ہے اس لئے لوگ غلطی سے یہاں بھی وہی مراد لے لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیشہ قرآن کو مدنظر رکھ کر معنی کرنے چاہئیں۔ اگر کوئی غیر مشترک لفظ ہو تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن مشترک لفظ ہو تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ قرینہ دیکھا جاتا ہے اور یہ بھی کہ آیت کے معنی کس فریق پر چسپاں ہو سکتے ہیں چونکہ اَلْكِتَاب کا لفظ تورات پر بھی بولا جاتا ہے اور قرآن کریم پر بھی اس لئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس جگہ اَلْكِتَاب کا لفظ کس کے متعلق استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت قتادہؓ جو رئیس التابعین ہیں ان کا قول ہے کہ اس جگہ اَلَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ سے مسلمان مراد ہیں اور اَلْكِتَاب سے مراد قرآن کریم ہے (ابن کثیر زیر آیت هذا) درحقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو ملزم قرار دیا ہے کہ تم نے تو تورات کو پس پشت چھینک رکھا تھا مگر اب یہ لوگ جن کو ہم نے قرآن کریم دیا ہے اس پر پوری طرح عمل کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لئے اُس کے ایک ایک حکم کو بجالاتے ہیں۔ تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس سچی کتاب ہے حالانکہ اگر تمہارے پاس سچی کتاب ہوتی تو چاہیے تھا کہ تم اس پر عمل بھی کرتے اور تم ہدایت یافتہ وجود ہوتے۔ مگر تم خود بھی تسلیم کرتے ہو کہ ہم خراب ہو گئے ہیں اس لئے لازماً اب کوئی ایسی قوم ہونی چاہیے تھی جو اپنا مال، اپنا آرام اور اپنی جانیں قربان کرتی اور خدا تعالیٰ کے

دین کو از سر نو قائم کرتی اور چونکہ یہ لوگ اپنا مال، اپنا آرام اور اپنی جانیں اسلام کے لئے قربان کر رہے ہیں اس لئے معلوم ہوا کہ یہی لوگ حق پر ہیں اور جس کتاب پر ایمان لائے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ جو کتاب دنیا میں ہدایت قائم کر دیتی ہے وہی خدا کی طرف سے نازل شدہ سمجھی جاسکتی ہے۔

أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ یہ دوسرا جملہ ہے یعنی وہی اس پر پختہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ اس رسمی ایمان کے علاوہ ہے جس کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ دراصل ایمان کے دو مدارج ہیں پہلا درجہ دلیل کے ساتھ ایمان لانا ہے مگر دلیل انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جسے مشاہدہ کا مقام کہتے ہیں۔ وہ ماننا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بادشاہ یا حاکم وقت کی حکومت مان لی جائے۔ مگر دوسرا درجہ انکشاف کا ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان کا خدا تعالیٰ سے اتصال ہو جاتا ہے اور رسمی ایمان حقیقی ایمان کی شکل اختیار کر کے اس کا جزو بن جاتا ہے اور اسے بشاشت قلبی حاصل ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد اس کے لئے کسی ارتداد یا ٹھوکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ الکتب سے یہاں قرآن کریم ہی مراد ہے نہ کہ بائبل۔ کیونکہ قرآن کریم کی موجودگی میں بائبل کا انکار کرنے والے خاسر نہ تھے بلکہ بائبل پر عمل کر نیوالے خاسر تھے۔ صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس پر ایمان نہ لاکر انسان خسارہ پاتا ہے لیکن باقی کتابوں کو چھوڑ کر انسان خسارہ نہیں بلکہ نفع پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے اس رکوع کی آیت ۱۱۳ میں یہود و نصاریٰ کی ایک اور بدی بیان فرمائی تھی کہ یہ ایک دوسرے کو ازراہ تعصب و ضد برا کہتے ہیں اور ان کی کسی خوبی کے بھی قائل نہیں حالانکہ ایک کتاب کو ماننے کی وجہ سے ان میں کچھ باتیں مشترک بھی ہیں۔ آیت نمبر ۱۱۵ میں بتایا کہ ان کا بغض اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ایک دوسرے کو عبادت کرتے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مقدس مقامات میں گھسنے نہیں دیتے حالانکہ عبادت خانوں کے معاملہ میں نہایت خوف سے کام لینا چاہیے۔ آیت ۱۱۶ میں مسلمانوں کو بتایا کہ ان کی مخالفت سے مت ڈرو۔ یہ مورو غضب الہی ہو رہے ہیں۔ جدھر تمہاری توجہ ہوگی ادھر ہی اللہ تعالیٰ تمہاری کامیابی کے سامان پیدا کرے گا۔ آیت ۱۱۷ میں یہودی مذہب کی شاخ مسیحیت کی بُرائی بھی بتادی تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان میں نبی کیوں پیدا نہ ہوا اور کیوں وہ مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کی نعمت سے محروم ہیں۔ آیت ۱۱۸ میں ابنیت کے غلط مفہوم کی تین دلائل سے تردید فرمائی۔ آیت ۱۱۹ میں ان کے دو اعتراضوں کے جواب دیئے۔ اول اس کا کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو خدا تعالیٰ بذریعہ الہام ہمیں کیوں آگاہ نہیں کرتا۔ دوم ہم پر باوجود مخالفت کے عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ آیت ۱۲۰ میں بتایا کہ ہر رسول بشیر اور نذیر ہوتا ہے۔ پس عذاب تو ضرور آئے گا مگر آہستہ آہستہ۔

آیت ۱۲۱ میں مخالفت کی اصل وجہ بتائی کہ اُن کی خواہشات کے مطابق تمہاری تعلیم نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا کہ صراطِ مستقیم وہی ہے جس پر خدا تعالیٰ قائم کرے پس جو ہدایت کو دیکھ کر پھر گمراہی کی طرف جھکے گا وہ سزا پائے گا۔ آیت ۱۲۲ میں فرمایا کہ مسلمان جن کو ہم نے قرآن کریم عطا کیا ہے اور جو اس کی تعلیم پر کامل طور پر عمل پیرا ہیں وہ ایک دن کامیاب ہوں گے اور خسارہ پانے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس کتاب کے منکر ہیں۔

يٰۤاِبْنِيۤ اِسْرٰٓءِیۡلَ اذْكُرْ وَاِنْعَمۡتِیۡ الَّتِیۡۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ

اے بنی اسرائیل! میرے اس احسان کو جو میں تم پر کر چکا ہوں یاد کرو

وَ اِنِّیۡۤ اَفْضَلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۳۱﴾

اور (اس بات کو بھی) کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔

تفسیر۔ وہ مضمون جو گذشتہ رکوع پر ختم کیا گیا ہے پانچویں رکوع سے شروع ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ کلامِ الہی کا نزول ابتدائے انسانیت سے جاری ہے بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یٰۤاِبْنِیۡۤ اِسْرٰٓءِیۡلَ اذْكُرْ وَاِنْعَمۡتِیۡ الَّتِیۡۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیۡۤ اَوْفِیۡۤ اِعْہِدِکُمْ ؕ وَ اِیَّٰیۤ اَیۡ قٰہَبُوۡنَ (البقرة: ۴۱) یعنی اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیحؑ ناصری کے زمانہ تک پہنچی۔ پس جب وہ تمہارے قریب ترین زمانہ تک چلی آئی ہے اور اس میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا تو کوئی وجہ نہیں کہ جو سلسلہ ابتدائے عالم سے چلا آ رہا ہے اسے اب تم ختم سمجھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دو۔ قرآن کریم کا طریق ہے کہ جب وہ کسی مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہاں کوئی قرینہ رکھ دیتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب نیا مضمون شروع ہونے والا ہے۔ اس جگہ بھی یٰۤاِبْنِیۡۤ اِسْرٰٓءِیۡلَ اذْكُرْ وَاِنْعَمۡتِیۡ الَّتِیۡۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل ان تمام باتوں کے بعد جو ہم نے تمہارے سامنے بیان کی ہیں تم یاد کرو کہ میں نے اپنی نعمت تم پر کس طرح مکمل کی اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام قوموں پر فضیلت دی یعنی دو قسم کی برکات تم پر نازل ہوئیں ایک تو یہ کہ نعمت نبوت

تمہیں عطا ہوئی اور دوسرے وہ نعمت ایسی تھی جس نے تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دے دی تھی۔ اس جگہ بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے متواتر انعامات یا ددلا کر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بنی اسرائیل کو اب شکایت کا کوئی حق نہیں کہ نعمت نبوت بنو اسماعیل کو کیوں عطا کی گئی ہے کیونکہ ان سے وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اب جس خدا نے ان کا وعدہ پورا کیا ضروری تھا کہ وہ بنو اسماعیل کا وعدہ بھی پورا کرتا۔ کیونکہ حضرت ابراہیمؑ سے خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اُن کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نیک سلوک کروں گا (پیدائش باب ۱۵ و ۱۷) جب ایک سے وعدہ پورا ہوا تو ضروری تھا کہ دوسرے سے بھی پورا ہو۔ پس اب اُن کے لئے کسی شکایت کا موقع نہیں۔

اِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن کریم کا محاورہ ہے کہ جس قوم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی آئے اور اُسے کلامِ الہی کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے اُس کے لئے فَضَّلْتُكُمْ کے الفاظ آتے ہیں۔ کیونکہ الہام کو باقی علوم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ باقی علوم میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر الہام میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس لئے جو قوم موردِ الہامِ الہی ہو وہ تمام قوموں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اس میں عَالَمِينَ سے تمام دنیا کی قومیں مراد نہیں۔ بلکہ صرف وہ قومیں مراد ہیں جن میں الہامِ الہی کا سلسلہ جاری نہیں تھا۔ کیونکہ اس جگہ صرف وحی نبوت کو فضیلت کا موجب قرار دیا گیا ہے پس وحی الہی کی موردِ اقوام اس میں شامل نہیں بلکہ صرف غیر وحی والی اقوام عَالَمِينَ میں شامل ہیں۔ اس لئے یہ جھگڑا ہی غلط ہے کہ اس قوم کو اس پر فضیلت ہے اور اس کو اُس پر فضیلت ہے کیونکہ یہ الفاظ قرآن کریم میں مختلف اقوام کے متعلق استعمال ہوئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن کریم کا یہ ہرگز منشا نہیں کہ وہ تمام قومیں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی ہیں مثلاً سورۃ آل عمران میں آتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ وَاٰنۡبِیَآءَہٖمۡ وَاٰلَہٖمۡ عَلَی الْعَالَمِیۡنَ (آل عمران: ۳۴) یعنی اللہ تعالیٰ نے آدمؑ اور نوحؑ اور آلِ ابراہیمؑ اور آلِ عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اب اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی تمام عالموں پر فضیلت دی تھی اور آلِ ابراہیمؑ اور آلِ عمران کو بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی حالانکہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام بنی آدم پر فضیلت تھی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو تمام پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ آدمؑ اُن کے دائرہ سے نکل گئے۔ اور اگر حضرت نوح علیہ السلام کو باہر نکال لیں تو آدم علیہ السلام کو سب پر فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آلِ ابراہیمؑ کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے اُسے بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اب اگر بنو اسماعیل کو سب پر فضیلت ہو تو بنو اسحاق کو نہیں ہو سکتی اور اگر بنو اسحاق کو سب پر فضیلت ہو تو بنو اسماعیلؑ کو سب پر فضیلت نہیں ہو سکتی اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل کو سب پر فضیلت ہو تو آلِ ابراہیمؑ کو سب پر فضیلت

نہیں ہو سکتی اور اگر آل عمران کو سب پر فضیلت حاصل ہو تو آل ابراہیم کو سب پر فضیلت نہیں ہو سکتی۔ پس اس آیت کے یا تو یہ معنی ہیں کہ اُن سب کو اپنے اپنے زمانہ میں باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل تھی اور یا پھر یہ معنی ہیں کہ صاحبِ وحی کو غیر صاحبِ وحی پر فضیلت ہوتی ہے۔ وحی کا تو صرف ایک عالم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک ہی ہے لیکن کفر کے کئی عالم ہوتے ہیں۔ ان عالموں کے افراد نزولِ وحی کو بھول کر باطل باتیں اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی نبی کی طرف نہیں بلکہ کسی فلسفی کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے بہت سے عیسائی اپنے آپ کو فلسفہ کا تابع قرار دیتے ہیں۔ مسلمان بھی آہستہ آہستہ یونانی فلسفہ کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اور گو کوئی قوم ایسی نہیں جس کی بناء کسی مذہب کے ہاتھوں نہ رکھی گئی ہو لیکن افراد کے لحاظ سے کروڑوں ایسے ہیں جو کسی کتاب کے تابع نہیں ہیں۔ اسی طرح الہام کی اتباع کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو مذہب سے بیگانہ ہیں اور فلسفہ کے قائل ہیں۔ غرض تمام علمی اور اخلاقی اور اعتقادی باتوں پر الہام کو ہمیشہ فضیلت حاصل رہی ہے۔ فلسفیوں کی باتیں کمزور اور ناقص نظر آئیں گی اور الہام الہی کی باتیں مضبوط اور غالب دکھائی دیں گی۔

پس فَضَّلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ اس نعمت سے مراد انبیاء اور رُسُل کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل میں جاری رہا جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ فاتحہ میں ایک طرف تو مومنوں کو یہ دُعا سکھلائی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور دوسری طرف منعم علیہ گروہ کی تعیین کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ (النساء: ۷۰) یعنی جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ اُن لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ پس چونکہ کمالِ انعام وحی سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر وحی نازل کر کے تمہیں غیر وحی والی قوموں پر بڑی بھاری فضیلت دی تھی اور جس طرح یہ کمال تمہیں صرف وحی کی وجہ سے حاصل ہوا تھا اسی طرح اب مسلمانوں کو تم پر وحی کے ذریعہ فضیلت دے دی گئی ہے۔ اگر تم اسے رد کرو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو تمہارے مقابل پر دوسروں کا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل تجربہ کر چکے تھے کہ بڑے بڑے فلاسفر موسیٰ کے الہام کے مقابلہ پر آئے مگر ان تمام کو تورات نے شکست دی۔ پس فرمایا کہ اگر تم اس کے مقابلہ پر آؤ گے تو تمہاری عقلیں بھی کسی کام نہ آئیں گی اور تم اس کے مقابلہ میں ناکام رہو گے۔

وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص قطعاً کسی دوسرے شخص کا قائم مقام نہ ہو سکے گا اور نہ اس سے کسی قسم کا

مِنْهَا عَدْلٌ ۖ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ۖ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۱۳۴﴾

معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

تفسیر۔ یہ آیت سورۃ بقرہ کے رکوع ۶ میں بھی آچکی ہے مگر اس فرق کے ساتھ کہ اُس آیت میں لَا يُقْبَلُ

مِنْهَا شَفَاعَةٌ تھا اور اس میں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ہے پھر پہلی آیت میں جہاں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ تھا وہاں اس آیت میں وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ (البقرة: ۴۹) رکھ دیا۔ اسی طرح پہلی آیت میں عدل کا ذکر تیسری جگہ تھا اور شفاعت کا دوسری جگہ اور اس میں شفاعت کا تیسری جگہ اور عدل کا دوسری جگہ ذکر ہے۔ گویا ان دو آیات میں تین فرق ہیں۔ (۱) ایک فرق تو یہ ہے کہ پہلی آیت میں شفاعت کا ذکر پہلے تھا اور عدل کا بعد میں لیکن دوسری آیت میں عدل کا ذکر دوسری جگہ آ گیا ہے اور شفاعت کا ذکر تیسری جگہ۔ (۲) دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں عدل کے متعلق لَا يُؤْخَذُ کے الفاظ تھے اور دوسری آیت میں لَا يُقْبَلُ آ گیا ہے۔ (۳) تیسرا فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں شفاعت کے لئے لَا يُقْبَلُ تھا اور دوسری آیت میں لَا تَنْفَعُهَا کر دیا گیا۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت اس مقام پر بیان کی گئی ہے جبکہ ابھی بنی اسرائیل کے عیوب شمار نہیں کئے گئے تھے۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب تک انسان پر اپنی کمزوریاں نہیں کھلتیں اُس کی اُمیدیں وسیع ہوتی ہیں اور وہ اپنے بزرگوں کی امداد پر زیادہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اس لئے پہلی آیت میں شفاعت کو پہلے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہود یہ اُمید رکھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری شفاعت کر کے ہمیں بچالیں گے اور وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ کو بعد میں رکھا گیا۔ کیونکہ جسے شفاعت کی اُمید ہو وہ عدل دینے پر زیادہ آمادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بغیر اس کے بھی کام نکل جائے گا۔ لیکن اس آیت کے بعد جب یہود کی نافرمانیاں اور انبیاء کی مخالفتیں چھٹے رکوع سے شروع کر کے پندرہویں رکوع تک بیان کر دی گئیں اور ان کی مخالفتِ انبیاء کا راز فاش کر دیا گیا تو ان کی یہ اُمید بھی جاتی رہی کہ نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ اس لئے اب طبعی ترتیب یہ ہوگی کہ عدل کا ذکر پہلے ہو اور شفاعت کا ذکر بعد میں کیونکہ اب وہ شفاعت پر زیادہ زور نہیں دے سکتے تھے اور ان کی یہ اُمید کمزور ہو گئی تھی صرف عدل ہی رہ گیا تھا کہ شاید بدلہ دے کر چھوٹ جائیں اس لئے پہلے

عدل رکھا کہ اب وہ عدل پر زیادہ زور دینے لگے ہیں۔

اسی طرح پہلی آیت میں لَا يُؤَخِّدُ مِنْهَا عَدْلٌ اور دوسری میں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قبولیت آخذ سے اعلیٰ لفظ ہے اور اپنے اندر اعزاز کا ایک رنگ رکھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں بادشاہ نے فلاں چیز قبول کر لی۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ فقیر نے بادشاہ کی عطا کردہ چیز قبول کر لی لیکن اخذ میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اخذ جس کے معنی لینا ہے ادنیٰ چیز اعلیٰ کے بدلہ میں لینے یا اعلیٰ چیز ادنیٰ کے بدلہ میں لینے یا ایک ہی جیسی قیمت رکھنے والی چیزیں ایک دوسرے سے لینے کے لئے استعمال ہوتا ہے جب تک یہودی اُمید قائم تھی اور ان کے عیوب گنائے نہیں گئے تھے۔ یہ فرمایا کہ ان سے عدل نہیں لیا جائے گا۔ اور ”لیا جائے گا“ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خود لینے والا لے لے۔ اور اس طرح حساب پورا کر لے۔ لیکن لَا يُقْبَلُ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ دینے والا خود اصرار سے دیتا ہے لیکن پھر بھی نہیں لیا جاتا۔ اور یہ بات مایوسی کی حالت میں پیدا ہوتی ہے پس یہ تبدیلی بھی پندرھویں رکوع میں موقع کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ تو مایوسی کی حالت میں چاہیں گے کہ معاوضہ لے لیا جائے مگر معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔

تیسری تبدیلی یہ ہے کہ پہلی آیت میں شفاعت کے لئے لَا يُقْبَلُ آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ لیکن دوسری آیت میں لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ آیا ہے۔ یہ تبدیلی بھی موقع کے لحاظ سے ضروری تھی۔ جب تک یہود کے عیوب بیان نہیں کئے گئے تھے وہ اُمید کر سکتے تھے کہ ہم انبیاء کی سفارش پیش کریں گے اور وہ قبول ہو جائیگی۔ اس خیال کے مناسب حال یہ جواب دیا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی لیکن بعد کے رکوعوں میں جب انبیاء کی مخالفتیں اور یہود کے دوسرے عیوب گنائے گئے تو یہودی یہ اُمید منقطع ہو گئی کہ ہم خود شفاعت پیش کر سکیں گے۔ لیکن یہ امید اب بھی ہو سکتی تھی کہ شاید انبیاء ہی رحم کر کے ہماری شفاعت کر دیں۔ اس لئے پندرھویں رکوع میں وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ کہا گیا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش سے اور لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے مگر ان کے حق میں کوئی شفاعت کی ہی نہیں جائیگی کہ یہ اس سے فائدہ اٹھاسکیں۔ لَا تَنْفَعُهَا سے یہ مراد نہیں کہ شفاعت تو ہوگی مگر مانی نہیں جائے گی بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کے حق میں کوئی از خود بھی شفاعت نہیں کریگا آخر شفاعت تو اِذْن سے ہوتی ہے بغیر اِذْن کے کون شفاعت کر سکتا ہے۔ پس جب اِذْن نہ ہوگا تو شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اور جب شفاعت نہ ہوگی تو اس رحمت کے دروازے سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھاسکیں گے۔ غرض یہ سب تبدیلیاں بالکل موقعہ کے مناسب ہیں اور قرآنی ترتیب کے کمال کی ایک زبردست شاہد ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جب تو میں اپنے تنزل کے دور میں اعمالِ صالحہ کی بجا آوری میں کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ شفاعتِ انبیاء پر زور دینے لگ جاتی ہیں۔ صحابہؓ کے اقوال میں ہمیں یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم نجات حاصل کر لیں گے۔ بلکہ اُن کے کلام میں نیکی اور تقویٰ اور قرآن کریم پر عمل اور قربانیاں کرنے پر خاص طور پر زور پایا جاتا ہے مگر جوں جوں انبیاء سے بُعد ہوتا جاتا ہے لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ چونکہ یہود بھی شفاعتِ انبیاء پر بھروسہ کر کے بیٹھے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا اس آیت میں رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کا یہ خیال اُن کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس لئے ابراہیمؑ ہماری شفاعت کریں گے یا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اس لئے موسیٰؑ ہماری شفاعت کریں گے وہ غلطی پر ہیں۔

جب اس مضمون کو رکوع ۶ سے شروع کیا گیا تھا تو اس وقت چونکہ یہود کے اس دعوے کو رد کرنے پر خاص طور پر زور دینا نظر تھا کہ انبیاء ہماری شفاعت کریں گے اس لئے شفاعت کو جس پر سارا زور تھا مقدم رکھا۔ اور فرمایا کہ ان کے متعلق نہ شفاعت قبول کی جائے گی جسے یہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور نہ یہ اپنے بد اعمال کا معاوضہ پیش کر سکیں گے۔

لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شرمندہ کیا ہے کہ تم کس مُنہ سے کہتے ہو کہ انبیاء ہماری شفاعت کریں گے کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی تھی۔ کیا سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کی تھی کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی تھی۔ کیا دوسرے انبیاء کی اطاعت کی تھی تم نے ہر ایک کا انکار کیا اور اس کی مخالفت کی۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اس لئے ہم اس پر کس طرح ایمان لائیں۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ تم نے کس نبی کی مخالفت نہیں کی؟ تم ہر ایک سے لڑتے رہے اور تم نے ہر ایک کی تکذیب کی پس جب ہر ایک کی تم تکذیب ہی کرتے رہے ہو تو اب تمہاری کون شفاعت کریگا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کریں گے جن کو تم نے فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا لَاهُمْنَا قَاعِدُونَ (المائدة: ۲۵) کہا تھا یا حضرت سلیمان علیہ السلام کریں گے جن کو تم نے کافر قرار دیا تھا۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے جن کو تم نے لعنتی قرار دیا تھا۔ آخر تم کس کی شفاعت کے امیدوار ہو۔ اس کے بعد چونکہ شفاعت پر اُن کو زیادہ گھمنڈ نہیں ہو سکتا تھا اور اُن کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں اس لئے اب قدرتی طور پر انہیں یہی خیال ہو سکتا تھا کہ کوئی بدلہ لے کر چھوڑ دے۔ اس وجہ سے مضمون بھی تبدیل کر دیا گیا اور عدل کو پہلے اور شفاعت کو بعد میں رکھ دیا گیا اور مایوسی کے کمال کو ظاہر کرنے کے لئے یُوْعَذُ

کے بجائے عدل کے ساتھ يُقْبَلُ کا لفظ رکھا گیا۔ یعنی وہ تو چاہیں گے کہ بدلہ لے لیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح شفاعت کے ساتھ لَا تَنْفَعُهَا کے الفاظ رکھ دیئے کہ شفاعت کرنے والے دوسروں کی تو شفاعت کریں گے مگر ان کے حق میں انہیں اِذْنٌ ہی نہیں دیا جائے گا۔ کہ شفاعت اُن کو فائدہ دے سکے گی یا نہ ان کے اعمال اُن کے کام آئیں گے اور نہ شفاعت ان کو کوئی نفع دے گی۔ شفاعت کی قبولیت درحقیقت کُلّی طور پر ہوتی ہے اگر شفاعت قبول ہو جائے تو انسان جنت میں چلا جاتا ہے لیکن اعمال صرف جزئی طور پر فائدہ دے سکتے ہیں یعنی جتنے عمل اچھے ہوں اتنے کام آسکتے ہیں پس فرمایا کہ ان کو قلیل طور پر بھی نفع نہیں ہو سکتا اور نہ شفاعت کے ذریعہ کُلّی طور پر نفع ہو سکتا ہے۔

تیسری صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اس کے لئے فرمایا کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں کوئی مدد نہیں دی جائیگی۔ غرض تین ہی صورتیں ہو سکتی تھیں اور تینوں کی نفی کر دی گئی ہے یعنی نہ تو ان کے حق میں شفاعت انبیاء ہوگی اور نہ ان کے اعمال اُن کے کام آئیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی مدد حاصل ہوگی۔ صرف یہی صورت ان کی نجات کی تھی کہ اول اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کر کے انہیں معاف کر دے۔ دوم انبیاء اُن کی شفاعت کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیں۔ سوم ان کے اپنے اعمال انکے کام آجائیں اور وہ انکو اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق بنا دیں۔ مگر اُن کے لئے یہ تینوں راستے بند کر دیئے گئے ہیں۔ نہ ان کی شفاعت ہوگی نہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ انہیں بچا سکیں اور نہ ہم مدد دیں گے۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ابراہیمؑ کو اس کے رب نے بعض باتوں کے ذریعہ سے آزما یا اور اس نے ان کو پورا

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ

کر دکھایا (اس پر اللہ نے) فرمایا کہ میں تجھے یقیناً لوگوں کا امام مقرر کرنے والا ہوں (ابراہیمؑ نے) کہا اور میری

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۵﴾

اولاد سے بھی (امام بنائیں) (اللہ نے) فرمایا (ہاں! مگر) میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ اِبْتَلَىٰ کے دو معنی ہیں۔ اول کسی کی مخفی باتوں کو معلوم کرنا۔ دوم کسی کی پوشیدہ قابلیتوں کو

خواہ وہ نیک ہوں یا بد اچھی ہوں یا بُری ظاہر کرنا۔ جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور کہا جائے۔ اِنْبِئَلَى اللّٰهُ فُلَاكًا تو اس سے دوسرے معنے مراد ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کی پوشیدہ قابلیتوں کو ظاہر کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے اُسے خود کوئی بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (مفردات)

كَلِمَةً کے معنے حکم کے ہوتے ہیں اور حکم میں اوامر و نواہی دونوں شامل ہیں۔ (مفردات راغب)

اَلْاِمَامُ کے معنے ہیں اَلْمَوْ تَمَّ بِهٖ جسے اُسوہ بنایا جائے۔ اور جس کے قول و فعل کی اقتداء کی جائے۔

(۲) عربی زبان میں کتاب کو بھی امام کہتے ہیں۔ (مفردات) کیونکہ اس کے احکام کو مانا جاتا ہے۔

تفسیر۔ فرماتا ہے تم اُس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اندرونی

نیکی اور تقویٰ کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہا۔ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخفی رُوحانی طاقتیں اور قابلیتیں اُن کو معلوم ہو جائیں چنانچہ ان قابلیتوں کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کو کچھ احکام دیئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام کو پورا کر دیا۔ اور اس طرح دُنیا کو معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اطاعت اور فرمانبرداری کی جو اعلیٰ طاقتیں ودیعت ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیں۔ جب وہ ظاہری طور پر اس پر عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری یہ مراد نہیں بلکہ کچھ اور مراد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا منشاء اس رنگ میں ظاہر ہوا کہ اُس نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہاجرہ اور اسمعیل کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئیں۔ چنانچہ وہ انہیں وہاں چھوڑ آئے اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح دُنیا کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہر بات پر لیبیک کہنے والے ہیں۔ خواہ بادی النظر میں وہ کتنی ہی بھیا تک اور خوفناک کیوں نہ ہو۔

یہاں وَ اِذْ اَنْتَیْ اِبْرٰہِیْمَ رَبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ فرمایا ہے اور کَلِمٰتٍ جمع کا صیغہ ہے مگر مشہور اُن کے بیٹے کے ذبح کا

واقعہ ہے لیکن ظالمود میں لکھا ہے کہ اُن کی دُن آ آزمائشیں ہوئی تھیں۔ (جو زف بارسلے کی ظالمود صفحہ ۱۰۸)

اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا میں امامت سے نبوت مراد نہیں کیونکہ نبوت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے

ہی حاصل ہو چکی تھی۔ اس جگہ امامت سے انہیں لوگوں کے لئے ایک نمونہ اور مقتدیٰ بنانا مراد ہے اور لِلنَّاسِ سے

مراد انسانوں کا عظیم الشان گروہ ہے۔ درحقیقت اس میں آئندہ کے متعلق ایک وعدہ کیا گیا تھا۔ ورنہ اُس زمانہ میں تو

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف چند ہی لوگ تھے۔ چنانچہ دیکھ لو آج دنیا کے کثیر حصہ میں وہ امام اور مقتدیٰ

سمجھے جاتے ہیں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یوں تو ہر نبی اپنی قوم کے لئے اُسوہ ہوتا

ہے لیکن ہر نبی ساری دنیا کے لئے اُسوہ نہیں ہوتا۔ انبیاء سابقین میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا تمام اقوام میں ادب اور احترام پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کو ہی دیکھ لو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ادب نہیں کرتے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتے ہیں بلکہ دوسرے نبیوں پر تو وہ کئی قسم کے الزام بھی لگاتے ہیں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خاص طور پر ادب کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے مانتے ہیں۔ ورنہ باقی انبیاء کو تو وہ چورا اور بٹمار کہنے سے بھی باز نہیں آتے (یوحنا باب ۱۰ آیت ۸) مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ادب کرتے ہیں یہی معنی اِنَّ جَاعِلِكَ لِلنَّاسِ اِهَامًا کے ہیں یعنی ہم تجھے ایک ایسا وجود بنائیں گے کہ لوگ تیرے اقوال و افعال کی اقتداء کریں گے۔ چنانچہ حج جو اسلامی عبادات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے ہی قائم کیا اور آج تک دنیا حج کے ذریعے ان کو یاد کرتی ہے۔ اسی طرح ہر قربانی کے موقعہ پر وہ یاد کئے جاتے ہیں۔

ہم اگرچہ امت محمدیہ میں سے ہیں مگر ہم بھی عید الاضحیہ کے موقعہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اسلام میں کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا کہ جس سے اُن کے کسی فعل کی یاد تازہ ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے لئے ایک خاص دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ پس امامت سے مراد نبوت نہیں بلکہ اُن کا اُسوہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے تمام لوگوں کے لئے ایک نمونہ بنائیں گے اور لوگ تیری اقتداء کرتے رہیں گے۔

شبیخہ دوست کہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اِنَّ جَاعِلِكَ لِلنَّاسِ اِهَامًا ایسے وقت میں فرمایا ہے جبکہ آپ نبی بن چکے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا مقام نبی سے بالا ہوتا ہے۔ اُن کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت نبوت کے دعویٰ کے بعد دی گئی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امام اپنے لغوی معنوں کے لحاظ سے کوئی ایسا عہدہ ہے جو نبوت کے بعد ملتا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ بعض نبی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اقتداء ضروری نہیں ہوتی کیونکہ لغت نے امام کے یہ معنی بتائے ہیں جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ پس اگر یہ ایسا عہدہ ہے جو نبوت سے فائق ہے تو ماننا پڑے گا کہ بعض نبی ایسے بھی ہوئے ہیں جن کی اطاعت و فرمانبرداری فرض نہیں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت بھی اس سے پہلے فرض نہ تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رُّسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (النساء: ۶۵) یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی اطاعت دوسروں پر فرض نہ کی گئی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اطاعت فرض کی ہوئی ہے۔ ادھر وہ نبی بنتا ہے اور ادھر اُس کی بات کا ماننا واجب ہو جاتا ہے۔ ان معنوں کی رو سے امامت نبوت سے علیحدہ کوئی مقام نہ رہا بلکہ امامت و نبوت دونوں لازم و ملزوم قرار پاتی ہیں۔ پھر ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک امامت نبوت سے بھی پہلے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ۶۰) یعنی اے مومنو! تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو اولی الامر اور غیر رسول ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پہلے اللہ پھر رسول اور پھر ان سے نیچے اولی الامر غیر رسول کو رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رسول نہیں ہوتے۔ مگر ان کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر امام کے معنے صرف مطاع کے لئے جائیں تو اس قسم کی امامت تو نبوت سے بھی ادنیٰ ہوتی۔ جو امامت نبوت کے ساتھ لازم ہوتی ہے وہ نبوت کے ساتھ ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نبی تو ہو مگر اُس سے امامت نہ ملی ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص امام ہو مگر اُس سے نبوت نہ ملی ہو۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نبی اور رسول ہو اور پھر امامت سے محروم ہو۔ جیسا کہ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ سے ظاہر ہے۔ اب ہمیں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ماننی پڑتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے یا نبوت کے بعد کی بات ہے اگر نبوت کے بعد کی بات ہے تو اس صورت میں اس کے وہ معنے نہیں ہو سکتے جو عام طور پر کئے جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے کچھ اور معنے ہوں گے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا نبوت کے بعد فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَ إِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ الْحَمِيمَاتُ اور انبیاء کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے امتحان نہیں لیا جاتا۔ بلکہ بعد میں لیا جاتا ہے اس لئے باقی انبیاء کے طریق کو دیکھتے ہوئے ماننا پڑتا ہے کہ یہ الہام بعد کا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے کوئی اور معنے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر لفظ دو قسم کے معنے رکھتا ہے۔ اول اضافی دوم غیر اضافی۔ اضافی معنے ہمیشہ اضافت کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً جب ہم سردار کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے عام طور پر یہ معنے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے اوپر افسر ہو۔ لیکن سردار ایک گاؤں کا بھی ہوتا ہے ایک تحصیل کا بھی ہوتا ہے۔ ایک ضلع کا بھی ہوتا ہے۔ ایک صوبے کا بھی ہوتا ہے ایک ملک کا بھی ہوتا ہے اور پھر کئی ملکوں کا بھی ہوتا ہے۔ پس یہ ایک عام لفظ ہے جو چھوٹے بڑے سب کی سرداری پر دلالت کرتا ہے اور کسی کی طرف اضافت کرنے کے بغیر کوئی خاص معنے معین نہیں کرتا۔ مگر جب ہم یہ کہیں کہ چوہڑوں کا سردار یا چچڑا سیبوں کا سردار یا جرنیلوں کا سردار تو اس کے معنے معین ہو جاتے

ہیں۔ اور پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں قوم سے اسے نسبت ہے اور اس اضافت سے معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں بھی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں صدیق کا لفظ آتا ہے جس کے معنے بڑے راستباز کے ہیں اب بڑا راستباز نبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر نبی بھی۔ اگر صدیق کا لفظ عام معنوں میں ہو تو یہ درجہ نبی سے چھوٹا ہے مگر جب یہ لفظ نبی کے لئے آئے تو اس وقت یہ کسی خاص خصوصیت کا حامل بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت ادریسؑ کے متعلق آتا ہے۔ وَ اذْكَرُ فِي الْكِتَابِ اِذْ نَبِيٌّ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (مریم: ۵۷) یعنی تو قرآن کریم کی رو سے ادریسؑ کا بھی ذکر کروہ ایک صدیق نبی تھا۔ حالانکہ دوسری جگہ وَ مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الشّٰهِدِآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ (النساء: ۷۰) میں صدیقیت کو نبوت سے نیچے رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت اسلمؑ علیہ السلام کی نسبت آتا ہے كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا (مریم: ۵۶) کہ وہ اپنے رب کے حضور پسندیدہ وجود تھا۔ مگر دوسری جگہ یہ درجہ نبوت سے نیچے رکھا ہے۔ جیسے فرمایا۔ يَاۡرَبُّهَا النَّفْسُ الطّٰمِنٰتَةُ۔ اَرْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (الفجر: ۲۸، ۲۹) کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف ایسی حالت میں واپس جا کہ تو اس سے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اس آیت میں ہر مومن کا نام جو نفس مطمئنہ رکھتا ہے اور ایمان کی حالت میں وفات پاتا ہے، مرضیہ رکھا گیا ہے۔ اگر كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا کے ہم یہ معنے کریں کہ وہ ہر شخص جس سے خدا راضی ہو نبی سے بالا ہوتا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑیگا کہ ہر مومن جو نفس مطمئنہ رکھتا ہے وہ نبی سے بالا مقام رکھتا ہے۔ یا صِدِّيقًا نَبِيًّا کے ماتحت کہنا پڑیگا کہ صدیق کا لفظ جس کے متعلق آئے وہ نبی سے بالا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق آتا ہے کہ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّاۤ اَمْ لَمْ نُوْمِنُوْاۤ اَوْ لٰكِنۡنَا فُوْٓؤَاۤءُ اَسْمٰنَاۤ وَ لَمَّاۤ اٰتٰنَا خُلَ الْاِيْمَانُ فِیۡ قُلُوْبِنَاۤ (الحجرات: ۱۵) یعنی اعراب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو کہہ دے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ ہاں تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ورنہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ گویا اسلام ایمان کا ابتدائی درجہ ہے مگر اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے۔ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۙ اَسْلِمْتُۙ قَالَ اَسْلِمْتُۙ اِسْلَمْتُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (البقرة: ۱۳۲)۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اُس کے رب نے کہا کہ تو اسلام لا۔ یعنی ہماری فرمانبرداری اختیار کر تو انہوں نے کہا کہ خدا یا میں تو پہلے ہی تمام جہانوں کے رب کی فرمانبرداری اختیار کر چکا ہوں۔ یہ حکم ان کو نبوت کے بعد ہوا اور انہوں نے اَسْلَمْتُ کہا۔ جس کی خدا تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی اور ادھر اَمَّنَّا کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اَسْلَمْنَا کہو۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام ایمان سے بھی ادنیٰ تھا اگر شیعوں والے معنے لئے جائیں تو اس کا یہ

مطلب ہوگا کہ ہر اسلام لانے والا اور اپنے آپ کو مسلم کہنے والا نبی سے بالا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ مسلم بن جاؤ اور انہوں نے اَسْلَمْتُ کہا۔ اسی طرح اگر امامت نبوت کے بعد ملنے کے یہ معنی ہیں کہ امام نبی سے بڑا ہوتا ہے تو پھر امامت تو الگ رہی ان معنوں کو تسلیم کرتے ہوئے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ہر مسلم کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد امامت ملی۔ اسی طرح نبوت کے بعد انہیں مسلم بھی بنا پڑا۔ اس صورت میں ہر مسلم نبی سے بڑا ہو جاتا ہے۔ پس خالی امامت نبوت سے بڑی نہیں ہوتی بلکہ وہ امامت جو نبوت کے بعد ملتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے۔ جس طرح خالی اسلام نبوت سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ اسلام جو نبوت کے بعد حاصل ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے۔ غرض ہر چیز کا الگ الگ دائرہ ہے۔ ایک اسلام وہ ہے جو ایمان سے ادنیٰ ہوتا ہے اور ایک اسلام وہ ہے جو ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک اسلام وہ ہے جو نبوت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مانیٹر کا لفظ ایک ہی ہے مگر ایک ادنیٰ جماعت کا مانیٹر ہوتا ہے اور ایک بڑی جماعت کا۔ اب ادنیٰ جماعت کے مانیٹر ہونے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ اونچی کلاس کے مانیٹر سے بھی بالا ہے۔ اس کا علم تو ایک بڑی جماعت کے طالب علم سے بھی کم ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ امامت جو نبوت سے الگ ہوتی ہے اُسے اس امامت سے جو نبوت کے بعد ملتی ہے کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی۔ خود مسلمانوں میں دیکھ لو کہ نماز پڑھانے والا امام کہلاتا ہے۔ پھر خلیفہ بھی امام ہوتا ہے اور نبی بھی امام ہوتا ہے۔ ادھر قرآن کریم میں یہ دُعا سکھائی گئی ہے وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا (الفرقان: ۷۵) کہ الٰہی کچھ مومن بھی میرے مقتدی بنا دے اور مجھے اُن کا امام بنا اب کیا اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہر شخص یہ دُعا کرتا ہے کہ اُسے نبیوں سے بالا درجہ مل جائے؟ اگر اس کے یہ معنی ہوں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبیوں سے بالا درجہ بھی مل سکتا ہے کیونکہ اس کی دُعا سکھائی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص نبی سے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ حالانکہ اس کے شیعہ بھی قائل نہیں۔ درحقیقت اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کے معنی یہ ہیں کہ اے ابراہیم! تو اپنی قوم کے لئے نبی تھا مگر چونکہ تو آزمائشوں میں ثابت قدم نکلا ہے اور تُو نے بڑی دلیری سے میرے حکم کو ماننے ہوئے اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسے جنگل میں جا کر بسا دیا ہے جہاں پانی کا ایک قطرہ اور گھاس کی ایک پتی تک نہ تھی اور تُو نے اپنی اور اپنے خاندان کی موت قبول کر لی ہے اس لئے میں بھی تجھے یہ انعام بخشوں گا کہ تیرا یہ واقعہ ساری دنیا کے لوگوں کے لئے قیامت تک بطور نمونہ قائم رہیگا۔ اور جب بھی دنیا کو آزمائشوں اور امتحانوں میں ثابت قدم رہنے کا درس دیا جائے گا تو اس وقت تیرے اس واقعہ کو نمونہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وَ اِذْ اٰتٰنَا اِبْرٰهٖمَ رُحْمٰهٖٓ بِكَلِمٰتٍ فَاكْتُمٰهُنَّ ۗ ط کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

ورنہ اگر یہ کوئی الگ عہدہ ہوتا تو آزمائشوں کے ذکر کے ساتھ اس کے بیان کرنے کے کوئی معنی نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاؤں میں شاندار کامیابی کے ذکر کے معاً بعد اِنِّ جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کہنا بتاتا ہے کہ اس میں اسی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تیری زندگی کا یہ درخشاں واقعہ ہمیشہ کے لئے مشعل راہ کا کام دے گا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے تو ایک نمونہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئندہ زمانہ کی یہ خبر دی گئی تو انہیں خیال آیا کہ جب میں بعد میں آنے والوں کا امام بنایا جاؤں گا تو میری طرف منسوب ہونے والی ذریت کی ہدایت کا بھی سامان ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ الہی میری اولاد پر بھی رحمت کا ہاتھ رہے۔ فرمایا۔ ٹھیک ہے مگر میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔

اس سے یہ مراد نہیں کہ اُن کی ساری ذریت ظالم ہو جائے گی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اولاد دو قسم کی ہوگی۔ ایک ظالم اور ایک مطیع و فرمانبردار۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم اولاد کی نفی کی ہے اور مطیع اولاد میں سے امام بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ کے دو طرح معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ عہد بمعنی معہود ہو یعنی جس چیز کا عہد کیا گیا ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گی۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں ظالموں کے لئے کوئی عہد نہیں کروں گا۔ صرف غیر ظالموں کیلئے کروں گا۔ یعنی جو قوم بحیثیت قوم ظالم بن جائے گی اس میں سے سلسلہ نبوت منقطع ہو جائے گا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ (۱) اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا وعدہ فرمایا (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی نسبت بھی اس وعدہ میں توسیع کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مشروط وعدہ فرمایا۔ یعنی وعدہ کیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض اس عہد سے حصہ پائیں گے۔ مگر حصہ پانے والے وہی ہوں گے جو قومی ظلم کے ذریعہ سے اپنے آپ کو انعام سے محروم نہ کر چکے ہوں۔

جب تک بنی اسرائیل اس وعدہ کے مستحق رہے اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرتا رہا۔ مگر جب بنی اسرائیل کئی طور پر اس عہد کے انعامات کے ناقابل ہو گئے تو وہ عہد بنی اسرائیل کی دوسری شاخ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔

بانبیہل میں بھی اس عہد کے مشروط ہونے کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ پیدائش باب ۷۱ آیت ۹ تا ۱۳ میں لکھا ہے:

”پھر خدا نے ابراہام سے کہا۔ کہ تُو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عہد کو نگاہ

رکھیں۔ اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد

رکھو۔ سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند زینہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کرو۔ اور یہ اُس عہد کا نشان ہوگا۔ جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہاری پشت در پشت ہر لڑکے کا جب وہ آٹھ روز کا ہو ختنہ کیا جائے گا۔ کیا گھر کا پیدا کیا پر دیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل کا نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے۔ اور میرا عہد تمہارے جسموں میں عہد ابدی ہوگا اور وہ فرزند زینہ جس کا ختنہ نہیں ہوا وہی شخص اپنے لوگوں میں سے کٹ جائے کہ اُس نے میرا عہد توڑا۔“

ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اُن کی اولاد کی نسبت جو عہد کیا گیا تھا وہ مشروط تھا اور اس کی ظاہری علامت ختنہ تھا۔ اور صاف طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ تیری اولاد میں سے جو اس عہد کی پابندی نہیں کریں گے۔ خدا تعالیٰ کا عہد بھی اُن سے کوئی نہیں رہے گا۔ اور اُن کو وہ انعامات نہیں ملیں گے جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے وعدہ کیا گیا ہے۔

اس عہد کا ظاہری نشان جو ختنہ کی صورت میں قائم کیا گیا تھا بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا اور یہ قوم خدا تعالیٰ کے انعامات کی وارث رہی۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگئے تو بنی اسرائیل کا وہ حصہ جو اُن پر ایمان نہ لایا تھا اس گروہ سے کٹ گیا جس کو انعامات کا وعدہ دیا گیا تھا اور صرف وہی لوگ انعامات کے مستحق رہ گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ لیکن آگے چل کر انہوں نے بھی عہد توڑ دیا۔ اور ختنہ جو اس عہد کا ایک ظاہری نشان تھا اسے ترک کر دیا۔ غرض اس قوم کا کچھ حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے خدائی انعامات سے محروم ہو گیا اور جنہوں نے مانا تھا انہوں نے ختنہ چھوڑ کر اور شریعت کو لعنت قرار دیکر اپنے آپ کو خدائی فضلوں سے محروم کر لیا۔ اور یہ وعدہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور میرے نزدیک اس جگہ یہی ذکر ہے کہ امامت کا مقام بنو اسحاق کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ بحیثیت جماعت ظالم ہو جانے والے تھے۔ ہاں بنو اسماعیل کو ملے گا۔ کیونکہ وہ بحیثیت جماعت کبھی ظالم نہیں ہوں گے۔ بلکہ ہر زمانہ میں اُن میں ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جو خدا تعالیٰ کی وحی کے قائل ہوں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کا امام بنایا گیا۔ اور آپ کی امت میں سے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ مقام بخشا گیا۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ط

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے اس گھر (یعنی کعبہ) کو لوگوں کے لئے بار بار جمع ہونے کی جگہ اور امن (کا

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ط وَعَهْدَنَا إِلَىٰ

مقام) بنایا تھا اور (حکم دیا تھا کہ) ابراہیمؑ کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ اور

إِبْرَاهِيمَ وَاسْمِعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

ہم نے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور

وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۱۳۶﴾

اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک (اور صاف) رکھو۔

حَلَّ لَعَاتٍ مَثَابَةً کے معنی ہیں مُجْتَمِعُ النَّاسِ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ وہ جگہ جہاں متفرق ہونے کے بعد

لوگ جمع ہوتے ہیں۔ (اقرب)

مفردات راغب میں لکھا ہے۔ **الْمَثَابَةُ**: الْمَكَانُ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الثَّوَابُ۔ مثابہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آنے کی وجہ سے انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ **وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً** میں مَثَابَةً کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہ مفعول ثانی ہے اور **جَعَلَ** بمعنی **صَيَّرَ** ہے۔ اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہیں کہ **صَيَّرْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً** ہم نے خانہ کعبہ کو مثابہ بنایا ہے۔ دوسرے مَثَابَةً حال بھی ہو سکتا ہے یعنی **جَعَلْنَا الْبَيْتَ حَالًا كَوْنِهِ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ**۔ اس صورت میں **جَعَلَ** بمعنی **صَيَّرَ** نہیں بلکہ بنانے کے ہوں گے اور مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے خانہ کعبہ ایسے حال میں بنایا ہے کہ وہ اپنے اندر مثابہ کی خصوصیات رکھتا تھا۔

أَمْنٍ کے معنی ہوتے ہیں۔ (۱) اطمینان قلب (۲) سَلَامَةٌ مِّنَ الْخَوْفِ۔ دل کا اطمینان اور ظاہری خطرات

سے نجات۔ جب انسان ظاہری خطرات سے بھی محفوظ ہو اور اس کے دل کو بھی اطمینان حاصل ہو تو یہ کامل امن ہوتا ہے۔

مِنْ کے کئی معنی ہیں۔ مگر اس جگہ یہ تعبیضیہ بھی ہو سکتا ہے اور زائدہ بھی۔ زائدہ کے یہ معنی نہیں کہ وہ زائدہ ہے اور کوئی معنی نہیں دیتا بلکہ یہ عربی زبان کی ایک اصلاح ہے جو زور دینے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ ایسا **مِنْ**

بے معنی نہیں ہوتا بلکہ معنوں پر زیادہ زور دینے کے لئے لایا جاتا ہے۔ اور اُسے زندہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس جگہ **وَالتَّحْدِثِ** اور **وَالتَّحْدِثِ** پر زور دیا ہے کیونکہ یہ فعل کے معنوں میں شدت پیدا کر دیتا ہے۔
مُصَلِّيٍّ جائے نماز کو کہتے ہیں۔

عَهْدًا کے معنی ہیں **أَوْصَاةٌ وَنَهْيٌ** (اقرار) اُسے تاکید کی اور اُس کی پابندی اُس کے لئے ضروری قرار دی۔

مفرداتِ راغب میں لکھا ہے۔ **الْفِيءُ** الْإِيَّةُ الْعَهْدُ وَأَوْصَاةٌ مَحْفُظَةٌ۔ یعنی اُسے عہد سے واقف کیا اور اس عہد کی حفاظت کی۔ اُسے تاکید کی۔ پس اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کو وصیت کی اور اس کی پابندی اُن پر فرض کی۔

رُكْعٍ رَاكِعٍ کی جمع ہے اور رکوع کے معنی رکوع کرنے یا توحید پر چلنے کے ہوتے ہیں۔ (مفردات)
سُجُودًا ساجد کی جمع ہے۔ اس کے معنی (۱) سجدہ کرنے والے (۲) کامل فرمانبردار کے ہوتے ہیں۔ (اقرب)
طَائِفٍ جو شخص بار بار کسی جگہ آئے یا اس کے گرد چکر لگائے وہ طائف کہلاتا ہے۔ (مفردات)
عَاكِفٍ بیٹھنے والا۔ جو دھرنا مار کر بیٹھ جائے۔ اسی سے اعتکاف نکلا ہے۔ (مفردات)

تفسیر۔ **الْبَيْتِ** خانہ کعبہ کا نام ہے۔ اسے **الْبَيْتِ** اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بیت کے تمام خواص جمع ہیں۔ جیسے کہتے ہیں **زَيْدٌ الرَّجُلُ** زید ہی آدمی ہے۔ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک معقول آدمی کے اندر جس قدر خوبیاں پائی جانی چاہئیں وہ سب کی سب زید میں پائی جاتی ہیں۔ پس خانہ کعبہ ہی گھر ہے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی جو خصوصیتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب صرف اسی گھر سے حاصل ہوتی ہیں۔ گھر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ گھر کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ (۱) گھر مستقل رہائش کی جگہ ہوتی ہے (۲) گھر چوری اور ڈاکہ سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے (۳) گھر امن کا مقام ہوتا ہے جس میں داخل ہو کر انسان ہر قسم کے مصائب سے نجات پا جاتا ہے (۴) گھر تمام قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کے جمع ہونے کی جگہ ہوتا ہے (۵) گھر انسان کے مال و متاع کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ان پانچ خصوصیتوں کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو درحقیقت خانہ کعبہ ہی اصل گھر ہے۔ کیونکہ اگر حفاظت کو لو تو بڑے بڑے قلعوں کو لوگ تباہ کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والوں کو لوگ تباہ کر دیتے ہیں۔ مگر خانہ کعبہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی دائمی حفاظت حاصل ہے۔ اور ہر شخص جو اس پر ہاتھ اٹھانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم کی مثال اس بارہ میں ایک زندہ جاوید مثال ہے۔ ابراہیم جو

ایسے سینیا کی عیسائی حکومت کی طرف سے یمن کا گورنر مقرر تھا۔ اس نے چاہا کہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے اور عربوں کو مجبور کرے کہ وہ بیت اللہ کی بجائے صنعا کے گرجا کا حج کیا کریں۔ تاکہ عیسائیت کو فروغ حاصل ہو۔ جب وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچا۔ تو اُس نے ایک خاص آدمی مکہ والوں کی طرف بھجوایا۔ اور اُسے یہ پیغام دیا کہ میں صرف خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے آیا ہوں۔ تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں۔ اس لئے اگر تم میرے ارادہ میں مزاحم نہ ہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور کعبہ کو گرا کر واپس چلا جاؤں گا۔ وہ شخص جب مکہ پہنچا۔ تو اُس نے دریافت کیا کہ مکہ والوں کا آجکل سردار کون ہے۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب کا نام لیا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے ابرہہ کا پیغام دیا۔ حضرت عبدالمطلب نے اُسے جواب دیا کہ اگر اس کی ہم سے لڑنے کی نیت نہیں تو ہم بھی اُس سے لڑنا نہیں چاہتے بلکہ ہم میں تو اُس سے لڑائی کی طاقت ہی نہیں۔ باقی اس گھر کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ اس گھر کو بچانا چاہے تو یہ اُس کا کام ہے ہم میں ابرہہ اور اُس کے لشکر کے مقابلہ کی کوئی طاقت نہیں۔ اس پر اُس شخص نے کہا کہ اگر آپ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تو بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ابرہہ سے ملاقات کریں۔ ابرہہ نے بھی خواہش کی تھی کہ میں مکہ کے کسی رئیس کو اپنے ساتھ لاؤں۔ اس سے اُس کا دل خوش ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ ہی ترک کر دے۔ اس پر حضرت عبدالمطلب نے بعض رؤساء اور اپنے لڑکوں کو ساتھ لیا اور ابرہہ کی ملاقات کے لئے چل پڑے۔

ابرہہ آپ سے مل کر بڑا متاثر ہوا اور اُس نے کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ فرمائیں کہ آپ کی اس ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا۔ کہ آپ کے لوگ چھاپہ مار کر کچھ اونٹ لوٹ لائے ہیں جن میں میرے بھی دو سواونٹ ہیں وہ مجھے واپس دلا دیئے جائیں۔ یہ سن کر اُسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا۔ میں نے تو آپ کو بڑا عقلمند سمجھا تھا اور میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں خانہ کعبہ پر حملہ نہ کروں مگر آپ نے خانہ کعبہ کا نام تک نہیں لیا اور اپنے دو سواونٹوں کا مطالبہ کر دیا ہے حالانکہ خانہ کعبہ کے مقابلہ میں دو سواونٹوں کی حیثیت ہی کیا تھی کہ آپ اس کا ذکر کرتے۔ حضرت عبدالمطلب نے بیساختہ جواب دیا کہ اگر عبدالمطلب کو اپنے دو سواونٹ کی فکر ہے تو کیا خدا تعالیٰ کو اپنے گھر کی حفاظت کا فکر نہ ہوگا۔ وہ آپ اس کی حفاظت کرے گا۔ مجھے تو صرف اپنے اونٹوں کی ضرورت ہے۔ ابرہہ یہ سن کر طیش میں آ گیا اور اُس نے اونٹ تو واپس کر دیئے مگر بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ زیادہ مضبوط کر لیا۔ ابھی اُس نے حملہ نہیں کیا تھا کہ تمام فوج میں چیچک کی بیماری پھوٹ پڑی اور

لوگ کتوں کی طرح مرنے لگے۔ آخر اتنی بھاگڑ مچی کہ وہ محاصرہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ہزاروں انسان وادیوں میں بھٹک بھٹک کر مر گئے۔ (المسيرة النبوية لابن هشام، امر الفیل...)

غرض اَلْبَيْت میں بتایا ہے کہ حقیقی حفاظت لوگوں کو اسی گھر کے ذریعہ میسر آ سکتی ہے۔ یہ خدا کا گھر ہے جس پر کوئی دشمن حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

گھر کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مستقل رہائش کا مقام ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہی گھر ہے جو اَلْبَيْت کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ دائمی زندگی خدا کے گھر میں ہی ملتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے گھر میں نہیں جاتے اُن کی زندگی کیا زندگی ہے۔ دنیوی گھر کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَاعٌ قَلِيلٌ وہ ایک قلیل متاع ہے۔ لیکن اپنے گھر کے متعلق فرماتا ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِيْ۔ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ۔ (الفجر: ۳۱، ۳۰) یعنی جب انسان خدا تعالیٰ کا سچا پرستار بن جاتا ہے اور اُس کا گھر مسجد ہو جاتا ہے تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ غرض یہی بیت ہے جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔

گھر کی تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر مختلف قسم کے ذخائر اور اموال و امتعہ رکھتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے بھی یہی گھر ہے جو روحانی برکات کے ذخائر اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ کیونکہ اور ذخائر تو خواہ کتنے بھی قیمتی ہوں ضائع ہو جاتے ہیں لیکن جو وقت عبادت الہی میں خرچ ہوتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا بلکہ ایک ایک لمحہ جو ذکر الہی اور عبادت میں بسر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے ہزاروں ہزار انعامات کے ذخائر کی صورت میں محفوظ رکھتا اور اپنے بندے کو اس سے متمتع فرماتا ہے۔

گھر کی چوتھی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت بھی خانہ کعبہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ کیونکہ تمام دنیا کے مسلمان وہاں ہر سال حج کے لئے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر اپنے ایمان تازہ کرتے ہیں اور پھر اس لحاظ سے بھی خانہ کعبہ سب لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے کہ وہ جگہ جہاں انسان اپنے تمام رشتہ داروں سے مل سکے گا صرف جنت ہے اور جنت کا ظل مسجد ہوتی ہے جس میں پانچوں وقت تمام مسلمان جمع ہو کر خدا تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات سے بھی باخبر رہتے ہیں۔

پھر گھر کی یہ خصوصیت کہ اس میں انسان کو ہر قسم کا امن حاصل ہوتا ہے یہ بھی خانہ کعبہ کو میسر ہے۔ کیونکہ امن اسی صورت میں میسر آتا ہے جب تمام جھگڑے مٹ جائیں اور خانہ کعبہ ہی ایک ایسا مقام ہے جو توحید کا مرکز ہونے

کی وجہ سے تمام دنیا کو ایک نقطہ اتحاد پر جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ غرض خانہ کعبہ ہی حقیقی اور کامل گھر ہے جس میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک گھر میں پائی جانی چاہئیں۔

مَثَابَةٌ لِّلنَّاسِ: مَثَابَةٌ کے معنی تفرقہ کے بعد اکٹھے ہونے کی جگہ کے ہیں اس میں بتایا کہ بیت اللہ کا قیام اس لئے عمل میں آیا ہے کہ ساری دنیا کو ایک مرکز پر جمع کر دیا جائے اور وہ لوگ جو متفرق ہو چکے ہیں اس گھر کے ذریعہ پھر اکٹھے کر دیئے جائیں۔ یعنی ایک عالمگیر مذہب کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور ساری دنیا کو یہ گھر جمع کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مختلف انبیاء نے اپنے اپنے زمانہ میں اتحاد پیدا کیا ہے۔ مگر جہاں وہ ایک ایک قوم کے درمیان اتحاد پیدا کرتے وہاں وہ دنیا میں اختلاف بھی پیدا کرتے تھے۔ جیسے بنی اسرائیل کے لئے ضروری تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں۔ حضرت کرشن کے تبعین کے لئے ضروری تھا کہ وہ اُن کے پیچھے چلیں۔ ایرانیوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ زرتشت کے پیچھے چلیں۔ اس طرح اگر انہوں نے ایک طرف اپنی اپنی قوم میں اتحاد پیدا کیا تو دوسری طرف مختلف ممالک کے درمیان اختلاف بھی پیدا کر دیا۔ یہ صرف خانہ کعبہ ہی ہے جسے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ تمام قوموں کو ایک مرکز پر جمع کرنے والا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ فرمایا کہ آپ ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دعویٰ فرمایا کہ تمام متفرق قوموں اور جماعتوں کو میرے ذریعے دین واحد پر اکٹھا کر دیا جائے گا۔ دیکھو کس عجیب رنگ میں اور کس شان و شوکت سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ آخر مختلف اقوام عالم کے ایک جگہ جمع کر دینے کی خبر سوائے خدا کے اور کون دے سکتا تھا اور آئندہ جو کچھ مقدر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے ذریعے سب قوموں کو اکٹھا کر دے گا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اشرار چوہڑوں اور چماروں کی طرح رہ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں:

”شیطان نے آدم کو مارنے کا منصوبہ کیا تھا اور اس کا استیصال چاہا تھا پھر شیطان نے خدا سے مہلت چاہی اور اُس کو مہلت دی گئی۔ اِلٰی وَقْتٍ مَّعْلُوْمٍ (یعنی ایک معلوم وقت تک) بسبب اس مہلت کے کسی نبی نے اس کو قتل نہ کیا۔ اُس کے قتل کا وقت ایک ہی مقرر تھا کہ وہ مسیح موعود کے ہاتھ سے قتل ہو۔ اب تک وہ ڈاکوؤں کی طرح پھرتا رہا۔ لیکن اب اُس کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اب تک اختیار کی قلت اور اشرار کی کثرت تھی۔ لیکن شیطان ہلاک ہوگا اور اختیار کی کثرت ہوگی اور اشرار چوہڑے چماروں کی طرح ذلیل بطور نمونہ کے رہ جائیں گے۔“

میرے نزدیک اس پیشگوئی کے کامل طور پر پورے ہونے کا زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہی ہے۔ کیونکہ بنو اسحاق اور بنو اسماعیل دونوں کی شاخیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود میں آخزل گئی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرہ سو سال کے بعد یہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے اور یورپ امریکہ افریقہ آسٹریلیا ہندوستان اور دیگر ممالک کے باشندے یعنی چینی جاوی ساٹری ایرانی عیسائی ہندو مغل پٹھان راجپوت غرضیکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ اسلام اور احمدیت کو قبول کر رہے ہیں۔ اور یہ پیشگوئی سچی ثابت ہو رہی ہے کہ بیت اللہ کو ہم نے متفرق لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

اٰمَنَّا دوسری پیشگوئی یہ فرمائی کہ (۱) یہ مقام امن والا ہوگا۔ یعنی اسے دوسروں سے ہمیشہ محفوظ رکھا جائے گا۔ (۲) یہ مقام لوگوں کو امن دینے والا ہوگا۔ اور چونکہ حقیقی امن اطمینان قلب سے حاصل ہوتا ہے اس لئے اٰمَنَّا کے تیسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اطمینان قلب بخشنے والا۔ اطمینان قلب کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے باہر انسان کو اطمینان قلب کہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ اسلام دلیل سے اپنی بات منواتا ہے جبکہ دوسرے مذاہب دلیل کی بجائے جبر اور تحکم سے کام لیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جو شخص بغیر دلیل کے کوئی بات مانتا ہے اس کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرواتا ہے کہ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اٰنَا وَّمِنَ النَّبِيِّ (یوسف: ۱۰۹) یعنی میں جس تعلیم کو پیش کرتا ہوں۔ اُسے دلائل سے مانتا ہوں اور میرے تابعین بھی اسے دلائل سے مانتے ہیں۔ پس میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ تم کہتے ہو کہ فلاں بات مان لو ورنہ جہنم میں جاؤ گے لیکن میں جو کہتا ہوں اس کے ساتھ اس کی معقولیت کی دلیل بھی دیتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔

پھر اطمینان قلب کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ مشاہدہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہو جانا ہے۔ اگر یہ بات کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اُسے کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی۔ اسلام خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والوں کو اس کی بھی خوشخبری دیتا ہے اور فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي۔ وَادْخُلِي جَنَّاتِي۔ (الفجر: ۲۸ تا ۳۱) یعنی اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹ کہ تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش۔ پس آ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ آ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یوں تو سب مذاہب کے پیرو کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے مطابق عمل کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ مگر اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہیں صرف مرنے کے بعد جنت ملے گی بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اسی دنیا میں تمہیں خدا دکھا دیتا ہوں جو

اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میں حق پر ہوں۔ وہ فرماتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ أَعْيُنُهُمُ الْمَلَائِكَةُ آتِيَهُمْ الْأَنْخَالُ وَالْوَجْهُوا بِالْبَشَرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ تَوَاعَدُونَ (حج السجدة: ۳۱) یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر مستقل مزاجی سے اس عقیدہ پر قائم ہو گئے اُن پر ملائکہ یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ کسی پچھلی کوتاہی کا غم کرو اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ۔ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

غرض اسلام طمینان قلب پیدا کرنے کا مدعی ہے جبکہ اور کوئی مذہب اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔

اَمْنًا کے دوسرے معنی امن میں آنے والے کے ہیں۔ یہ معنی بھی خانہ کعبہ پر چسپاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ دشمنوں کے بار بار کے منصوبوں کے باوجود یہ مقام خدا تعالیٰ کی مدد سے محفوظ چلا آتا ہے حکومتوں کے بعد حکومتیں بدلیں اور ملکوں کے بعد ملک برباد ہوئے لیکن بیت اللہ دشمنوں کے حملوں سے محفوظ اور مقام امن ہی رہا۔ پھر دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کا معبد ہمیشہ اس کے قبضے میں رہا ہو۔ صرف اہل اسلام کا مقدس معبد ہمیشہ سے اس کے قبضہ میں رہا ہے۔ یروشلم جو یہودیوں اور مسیحیوں کا متبرک مقام ہے ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ ہردوار اور بنارس جو ہندوؤں کے متبرک مقامات ہیں چھ سات سو سال تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہے اور پھر انگریزوں کے قبضہ میں چلے گئے۔ اسی طرح گیا جو بدھوں کا متبرک مقام ہے پہلے مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ پھر انگریز اس پر قابض ہوئے اور اب ہندوؤں کا اس پر قبضہ ہے یہی حال جینیوں کا ہے۔ ان کے معبد کبھی کسی کے قبضہ میں رہے اور کبھی کسی کے قبضہ میں۔ مگر خانہ کعبہ صرف مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہا اور کبھی کوئی غیر حکومت اُسے اپنے قبضہ میں لینے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ پس یہ ہمیشہ مقام امن ہی رہا۔

امن دینے کے لحاظ سے جو خانہ کعبہ کو خصوصیت حاصل ہے اس کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ وہاں ہر چیز کو امن حاصل ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کو بھی امن حاصل ہے اور ان کا شکار منع ہے بلکہ درختوں کا کاٹنا تک منع ہے۔ سوائے اذخر گھاس کے۔ انسانوں کو یہ امن حاصل ہے کہ حد و حرم میں لڑائی ممنوع ہے (بخاری کتاب المغازی باب ۵۴ مقام النبی بمکة زمن الفتح)۔ اور پھر انسان کو تقویٰ اور روحانیت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ وہ مزید براں ہے۔ مگر تعجب ہے کہ وہی گھر جسے خدا نے امن دینے والا قرار دیا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ایسے جہاد کے قائل ہیں جو دنیا میں کسی کو پناہ نہیں دیتا یہ عجیب تماشا ہے کہ جس مذہب کو امن والا کہا گیا تھا اسی کو فساد والا قرار دیا جاتا ہے اور اس طرح اضداد کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ

ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ وہ اپنے اندر امن کی تعلیم رکھتا ہے۔ اور دوسروں کو بھی امن دیتا ہے اور اسی مقصد کیلئے خانہ کعبہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔

غرض فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو۔ جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کیلئے مثابہ بنایا۔ یعنی تمام دنیا کیلئے نسل اور قومیت کے امتیاز کے بغیر اور ملک اور زبان کے امتیاز کے بغیر اس کے دروازے کھل رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح مثابہ اس منڈیر کو بھی کہتے ہیں جو کنوئیں کے ارد گرد بنائی جاتی ہے اور جس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ جب زور کی ہوا چلے تو کوڑا کرکٹ اور گوبر وغیرہ اڑ کر اندر نہ چلا جائے۔ یا کوئی اور گندی چیز کنوئیں کے پانی کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح منڈیر سے یہ غرض بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص غلطی سے کنوئیں میں نہ گر جائے۔ غرض منڈیر کا مقصد کنوئیں کو بُری چیزوں اور لوگوں کو گرنے سے بچانا ہوتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو ایک تو اس غرض کے لئے بنایا ہے کہ دنیا کے چاروں طرف سے لوگ اس جگہ آئیں اور یہاں آ کر دینی تربیت اور اعلیٰ اخلاق حاصل کریں۔ اور دوسرے ہم نے خانہ کعبہ کو اس لئے بنایا ہے تاکہ وہ دنیا کیلئے منڈیر کا کام دے اور ہر قسم کی برائیوں اور شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ تیسرے ہم نے اسے امن کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ گویا جس طرح قلعہ اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ فوج وہاں جمع ہو کر اپنے نظام کو مضبوط کر سکے اسی طرح خدا تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کا مقام بنایا ہے۔ اور جس طرح قلعہ کی یہ غرض ہوتی ہے کہ ناپسندیدہ عناصر اندر نہ آسکیں اسی طرح بیت اللہ کو خدا نے منڈیر بنایا ہے تاکہ غیر پسندیدہ عناصر اس سے دُور رہیں۔ پھر قلعہ کی تیسری غرض ارد گرد کے علاقہ کی حفاظت کر کے امن قائم رکھنا ہوتی ہے۔ یہ غرض بھی بیت اللہ میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آہٹاً کہہ کر اسی امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ اسے قیام امن کیلئے بنایا گیا ہے۔ گویا بیت اللہ نظام کے قیام کا مرکز بھی ہے۔ غیر پسندیدہ عناصر کو دُور کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور دنیا کے امن کے قیام کا سبب بھی ہے۔

وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ رَبِّهِمْ مَوْجِدًا وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ رَبِّهِمْ مَوْجِدًا وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ رَبِّهِمْ مَوْجِدًا وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ رَبِّهِمْ مَوْجِدًا

سے پہلے قُلْنَا يَا آهْرُؤُا مَخْرُوف ہے اور مراد یہ ہے کہ ہم نے کہا یا ہم نے حکم دیا کہ تم شدت کے ساتھ مقام ابراہیم کو عبادت گاہ بناؤ۔ یا جہاں انہوں نے خانہ کعبہ کو بنانے کیلئے قیام کیا تھا اس میں سے کسی جگہ نماز پڑھو۔ یا یہ کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر یعنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے تم بھی طواف کے بعد اس شکر یہ میں کہ خدا نے اس گھر کو دنیا کے جمع کرنے اور امن کو قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے نماز پڑھو۔

مقام ابراہیم کعبہ کے پاس ایک خاص جگہ ہے۔ جہاں طواف بیت اللہ کے بعد مسلمانوں کو دو سنتیں پڑھنے کا

حکم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد اس جگہ شکرانہ کے طور پر نماز پڑھی تھی اور اس سنت کو جاری رکھنے کیلئے وہاں دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں۔ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیً میں جس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت اور فرمانبرداری کے جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تم بھی اسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ لوگ غلطی سے مقام ابراہیم سے مراد صرف جسمانی مقام سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم کا اصل مقام وہ مقام اخلاص اور مقام تقویٰ تھا جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور اسی رنگ میں دین کیلئے قربانیاں بجالاؤ جس رنگ میں ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور جس رنگ میں ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کیلئے قربانیاں کیں۔ پس یہاں مقام ابراہیم سے مراد کوئی جسمانی مقام نہیں بلکہ روحانی مقام مراد ہے۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں۔ کہ تم نے میرے مقام کو نہیں پہچانا۔ اب اگر کوئی شخص یہ الفاظ کہے تو دوسرا شخص یہ نہیں کہتا کہ اُسے دھکا دے کر پرے پھینک دے اور کہے کہ تم جس مقام پر کھڑے تھے وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے۔ ہمیشہ ایسے الفاظ سے درجہ کی بلندی مراد ہوتی ہے۔ پس وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیً کے یہی معنی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس اخلاص اور جس محبت اور جس تقویٰ اور جس انابت الی اللہ سے نیکیوں میں حصہ لیا تھا تم بھی اسی مقام پر کھڑے ہو کر ان نیکیوں میں حصہ لو تا کہ تمہیں بھی ابراہیمی مقام حاصل ہو۔ اگر مقام ابراہیم کو مصطلیٰ بنانے کے یہی معنی ہوں کہ ہر شخص اُن کے مصطلیٰ پر جا کر کھڑا ہو۔ تو یہ تو قطعی طور پر ناممکن ہے۔ اول تو یہ جھگڑا رہتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی تھی یا وہاں۔ اور اگر بالفرض یہ یقینی طور پر پتہ لگ بھی جاتا کہ انہوں نے کہاں نماز پڑھی تھی تو بھی ساری دنیا کے مسلمان وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صرف حج میں ایک لاکھ سے زیادہ حاجی شامل ہوتے ہیں۔ اگر جلدی جلدی بھی نماز پڑھی جائے۔ تب بھی ایک شخص کی نماز پر دو منٹ صرف آئینکے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک گھنٹہ میں تیس اور چوبیس گھنٹہ میں سات سو بیس آدمی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ باقی جو ۹۹۲۸۰ رہ جائیں گے وہ کیا کریں گے اور باقی مسلم دنیا کے لئے تو کوئی صورت ہی ناممکن ہوگی۔ پس اگر اس حکم کو ظاہر پر محمول کیا جائے تو اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ایسی صورت میں فسادات کا بھی احتمال رہتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ تو محض اسی جھگڑے کی وجہ سے مکہ میں ایک قتل بھی ہو گیا تھا۔ پس اس آیت کے یہ معنی نہیں۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام اخلاص پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی تم بھی اسی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔

پھر اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اور یہ ہدایت دی ہے کہ تمہارا بھی ایک امام ہونا چاہیے تاکہ اس طرح سنتِ ابراہیمی تم میں زندہ رہے۔ درحقیقت ان دونوں آیات میں دو امامتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ۔ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ اے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ وَجَدْتُ بَیْتِیْ اے خدا! میری ذریت کو بھی اس مقام سے سرفراز فرما۔ کیونکہ اگر میں مر گیا تو کام کس طرح چلے گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے تو ظالم بھی ہونے والے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں کے سپرد یہ کام کیا جائے۔ ہاں ہم تمہاری اولاد کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ سنتِ ابراہیمی کو ہمیشہ قائم رکھیں جو لوگ ایسا کریں گے ہم ان میں سے امام بناتے جائیں گے اور وہ خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ انعامات سے حصہ لیتے چلے جائیں گے۔ پس اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو امامتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک امامتِ نبوت کا جو خدا تعالیٰ کی طرف براہِ راست ملتی ہے اور دوسری امامتِ خلافت کا جس میں بندوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اور جس کی طرف وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِرِ اِبْرٰہِیْمَ مَصَلٰی میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور بنی نوع انسان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب امامتِ نبوت نہ ہو تو ان کا فرض ہے کہ وہ امامتِ خلافت کو اپنے اندر قائم رکھیں۔

پھر وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِرِ اِبْرٰہِیْمَ مَصَلٰی میں دنیا کے تمام اہم مقامات اور شہروں میں ایسے تبلیغی مراکز قائم کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو خانہ کعبہ کی ظلیت میں اشاعتِ اسلام کے مراکز ہوں اور جہاں بیٹھ کر عبادتِ الہی کو قائم کیا جائے اور توحید کی اشاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو مخاطب کرتا اور انہیں فرماتا ہے کہ اے لوگو جو خانہ کعبہ کے شیدائی بننے ہو۔ جو بیت اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ تم ہر ایک چیز جو تمہیں پسند آتی ہے اس کی تصویر اپنے گھروں میں رکھنا پسند کرتے ہو۔ اگر کوئی پھل تمہیں پسند ہو تو تم اُسے اپنے گھر لاتے اور اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہو۔ جب تم بازار میں خر بوزہ دیکھ کر اُسے اپنے گھر میں لاتے ہو جب تم کسی اچھے نظارہ کو دیکھتے ہو تو اس کی تصویر کھینچتے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی دکھاتے ہو تو کیا وجہ ہے کیا سبب ہے، اور اس میں کونسی معقولیت ہے کہ تم اپنے مونہوں سے تو خانہ کعبہ کی تعریفیں کرتے ہو۔ اپنے مونہوں سے تو خانہ کعبہ کے احترام کا اظہار کرتے ہو لیکن تم ایک خر بوزے کو تو گھر میں لانے کی کوشش کرتے ہو۔ تم تاج محل کو دیکھتے ہو تو اس کی تصویر لینے کی کوشش کرتے ہو مگر تم خانہ کعبہ کے ظل کو اپنے ملک اور اپنے علاقہ میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔

خانہ کعبہ کیا ہے؟ ایک گھر ہے جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے وقف ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ساری دنیا کے انسان خانہ کعبہ میں نہیں جاسکتے۔ پس جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ابراہیمؑ کی نقلیں دنیا میں پیدا ہوں اسی طرح وہ یہ بھی

چاہتا ہے کہ تم خانہ کعبہ کی نقلیں بناؤ جس میں تم اور تمہاری اولادیں اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لئے وقف کر کے بیٹھ جائیں۔ جس طرح وہ لوگ جو ابراہیمؑ کے نمونہ پر چلیں گے۔ ابراہیمؑ کی اولاد اور اس کا ظلّ ہوں گے۔ اسی طرح یہ نقلیں خانہ کعبہ کی اولاد ہوں گی۔ خانہ کعبہ کی ظلّ اور اس کا نمونہ ہوں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک خانہ کعبہ کے ظلّ دنیا کے گوشہ گوشہ میں قائم نہ کر دیئے جائیں اُس وقت تک دین کبھی پھیل ہی نہیں سکتا۔ پس فرماتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِنَ مَقَابِرِ اِبْرٰهٖمَ هُصُلًا اے بنی نوع انسان! ہم تم کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ابراہیمی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرو یعنی ایسی مراکز بناؤ جو دین کی اشاعت کا کام دیں کیونکہ اس کے بغیر اسلام کی کامل اشاعت کبھی نہیں ہو سکتی۔

وَ عٰهَدْنَا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعٖلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّٰلِفِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُرْتَدِّ اِلٰى كٰفِرِيْنَ اب بتاتا ہے کہ وہ مقام ابراہیمؑ کیا چیز ہے؟ فرماتا ہے۔ وَ عٰهَدْنَا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعٖلَ اور ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کو بڑی پکی نصیحت کی تھی۔ عہدِ یہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے فلاں کے ساتھ عہد کیا۔ لیکن عہد کے ساتھ جب اِلیٰ کا صلہ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پکی نصیحت کرنا یا وصیت کرنا پس فرماتا ہے وَ عٰهَدْنَا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعٖلَ ہم نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کو بار بار نصیحت کی تھی اور بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی اور تاکید کر دی کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو اور اسے ہر قسم کے عیبوں اور خرابیوں سے بچاؤ۔ لِلطَّٰلِفِيْنَ ان لوگوں کے لئے جو اس کے ارد گرد طواف کر نیوالے ہیں یا ان لوگوں کے لئے جو اس جگہ بار بار آنے والے ہیں۔ وَ الْكٰفِرِيْنَ اور ان لوگوں کے لئے جو اے کاف کے لئے آئیں یا اپنی زندگی وقف کر کے یہیں بیٹھ جائیں۔ طائفین وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی آئیں اور کافین وہ ہیں جو اپنی زندگی اس گھر کے لئے وقف کر دیں۔ وَ الْمُرْتَدِّ اور ان لوگوں کے لئے جو خدا تعالیٰ کی توحید کے قیام کے لئے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری میں اپنی ساری زندگی خرچ کرتے ہیں یا ان لوگوں کے لئے جو رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اس جگہ رکوع و سجود سے ظاہری اور قلبی دونوں رکوع و سجود مراد ہیں۔ یعنی وَ الْمُرْتَدِّ اِلٰى كٰفِرِيْنَ سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کے حضور رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوں۔ اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنے والے ہوں اور جو اس کے کامل فرمانبردار ہوں۔ اسی طرح تطہیر کے بھی دونوں مفہوم ہیں اس سے مراد ظاہری صفائی بھی ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کو صاف رکھو اور اس میں عود وغیرہ جلاتے رہو اور اس سے باطنی صفائی بھی مراد ہو سکتی ہے یعنی مسجد کی حرمت کا خیال رکھو۔ اور اس میں بیٹھنے کے بعد لغویات سے کنارہ کش رہو۔ افسوس ہے کہ آجکل مساجد میں ذکر

الہی کرنے کی بجائے لوگ ادھر ادھر کی گپیں ہانکتے رہتے ہیں حالانکہ مسجدیں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں بیشک ضرورت محسوس ہونے پر مذہبی، سیاسی، قضائی اور تمدنی امور پر بھی مساجد میں گفتگو کی جاسکتی ہے لیکن مساجد میں بیٹھ کر گپیں ہانکنا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا سخت ناپسندیدہ امر ہے۔ نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بارہ میں محتاط رہنا چاہیے۔

كَلِمًا بَيِّنَاتٍ مِّنْ لَّدُنْكَ يُضَاهِيهَا كَلِمَاتُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَكَ بِمَا لَمْ يَكُنْ يَكُنِ لَكَ بِهِ شَيْءٌ مَّا يَحْتَمِلُونَ كَلِمَاتُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَكَ بِمَا لَمْ يَكُنْ يَكُنِ لَكَ بِهِ شَيْءٌ مَّا يَحْتَمِلُونَ

تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان جُتوں کو نکالو اور بیت اللہ کو پاک و صاف کرو۔ لغت کی رو سے بھی نجاست ظاہری اور باطنی دونوں کو دور کرنے کے لئے تطہیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی تطہیر کی اور تین سو ساٹھ بتوں سے اس کو پاک کر دیا (السيرة النبوية لابن هشام، ذکر فتح مكة)۔ آپ کا یہ فعل اسی وصیت کے مطابق تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کو فرمائی تھی کہ كَلِمًا بَيِّنَاتٍ لِّلظَّالِمِينَ وَ الْعَٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ سورۃ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی اور وہ ایسا وقت تھا کہ مسلمان مدینہ میں بھی محفوظ نہ تھے۔ مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام دنیا جو اس وقت متفرق ہے وہ اس مرکز پر جمع ہو جائے گی چنانچہ دیکھ لو۔ اب ساری دنیا سے لوگ حج کے لئے جاتے ہیں اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کی صداقت کا اور کیا نشان ہو سکتا ہے۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ اٰرْزُقْ

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ابراہیمؑ نے کہا تھا کہ اے میرے رب! اس (جگہ) کو ایک پُر امن شہر بنا دے اور

اٰهْلَهُ مِّنَ الشَّرْكِتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَّ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط

اس کے باشندوں میں سے جو بھی اللہ پر اور آنے والے دن پر ایمان لائیں انہیں (ہر قسم کے) پھل عطا فرما۔ (اس پر اللہ نے)

قَالَ وَّ مَنۢ كَفَرَ فَاٰمِتُّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْرَطُّهٗٓ اِلٰى عَذَابٍ

فرمایا۔ اور جو شخص کفر کرے اسے بھی میں تھوڑی مدت تک فائدہ پہنچاؤں گا پھر اسے مجبور کر کے دوزخ کے عذاب کی

النَّارِ ط وَبُسِّ البَصِيرِ ﴿۱۲۷﴾

طرف لے جاؤں گا اور (یہ) بہت برا انجام ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ - ثَمَرَاتٍ کا لفظ بالعموم نتائج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ثمرات تازہ بتازہ

پھلوں کو بھی کہتے ہیں۔

أَضْطَرُّهُ: اضْطَرُّهُ إِلَيْهِ کے معنے ہیں أَحْوَجُهُ وَأَلْبَاءُهُ إِلَيْهِ کسی چیز کو گھیر گھار کر اور مجبور کر کے ایک طرف

سے دوسری طرف لے جانا۔ (اقرب) اس لحاظ سے آیت کے معنے یہ ہیں کہ میں اُن کو گھیر گھار کر جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔

تفسیر۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو مرجعِ خلافت اور امنِ عالم کا گہوارہ بنایا ہے تو

حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے اور انہوں نے دُعا کی رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔

کہ اے خدا! تو نے جو یہ کہا ہے کہ طواف اور رکوع و سجود کرنے والے لوگ یہاں آئیں گے تو اس سے پتہ لگتا ہے

کہ یہاں آبادی ہوگی۔ پس میں تجھ سے دُعا کرتا ہوں کہ تو اس جگہ کو بَلَدًا آمِنًا بنا دے۔ یہاں کی آبادی خوب

بڑھے اور پھولے پھلے۔ اور یہ ایک پُر امن شہر ہو۔ فتنہ و فساد اور لڑائیوں کی آماجگاہ نہ ہو۔ جس وقت حضرت ابراہیم

علیہ السلام نے یہ دُعا کی تھی۔ اُس وقت مکہ کوئی شہر نہیں تھا۔ صرف چند جھونپڑیاں تھیں جو ایک بے آب و گیاہ وادی

میں نظر آتی تھیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دُعا یہ کی کہ یہ زمین جو ویران پڑی ہوئی ہے اسے ایک شہر

بنا دے۔ عام طور پر جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ اس کے یہ معنے کیا کرتے ہیں کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ حالانکہ اگر

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی منشا ہوتا تو آپ هَذَا بَلَدًا کہنے کی بجائے هَذَا الْبَلَدَ فرماتے مگر آپ هَذَا الْبَلَدَ

نہیں کہتے بلکہ هَذَا بَلَدًا آمِنًا کہتے ہیں۔ پس یہ شہر کے بنانے کی دُعا ہے شہر کو کچھ اور بنانے کی دُعا نہیں وہ فرماتے

ہیں رَبِّ اجْعَلْ هَذَا اے میرے رب بنا دے اس ویران زمین کو بَلَدًا ایک شہر آمِنًا مگر شہروں کے ساتھ فتنہ و فساد کا

بھی احتمال ہوتا ہے۔ جب لوگ مل کر رہتے ہیں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ فسادات بھی ہوتے

ہیں اور پھر شہروں کو فتح کرنے کے لئے حکومتیں بھی حملہ کرتی ہیں یا بعض شہر جب بڑے ہو جائیں تو اُن کے رہنے

والے اپنا نفوذ بڑھانے کے لئے دوسروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور چونکہ یہ سارے خدشات شہروں سے وابستہ ہوتے

ہیں اس لئے میں تجھ سے یہ دُعا کرتا ہوں کہ تو اسے امن والا بناؤ۔ نہ کوئی اس پر حملہ کرے اور نہ یہ کسی اور پر حملہ

کرے تاکہ خانہ کعبہ کے قیام کا جو مقصد ہے وہ صحیح رنگ میں پورا ہو سکے۔ گویا جس امن کی پیشگوئی خانہ کعبہ کے متعلق تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اس جگہ آباد ہونے والے شہر کی طرف بھی منتقل ہو جائے۔ درحقیقت خانہ کعبہ کی حرمت تو خدا تعالیٰ نے خود قائم فرمائی تھی مگر مکہ مکرمہ کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے قائم ہوئی۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ (بخاری کتاب الجہاد باب فضل الخدمۃ فی الغزوة)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دُعا میں مثابہ کا لفظ چھوڑ دیا ہے اور صرف امن کی دُعا مانگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک زائد دُعا کی ہے اور وہ یہ کہ اس گھر کے ساتھ ایک شہر بھی بن جائے اور وہ بھی امن والا ہو۔ اور محض کسی شہر میں آنا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا تھا اس لئے انہوں نے اس حصہ کو چھوڑ دیا کیونکہ عبادت اور ثواب صرف خانہ کعبہ سے تعلق رکھتا ہے مکہ سے نہیں۔ پس آپ نے مثابہ کو چھوڑ دیا اور امن کی دُعا کو لے لیا۔ جو خانہ کعبہ کے لئے بھی ضروری تھی اور اس کے ارد گرد آباد ہونے والوں کے لئے بھی ضروری تھی۔ اس دُعا سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے کلام کو پورا کرنے کے کس قدر حریص ہوتے ہیں اور وہ اس کے لئے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ نادانی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر فلاں الہام خدا تعالیٰ کا تھا تو مرزا صاحب نے اس کے پورا کرنے کی کیوں کوشش کی؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائی کلام کے پورا کرنے کے لئے اس کے معابعد دُعا میں کرنی شروع کر دیں حالانکہ جب خدا تعالیٰ فرما چکا تھا کہ اس گھر کو عاقبتین کے لئے صاف ستھرا رکھو۔ تو اس کے معنی یہ تھے کہ یہاں لوگ مقیم بھی ہوں گے اور باہر سے بھی آئیں گے۔ گویا اس لفظ میں ایک شہر بن جانے کی خبر دیدی گئی تھی۔ پھر جو بات خدا تعالیٰ پہلے ہی منظور کر چکا تھا اس کے متعلق دُعا کرنے کے کیا معنی تھے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ خدا تعالیٰ جو خبر دیتا ہے اس کے متعلق مومنوں کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اُسے پورا کرنے کی کوشش کریں اور ان کی طرف سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دُعا لیں کرتے ہیں کہ اُن کی غفلت کی وجہ سے وہ وعدہ ٹل نہ جائے۔ پھر دُعا کے ساتھ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری سامان مہیا کرتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ہاجرہؓ اور اسمعیل علیہ السلام وہاں بس گئے۔ اور زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا تو انہی دنوں وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پانی کا وافر انتظام ہے تو انہوں نے حضرت ہاجرہؓ سے وہاں سکونت اختیار کرنے کی اجازت لی۔ حضرت ہاجرہؓ نے اُن کی اس درخواست کو قبول فرمایا۔ اور انہیں وہاں پر رہائش کی اجازت دے دی (بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب یزفون

النسلان فی المشی)۔ یہ مکہ کی آبادی کی دوسری تدبیر تھی کہ قافلہ والوں کو رہائش کے لئے زمین دے دی گئی تاکہ وہ بات پوری ہو۔ جو خدا تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ ہم نے اس مقام کو مشابہ بنایا ہے۔ پس وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں بات کو پورا کرنے کی کیوں کوشش کی وہ درحقیقت کلام الہی کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے بندوں کا سب سے بڑا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کو پورا کرنے کے لئے اپنی طرف سے انتہائی کوشش کریں جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے خبر دی ہو اور کہا ہو کہ ایسا ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے تو یہ اعتراض صرف اس پیشگوئی پر ہی نہیں پڑے گا بلکہ ہر بات پر پڑے گا۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ۵۷) یعنی میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ کی بات پوری کرنے کے لئے کوئی تدبیر کرنا جائز نہیں تو لوگوں کو نمازوں کی تلقین بھی چھوڑ دینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خود لوگوں سے نمازیں پڑھو ایسا ہم اس کے لئے کیوں کوشش کریں۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ إِنْ أَنْعَمْنَا لِلدُّنْيَا وَالْآلِهَةِ لَخَافُظُونَ (الحجر: ۱۰) یعنی ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اگر یہ درست ہے کہ خدائی وعدوں کو پورا کرنے کے لئے کوشش نہیں کرنی چاہیے تو قرآن کریم کا حفظ کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کی بے حرمتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا چھاپنا بھی بند کر دینا چاہیے کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے پھر ہم اسے کیوں چھاپیں۔ غرض یہ ایک احمقانہ خیال ہے جسے کوئی معقول انسان تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔ بہر حال اس آیت سے یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کوئی بات کہے تو مومنوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اُسے پورا کرنے کے لئے ہر قسم کی تدابیر اور کوشش سے کام لیں اور اُس وقت تک صبر نہ کریں جب تک کہ خدا تعالیٰ کی بات پوری نہ ہو جائے۔

دوسرا امر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو ہمیشہ الہی منشاء کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ لَا يَنْتَهِى عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ یعنی تیری اولاد میں کچھ ظالم لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں جن سے میرا کوئی عہد نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی احتیاط دیکھو کہ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور جب مکہ والوں کے لئے دُعا کی تو عرض کیا کہ وَارْزُقْنِي أَهْلَكَ مِنَ الْبَرَكَاتِ مَنْ أَمَنَ وَنَهَهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یعنی اے خدا جو لوگ ان میں سے اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لائیں تو اپنے فضل سے انہیں ہر قسم کے پھل عطا فرما گو یا لَا يَنْتَهِى عَهْدِي الظَّالِمِينَ کی آواز سنتے ہی انہوں نے

منکرین توحید کو اپنی دعا سے خارج کر دیا اور صرف اُن لوگوں تک اپنی دعا کو محدود کر دیا جو خدا اور یومِ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں اور دُعایہ کی کہ **وَإِذْ نُنِي أَهْلَهُ مِنْ النَّمْرُوتِ** یعنی اے خدا میں تجھ سے ان کے لئے جمعرات کی روٹی نہیں مانگتا۔ میں تجھ سے اُن کے لئے چاول نہیں مانگتا۔ میں تجھ سے ان کے لئے زردہ اور پلاؤ نہیں مانگتا بلکہ میں یہ مانگتا ہوں کہ یہ جگہ جہاں گھاس کی ایک پتی بھی پیدا نہیں ہوتی اس جگہ دنیا بھر کے میوے آئیں اور یہ اُن میووں کو یہاں بیٹھ کر رکھائیں۔ تو روٹی دیکھا تو میں نہیں مانوں گا کہ تو نے اپنی خدائی کا ثبوت دیا۔ تو زردہ اور پلاؤ کھلائے گا تو میں نہیں مانوں گا کہ تو نے اپنی خدائی کا ثبوت دیا ہے۔ میں تیری خدائی کا ثبوت تب مانوں گا جب یہ مکہ میں بیٹھ کر چین اور جاپان اور یورپ اور امریکہ کے میوے کھائیں تب میں تسلیم کروں گا کہ تو نے اپنی خدائی کا ثبوت دے دیا ہے میں نے بندہ ہو کر ایک انتہائی قربانی کی ہے۔ اب اے خدا میں تیری خدائی کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ بھی اس رنگ میں کہ اس وادی غیر ذی زرع میں دنیا کا ہر بہترین پھل تو انہیں پہنچا۔ خدا تعالیٰ نے ابراہیمؑ کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اور اس نے کہا اے ابراہیمؑ! تو نے اپنی اولاد کو ایک وادی غیر ذی زرع میں لا کر بسایا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے اب تو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے۔ تو نے کہا ہے کہ میں نے ایک عاجز بندہ ہو کر اپنی بندگی کا ثبوت دیا۔ اب اے خدا تو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے۔ اور تو نے ثبوت یہ مانگا ہے کہ یہ نہ کمائیں بلکہ بنی نوع انسان کمائیں اور انہیں کھلائیں۔ اور کھلائیں بھی معمولی چیزیں نہیں بلکہ دنیا بھر کے میوے ان کے پاس پہنچیں۔ میں تیرے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور میں اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اُگتی تجھے ایسا ہی کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے حج کے موقعہ پر خود اس کا تجربہ کیا ہے میں نے مکہ مکرمہ میں ہندوستان کے گئے دیکھے ہیں۔ میں نے مکہ مکرمہ میں طائف کے انگو رکھائے ہیں۔ میں نے مکہ مکرمہ میں اعلیٰ درجہ کے انار کھائے ہیں۔ گتے کے متعلق تو مجھے یاد نہیں کہ میری طبیعت پر اس کے متعلق کیا اثر تھا لیکن انگوروں اور اناروں کے متعلق میں شہادت دے سکتا ہوں کہ ویسے اعلیٰ درجہ کے انگور اور انار میں نے اور کہیں نہیں کھائے۔ میں یورپ بھی گیا ہوں۔ میں شام بھی گیا ہوں۔ میں فلسطین بھی گیا ہوں۔ اٹلی کا ملک انگوروں کے لئے بہت مشہور ہے۔ یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ بہترین انگور اٹلی میں ہوتے ہیں۔ مگر میں نے اٹلی کے لوگوں سے کہا کہ مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں ابراہیمی پیٹنگوٹی کے ماتحت جو انگور میں نے کھائے ہیں وہ اٹلی کے انگوروں سے بہت زیادہ میٹھے اور بہت زیادہ لذیذ تھے۔ ہمارے ارد گرد قندھار، کوئٹہ اور کابل کا انار مشہور ہے۔ مگر میں نے جو موٹا سرخ شیریں اور لذیذ انار مکہ میں کھایا ہے اس کا سینکڑوں حصہ بھی قندھار اور کوئٹہ اور کابل کا انار نہیں۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔

اے خدا میں نے اپنی بندگی کا انتہائی ثبوت دے دیا ہے۔ اب تجھ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے اور وہ ثبوت میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ یہ نہ کمائیں بلکہ لوگ کما کر ان کے پاس لائیں اور لائیں بھی معمولی چیزیں نہیں بلکہ دنیا بھر کے بہترین پھل اور میوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَارْزُقْ أَهْلَكَ مِنَ الْبَرَكَاتِ کی دُعا مانگ کر درحقیقت مکہ والوں کے لئے انتہا درجہ کے ترقہ کے لئے دعا کر دی۔ کیونکہ مکہ میں ثمرات کا مہیا ہونا ناممکن تھا۔ وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھلوں کا دُور سے آنا ناممکن تھا۔ کیونکہ ثمرات کا تازہ بتازہ اور عمدہ ہونا ضروری ہوتا ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دُعا کی کہ الہی یہ لوگ ان چیزوں سے بھی محروم نہ ہوں تاکہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم ان ثمرات سے اس وجہ سے محروم ہیں کہ ہم دنیا سے کٹ کر صرف اس گھر کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ پس ایسی نازک اشیاء بھی یہاں پہنچ جائیں تاکہ دنیا پر حجت ہو کہ خدا تعالیٰ نے جنگل میں منگل کر دیا۔ چنانچہ اس ابراہیمی دعا کی برکت سے ہر قسم کا تازہ بتازہ پھل مکہ والوں کو میسر آ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ میں نے خود حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نہایت شیریں انار دیکھے ہیں اور انکو ایسے اعلیٰ درجہ کے کھائے ہیں کہ اٹلی اور فرانس کا انکو اس کے مقابلہ میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کالبلی انکو کے مقابلہ پر پنجابی انکو۔ غرضیکہ تمام اعلیٰ درجہ کی چیزیں مکہ میں میسر آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ حج کے موقع پر گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بزرگ نے خواہش کی کہ اگر برف ہوتی تو میں سٹو پیٹا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ الہی یہ تیرا گھر ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ میں یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کا رزق عطا کروں گا۔ سو تو اپنے فضل سے میرے لئے برف مہیا فرما دے۔ خدا تعالیٰ نے اولے برسادیئے جو لوگوں نے جمع کر لئے اور انہوں نے برف ڈال کر سٹو پیٹے۔

غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو لوگ یہاں رہیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خیال کریں کہ ہم خدا تعالیٰ کے گھر کی خدمت کی وجہ سے ان نعمتوں سے جو دوسروں کو میسر ہیں محروم ہو گئے ہیں اس لئے اے خدا تو انہیں ہر قسم کے اعلیٰ درجہ کے پھل کھلا۔ اور انہیں اپنے انعامات سے متمتع فرما تاکہ ان کو یہ نظر نہ آئے کہ ہم اس گھر کے لئے قربانیاں کر رہے ہیں بلکہ یہ نظر آئے کہ ہمیں خدا تعالیٰ اپنے انعامات سے حصہ دے رہا ہے۔ یہاں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے آرام کے لئے دعائیں مانگی ہیں لیکن درحقیقت انہوں نے خدا تعالیٰ کی غیرت بھڑکانے کے لئے یہ دعائیں کی ہیں چونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ طَهِّرْنَا بَيْتِنَا۔ اس لئے ان کے دل میں خیال آیا کہ آئندہ آنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں اور ایک بے آب و گیاہ جگہ میں آ کر خدا تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ محسوس کریں کہ خدا تعالیٰ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ اس لئے

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت احتیاط سے دعا کی اور کہا کہ الٰہی تو صرف اُن کو ثمرات عطا فرما جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ غالباً آپ کا منشاء یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھوک و غیرہ سے تنگ آ کر خود ہی مکہ سے نکل جائیں اور اس طرح یہ مقام ہمیشہ کے لئے خدا تعالیٰ کے پاک بندوں سے آباد رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملہ میں اس تخصیص کو پسند نہ فرمایا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مِنَ الثَّمَرَاتِ کیوں کہا؟ آخر میووں سے تو کوئی نہیں جیتا۔ روٹی سے انسان زندہ رہتا ہے مگر انہوں نے روٹی نہیں مانگی بلکہ پھل مانگا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ وہ مقام ہے جہاں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی تھی اور باہر سے بھی سخت چیزیں تو وہاں پہنچ جاتی تھیں لیکن نازک چیزیں وہاں پہنچتے پہنچتے گل سڑ جاتی تھیں۔ پس انہوں نے روٹی مانگنے کی بجائے پھل مانگے جو ایک نہایت نازک چیز ہے اور سمجھا کہ جب میوے آجائیں گے تو اور چیزیں تو خود بخود آجائیں گی۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے وہاں ہر ملک کے میوے ملتے ہیں۔ پس میوے ملنے سے مراد یہ ہے کہ انکو میوے بھی مل جائیں اور باقی اشیاء بھی مل جائیں۔ گو یا میووں میں ہی باقی اشیاء کا ذکر آجاتا ہے۔

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ قَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کے معاملہ میں ہمارا اور حکم ہے اور نبوت اور امامت کے معاملہ میں اور حکم ہے۔ نبوت اور امامت صرف نیک لوگوں کو ملتی ہے مگر رزق ہر ایک کو ملتا ہے پس جو کافر ہوگا دنیا کی روزی ہم اس کو بھی دیں گے چنانچہ سینکڑوں سال تک مکہ کے لوگ مشرک رہے مگر خدائی رزق ان کو بھی پہنچتا رہا ہاں تیری نسل ہونے کی وجہ سے وہ آخری عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ مر جائیں گے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔

اس جگہ اُمْتِعُهُ قَلِيلًا سے صرف چند دنوں کا رزق مراد نہیں بلکہ اس سے دنیوی نفع مراد ہے جو مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ کا مصداق ہوتا ہے۔ مَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ میں یا تو فناء زندہ ہے یا مرنے کی خبر مخدوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے کہ اَرْزُقُهُ فَأُمْتِعُهُ یعنی میں اُسے رزق بھی دوں گا اور اس کے علاوہ ہر قسم کی دوسری منفعت بھی اُسے پہنچتی رہے گی۔ مگر روحانی فوائد جب تک کوئی شخص انبیاء سے تعلق نہیں رکھے گا اُسے نہیں ملیں گے۔ گو یا اس جگہ فاء عطف کے لئے ہے۔

تورات میں اس دعا کا کہیں ذکر نہیں آتا کیونکہ یہود نے بنو اسماعیل کی دشمنی کی وجہ سے تورات سے مکہ کا ذکر ہی اڑا دیا ہے۔ البتہ خانہ کعبہ کا ذکر اُس میں بعض جگہ مل جاتا ہے۔

اس آیت سے یہ استدلال بھی ہوتا ہے جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بڑا زور دیا کرتے تھے۔ کہ انبیاء کے انکار کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا بلکہ عذاب محض شرارت اور فساد کی وجہ سے آتا۔ اگر لوگ تقویٰ کی زندگی بسر کریں تو محض انبیاء کے انکار کی وجہ سے اس دنیا میں اُن پر عذاب نہیں آسکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جسم و روح سے مرکب ہے وہ جسمانی اطاعت کے ساتھ جسمانی دنیا میں سکھ پالیتا ہے۔ لیکن جب خالص روحانی دنیا آتی ہے تو چونکہ اس نے اس زندگی کا کام نہیں کیا ہوتا اس لئے وہاں اُسے تکلیف پہنچتی ہے مَنْ كَفَرَ فَأُمْتِحْهُ قَلْبًا مِّنَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ نَعْمَ دُنْيَا مَن قَامَ كَرْنِ كَا يَهِيَا هِيَا اَعْلَىٰ دَرَجَةٍ كَا ذَرِيْعَةً بِنَا يَا هِيَا كَمَا اَخْتَلَفَ مَذْهَبُ دُنْيَوِي تَعْلَقَاتِ كُو تُوْرُ دِيْنِ كَا مَوْجِبُ نَهِيْنِ هُوْنَا چَا يِيْءِ۔ اگَر دُنْيَا اِس پَر عَمَلِ كَرِيْ اُوْر فَتْنَه وَ فِسَادِ مِيْنِ حَصَه نَه لِيْ تُو تَمَامِ مَذْهَبِي جَهْلُوْرِيْ اُوْر فِسَادَاتِ مِثْ سَكْتِيْ هِيْنِ۔

ثُمَّ اَضْطَرُّوْا اِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فَاُمْتِحْهُ قَلْبًا سے مراد کچھ دن نہیں بلکہ دنیوی زندگی ہے کیونکہ یہاں فرماتا ہے میں انہیں مضطر کر کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ اور عذاب کی طرف انسان موت کے بعد ہی جاسکتا ہے۔ بہر حال خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کوئی جگہ انکی پناہ کے لئے نہیں رہے گی۔ وہ ایک ہی جگہ لیجائے جائیں گے اور وہ عذاب کی جگہ ہوگی اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔ گھیر گھار کر اور مجبور کر کے لے جانا اپنے اندر ایک حکمت رکھتا ہے۔ بظاہر اس کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجبور کر کے عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب انسان متواتر کوئی بُرا کام کرتا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کی نیکی کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور وہ بدیوں کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ کہا کرتے ہیں کہ نیکی کا کیا ہے وہ تو ہم جب چاہیں کر سکتے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں۔ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ گناہ کوئی مفرد چیز نہیں بلکہ وہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک بیج درخت پیدا کر دیتا ہے اور پھر اس سے آگے اور درخت پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح ہر گناہ اپنے ظہور کے بعد اور گناہ پیدا کرتا ہے۔ یہی حال نیکی کا ہے۔ ہر نیکی اپنے ظہور کے بعد اور نیکیاں پیدا کرتی ہے۔

خدا تعالیٰ کا رحیم ہونا نیکیوں کے بڑھانے پر دلالت کرتا ہے اور اس کا قہار ہونا بدیوں کے بڑھانے پر دلالت کرتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ انسان کو بدی پر مجبور کرتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ متواتر بدیوں کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو ایسے مقام پر پاتا ہے جس سے اگر وہ بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا۔ پس اَضْطَرُّوْا مِيْنِ اِنْسَانِ كُو مَا يُوْنِ كَرْنَا مَرْدُوْنِيْنِ بَلْ كَمَا اِس مِيْنِ يِيْ بِنَا يَا گِيَا هِيَا كَمَا اِنْسَانِ كُو بَدِيُوْنِ سِيْ بِيْجِ كَر رِهْنَا چَا يِيْءِ۔ ورنہ اس پر ایسی حالت

طاری ہو جائیگی کہ وہ بدیوں کی طرف کھینچا چلا جائے گا اور اس کا پیچھے قدم ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ جب انسان کسی بدی میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کے لئے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پس اس میں کسی جبر کی طرف اشارہ نہیں بلکہ احتیاط کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ چنانچہ آگے فرماتا ہے وَبِئْسَ الْهَبْدِيُّ - اگر مجبور کرنا مراد ہوتا ہے تو بِئْسَ الْهَبْدِيُّ کہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ الفاظ اس لئے لائے گئے ہیں کہ انسان کو توجہ دلائی جائے کہ اُسے اس بارہ میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور بدی کے ارتکاب سے بچنا چاہئے ورنہ اس کے اندر بدی کے لئے ایک اضطراب کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہی حالت انسان کے دوسرے افعال میں بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی بعض دفعہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی حرکت چند بار کی اور پھر انہیں اس کی عادت پڑ گئی۔ اسی طرح نیکی اور بدی دونوں کی ابتداء انسان کے اپنے اختیار سے ہوتی ہے مگر انتہاء اضطراب پر ہوتی ہے۔ اور چونکہ ابتداء انسان کے اختیار سے ہوتی ہے اس لئے اس کی انتہاء بھی اختیار کے تابع سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً جس انسان کو نماز کی پرانی عادت ہو اسے نماز کا ثواب برابر ملتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے ارادہ سے اس کی ابتداء کی ہوتی ہے۔ یہی حال بدی کا ہوتا ہے انسان اُسے اپنے اختیار سے شروع کرتا ہے لیکن آخر میں اضطراب تک حالت پہنچ جاتی ہے اور پھر اگر وہ اس سے بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا اور وہ اس بدی کا غلام بن جاتا ہے۔ اَضْطَرُّوْا اِلَى عَذَابِ النَّارِ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ لوگ ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اپنے آپ کو بدی کرنے پر مجبور پاتے تھے۔ اس لئے خدا بھی انہیں مجبور کر کے دوزخ کی طرف لے جائے گا اور انہیں اپنے عمل کے مطابق بدلہ مل جائے گا۔

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِیْلُ ط

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ابراہیمؑ اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور (اس کے ساتھ) اسمعیلؑ بھی (اور وہ دونوں

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۲۸﴾

کہتے جاتے تھے کہ) اے ہمارے رب! ہماری طرف سے (اس خدمت کو) قبول فرما۔ تو ہی (ہے جو) بہت سننے

والا (اور) بہت جاننے والا ہے۔

تفسیر۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو ہم نے مشاہد اور امن کا مقام بنایا ہے۔ اس

میں یہ کوئی ذکر نہیں تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کس کے ہاتھوں ہوئی۔ مگر اب فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیادیں کھڑی کیں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی تھیں۔ مگر یہ درست نہیں۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے يَضَعُ الْقَوَاعِدَ نَحْمًا فَرَمَا يَافِيَا بَلْكَ يَزْفَعُ الْقَوَاعِدَ فَرَمَا يَافِيَا ہے۔ اگر بنیاد رکھنے کا ذکر ہوتا تو وَضَعَ كَالْفَرْعِ استعمال کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا مگر اس کی عمارت منہدم ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اس کی بنیادوں کو بلند کیا۔ اور بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کی۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے بھی اس مضمون کی تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (ال عمران: ۹۷) یعنی سب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے فائدہ کے لئے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ وہ تمام جہانوں کے لئے برکت والا اور ہدایت کا مقام ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعائیں کیں اس کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَلِيظٍ ذَرْعُ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (ابراہیم: ۳۸) یعنی اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے معزز گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لاسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ یہ دعا بھی بتاتی ہے کہ بیت اللہ وہاں پہلے سے موجود تھا کیونکہ یہ دعا اس وقت کی ہے جب حضرت اسمعیل علیہ السلام ابھی بچے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسمعیل کو وہاں لاکر بسا دیا تھا۔ اُس وقت وہ دعا میں عِنْدَ بَيْتِكَ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جگہ انکو الہاماً بتائی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ پہلا گھر ہے جو خدا تعالیٰ کے لئے تعمیر ہوا۔

اسی طرح قرآن کریم نے ایک مقام پر بیت اللہ کو بَيْتُ الْعَتِيقِ بھی قرار دیا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ وَ لَيَكْفُرُوا بِاَلْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج: ۳۰) یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس قدیم ترین گھر کا طواف کریں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ بہت پرانا گھر ہے یا یوں کہو کہ وہ پہلی عبادت گاہ ہے جو دنیا میں تیار کی گئی۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی نہیں بلکہ انہوں نے صرف اس کی عمارت کی تجدید کی تھی اور اس کی اصلی بنیادوں پر اُسے کھڑا کیا تھا۔ احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیت اللہ کے نشانات موجود تھے۔ چنانچہ بخاری میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسمعیل کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو فَقَالَتْ: يَا اِبْرَاهِيْمُ اَيْنَ تَذْهَبُ وَ تَتْرُكُنَا هَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ اَنْبِيْسٌ وَ لَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ مَرًا وَّ جَعَلْ لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ: اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ نَعَمْ! قَالَتْ اِذَا لَا

يُضَيِّعُنَا - ثُمَّ رَجَعَتْ فَانطَلَقَ اِبْرَاهِيمُ حَتَّىٰ اِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ
 الْبَيْتِ ثُمَّ دَعَا بِهٖ لَوْلَا اِنَّ الدَّعْوَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبَّنَا اِنَّا اَسْكَنْتُ مِنْ دُوْرِ بَيْتِي بَوَادِ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ
 عِنْدَكَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب یزفون النسلان فی المشی) یعنی حضرت ہاجرہؑ نے
 کہا۔ اے ابراہیم! تم کہاں جا رہے ہو۔ کیا تم ہمیں ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ کوئی انسان ہے
 اور نہ کوئی اور چیز۔ اور انہوں نے بار بار یہ سوال کیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام شدتِ رقت کی وجہ سے جو اُن پر
 طاری تھی اس کا جواب نہ دے سکے بلکہ اُن کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اس پر حضرت ہاجرہؑ نے کہا۔ بتائیں
 کیا خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں! تب حضرت ہاجرہؑ نے کہا۔ کہ پھر ہمیں کوئی ڈر
 نہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی آئیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
 موڑ پر پہنچے اور ہاجرہؑ اور اسمعیلؑ اُن کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا (اس سے
 صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خانہ کعبہ کا نشان موجود تھا گو عمارت نہیں تھی) اور ہاتھ اٹھا کہ یہ دُعا کی کہ رَبَّنَا اِنَّا
 اَسْكَنْتُ مِنْ دُوْرِ بَيْتِي بَوَادِ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقْبِلُنَا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ اَفْجِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
 اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِنَ الشَّرَاكِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ (ابراہیم: ۳۸)

یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں بلکہ انہوں نے صرف اس کی
 عمارت کی تجدید کی تھی۔ اور یہ کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے اور اس کی ابتداء ایسے زمانہ
 سے وابستہ ہے جس کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہی ہو سکتا ہے۔ تاریخ اس کو بیان نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس
 کی طرف منہ کر کے خاص طور پر دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور رحم طلب کیا۔

میور جیسا متعصب مصنف بھی اپنی تصنیف ”لائف آف محمد“ میں تسلیم کرتا ہے کہ۔

”مکہ کے مذہب کے بڑے بڑے اصولوں کو ایک نہایت ہی قدیم زمانہ کی طرف منسوب کرنا
 پڑتا ہے۔ گو ہیر وڈوس (مشہور یونانی جغرافیہ نویس) نے نام لے کر کعبہ کا ذکر نہیں کیا مگر وہ عربوں
 کے بڑے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا اللات (یعنی خداؤں کا خدا) کا ذکر کرتا ہے اور یہ اس بات کا
 ثبوت ہے کہ مکہ میں ایک ایسی ہستی کی پرستش کی جاتی تھی جسے بڑے بڑے بتوں کا بھی خدا مانا جاتا

تھا۔“ (C-ii)
 102

پھر لکھتا ہے کہ مشہور مؤرخ ڈاؤڈ و اس سکولس جو ساٹھ سال قبل مسیح گذرا ہے اُس نے بھی کہا ہے کہ

عرب کا وہ حصہ جو بحیرہ احمر کے کنارے ہے وہاں پتھر کا ایک معبد بنا ہوا ہے جو بہت قدیم زمانہ سے ہے اور جس کی طرف عرب کے چاروں اطراف سے گروہ درگروہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ سر ولیم میور اس کا ذکر کرتا ہوا لکھتا ہے کہ یہ الفاظ مَلَّہ کے مقدس گھر کے متعلق ہی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں جس نے اتنا بڑا احترام حاصل کیا ہو۔

(دیباچہ لائف آف محمد $\frac{Ciii}{103}$)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ انبیاء ہی کی شان ہے کہ وہ کام کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو فخر کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں جہاں نہ کھانے کا کوئی سامان تھا نہ پینے کا۔ اور پھر خانہ کعبہ کی عمارت بنا کر ان کی دائمی موت کو قبول کر لیتے ہیں۔ دائمی موت کے الفاظ میں نے اس لئے استعمال کئے ہیں کہ ممکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واپس آجانے کے بعد وہ وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ چلے جاتے۔ مگر بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ باندھ دیئے گئے گویا خانہ کعبہ کی ہر اینٹ حضرت اسمعیل علیہ السلام کو بزبان حال کہہ رہی تھی کہ تم نے اب اسی جنگل میں اپنی تمام عمر گزارنا ہے۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نے کی۔ مگر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے اور کہتے ہیں کہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اے اللہ! ہم ایک حقیر ہدیہ تیرے حضور لائے ہیں تو اپنے فضل سے چشم پوشی فرما کر اسے قبول فرما لے۔ اور پھر کتنے تکلف سے قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ تَقَبَّلْ بَاب تَفَعَّلَ سے ہے اور تَفَعَّلَ میں تَكَلَّفَ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں کہ تو خود ہی رحم کر کے اس قربانی کو قبول فرما لے حالانکہ یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قربان کر رہا تھا اور خانہ کعبہ کی ہر اینٹ ان کو بے آب و گیاہ جنگل کے ساتھ مقید کر رہی تھی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ایک ایک اینٹ کے ساتھ ان کے جذبات و احساسات کو دفن کر رہے تھے مگر دعایہ کرتے ہیں کہ الہی یہ چیز تیرے حضور پیش کرنے کے قابل تو نہیں مگر تو ہی اسے قبول فرما لے۔ یہ کتنا بڑا تذلل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا اور درحقیقت قلب کی یہی کیفیت ہے جو انسان کو اونچا کرتی ہے۔ ورنہ اینٹیں تو ہر شخص لگا سکتا ہے مگر ابراہیم ہی دل ہوتب وہ نعمت میسر آتی ہے جو خدا تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ پس ہر انسان کو چاہیے کہ وہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہے۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا کہنے کی بجائے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری قدر نہیں کی جاتی۔ حالانکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کی

نقل میں کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی نقل میں قربانی نہیں کی۔ بلکہ ادھر خدا نے حکم دیا اور ادھر وہ قربانی کے لئے تیار ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ستون ہوتے ہیں اور جن کا بابرکت وجود مصائب کے لئے تعویذ کا کام دے رہا ہوتا ہے۔ وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ کہتے جاتے ہیں کہ اے خدا ہماری قربانی اس قابل نہیں کہ تیرے حضور پیش کی جاسکے۔ تیری ہستی نہایت اعلیٰ و ارفع ہے۔ ہاں ہم امید رکھتے ہیں کہ تو چشم پوشی سے کام لیتے ہوئے اسے قبول فرما لے گا۔ تیرا نام سب سے ہے اور تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہماری یہ قربانی قبول کرنے کے لائق تو نہیں مگر تو جانتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ اور کچھ چیز نہیں جو تیرے سامنے پیش کریں۔ ایک طرف تیرا سب سے ہونا چاہتا ہے کہ تو ہم پر رحم کرے اور دوسری طرف تیرا علیم ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تو جانتا ہے کہ ہمارے جیسے نے کیا قربانی کرنی ہے۔ اسی رُوح کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نے مظاہرہ کیا۔ اور جب وہ دونوں مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے جاتے تھے کہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اے ہمارے رب ہم نے خالص تیری توحید اور محبت کے لئے یہ گھر بنایا ہے تو اپنے فضل سے اسے قبول کر لے اور اس کو ہمیشہ اپنے ذکر اور برکت کی جگہ بنا دے۔ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تُوہماری دردمندانہ دعاؤں کو سننے والا اور ہمارے حالات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اگر فیصلہ کر دے کہ یہ گھر ہمیشہ تیرے ذکر کے لئے مخصوص رہے گا تو اسے کون بدل سکتا ہے۔

اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بیت اللہ بنانے کے درحقیقت دو حصے ہیں۔ ایک حصہ بندے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے جس مکان کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں وہ اینٹوں سے بنتا ہے۔ چُونے سے بنتا ہے گارے سے بنتا ہے اور یہ کام خدا نہیں کرتا بلکہ انسان کرتا ہے۔ مگر کیا انسان کے بنانے سے کوئی مکان بیت اللہ بن سکتا ہے۔ انسان تو صرف ڈھانچہ بناتا ہے روح اس میں خدا تعالیٰ ڈالتا ہے۔ اسی امر کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈھانچہ تو میں نے اور اسمعیلؑ نے بنا دیا ہے مگر ہمارے بنانے سے کیا بنتا ہے۔ کئی مسجدیں ایسی ہیں جو بادشاہوں اور شہزادوں نے بنائیں مگر آج وہ ویران پڑی ہیں۔ اس لئے کہ انسان نے تو مسجدیں بنائیں مگر خدا نے انہیں قبول نہ کیا۔ پس حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کہتے ہیں کہ اے خدا! ہم نے تیرا گھر بنایا ہے اسے تو قبول فرما۔ اور تو سچ مچ اس میں رہ پڑ۔ اور جب خدا کسی جگہ بس جائے تو وہ کیسے اُجڑ سکتا ہے۔ گاؤں اُجڑ جائیں تو اُجڑ جائیں شہر اُجڑ جائیں تو اُجڑ جائیں مگر وہ مقام کبھی اُجڑ نہیں سکتا جس جگہ خدا بس گیا ہو۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً

اے ہمارے رب! اور (ہم) بھی السجاء کرتے ہیں کہ) ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار (بندہ) بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی

لَكَ ۝ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۙ اِنَّكَ اَنْتَ

اپنی ایک فرمانبردار جماعت (بنا) اور ہمیں ہمارے (مناسب حال) عبادت کے طریق بتا اور ہماری طرف (اپنے) فضل کے

التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۹﴾

ساتھ توجہ فرما۔ یقیناً تو (اپنے بندوں کی طرف) بہت توجہ کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

حَلَّ لِعَاثٍ - مُّسْلِمٌ فرمانبردار کو کہتے ہیں۔ (اقرب)

أُمَّةٌ ۙ معنی جماعت کے ہوتے ہیں۔ (اقرب)

أَرِنَا ہمیں دکھا دے۔ رُؤْيَةٌ آنکھوں کی بھی ہوتی ہے اور دل کی بھی۔ یہاں دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں۔

مگر آگے چونکہ مَنَاسِكٌ کا لفظ آیا ہے اس لئے بجائے دکھا دے کے ہم یوں کہیں گے ہم پر ظاہر کر دے یا ہمیں

بتا دے۔

مَنَاسِكٌ مَّنَسَكٌ کی جمع جس کے معنی عبادت کے ہوتے ہیں۔ یا وہ تمام حقوق جو خدا تعالیٰ کے حضور

ہمیں ادا کرنے چاہئیں۔ (اقرب)

تَوَّابٌ جب یہ لفظ بندہ کے لئے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بندہ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے دل سے جھکنا

اور اس کی طرف رجوع کرنا۔ اور جب یہ خدا تعالیٰ کے لئے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا بندوں پر

رحم کرنا۔ اس میں اور رحم میں یہ فرق ہے کہ رحیم کا لفظ نیکی کے بعد روحانی ترقیات دینے پر دلالت کرتا ہے اور توبہ کا

لفظ اُن ترقیات پر دلالت کرتا ہے جو نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہ پہنچیں بلکہ اس سے نیچے رہیں۔ تَوَّابٌ زیادہ تر بدیوں

اور کمزوریوں کے دور کرنے کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اور روحانی قابلیتوں اور طاقتوں کے پیدا کرنے کے موقع

پر رحیم کا لفظ آتا ہے یہ دونوں الگ الگ قسم کی رحمت ہے۔ رحیم ارتقاء اور زیادتی کے لئے اور تَوَّابٌ نقصان سے

پاک ہونے کے لئے آتا ہے۔ گویا جب انسان نقصان سے پاک ہو جاتا ہے اور روحانی ارتقاء کی طرف مائل ہو جاتا

ہے تو صفت رحیمیت کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔

تفسیر - پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اے خدا! اس گھر کی آبادی تیرے بندوں سے وابستہ ہے۔ مگر محض لوگوں کی آبادی کوئی چیز نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے نیک ہوں۔ پس ہم جو بیت اللہ کو بنانے والے ہیں اور جو دو افراد ہیں ہماری پہلی دُعا تو یہ ہے کہ تو خود ہمیں نیک بناؤ و ہن دُرِّبِينَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لِّكَ اور پھر ہماری اولاد میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے جو تیرا مطیع اور فرمانبردار ہو۔ وَ اٰرٰنَا مَنَّا سَيِّئًا اور ہمارے مناسب حال ہمیں عبادت کے طریق بتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں خواہ کتنا ہی اخلاص ہو۔ اگر اسے طریق معلوم نہ ہو کہ کس طرح کسی گھر کو آباد رکھنا ہے تو پھر بھی وہ غلطی کر سکتا ہے۔ اس لئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا نہ صرف ہمارے دلوں میں ایمان قائم رکھ بلکہ وقتاً فوقتاً ہمیں یہ بھی بتاتا رہیو کہ ہم نے کس طرح اسے آباد رکھنا ہے اور ہم وہ کونسا طریق عبادت اختیار کریں جس سے تو خوش ہو اور یہ گھر آباد رہ سکے۔

اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اَرٰنَا اَلْمَنَّا سَيِّئًا کہنے کی بجائے مَنَّا سَيِّئًا کہا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانہ کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور کامل مومن وہی ہوتا ہے جو ان فرائض کو سمجھنے کی کوشش کرے جو بدلے ہوئے حالات کے مطابق اُس پر عائد ہوتے ہیں محض ایک پرانی لکیر پر چلتے چلے جانا اور حالات کے تغیر کو مد نظر نہ رکھنا انسان کو کسی ثواب کا مستحق نہیں بناتا۔ افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں نے بھی اس نکتہ کو نہ سمجھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاد بالسیف پر ہی زور دیتے رہے حالانکہ زمانہ اُن سے تلوار کے جہاد کا نہیں بلکہ زبان اور قلم کے جہاد کا مطالبہ کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دُعا کرتے ہیں کہ الہی جو نیکی جس وقت کے مناسب حال ہو اس کو سرانجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس بارہ میں ہمیشہ ہماری رہنمائی فرما۔

حدیثوں میں آتا ہے ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! سب سے بڑی نیکی کون سی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑی نیکی تہجد ہے۔ پھر کسی اور نے آپ سے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جہاد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص کے لئے الگ الگ بڑی نیکیاں ہیں۔ جو شخص جہاد نہیں کرتا اس کے لئے جہاد ہی سب سے بڑی نیکی ہے اور جو شخص کبر و نخوت سے بھرا ہوا ہو اس کے لئے سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ وہ کبر و نخوت چھوڑ دے۔ جو شخص نیند کا متوالا ہے اور اس وجہ سے عشاء اور صبح کی نمازیں مسجد میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ نیند دور کرے۔ اور

نمازیں مسجد میں ادا کرے۔ جو شخص تہجد نہیں پڑھتا اس کے لئے سب سے بڑی نیکی تہجد پڑھنا ہے۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ غرض نیکی کا جو کام کسی کے نفس پر بوجھل ہو وہی اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ہے اسی طرح جس چیز کی ضرورت دوسروں پر مقدم سمجھی جائے وہی سب سے بڑی نیکی ہے نماز کے وقت نماز ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور روزہ کے وقت روزہ ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ غرض انسان کے لئے مختلف اوقات میں مختلف بڑی نیکیاں ہوتی ہیں اسی طرح مختلف اقوام اور افراد اور زمانوں کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی نیکی کی تعیین مختلف ہوتی چلی جاتی ہے جس قوم یا جس فرد یا جس زمانہ کے لئے جس نیکی کی ضرورت ہو وہی اس کے لئے بڑی بن جاتی ہے اور اس پر عمل اُسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم کمزور اور ناطاقت ہیں اور ہم پوری طرح تیری عبادت بجالانے سے قاصر ہیں تو آپ ہم پر رحم کیجیو اور ہمارے مناسب حال عبادت کے طریق بتائیو۔ ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔

وَتُوبَ عَلَيْنَا۔ مگر اس الہام کے باوجود جو یہ بتاتا رہے کہ کس طرح اس گھر کو آباد رکھنا چاہیے اے خدا! ہم تیرے بندے ہیں ہم نے غلطیاں بھی کرنی ہیں اس لئے تو ہمیں معاف کر دیا کر۔ اور ہمارے گناہوں سے درگزر کرتا رہ۔

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو اب اور رحیم نام اس لئے لائے گئے ہیں کہ بندہ خواہ کتنی بھی نیک نیتی کے ساتھ کام کرے وہ غلطی کر جاتا ہے۔ ایسی حالت میں تَوَّابِیت اُس کے کام آتی ہے اور اگر اچھا کام کرے تو رحیمیّت اُس کے کام آتی ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

اور اے ہمارے رب! (ہماری یہ بھی التجاء ہے کہ) تو انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ ع (۱۷)

۱۷

سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یقیناً تو ہی غالب (اور) حکمتوں والا ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ اِيْتٌ اِيَةٌ كَالْفِظِ اُوِي سَع نَكَلَا هِي جَس كَع مَعْنِي هِي ”جگہ دی“ (۲) اسی طرح ہر وہ کلام

جولفظی نشان کے ذریعہ ختم کیا جائے آیت کہلاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیات جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ایک نشان ڈال دیا جاتا ہے جو آیت کے ختم ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ (۳) اس کے ایک معنی عبرت کے بھی ہیں یعنی ایسی بات جو دوسرے کے لئے نصیحت کا باعث ہو (۴) آیت کے معنی کسی چیز کے وجود اور اس کی شخصیت کے بھی ہیں (۵) اس کے ایک معنی جماعت کے بھی ہیں گویا فردی شخصیت بھی اس لفظ کے مفہوم میں آجاتی ہے اور جماعتی شخصیت بھی۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ خَرَجَ الْقَوْمُ بِأَيْتِهِمْ وَلَمْ يَدْعُ وَرَاءَهُمْ شَيْئًا (اقرب) قوم اپنے سارے وجود کو لے کر چلی اور اپنے پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑا۔

بعض نحوی کہتے ہیں کہ آیت کا لفظ تَأْتِي سے نکلا ہے جس کے معنی تَشَبَّهَتْ عَلَى الشَّيْءِ اور اقامت کے ہیں یعنی کسی چیز کا ٹک جانا اور ایک جگہ پر جم جانا چونکہ یہ ایک جگہ پر قائم ہوتی ہے اس لئے اسے آیت کہتے ہیں۔ جیسے سڑکوں پر سنگ میل ایک علامت اور نشان کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں۔

(۶) آيَاتٌ هِيَ الْعَلَامَةُ الظَّاهِرَةُ۔ اس کے ایک معنی ظاہری علامت کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کا جو جسم ہوتا ہے علامت اور آیت کہلاتا ہے مثلاً ایک کتاب کے الفاظ علامت اور آیت کہلاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ذریعہ مطلب کا پتہ لگتا ہے۔ غرض ہر وہ چیز جس کے ذریعہ کسی دوسری مخفی چیز کا پتہ لگے وہ آیت ہے۔

(۷) آیت بناء عالی کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی اونچی عمارت۔ یہ لفظ ان معنوں میں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ آتا ہے۔ اَتَّبَعُونَ بِحُلِّي رُبُوعِ آيَةٍ تَعْبَتُونَ (الشعراء: ۱۲۹) یعنی کیا تم پہاڑوں پر بیفانہ عمارتیں بناتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پُرَانِے زمانہ میں یہ عام دستور تھا کہ پہاڑوں پر لوگ عمارتیں بناتے تھے۔ یہ یورپ کا نیا دستور نہیں۔

(۸) آیت کے معنی ٹکڑے کے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔

(۹) آیت عذاب کو بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَمَا نُزِّلَ بِالْأَيَاتِ إِلَّا تَحْوِيْفًا۔

(بنی اسرائیل: ۶۰) یعنی ہم تو صرف خوف دلانے کیلئے آیات بھیجتے ہیں۔ (مفردات)

اَلْكِتَابِ اس کے کئی معنی ہیں۔ (۱) اَلصَّحِيْفَةُ لکھی ہوئی چیز جسے عرف عام میں کتاب کہتے ہیں۔ (۲) اَلْحِكْمُ۔ حکم (۳) اَلْفَرْصُ۔ فرض (۴) جَامِعٌ یعنی جمع کرنے والی چیز۔ جیسے كِتَابَةُ اَلْحِكْمِ۔ ایک بڑے لشکر کو کہتے ہیں۔ جس میں جھنڈے، سامان اور فوج سب کچھ ہوتا ہے۔ کتاب کا لفظ اصل میں جوڑنے کے معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ مشکیزہ کا منہ بند کر دینا۔ یا جانوروں کے منہ میں کوئی آلہ ڈال دینا۔ جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں یا

کھیتوں کو خراب نہ کر سکیں۔ اُسے کتبہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کتاب کا مصدر ہے۔ اسی سے آگے حروف کو دوسرے حروف سے جوڑنے کے معنے پیدا ہو گئے۔ کتاب کا لفظ لکھی ہوئی چیز کیلئے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ گو محاورہ میں نہ لکھے ہوئے کلام کو بھی جو کہ معین ہو اور یاد کرایا جاتا ہو کتاب کہہ دیتے ہیں۔ (اقرب) لغت والے اس کی مثال اَللّٰہُ ذٰلِکَ الْکِتٰبُ کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اَللّٰہُ کو ذٰلِکَ الْکِتٰبُ کہا ہے۔ حالانکہ اَللّٰہُ ابھی نازل ہو رہا تھا۔ اور لکھا ہوا نہ تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ غیر مکتوب چیزیں بھی کتاب کہلاتی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نہ لکھی ہوئی چیز کو بھی کتاب کہہ دیتے ہیں۔ لیکن لغت والوں کا اس سے یہ استدلال غلط ہے کیونکہ ذٰلِکَ کا اشارہ اَللّٰہُ کی طرف نہیں بلکہ اس کا اشارہ سورۃ فاتحہ کی طرف ہے جو پہلے نازل ہو چکی تھی اور لکھی بھی جا چکی تھی۔ لیکن خواہ اس کا اشارہ اَللّٰہُ کی طرف ہو یا ساری سورہ بقرہ کی طرف ہو یا سارے قرآن کریم کی طرف ہو۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ غیر لکھی ہوئی چیز کے لئے کتاب کا لفظ لایا گیا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ جس بات کا ابتداء سے فیصلہ کر لیا گیا ہو اسی کے مطابق نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کا نام عبدالرحمن رکھ دیتے ہیں جس کے معنے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کو ظاہر کرنے والا۔ اب کیا اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ ہی میں یہ صفت ظاہر کرنے والا تھا؟ بلکہ اس کے صرف اتنے معنے ہوتے ہیں۔ کہ وہ آئندہ بڑے ہو کر اس صفت کو ظاہر کرے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے۔ فَانۡجِیۡنٰہُ وَ مَنۡ مَّعَہُ فِی الْفُلۡکِ الْمَشۡحُوۡنِ (الشعراء: ۱۲۰) کہ ہم نے نوحؑ اور اُس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اب اس کے یہ معنے نہیں کہ جو پہلے ہی بھری ہوئی تھی اُس میں انہیں سوار کیا کیونکہ جو کشتی پہلے سے بھری ہوئی ہو اُس میں سوار کرنے کے کیا معنے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کشتی میں سوار کیا جو اُن کے بیٹھنے کی وجہ سے بھر گئی۔ پس جو فعل آئندہ کسی سے صادر ہونے والا ہو اس کی وجہ سے بھی نام دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذٰلِکَ الْکِتٰبُ کا اشارہ اَللّٰہُ کی طرف اشارہ نہیں کہ اس سے یہ سمجھا جائے کہ کتاب کا لفظ غیر لکھی ہوئی چیز کے لئے آیا ہے بلکہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک کامل کتاب بننے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فیصلہ فرما چکا ہے۔

کتاب کا لفظ اس چیز کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے اندر کوئی لکھی ہوئی چیز ہو۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَ کُوۡرۡنٰنَا عَلَیۡکَ کِتٰبًا فِیۡ قَدَرٍ طٰسِ (الانعام: ۸۱) یعنی اگر ہم تجھ پر ایک کتاب نازل کرتے جو کاغذوں پر ہوتی۔ غرض کتاب کے کئی معنے ہیں۔ محاورہ میں اس کے معنے ایسی چیز کے ہیں جسے قائم کر دیتے ہیں۔ یا جس کا اندازہ کر لیتے ہیں یا جسے واجب کر دیتے ہیں یا فرض کر دیتے ہیں یا پختہ کر لیتے ہیں۔ ان سب کیلئے کتاب کا لفظ استعمال

ہوتا ہے۔ پھر کتَب کا لفظ قضی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَكَ الْوَكَاةُ كَتَبَ اللَّهُ لَنَا (التوبة: ۵۱) یعنی جس امر کا خدا نے فیصلہ کر دیا ہے اور جسے ہمارے لئے مقدر کر دیا ہے وہی ہمیں پہنچے گا۔ (مفردات)

الْحِكْمَةُ اس کے کئی معنے ہیں (۱) الْعَدْلُ انصاف (۲) الْعِلْمُ - علم (۳) الْحِلْمُ - دانائی (۴) مَا يَجْتَمِعُ مِنْ الْجَهْلِ جو بات جہالت سے روکتی ہو۔ (۵) وَضَعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ کسی چیز کو اُس کے مقام پر رکھنا (۶) اس کے ایک معنے صَوَابُ الْأَمْرِ وَبَسَادَةُ کے بھی ہیں یعنی صحیح اور درست کام۔ (اقرب)

يُزَيِّنُ زبڈی کے معنے ہیں (۱) اس کو بڑھایا اور اسکی نشوونما کی۔ آگے نموکے دو معنے ہیں۔ اُسے اپنی ذات میں بڑھایا یا اُسے باسامان کیا (۲) اس کے ایک معنے تَطْهِيرٌ کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی پاک کرنا اس لحاظ سے آیت کے یہ معنے ہیں کہ وہ لوگوں کو اُن کی ذات میں بڑھائے گا وہ ان کو باسامان کرے گا۔ وہ ان کو پاک کرے گا۔ پھر تَطْهِيرٌ بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ظاہری طہارت اور دوسرے باطنی طہارت۔ (اقرب)

تفسیر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ان لوگوں میں سے جو اس جگہ رہیں گے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔ مِنْهُمْ اور اے ہمارے رب رسول کے آنے سے یہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی کہ خانہ کعبہ سے جس طرح تعلق رکھنا ہے اُس کا پتہ لگ جائے گا۔ اور وہ سچے اور مخلص مومن بن جائیں گے مگر اے ہمارے رب ہم نے جو اپنی اولاد کو یہاں آکر بسایا ہے تو اس میں علاوہ اس غرض کے کہ تیرا نام بلند ہو ہماری یہ بھی غرض ہے کہ ہماری اولاد کے ذریعے تیرا نام بلند ہو۔ ہم نے صرف تیرا گھر نہیں بنایا بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہاں لا کر بسا دیا ہے۔ گویا ہم نے جو تیرے نام کی بلندی کی کوشش کی ہے اس میں کچھ اپنی غرض بھی شامل ہے۔ ہم نے یہ مکان بنایا ہے اس لئے کہ تیرا نام بلند ہو۔ اور ہم نے اپنی اولاد یہاں اس لئے بسائی ہے کہ اس کے ذریعے سے تیرا نام بلند ہو۔ پس ہم نے جو اپنی اولاد یہاں بسائی ہے اس میں ہماری یہ غرض بھی شامل ہے کہ آنے والا رسول انہیں میں سے ہو باہر سے نہ ہو۔

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ اور وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ تیرے نشانات اور معجزات کے ذریعے اُن کے ایمانوں کو تازہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے دلائل لوگوں کے سامنے بیان کرے۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تیری شریعت جس کے بغیر باطن پاکیزہ نہیں ہو سکتا اور جو انسان کو مکمل نمونہ بنا دیتی ہے نازل ہوا اور وہ لوگوں کو سکھائے۔

وَ الْحِكْمَةَ اور اے ہمارے رب! جب وہ رسول آئیگا انسانی عقل تیز ہو چکی ہوگی۔ اس وقت انسان بچہ نہیں ہوگا کہ اُسے یہ کہا جائے کہ اٹھ اور فلاں کام کرو اور جب وہ کہے کہ میں کیوں کروں تو اُسے کہا جائے کہ آگے سے بکو اس مت کرو۔ عیسیٰؑ کے زمانہ میں اور موسیٰؑ کے زمانہ میں ایسا ہو چکا ہے۔ مگر جب وہ نبی آئے گا اس کا زمانہ انسانی عقل کے ارتقاء کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت بندہ یہ نہیں سنے گا کہ کر۔ بلکہ پوچھے گا کہ کیوں کروں۔ پس اے خدا تو اس کو موسیٰؑ کی طرح صرف شریعت ہی نہ دیکھو۔ نوحؑ کی طرح صحف ہی نہ دیکھو داؤدؑ کی طرح احکام ہی نہ دیکھو بلکہ ساتھ ہی اُن کی وجہ بھی بتا دیکھو اور ان احکام کی حکمت بھی واضح کیجیو۔ تاکہ نہ صرف اُن کے جسم تیرے حکم کے تابع ہوں بلکہ ان کا دماغ اور دل بھی تیرے حکم کا تابع ہو اور وہ سمجھیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے فلسفہ کے ماتحت کہا گیا ہے۔ عقل کے ماتحت کہا گیا ہے۔ ضرورت کے ماتحت کہا گیا ہے۔ فوائد کے ماتحت کہا گیا ہے۔

وَيُذَكِّرُهُمْ اور ان کو پاک کرے۔ دماغ کو ہی پاک نہ کرے بلکہ حکمت سکھا کر اُن کے قلوب کو بھی محبت الہی سے بھر دے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ میں جذب کر دیں الہی صفات اُن میں پیدا ہو جائیں اور وہ چلتے ہوئے انسان نظر نہ آئیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ایک آئینہ دکھائی دیں اور وہ ایسے ذرائع اختیار کرے جن سے قوم کی ترقی کے سامان پیدا ہوں۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - اے ہمارے رب! ہم نے جو چیز مانگی ہے بظاہر یہ ناممکن نظر آتی ہے اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن ہم خوب جانتے ہیں کہ تجھ میں طاقت ہے تو عزیز خدا ہے تو غالب خدا ہے اور تیری شان یہ ہے کہ ۔

جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور ملتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے

ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ چونکہ تو عزیز خدا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا رسول آئے۔ اس پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ اگر پہلے خدا نے ایسا رسول نہیں بھیجا تو اب کیوں بھیجے اور اگر پہلے بھی ایسا رسول بھیجنا ضروری تھا تو پھر ایسے رسول کو نہ بھجوا کر بنی نوع انسان پر کیوں ظلم کیا گیا۔ اس اعتراض کا الحکیم کہہ کر ازالہ کر دیا کہ ہم جانتے ہیں پہلے ایسا رسول آ ہی نہیں سکتا تھا پہلے لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ محمدؐ کی تعلیم کو برداشت کر سکیں۔ پس ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزیز کہہ کر خدائی غیرت کو جوش دلایا اور کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ غیر معقول نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو ایسا کر سکتا ہے مگر ساتھ ہی حکیم کہہ کر بتا دیا کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر تو نے پہلے ایسا رسول نہیں بھجوا یا تو نعوذ باللہ تو نے نخل سے کام لیا بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تو نے پہلے ایسا نبی نہیں

بھیجا تو صرف اس لئے کہ پہلے ایسا نبی بھیجنا مناسب نہیں تھا۔

اس دعا میں ہمیں ایک عجیب بات نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف رُسُوْلًا فرمایا ہے رُسُوْلًا نہیں فرمایا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیٹنگوئی اپنی اولاد کے متعلق ایسی واضح تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ان میں بہت سے رسول پیدا ہوں گے لیکن باوجود اس کے وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک رسول کے مبعوث کئے جانے کی دُعا فرماتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کھل چکی تھی کہ خاتم النبیین بنی اسمعیل میں سے آنا ہے اور وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائع کا اختتام ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میرے اس قسم کے الفاظ پر غیر مبائعین کہا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول تو ایک ہی ہے مگر ہمیں اس سے کبھی انکار نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کو بھی آپ کی نبوت کے تابع اور اس کا ظل سمجھتے ہیں اور ظل اصل سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہوتی۔ پس اب کوئی نیا حکم نہیں کوئی نئی تعلیم نہیں کوئی نیا ارشاد نہیں کوئی نئی ہدایت نہیں۔ وہی ارشاد۔ وہی ہدایت۔ وہی تعلیم اور وہی احکام ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لائے تھے اور جو قرآن کریم میں بیان ہیں اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مستقل نبی مانتے تو پھر تو اس بات کی ضرورت تھی کہ ہر چیز نئی ہوتی۔ مگر یہاں تو سب کچھ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صرف اتنی بات ہے کہ چونکہ لوگوں نے آپ کی تعلیم کو بھلا دیا تھا اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا پس یہ رسالت کوئی الگ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رسالت ہے اور اگر ضرورت کے ماتحت ایسے کئی نبی بھی آجائیں تو کوئی ہرج نہیں کیونکہ ان کے ذریعہ کوئی نیا دین جاری نہیں ہوگا۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی زندہ ہوگا۔ بہر حال رُسُوْلًا کا لفظ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الہام سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اسمعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث ہونے والا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ایک نبی ان میں مبعوث ہونے والا ہے تو انہوں نے اس کے لئے دعا کیوں کی۔ سو جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں الہام کا پورا کرنا خود اپنی ذات میں ایک نیکی ہوتا ہے اور الہام کے پورا کرنے کے لئے سب سے پہلا کام جو انسان کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ دُعا سے کام لے اور پھر اپنے عمل اور کوشش سے اُسے پورا کرے۔ نادان خیال کرتا ہے کہ الہی وعدہ کے بعد کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ حالانکہ

یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بات پوری کرنے کے لئے اپنا سارا زور صرف کر دیتا ہے۔ انبیاء کو چونکہ خدا تعالیٰ سے گہرا تعلق ہوتا ہے اس لئے اس کی بات کو پورا کرنے کے لئے وہ ہر قسم کی جدوجہد سے کام لیتے ہیں تاکہ اس کا نشان ظاہر ہو۔ پس اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیٹنگوئی کو پورا کرنے کے لئے دعا کی تو یہ کوئی قابل اعتراض امر نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے انتہائی اور کامل عشق تھا قطع نظر اس بات کے کہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ اسے خود پورا کر سکتا ہے انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنی کامل محبت کا ثبوت دیدیا۔ اور اسی وقت دعا کی۔ کہ اے ہمارے رب! ان میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔ توین تحقیر کے لئے بھی آتی ہے اور تعظیم کے لئے بھی۔ یہاں تعظیم کے لئے آئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔

میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بتاتی ہے کہ گو وہ جانتے تھے کہ ان کی اولاد میں بہت سے رسول آنے والے ہیں۔ مگر وہ چاہتے تھے کہ آخری رسول جو دنیا کا نجات دہندہ بن کر آنے والا ہے وہ بنو اسحاق سے نہ ہو بلکہ بنو اسمعیل میں سے ہو۔ کیونکہ اس وقت تک بنو اسحاق کو کافی حصہ مل چکا ہوگا مسیحی مصنفین دعائے ابراہیمی کے اس حصہ پر بالعموم یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بائبل میں اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی وعدہ کیا گیا تھا دوسرے اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد کی نسبت کوئی وعدہ تھا تو اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے تھے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیل اور آپ کی نسل سے بنو اسحاق کو شدید نفرت تھی اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی دادی حضرت سارہ کو باجرہ اور اسمعیل سے نفرت تھی جس کا اثر آئندہ نسل میں بھی منتقل ہونا بعید از قیاس امر نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم باجرہ اور اسمعیل کو ایک دُور دراز مقام پر چھوڑ آنے پر مجبور ہوئے۔ بائبل کہتی ہے کہ:

”سارہ نے دیکھا کہ باجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابرہام سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے تب اس نے

ابراہام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے۔ کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے

اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔“ (پیدائش باب ۲۱ آیت ۹، ۱۰)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو یہ بات ناگوار گذری مگر آخر خدا تعالیٰ نے انہیں کہا کہ:

”تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث بُرا نہ لگے جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی

بات مان۔“

(پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۲)

بنو اسمعیل اور بنو اسحاق کی اس باہمی رقابت کی طرف بائبل کی اس پیشگوئی میں بھی اشارہ موجود ہے جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کے متعلق کی گئی تھی کہ:-

”اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اُس کے خلاف ہوں گے۔“

(پیدائش باب ۱۶ آیت ۱۲)

پس اس باہمی رقابت اور پھر اس انسانی دست برد کی وجہ سے جس کا بائبل تختہ مشق بنی رہی اگر اُس میں حضرت اسمعیل اور ان کی اولاد کی نسبت کوئی واضح پیشگوئی موجود نہ ہو تو محض اس بنا پر قرآنی شہادت کو رد کر دینا قرین انصاف نہیں کہلا سکتا جس طرح بائبل کی شہادت سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ بنو اسحاق سے کوئی وعدہ تھا اسی طرح قرآن کریم کی شہادت سے بھی کہا جاسکتا ہے کہ بنو اسمعیل سے بھی کوئی وعدہ تھا۔ لیکن اگر اس نظر یہ کو درست تسلیم نہ کیا جائے تب بھی بائبل ایسے اشارات سے خالی نہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیل کی نسل بھی خاص انعامات کی وارث ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ حضرت اسحاق کی اولاد کے متعلق بائبل میں استعمال ہوئے ہیں وہی حضرت اسمعیل کے متعلق بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اور جس طرح حضرت اسحاق کی اولاد کو بڑھانے اور ان میں سے بادشاہ پیدا کرنے کا وعدہ پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۶ میں ہے اسی طرح حضرت اسمعیل کی اولاد کو بڑھانے اور ان میں سے سردار پیدا کرنے کا وعدہ پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۰ میں ہے پس جس قسم کے انعامات کا وارث حضرت اسحاق کی اولاد کو قرار دیا گیا ہے اسی قسم کے انعامات کا وارث بنو اسمعیل کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت اسحاق کی نسبت اس باب کی آیت ۲۱ میں لکھا ہے کہ:

”میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا۔“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اس نسل سے ہوں گے تو یہ دلیل بھی معقول نہیں کیونکہ اسحاق کی پیدائش سے بھی پہلے خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد کیا تھا اور اس میں یہ شرط لگائی تھی کہ اس عہد کی علامت ختنہ ہوگی (پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۱) اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کا بھی ختنہ کیا۔ (پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۵) اگر وہ عہد صرف اسحاق اور اس کی نسل سے ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنا ختنہ کراتے۔ کیونکہ اُن سے عہد تھا۔ اپنے غلاموں کا کرواتے کیونکہ ان کی نسبت حکم تھا حضرت اسحاق کا کرواتے کیونکہ ان سے اس عہد نے پورا ہونا تھا۔ تیرہ سالہ لڑکے اسمعیل کا ختنہ کس سبب سے کروایا گیا۔ اس کی

صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس کی نسل سے بھی اس عہد نے پورا ہونا تھا پس آپ کا حضرت اسمعیلؑ کا بھی ختنہ کرانا ایک صاف ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت اسمعیلؑ بھی آپ کی اولاد میں سے تھے جس کے ساتھ وہ عہد پورا ہونا تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو اسمعیل میں ختنہ کا رواج ہمیشہ رہا اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حکم نہ صرف اسمعیل کے لئے بلکہ اس کی اولاد کے لئے بھی سمجھا گیا تھا۔ پس عہد جس طرح حضرت اسحاقؑ کی اولاد کے لئے تھا۔ اسی طرح حضرت اسمعیلؑ کی اولاد کے لئے بھی تھا۔ باقی رہا پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۱ کا مطلب کہ

”میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا“

سو دوسرے حالات کو مد نظر رکھ کر آیت کا یہ مطلب ہے کہ اس ابدی عہد کی ابتداء بنو اسحاق سے شروع ہو گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عہد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق تھا ابتداء میں بنو اسحاق سے ہی پورا ہوا۔ لیکن بائبیل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عہد بنو اسمعیل کے بارہ میں بھی تھا۔ کیونکہ ختنہ کا حکم انہیں بھی دیا گیا تھا جیسا کہ لکھا ہے:-

”جب اس کے بیٹے اسمعیل کا ختنہ ہوا تو وہ تیرہ برس کا تھا۔“ (پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۵)

اور اسمعیل کے متعلق بھی برکت کا وعدہ کیا گیا تھا جیسا کہ لکھا ہے:

”اور اسمعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ میں اُسے برکت دوں گا اور اُسے برومند

کروں گا اور اُسے بہت بڑھاؤں گا۔“ (پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۰)

اسی طرح پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۸ میں لکھا ہے:-

”میں اس (اسمعیل) کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔“

پس ضروری تھا کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام بھی اس برکت میں شامل ہوتے گو وہ اس عہد میں شامل نہ تھے جو کنعان کے قبضہ کے متعلق تھا۔ کیونکہ وہ وعدہ صرف اسحاقؑ کی نسل کے ساتھ پورا ہونا تھا۔ لیکن یہود و نصاریٰ غلطی سے یہ سمجھنے لگ گئے کہ برکت کا عہد صرف اسحاقؑ کی اولاد سے تھا۔ حالانکہ ابراہیمی عہد کی دو شکلیں تھیں ایک مجمل اور ایک مفصل۔ مجمل عہد تو یہ تھا کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا اور نسل سے مراد اسحق اور اسمعیل دونوں تھے۔ اور مفصل عہد آگے دو حصوں میں منقسم تھا۔ اسحاقؑ کی نسبت تو یہ عہد تھا کہ کنعان کی حکومت اسے نسلاً بعد نسل حاصل ہوگی اور اسمعیل کی نسبت بائبیل صرف اتنا بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے برکت دوں گا اور برومند کروں گا۔ یہ برکت اُسے کس طرح دی گئی؟ اس کا جواب ہمیں بائبیل سے نہیں بلکہ قرآن کریم سے ملتا ہے قرآن کریم بتاتا

ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے متعلق یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اسے اور اس کی اولاد کو مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح پر حکومت دی جائے گی اور خدا تعالیٰ ان کے مرکز کو ہمیشہ دشمن کے حملہ سے محفوظ رکھے گا اور تمام علاقہ پر ان کی روحانی اور جسمانی حکومت ہوگی۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائے گا۔ جو تمام دنیا کی ہدایت کا موجب ہوگا۔ پس یہ غلط ہے کہ بنو اسمعیل کے ساتھ برکت کا کوئی وعدہ نہ تھا یا نبیہل کی خود اندرونی شہادات بتا رہی ہیں کہ نسل اسمعیل کی ترقی کا بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ اور ضروری تھا کہ جس طرح بنو اسحاق کو ترقی دی گئی اسی طرح بنو اسمعیل کو بھی ترقی دی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا۔ باقی رہا یہ سوال کہ اگر حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی وعدہ ثابت بھی ہو تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ کسی خاص قوم کے کسی بزرگ انسان کی اولاد سے ہونے کا حقیقتاً ایک ہی ثبوت ہوتا ہے اور وہ اس قوم کی روایات ہیں جو نسل بعد نسل چلتی چلی جاتی ہیں تمام قوموں اور خاندانوں کے کسی خاص شخص سے متعلق ہونے کا اس کے سوا اور کیا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ قوم ایسا بیان کرتی ہے پھر اس معاملہ میں کیوں عربوں کے بیان کو تسلیم نہ کیا جائے جبکہ قریش کا دعویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے کا تھا کہ وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور تمام عرب اس بات کو تسلیم کرتے تھے خود کعبہ میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کا بت بنا کر رکھا ہوا تھا پھر قریش کے بنی اسمعیل ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کوئی ایسی دنیوی شہرت نہ رکھتے تھے کہ خیال کیا جائے کہ عرب کی بعض اقوام نے اس عزت میں حصہ لینے کے لئے اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر دیا ہو۔ پس ایک قوم کا دعویٰ جو صدیوں سے چلا آتا ہے کسی طرح رد نہیں کیا جاسکتا جبکہ جھوٹ کا کوئی محرک بھی دکھائی نہیں دیتا۔

دوسرا ثبوت قریش کے بنو اسمعیل ہونے کا یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹے طور پر بنو اسمعیل بن گئے تھے تو اصل بنو اسمعیل ان کے اس قول کو رد کرتے لیکن کسی قوم کا ان کے دعویٰ کو رد کرنا ثابت نہیں۔

سوم پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۰ میں لکھا ہے کہ

”میں اسماعیل کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔“

اگر قریش آپ کی اولاد نہیں تو وہ بڑی قوم کون سی ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ کیونکہ پیٹنگوئی چاہتی ہے کہ وہ قوم شناخت بھی ہو۔ ورنہ اس کے پورا ہونے کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ پس چونکہ قریش ہی اس بات کے مدعی ہیں اس لئے ان کا دعویٰ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔

غرض یہ دونوں اعتراض غلط ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد سے بھی بڑے بڑے انعامات کے وعدے تھے۔ پس بنو اسحاق کے بد عمل ہو جانے کے بعد خصوصیت سے بنو اسمعیل کا ہی حق تھا کہ ان میں وہ نبی مبعوث ہو جس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں۔

درحقیقت یہ دُعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اس میں اُن فرائض اور ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہر نبی جو دنیا میں آیا اس کا یہی کام تھا کہ وہ تلاوت آیات کرتا۔ کتاب اللہ کی تعلیم دیتا۔ احکام کی حکمتیں بتاتا اور تزکیہ نفوس کرتا اور یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سرانجام دینے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دُعاے ابراہیمی کو قبول فرما کر بنو اسمعیل میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج دیا جس نے یہ چاروں کام کئے بلکہ اُسے وہ مقام فضیلت بھی عطا فرمایا کہ اس نے تلاوت آیات۔ تعلیم کتاب۔ تعلیم حکمت اور تزکیہ نفوس میں ایسا نمایاں کام کیا۔ جس کی نظیر دنیا کے کسی اور نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتی اور درحقیقت یہی وہ کوثر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔

مجھے یاد ہے حضرت خلیفہ اولؓ کے زمانہ میں ایک دفعہ بعض دوستوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں انہیں قرآن کریم پڑھاؤں۔ چنانچہ میں نے سورہ بقرہ شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو یکدم میرے دل میں بجلی کی طرح ڈالا گیا کہ یہ آیت اس سورہ کے مضامین کی کنجی ہے اور اس سورت کے تمام مضامین اس آیت کی تشریح ہیں۔ بلکہ انہیں بیان بھی اسی ترتیب سے کیا گیا ہے جس ترتیب سے دُعاے ابراہیمی میں ان کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مزید یہ امر کھولا کہ سورہ کوثر دُعاے ابراہیمی کا جواب ہے جس کا سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے۔ چنانچہ سورہ کوثر کی تفسیر میں میں نے ان تمام امور کا تفصیلاً ذکر کر دیا ہے۔

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔ اس میں ایک پیشگوئی کی گئی ہے جو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ دشمن یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً (الفرقان: ۳۳) یعنی اس پر سارے کا سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اُترا۔ اُدھر دشمنوں کا یہ اعتراض ہے اور ادھر یہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کلام جو وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوگا۔ ورنہ اگر اس بات کی طرف اشارہ نہ ہوتا تو پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ كَلَامَكَ وہ تیرا کلام لوگوں کو پڑھ کر سنائے گا۔ آیات کے لفظ کا استعمال بتاتا ہے کہ وہ کلام

ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوگا۔ کچھ آیات اتریں گی اور وہ سنا دے گا پھر اور اتریں گی اور وہ سنا دے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کلام کے نزول کی کیفیت بھی بتادی گئی تھی اور سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ اکٹھا نہیں اترے گا۔ بلکہ آہستہ آہستہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اترے گا قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نازل ہونے میں حکمت یہ تھی کہ اگر اکٹھی تمام شریعت نازل ہو جاتی تو انسان گھبرا جاتا اور کہتا کہ میں اس پر کس طرح عمل کروں۔ مگر جب ایک ایک ٹکڑا نازل ہوا تو لوگوں کے لئے عمل کرنا آسان ہو گیا اور بتدریج وہ ترقی کرتے چلے گئے۔ غرض یَنْتَلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِکَ میں قرآن کریم کے نزول کی کیفیت بتائی گئی ہے اور اس میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہ کلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوگا۔

آیت کے ایک معنی علامت کے بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے یَنْتَلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِکَ کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ تیری علامات لوگوں کو بتائے۔ اس میں یہ اشارہ مخفی تھا کہ وہ ایسا کلام پیش کرے گا جس سے خدا تعالیٰ کا وجود نظر آجائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ یُبْصِرُ الْاَبْصَارَ (الانعام: ۱۰۳) یعنی آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتیں مگر وہ اپنے کلام کے ذریعہ بینائیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پس اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسی علامتیں لوگوں کو بتائے گا جن سے خدا تعالیٰ کا وجود پہچانا جائے گا۔ اور ایسے دلائل پیش کریگا جن سے انہیں خدا تعالیٰ نظر آجائے گا۔ یہ دلائل آگے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عقلی اور دوسرے اعجازی۔ پس یَنْتَلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِکَ میں بتایا کہ وہ ان عقلی امور کی طرف بھی لوگوں کی راہنمائی کریگا جو خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے ہیں اور ان معجزات اور نشانات کو بھی پیش کرے گا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں۔

آیت کے ایک معنی چونکہ عذاب کے بھی ہوتے ہیں اس لئے یَنْتَلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِکَ سے یہ استنباط بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف عذاب کی خبریں دے گا۔

پھر آیت کے ایک معنی چونکہ اونچی عمارت کے بھی ہیں اس لئے یَنْتَلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِکَ کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس کی تعلیم میں تدریجی ارتقاء ہوگا۔ جیسے عمارت پر عمارت بنتی ہے اور وہ اپنے اندر مومنوں کے لئے بھاری ترقیات کے سامان رکھتی ہوگی۔

یُعَذِّبُهُمُ الْکِیۡتٰبَ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ انہیں ایسی تعلیم دے گا جو ساری کی ساری لکھی ہوئی ہوگی۔ کیونکہ عربی زبان میں ہر اس چیز کو کتاب کہا جاتا ہے جس میں مختلف مسائل کا ابواب وار اندراج ہو۔ اس لحاظ سے صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر صحابہؓ کو لکھی ہوئی ملی۔

اور صرف مسلمان ہی دنیا میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن شروع سے اب تک محفوظ صورت میں لکھا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور الہامی کتاب کو ہرگز حاصل نہیں۔ کیونکہ دوسری کوئی کتاب بھی لکھی ہوئی نہ تھی۔ کوئی سینکڑوں سال بعد جمع کی گئی اور کوئی کتاب اگر اس وقت لکھی بھی گئی تو اسے یہ خصوصیت حاصل نہ تھی کہ اس کا لفظ لفظ الہامی ہو۔ بائبل کے متعلق یہ کبھی بحث نہیں ہوئی کہ یہاں زبر ہے یا زیر ہے۔ لیکن قرآن کریم کے متعلق یہ بحث ہوتی تھی کہ یہاں زبر ہے یا زیر ہے بلکہ یہاں تک بھی بحث ہوتی تھی کہ یہاں ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا۔ غرض اس میں بتایا کہ وہ رسول ایک ایسی کتاب کی تعلیم دیگا جو بالکل محفوظ ہوگی اور اس کے زمانہ میں ہی لکھی جا چکی ہوگی۔

پھر کتاب جمع کرنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی تعلیم دے گا جو تمام قسم کے علوم اور تعلیموں پر حاوی ہوگی اور ہر قسم کی اخلاقی، تمدنی، مذہبی اور اقتصادی تعلیم کی جامع ہوگی۔

کتاب کے ایک معنی چونکہ فرض کے بھی ہیں اس لحاظ سے **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ** کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ ایسی تعلیم دے گا جس پر عمل کرنا لوگوں کے لئے فرض ہوگا۔ گویا وہ تمام ضروری باتیں جن کے بغیر روحانی زندگی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی اس کے ذریعہ لوگوں کو بتادی جائیں گی۔

پھر کتاب کے ایک معنی حکم کے بھی ہیں۔ اگر حکم کو فرض کا ہم معنی سمجھ لیا جائے تب تو اس کے کوئی علیحدہ معنی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر حکم کو فرض سے الگ سمجھا جائے تو پھر یہ مراد ہوگی کہ بعض احکام تو فرض ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ جو فرائض قطعی ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں قائم رہتے ہیں جیسے نماز ہے۔ لیکن بعض حکم ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق بدل جاتے ہیں۔ مثلاً اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم سزا میں فائدہ دیکھو تو سزا دو اور اگر معاف کرنے میں فائدہ دیکھو تو معاف کر دو۔ پس جو احکام بدلتے نہیں وہ فرائض ہیں اور جو ضرورت کے ماتحت تبدیل ہو جاتے ہیں وہ حکم ہیں۔ ایسے احکام کو حکم اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ حکمت سے نکلا ہے اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم خود سوچ لو کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فرض کی صورت میں تو اس نے کسی اور پر بات نہیں چھوڑی لیکن احکام میں اس نے رعایت دیدی ہے مثلاً فرض نمازوں کی اس نے خود ہی رکعات مقرر کر دی ہیں جن کو انسان گھٹا بڑھا نہیں سکتا لیکن نوافل اس نے انسان کی مرضی پر رکھ دیئے کہ جتنی توفیق ہو پڑھ لو۔ اس فرض کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیر تفسیر آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ایسی کتاب ہوگی جو تمام احکام کی جامع ہوگی۔ خواہ وہ لازمی ہوں یا اختیاری۔

پھر کتاب کے ایک معنی قضاء آسانی کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے **وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ** کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ

ان کو تقدیر الہی کا علم دیگا۔ درحقیقت اگر غور سے کام لیا جائے تو تقدیر کا صحیح علم دینے والا صرف قرآن کریم ہی ہے۔ باقی سب لوگ یا تو جبر کی طرف چلے گئے ہیں یا قدر کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ جس کتاب نے جبر و قدر کا صحیح مفہوم بیان کیا ہے وہ صرف قرآن کریم ہی ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن کریم کے ماننے والوں میں سے بھی بعض قدری اور بعض جبرئی بن گئے ہیں۔ حالانکہ صحیح مذہب ان کے بین بین ہے۔ میں نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جتنا غور کیا ہے ہمیں یہی معلوم ہوا ہے کہ صرف قدر کے عقیدہ سے بھی امن اٹھ جاتا ہے اور صرف جبر کے عقیدہ سے بھی امن اٹھ جاتا ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ صرف قدر ہی قدر ہے اور انسان تارک الدنیا ہو جائے تو وہ نیکیوں میں ترقی نہیں کر سکتا اور اگر جبر کا عقیدہ اختیار کر لیا جائے تو وہ سمجھے گا کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس سے کرواتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اسے کسی بدی سے بھی عار نہیں رہے گی کیونکہ وہ اسے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے گا۔ غرض صحیح عقیدہ ان دونوں کے درمیان ہے اور انسانی اعمال کی مثال ایک ایسے گھوڑے کی سی ہے جو لمبی رسی سے بندھا ہوا ہو۔ وہ یہ خیال کر کے کہ میں آزاد ہوں چلتا پھرتا ہے مگر آخر اسے جھٹکا لگتا ہے اور رُک جاتا ہے۔ اسی طرح انسان مقید بھی ہے اور مختار بھی۔ انسان مختار ہے ایک حد کے اندر اور مقید ہے ایک حد کے اندر جو قید کو نہیں سمجھتا وہ بھی گمراہ ہے اور جو اختیار کو نہیں سمجھتا وہ بھی گمراہ ہے اور یہ علم صرف قرآن کریم سے ہی حاصل ہوتا ہے۔

وَالْحِكْمَةُ: حکمت کے ایک معنی چونکہ عدل کے بھی ہیں۔ اس لئے حکمت سکھانے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ عدل سکھائیگا۔ اس کی تعلیم میں ظلم بالکل نہ ہوگا۔

اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ علم کو کامل کریگا۔ یعنی بعض شریعتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف حکم دیتی ہیں علم نہیں دیتیں۔ وہ کہتی تو ہیں کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو۔ مگر اس کی وجہ نہیں بتاتیں۔ ان میں صرف امر کا حصہ ہوتا ہے لیکن علم کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلی شریعتوں میں جو احکام دیئے گئے ان کی بھی حکمتیں تھیں مگر وہ حکمتیں بتائی نہیں جاتی تھیں۔ مگر قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسی تعلیم ہوگی جس کے ساتھ احکام کی حکمت اور وجہ بھی بتائی جائیگی۔ وہ بتائے گا کہ نماز پڑھو۔ کیونکہ اس میں یہ حکمت ہے۔ یا چوری نہ کرو کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ نہ بولو اور ظلم نہ کرو بلکہ وہ جھوٹ نہ بولنے اور ظلم نہ کرنے کی وجہ اور حکمت بھی ساتھ بتائے گا۔ اور عمل کے ساتھ علم کا حصہ بھی شامل کرے گا۔

حکمت کے ایک معنی حکم یعنی دانائی کے بھی ہیں۔ یعنی موقعہ اور محل کی شناخت۔ یہ چیز علم سے کسی قدر اختلاف

رکھتی ہے۔ علم تو کہتا ہے کہ ایسا کرو یا نہ کرو لیکن دانائی بتاتی ہے کہ فلاں موقعہ پر یوں کرو اور فلاں موقعہ پر یوں۔ پس اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ مقررہ احکام کی تو حکمت بتائے گا اور جو معین احکام نہیں بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان میں دانائی کی راہ سکھائے گا اور بتائے گا کہ فلاں جگہ اس طرح کرو اور فلاں جگہ اس طرح۔

حکمت کے ایک معنی نبوت کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس رسول کے ذریعے انہیں نبوت کا مقام حاصل ہو سکے گا۔

اس کے ایک معنی وَضَعَ الشَّيْءَ فِي مَوْضِعِهِ کے بھی ہیں مگر یہ معنی دانائی میں ہی آجاتے ہیں اسی طرح اس کے معنی مَا يَمْتَنِعُ مِنَ الْجَهَالَةِ کے بھی ہیں۔ یعنی ایسی وجوہ جو کسی بڑے کام سے روکنے والی ہوں۔ مگر یہ معنی بھی پہلے معنوں میں آجاتے ہیں۔ پس اصل میں اس کے چار معنی ہیں (۱) عدل (۲) علم (۳) حلم (۴) نبوت۔

وَيُزَكِّيهِمْ فِي مَعْنَى مَا يَمْتَنِعُ مِنَ الْجَهَالَةِ میں ان معنوں کے لحاظ سے جو صل لغات میں بیان کئے جا چکے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ (۱) وہ ان کی تعداد کو بڑھائیگا۔ یعنی اس کے کلام میں غیر معمولی تاثیر ہوگی جس کی وجہ سے لوگ اُسے قبول کرتے چلے جائیں گے اور اس کا مذہب دنیا پر غالب آئیگا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تَزَوُّوا لِدُودِ الْوَالِدِ فَإِنَّهُ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ۔ (ابو داؤد کتاب النکاح باب النہی عن تزویج من لم یلد من النساء و نسائی کتاب النکاح) کہ بہت بچے جننے والی اور محبت کرنے والی عورتوں سے شادیاں کرو۔ کیونکہ میں باقی اُمتوں پر تمہاری کثرت کو پیش کر کے قیامت کے دن فخر کروں گا۔ غرض تعداد کا بڑھانا خواہ نسلی لحاظ سے ہو یا تبلیغی لحاظ سے یُزَكِّيهِمْ میں ہی شامل ہے۔

پھر اسلامی تعلیم بنیادی طور پر ایسے امور پر مشتمل ہے جن سے مسلمان دنیوی لحاظ سے بھی غیر معمولی ترقی کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک بڑی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة: ۱۰۳) یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو اپنی اُمت کے لوگوں سے مال لے اور اس کے ذریعے ان کو پاک کر اور ان کو بڑھا یہ قانون جو اسلام نے قائم فرمایا ہے دنیا کی اور کسی مذہبی کتاب میں نہیں۔ صرف اسلام ہی ہے جس نے ایک قومی فنڈ مقرر کیا ہے جس کی غرض یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے غرباء کی طاقت کو بڑھایا جائے۔ اور انہیں بھی ترقی کی دوڑ میں امراء کے دوش بدوش کھڑا کیا جائے۔ یہ مال جن مقامات پر خرچ کیا جاسکتا ہے ان میں سے ایک مَوْلَفَةُ الْقُلُوبِ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روپیہ دیکر دوسروں کو مسلمان بنایا جائے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مذاہب میں سے جو لوگ اسلام سے دلچسپی رکھتے ہوں انہیں لٹریچر مہیا کیا جائے اور انہیں حق کی تلاش میں مدد دی جائے۔ پھر اس

کا ایک مصرف مساکین ہیں اور مساکین سے وہ لوگ مراد ہیں جو کمائی نہیں کر سکتے اور جو دوسروں پر بوجھ بنے ہوتے ہیں۔ جب کسی قوم میں ایسے لوگ ہوں تو ان کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سوال کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور ان کی غیرت مٹ جاتی ہے۔ اگر ایک فنڈ ہو جس سے ان کی مدد کی جائے تو قوم میں سوال کرنے کی عادت پیدا نہیں ہوتی۔ اسلامی طریق یہی ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو جہاں تک ہو سکے خود پورا کیا جائے اور جماعتی نظام ان کا خیال رکھے اور ان کے مانگنے کے بغیر ہی ان کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے اور جو لوگ بغیر ضرورت کے مانگیں ان کی سفارش نہ کی جائے اس کے بغیر قوم کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔

پھر مسکین خالی وہ شخص نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو بلکہ مسکین وہ بھی ہے جو کوئی پیشہ تو جانتا ہو مگر اس کے پاس اتنا روپیہ نہ ہو کہ وہ ضروری آلات خرید سکے۔ ایسے شخص کے متعلق بھی ضروری ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اُسے اپنے فن سے تعلق رکھنے والی ضروری اشیاء اور آلات مہیا کئے جائیں۔ اسی طرح جو بیوگان اور یتیمی ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ یہ تمام باتیں یٰۤاٰیُّہٖمُّمُّدِّیُّہٖمُّ میں شامل ہیں کیونکہ اس طرح قوم کے افراد ترقی کر سکتے ہیں۔ پھر تزکیہ سے ظاہری صفائی بھی مراد ہے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ راستہ میں کوئی گند نہ پھینکا جائے کھڑے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔ سایہ دار جگہوں میں جہاں لوگ آرام کرتے ہیں پاخانہ نہ پھرا جائے۔ اسی طرح وضو کرنا، جمعہ کے دن نہانا، بدن اور لباس کی میل دُور کرنا، ناک کان اور بالوں کی صفائی کرنا اور ناخنوں کے اندر میل جھننے نہ دینا۔ یہ تمام امور یٰۤاٰیُّہٖمُّدِّیُّہٖمُّ میں شامل ہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص بُودار چیر کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ (ترمذی ابواب الطہارۃ۔ مسلم کتاب الطہارۃ باب خروج الخطایا۔ بخاری کتاب الجمعة و کتاب الاستیذان و کتاب الاطعمۃ) کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر قلبی صفائی ہے اس کے متعلق بھی اسلام اعلیٰ درجہ کی تعلیم کا حامل ہے۔ اخلاقی تعلیم ہے اس کے متعلق بھی اسلام نے بڑا زور دیا ہے اور کہا ہے کہ غیبت نہ کرو۔ چغلی نہ کرو۔ حسد نہ کرو۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو۔ تجارتی بددیانتی نہ کرو۔ حساب کتاب صاف رکھو۔ لین دین کے معاملات تحریر میں لے آیا کرو۔ سود نہ لو۔ قرض دو تو لکھ لیا کرو۔ قرض لو تو مقررہ وقت کے اندر ادا کرو۔ غرض تزکیہ نفوس کے لئے تمام ضروری احکام اور ان کی تفصیلات قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں اور اس نے انسانی اعمال اور جذبات اور فکر کا ایسا تزکیہ کیا ہے جس کی مثال کسی اور مذہب میں نظر نہیں آ سکتی اور جس سے دُعاے ابراہیمی کے پورا ہونے کا ایک زبردست ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے خدا! تو ان میں ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ چنانچہ اللہ

تعالیٰ نے آپ کی دُعا کو قبول فرماتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسلِ اسمعیل میں سے مبعوث فرما دیا اور وہ تمام کام آپؐ نے کر دکھائے جن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی تھی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو دُعا ئے ابراہیمی کا مصداق قرار دیا ہے اور آپؐ نے فرمایا ہے۔ اَنَا كَذَوُّهُ اَبِي اِبْرَاهِيمَ (جامع البیان زیر آیت ہذا) یعنی میں وہ شخص ہوں جو اپنے دادا ابراہیمؑ کی دُعاؤں کے مطابق دنیا کی اصلاح کے لئے کھڑا کیا گیا ہوں۔ پس یہ ایک بہت بڑی دُعا ہے جو اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اس جگہ خدا تعالیٰ کی دو اُصنافِ عزیز اور حکیم کا اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ دُعا ئے ابراہیمی کا ایک حصہ صفتِ عزیز سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا صفتِ حکیم سے۔ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ اور يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ والا حصہ صفتِ عزیز کے ماتحت ہے کیونکہ غالبِ خدا ہی بندوں تک پہنچ سکتا ہے۔ بندہ اپنی ذاتی جدوجہد سے اس تک نہیں پہنچ سکتا اور پھر غالبِ خدا کا ہی یہ حق ہے کہ احکام دے۔ دوسری طرف حکیم ہستی ہی دوسروں کو حکمت سکھا سکتی ہے اور تزکیہ بھی حکمت ہی کے ماتحت ہوتا ہے۔ اگر حکمت سمجھائے بغیر کوئی بات منوائی جائے تو دل اس کا تابع نہیں ہو سکتا دل تھی مانے گا جب وہ اس کی حکمت معلوم کر لے گا۔ اسی طرح تزکیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دل پر اثر نہ ہو۔ غرض اس دُعا کا ایک حصہ صفتِ عزیز سے اور دوسرا صفتِ حکیم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی چار مقاصدِ خلافتِ اسلامی کے فرائض سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی دلائل سکھانا۔ خدا کی باتیں لوگوں کو بتانا۔ شریعت سکھانا۔ ایمان تازہ کرنے کے لئے قرآن کریم کے احکام اور ان کی حکمتیں بتانا۔ جسمانی و قلبی طہارت پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور یہی مبلغوں، کارکنوں، پریزیڈنٹوں امیروں اور سکریٹریوں کا کام ہے۔ جب تک ان چاروں باتوں کو مد نظر نہ رکھا جائے اُس وقت سلسلہ کی غرض و غایت پوری نہیں ہو سکتی۔ ابتدائے خلافت میں میں نے منصبِ خلافت میں ان باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ تاکہ لوگ اس طرف توجہ کریں اور انہیں بار بار مجھ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے کہ ہمیں بھی کوئی کام بتایا جائے۔ مگر بہت کم لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ پس جو دوست سلسلہ کی خدمت کا شوق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ لیں اور خود ہی دیکھ لیں کہ ان کے کیا فرائض ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ وہ ان چاروں کاموں کو پورا کریں۔ یہی وہ کام ہیں جن کے لئے اسلام نبوتِ خلافت اور امامت قائم کرتا ہے۔ پس نبی کا بھی اور پھر اس کے بعد خلفاء اور ان کے تابعین کا بھی یہی کام ہوتا ہے اور جو شخص ان کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے انصار میں شامل کر لیتا ہے۔

اس رکوع کی آیت ۱۲۳، ۱۲۴ میں یہ بتانے کے لئے کہ جو مضمون شروع کیا گیا تھا وہ ختم کیا جاتا ہے پھر اسی مضمون کے الفاظ لائے گئے ہیں جو آیت ۴۱ میں تھے۔

اور فرمایا کہ دیکھو ہم نے اپنا عہد پورا کیا اور تمہیں لوگوں پر فضیلت دی مگر اس کے مقابلہ میں تم نے جو شکر کیا وہ یہ ہے پس اب تم میں نبی نہیں آسکتا۔ تم ایمان لاؤ ورنہ عذاب الہی جب نازل ہوتا ہے تو نہ شفاعت کام دیتی ہے اور نہ تاوان۔ آیت ۱۲۵ میں بتایا کہ نبوت سے بنی اسرائیل کو محروم کرنا بھی اسی عہد کے مطابق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد کے متعلق کیا گیا۔ آیت ۱۲۶، ۱۲۷ میں اس سوال کا جواب دیا جو بنی اسرائیل کو نبوت سے محروم رکھنے پر پیدا ہوا تھا کہ اب نبی کس قوم سے پیدا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ بنو اسماعیل سے۔ چنانچہ اس کے لئے تعمیر کعبہ کا واقعہ یاد دلایا جس میں حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ حضرت اسماعیلؑ بھی شامل تھے۔ اور دونوں نے بہت دعائیں کی تھیں جو رایگان نہیں جاسکتیں۔ آیت ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰ میں ان دُعاؤں کا ذکر کیا اور اس نبی کے کاموں کی تفصیل بتائی جس کے مبعوث ہونے کی دعا کی گئی تھی۔ اور ان دُعاؤں کو بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بنو اسحاق کی ترقی کے علاوہ بنو اسماعیل کی ترقی کے لئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ پس جب بنو اسحاق اپنی بد اعمالیوں سے نبوت کے انعام سے محروم کئے گئے تو ان کے بعد بنو اسماعیل حق دار تھے کہ نبوت کا انعام انہیں ملتا۔ پس آنے والا بنی اسماعیل میں سے ہونا چاہیے تھا اور انہیں میں سے آیا ہے۔

وَمَنْ يَّرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۗ وَلَقَدِ

اور اس شخص کے سوا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہو ابراہیم کے دین سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ اور ہم نے

اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۱﴾

یقیناً سے (اس) دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں میں (شمار) ہوگا۔

حَلُّ لُغَاتِ - سَفِهَ (۱) سَفِهَ نَفْسَهُ کے معنی ہیں ذَسِيْبَهُ اپنا حصہ بھول گیا۔ (۲) سَفِهَ نَفْسَهُ کے معنی ہیں حَمَلَهُ عَلَى السَّفَهَةِ - اُسے بیوقوفی پر آمادہ کیا (۳) أَهْلَكَهُ اپنی جان کو ہلاک کیا۔ (۴) جَهَلَهُ - اپنی حقیقت کو نہ سمجھا۔ (لسان) جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ إِمَّا الْبَغِيُّ مِنْ سَفِهَةِ الْحَقِّ أَوْ مِنْ جَهْلِهِ (مسند احمد بن حنبل مسند عبد اللہ بن مسعود) یعنی ظلم کسی کا حق نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس جگہ سَفِهَةَ کے معنی حق کو

بھول جانے اور اس سے ناواقف ہو جانے کے ہیں پس بھولنا۔ بیوقوف بنانا۔ ہلاک کرنا۔ ناواقفی۔ عدم علم سب اس کے معنی ہیں۔ ان معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ (۱) جو شخص اپنی جان کو بھول جاتا ہے (۲) جو اپنی جان کو حماقت پر آمادہ کرتا ہے یا اپنے نفس کو کہتا ہے کہ تم بیوقوفی کرو۔ (۳) جو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے (۴) جو اپنے نفس کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتا۔

إِصْطَفَى کے معنی ہیں اِخْتَارَ۔ اختیار کر لیا۔ پسند کر لیا۔ چن لیا۔ (۲) اَخَذَ كَاصْفَوَّةً اس کو پاکیزہ شکل میں لے لیا (المنجد) یعنی نہایت پسندیدہ صورت میں اسے اپنے قریب کر لیا۔ اور اس کے نیک اعمال دیکھ کر اُسے اپنے قرب میں جگہ دی۔

صَالِحٍ کے معنی ہیں درست۔ جس میں صلاحیت پائی جائے اور عمل صالح وہ عمل ہے جو مناسب حال ہو۔ نیک عمل اور ہوتا ہے اور مناسب حال اور چیز ہے۔ نماز نیک عمل ہے مگر دشمن کے حملہ کے وقت وہ عمل صالح نہیں ہوتی بلکہ اس کے حملہ کا دفاع عمل صالح ہوتا ہے۔ پس صالح وہ شخص ہے جس کی زندگی اپنے ماحول کے مطابق ہو اور نیک بھی ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص صالح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے اور مناسب حال کرتا ہے۔ بدی بھی کبھی مناسب حال ہوتی ہے مگر وہ نیکی نہیں ہوتی اس لئے وہ صالح نہیں ہوتی۔ صالح میں دونوں باتوں کی شرط ہے یعنی وہ خیر ہی خیر ہو اور پھر مناسب حال ہو۔

تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرنے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اس لئے پیش کی ہے کہ مخاطبین میں یہود اور نصاریٰ بھی شامل ہیں۔ اور ان کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ آپ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ان کے لئے دلیل ہو سکتی تھی کیونکہ عرب بھی اور یہودی بھی اور عیسائی بھی اور صابی بھی سب کے سب حضرت ابراہیمؑ پر ایمان لانے میں مشترک تھے پس ضروری تھا کہ ان کے سامنے ایسے شخص کی مثال پیش کی جاتی جو علاوہ اہل عرب کے اہل کتاب کے تینوں گروہوں کے لئے بھی یکساں قابل احترام ہوتا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہو سکتے تھے۔ جو علاوہ عربوں کے یہود کے لئے بھی واجب الاحترام ہیں۔ عیسائیوں کے لئے بھی واجب الاحترام ہیں اور صابیوں کے لئے بھی واجب الاحترام ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے عربو اور یہودو اور عیسائیو اور صابیو! تم بھی ابراہیمؑ کی طرح اختیار کرو۔ اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم بن کر آیا ہے اس کو مانو اور قومی جنبہ داریوں اور تعصبات کو چھوڑ دو۔ جیسا کہ ابراہیم

نے خدا تعالیٰ کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تب تمہارے لئے بھی یہ موقعہ پیدا ہو جائے گا کہ تم خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔

عربی زبان میں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں صرف عَن اور اِلٰی کے فرق سے بعض دفعہ ایک متضاد مفہوم پیدا کر دیا جاتا ہے حالانکہ دوسری زبانوں میں اس کے لئے مستقل لفظ تلاش کرنا پڑتا ہے اس جگہ بھی يَزَعْبُ کے ساتھ عَن کا صلہ استعمال کر کے اسے اعراض کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے حالانکہ اِلٰی کے صلہ کے ساتھ اس کے معنی محبت اور پیار کے ہیں نہ کہ اعراض کے۔ درحقیقت اگر غور سے کام لیا جائے تو متضاد جذبات بھی ایک منبع سے تعلق رکھتے ہیں اور ظاہر میں اُن کی جو ایک تبدیل شدہ شکل ہوتی ہے وہ حقیقت کا اختلاف نہیں بلکہ کیفیت کا اختلاف ہوتا ہے۔ رغبت اور نفرت بھی ایک ہی قسم کے جذبات ہیں۔ اسی طرح بہادری اور بزدلی بھی ایک ہی قسم کے جذبات ہیں صرف اُن کی کیفیت بدل جاتی ہے مثلاً رغبت کو ہی لے لو۔ جب انسان ایک چیز کی رغبت کرتا اور اس کی طرف جاتا ہے اور دوسری چیز کی طرف سے ہٹتا اور نفرت کا اظہار کرتا ہے تو اگر ہم گہری چھان بین کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان دونوں کے پیچھے ایک ہی جذبہ کام کر رہا ہوتا ہے جب انسان ایک چیز کی طرف جاتا ہے تو اس طرف جانے کا موجب بھی محبت ہوتی ہے اور جب کسی چیز کی طرف سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا موجب بھی ایک دوسری محبت ہوتی ہے گو یا رغبت کا منبع بھی محبت ہے اور بے رغبتی کا منبع بھی محبت ہے۔ جب انسان ایک چیز کی طرف جاتا ہے تو وہ اس چیز کی محبت کی وجہ سے جاتا ہے اور جب کسی سے پیچھے ہٹتا ہے تو کسی اور چیز کی محبت کی وجہ سے ہٹتا ہے اسی طرح بہادری اور بُردی خواہش حفاظت کے تابع ہوتی ہے۔ جب انسان حملہ کرتا ہے تب بھی اس کی غرض جان بچانا ہوتی ہے اور جب دشمن سے بھاگتا ہے تب بھی وہ اپنی جان کی حفاظت کے لئے ہی بھاگتا ہے لیکن طریق مختلف ہیں ایک میں دوسرے پر حملہ کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور دوسرے میں اپنے آپ کو ہٹا کر حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ غرض عَن اور اِلٰی کے استعمال میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سے جذبات ایک ہی منبع کے تابع ہوتے ہیں صرف کیفیتوں کا اختلاف اور فرق ان میں پایا جاتا ہے۔

اَلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ: سَفِهَ کے ایک معنی جیسا کہ حَلِّ لُغَاتٍ میں بتایا جا چکا ہے نَسِيْبَةٌ کے ہیں اس لحاظ سے وَمَنْ يُّزَعْبُ عَن ذَمِّهِمْ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ کے یہ معنی ہوں گے کہ اس شخص کے سوا جو اپنے نفس کے فوائد کو کلی طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ابراہیمؑ کے دین سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کا طریق ترک کرنے سے نبیوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہاں انسان کی اپنی جان کو ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کو

چھوڑنا اپنے نفس کو فائدہ پہنچانا ہے مگر جو شخص عادل بادشاہ کو چھوڑتا ہے وہ اپنی جان کو آپ نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ وہ اُس کے عدل سے محروم ہو جاتا ہے اسی طرح انبیاء کے نقش قدم پر نہ چلنا اور ان کے طریق کو ترک کر دینا خود انسان کے لئے باعث نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ اُن نواند سے محروم ہو جاتا ہے جو متابعت کے نتیجہ میں اُسے حاصل ہو سکتے تھے۔ چونکہ اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ ابراہیمؑ کا نمونہ یہ تھا کہ وہ تمام ابتلاؤں اور آزمائشوں کے دور میں سے کامیابی کے ساتھ نکلا اور اُس نے خدا تعالیٰ کی ہر آواز پر لبیک کہا۔ یہاں تک کہ جب اُسے کہا گیا کہ جا اور اپنے بیٹے اور بیوی کو ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آ جہاں پانی کا ایک قطرہ اور غذا کا ایک دانہ تک نہیں ملتا تو وہ بے چون و چرا اٹھا اور اُس نے میلوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بچے کو ایک بے آب و گیاہ جنگل میں لاکر چھوڑ دیا۔ اور خود واپس چلا گیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ یہ عظیم الشان نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر کے فرماتا ہے کہ جو شخص اس ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اُن قربانیوں سے کام نہیں لیتا جن کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے وہ بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کی خیر خواہی کی۔ اس نے اپنے مال کو بچا لیا یا اپنی اولاد کو بچا لیا یا اپنے جذبات اور احساسات کو قربان ہونے سے بچا لیا۔ مگر درحقیقت وہ اپنے نفس کو بھلانے والا ہوتا ہے۔

سَفِیْہٖ نَفْسَہٗ کے دوسرے معنی ہیں حَمَلَةٌ عَلٰی السَّفِیْہِ اس نے اپنے نفس کو بیوقوفی پر آمادہ کیا۔ اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ ابراہیمی دعا جو ایک آنے والے عظیم الشان رسول کے متعلق ہے اپنے اندر دنیا کے لئے رحمت کا اتنا بڑا خزانہ پوشیدہ رکھتی ہے کہ جو شخص اس دعا سے اعراض کرتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کے مصداق ہیں ایمان نہیں لاتا وہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کا بدترین مظاہرہ کرتا ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس وسیع نظام میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لئے تیار نہیں جو آیات الہیہ کی تعلیم کے لئے قائم کیا گیا ہے جو کتاب اللہ کی ترویج کے لئے قائم کیا گیا ہے جو تمام احکام کی حکمتوں اور ضرورتوں کو بیان کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے اور جو انسانی فکر اور عمل کی اصلاح اور تزکیہ نفوس کے لئے قائم کیا گیا ہے جو شخص ان تمام باتوں سے منہ موڑتا ہے اور نہ صرف روحانی تعلیمات سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے بلکہ سیاست، تمدن، اقتصاد اور اخلاق کو ترقی دینے والی تعلیموں کی بھی پروا نہیں کرتا اور فلسفہ احکام سے بھی غافل رہتا ہے اور فکر اور عمل کی بھی اصلاح نہیں کرتا۔ اس کے متعلق سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس نظام کو ترک کر کے ایک بڑی بھاری حماقت کا ثبوت دیتا ہے۔

سَفِیْہٖ نَفْسَہٗ کے تیسرے معنی اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے ہیں۔ چنانچہ لسان العرب میں سَفِیْہٖ نَفْسَہٗ کے معنی یہ لکھے ہیں کہ اَهْلَکَ نَفْسَہٗ وَاوْبَقَہَا۔

اُس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا اور برباد کر دیا۔ اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے خواہ مشرکین مکہ ہوں یا یہود اور نصاریٰ انہیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ دعائے ابراہیمی کے اس مصداق کو قبول نہیں کریں گے اور بیت اللہ کے قیام کے مقاصد اور ہاجرہ اور اسماعیلؑ کے مکہ میں قیام کی اصل غرض کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ اپنی جان کو آپ ہلاک کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اس لحاظ سے بھی اُن پر ہلاکت نازل ہوگی کہ وہ ہر قسم کی اعلیٰ تعلیم سے محروم رہیں گے اور اس لحاظ سے بھی ان پر ہلاکت نازل ہوگی کہ وہ خدائی عذاب میں گرفتار ہوں گے جیسے ابو جہل نے تعلیم اسلامی پر عمل نہ کیا تو اُس پر خدا تعالیٰ کا فضل نازل نہ ہوا۔ یہ ایک طبعی نتیجہ تھا جو پیدا ہوا لیکن اس کے علاوہ ایک شرعی نتیجہ بھی اُس نے دیکھا اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے اُسے سزا دی اور وہ جنگ بدر میں دو انصاری لڑکوں کے ہاتھوں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا۔ (بخاری، کتاب المغازی، باب قتل ابی جہل)

سَفِيفَةٌ دَفْسَةٌ کے چوتھے معنی جھلکے کے ہیں۔ اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہیں کہ اُس شخص کے سوا جو اپنے نفس کو اعلیٰ درجہ کے حقائق سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے ملتِ ابراہیمی سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ دعائے ابراہیمی کے نتیجہ میں جو عظیم الشان تعلیم دنیا کو ملی ہے یہ انسان کی اندرونی قابلیتوں کو ابھار کر اُسے کامیابیوں کے اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے۔ اور سوائے ایسے شخص کے جو اپنے نفس کا دشمن ہو اور اُسے اعلیٰ تعلیم سے باخبر رکھنا پسند نہ کرتا ہو اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ شخص جو ترقی کی دوڑ میں کسی دوسرے سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا وہ اسے کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کیونکہ اُس کے چھوڑنے سے نفس انسانی پر غفلت اور جمود کا طاری ہو جانا ایک لازمی امر ہے۔ جیسے موجودہ زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرنے والوں میں ایک عام جمود اور بے حسی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ روزے بھی رکھتے ہیں۔ حج بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ صدقہ و خیرات میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ مگر ہمیں خدا نہیں ملتا حالانکہ اُن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو کر اِٰهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لئے تمام ترقیات کے دروازے بند ہیں۔ اور جب کسی انسان کا یہ خیال ہوتا ہے تو نماز میں وہ جوش کس طرح پیدا ہو سکتا ہے جو اُسے خدا تعالیٰ تک پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں۔ ابراہیمی انعامات میں ہم کہاں شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام انہیں ملا وہ ہمیں کب مل سکتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ تو

کہتے ہیں اُن کے انعامات ہمارے لئے کہاں مقدر ہیں۔ حضرت موسیٰ۔ حضرت داؤد۔ حضرت سلیمان اور حضرت مسیح علیہم السلام کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے انہیں دیا وہ ہمیں کب میسر آسکتا ہے۔ غرض جب بھی وہ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ پھر اُن کے اندر دعا کے وقت جوش کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے اور ہمارے لئے بھی وہ مراتب قرب کھلے ہیں جو پہلے لوگوں نے حاصل کئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہمیں ملتے ہیں وہ اُن کو نہیں ملتے۔ غرض مَنْ يَرْعَبُ عَنْ وِلَدِهِمْ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعہ جو تعلیم دنیا میں آئی ہے وہ انسانی قوتوں کو ابھارنے والی اور اُس کے نفس کو ترقیات کے بلند ترین لے جانے والی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ انسان گنہگار پیدا ہوا ہے۔ بلکہ کہتی ہے کہ انسان فطرتاً نیک پیدا ہوا ہے اور نیکی میں ترقی کرنے کیلئے پیدا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ میں اور نیکیاں کروں اور خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھ جاؤں لیکن جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انسان گنہگار پیدا ہوا ہے تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نیک عمل کی کیا ضرورت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اس تعلیم کو چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تعلیم بڑی فوائد والی ہے اور اس سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے حقوق پہنچانے سے بھی عاری ہو۔

اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں صفوة اور بزرگی بخشی تھی وہ خدا تعالیٰ کا چنیدہ بندہ تھا۔ اُسے دوسروں پر فضیلت حاصل تھی اور خدا تعالیٰ کا قرب نصیب تھا۔

وَ اِنَّكَ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ اور آخرت میں بھی وہ یقیناً اُن بندوں میں شمار ہوگا جو جنتی زندگی کے مناسب حال اعمال بجالانے والے ہوں گے۔ اس سے صاف طور پر یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جنت میں بھی عمل ہے اور وہ ایسا مقام نہیں جیسا کہ مسلمان اس کا عام طور پر نقشہ کھینچا کرتے ہیں کہ وہاں ہر شخص بیکار بیٹھا ہوا رات دن کھانے پینے میں مشغول رہے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہاں اتنی حوریں ملیں گی۔ اتنے باغ ملیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ بلکہ اسکی بجائے وَ اِنَّكَ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے جہان میں بھی نیک عمل ہوگا۔ ورنہ کیا کوئی شخص یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے جہان میں نعوذ باللہ بے نماز ہوں گے۔ یا وہاں اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھنے کا احساس اُن کے دل میں نہیں

رہے گا۔ پس وہاں بھی عمل ہوگا اور جنتیوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے اسی طرح کھلے ہوں گے جس طرح اس جہان میں کھلے ہیں۔

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلَمَ لَقَالَ اَسَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۲﴾

جب اس کے رب نے اسے کہا کہ (ہماری) فرمانبرداری اختیار کر۔ اس نے (جواب میں) کہا کہ میں تو (پہلے ہی سے) تمام جہانوں کے رب کی فرمانبرداری اختیار کر چکا ہوں۔

حَلُّ لُغَاتٍ۔ اَسْلَمَ کے معنے ہیں۔ اِنْقَادٌ۔ مطیع ہو گیا۔ (۲) تَدَيَّنَ بِدِينِ الْاِسْلَامِ۔ اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ (۳) اَسْلَمَ اَمْرًا اِلَى اللّٰهِ اُس نے اپنا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا (اقرب)۔ پس اَسْلَمَ کے معنے ہیں سپرد کر دینا۔

تفسیر۔ عربی زبان میں اَسْلَمَ کے ساتھ اِلٰی کا صلہ استعمال ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہاں اِلٰی کی بجائے لام کا صلہ استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین خیال کرتے ہیں کہ اس جگہ لام کا صلہ اِلٰی کا قائم مقام ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا تعالیٰ کے حکم اَسْلَمَ کے جواب میں اَسْلَمْتُ کہا تو یہ مضمون تو اس میں خود بخود آ گیا کہ میں خدا تعالیٰ کا فرمانبردار ہو چکا ہوں کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کا ہی فرمانبردار ہونا تھا کسی اور کا نہیں۔ پس یہاں لام کا صلہ استعمال کرنے کی یہ وجہ نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے متعلق اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ بلکہ درحقیقت اس میں اَسْلَمْتُ کہنے کی انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے اور کہا ہے کہ میں اپنے کام خدا تعالیٰ کو اس لئے نہیں سوچتا اور اس وجہ سے اس کی فرمانبرداری نہیں کرتا کہ مجھے کوئی مادی نفع حاصل ہو۔ بلکہ میں ربُّ العالمین خدا کی خاطر ایسا کرتا ہوں۔ تاکہ وہ مجھے مل جائے کیونکہ وہ میرا اور سب جہان کا مَحْسَن ہے اور میں اس سے جُدّار بنا پسند نہیں کرتا۔ گویا یہ ایک زائد مضمون ہے۔ جو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ انہیں یہ حکم ہوا تھا کہ اَسْلَمَ یعنی اے ابراہیم! میں تجھے صرف یہی نہیں کہتا کہ تو کسی بت کو سجدہ نہ کر بلکہ میں تجھے یہ بھی کہتا ہوں کہ تو اپنے دل کے خیالات بھی کُلّی طور پر میری اطاعت میں لگا دے اور ابراہیم نے اس کے جواب میں فوراً کہا کہ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے خدا! میرے جسم کا ذرہ ذرہ تیرے آگے قربان ہے۔ میری عقل اور میرا علم اور میرا ذہن سب تیرے احکام کے تابع ہیں۔ اور میری ساری طاقتیں اور ساری قوتیں ربُّ العالمین

خدا کی راہ میں لگی ہوئی ہیں۔ گویا انہوں نے بتایا کہ میری زندگی اپنے ذاتی مفاد کیلئے نہیں بلکہ ساری دنیا کیلئے وقف ہے۔ اور ربُّ العالمین خدا کی مظہریت میں ساری مخلوق کی شفقت میرے پروگرام میں شامل ہے۔ اور میں اسے کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ میں صرف اپنے لئے بھلائی نہیں مانگوں گا بلکہ ساری دنیا کے لئے بھلائی مانگوں گا۔ اور ساری دنیا کی بہبودی ہمیشہ اپنے مد نظر رکھوں گا۔ گویا انہوں نے آسَلِمْتُ کے جواب میں آسَلِمْتُ کہہ کر ایک تو اس طرف اشارہ کیا کہ میرے تو جسم اور روح کا ذرہ ذرہ پہلے ہی حضور کی راہ میں قربان ہے۔ حضور مجھ سے جو چاہیں معاملہ کریں اور پھر لَوْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا اضافہ کر کے عرض کیا کہ میں نے تو اپنے آپ کو صفت ربُّ العالمین کے ماتحت ساری دنیا کیلئے وقف کر دیا ہے۔ چنانچہ آسَلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کا مقام حاصل ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ دعا مانگی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ۚ چونکہ اُن کی اپنی بعثت تمام دنیا کی طرف نہیں تھی اس لئے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ الہی آئندہ دنیا میں ایک عظیم الشان رسول کھڑا کیجئے اور وہ رسول میری اولاد میں سے ہوتا کہ ساری دنیا کی بھلائی ہو اور ربُّ العالمین کی تمام مخلوق اُس کے فیض سے مستفیض ہو۔

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۖ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ

اور ابراہیمؑ نے اپنے بیٹوں کو اور (اسی طرح) یعقوبؑ نے بھی (اپنے بیٹوں کو) اس بات کی تاکید کی (اور کہا کہ)

اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾

کہ اے میرے بیٹو! اللہ نے یقیناً اس دین کو تمہارے لئے چن لیا ہے۔ پس ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم

(اللہ کے) پورے فرمانبردار ہو۔

تفسیر۔ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور ابراہیمؑ کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ تم اپنی خیر خواہی صرف اپنی ذات یا اپنی قوم تک محدود نہ رکھنا بلکہ اُسے وسیع کرتے چلے جانا اور ساری دنیا کو اس میں شامل کرنا۔ اس جگہ دین سے مراد وہی لائحہ عمل ہے جس میں تمام جہان کی بہتری مد نظر ہو۔ گویا ابراہیمؑ نے اپنے پڑپوتوں تک کو ہدایت دی کہ اپنے آپ کو صفت ربُّ العالمین کا مظہر بنانا اور دنیا کی کسی قوم کو اپنی خیر خواہی سے محروم نہ رکھنا۔

فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر وقت اسلام پر قائم رہو۔ کیونکہ موت کے متعلق

کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کب آجائے۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہ ہمیشہ رب العالمین کے فرمانبردار رہو۔ اور خدا تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرو۔ تاکہ جب موت آئے تو وہ تمہیں اطاعت کے سوا اور کسی حالت میں نہ پائے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بڑھاؤ کہ وہ تمہاری تباہی کو برداشت ہی نہ کرے۔ اور اس وقت تم کو موت دے جبکہ تم کامل مومن بن چکے ہو اور اس کی خوشنودی حاصل کر چکے ہو۔

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان پر قبض اور بسط کی حالت آتی رہتی ہے۔ کبھی تو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ دنیا جہاں کو بھلا دیتا ہے اور کبھی دوسری چیزوں کی طرف اُسے اتنی توجہ ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کس طرح؟ اُس نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میری اور حالت ہوتی ہے اور جب میں گھر جاتا ہوں تو اور حالت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں۔ اگر ہر وقت ایک جیسی حالت رہے تو انسان مرجائے (ابن ماجہ ابواب الزهد باب المدوامۃ علی العمل)۔ دراصل قبض اور بسط کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کامل مومن کی جو حالت قبض ہوتی ہے وہ اس سے نچلے درجے والے کے لئے بسط کی حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاء پر بھی قبض و بسط کا دور آتا رہتا ہے مگر نبیوں کی قبض صدیقیوں کی بسط ہوتی ہے۔ اسی لئے صوفیاء نے کہا ہے کہ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْرَبِينَ یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقررین کی بدیاں ہوتی ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اوسط درجے کے لوگ جس کو نیکی سمجھتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کے نزدیک بعض دفعہ بدی بن جاتی ہے اور اوسط درجے کے لوگوں کی بدیاں ادنیٰ درجے کے لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ پس چونکہ یہ دو حالتیں انسان پر آتی رہتی ہیں اور موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اس لئے فرمایا کہ تم خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق بڑھاؤ کہ تم پر موت ایسے وقت میں آئے جو تمہارا بہترین وقت ہو اور ملک الموت تمہاری اس وقت جان نکالے جب تمہارا خدا تعالیٰ سے ایک سچا اور مخلصانہ تعلق قائم ہو چکا ہو۔

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ

کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت (کی گھڑی) آئی۔ (اور) جب اس نے

لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ

اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے (جواباً) کہا کہ ہم تیرے معبود

إِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ وَ

اور تیرے باپ دادوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے عبادت کریں گے

نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾

اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔

حَلَّ لُغَاتٍ - الْأَبُ الْوَالِدُ - وَيُسَمَّى كُلُّ شَيْءٍ مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي الْمَجَادِثِ أَوْ اصْلَاحِهِ أَوْ

ظُهُورِهِ أَبًا (مفردات راغب) یعنی اب والد کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو کسی چیز کے پیدا کرنے یا اصلاح کرنے یا ظاہر کرنے کا موجب ہو اسے بھی اب کہتے ہیں۔ اور جب چچا کا باپ کے ساتھ ذکر کیا جائے تو چچا بھی اب کہلاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کیلئے آبویں آتا ہے۔ اور دادا اور باپ کا ذکر ہو تو بھی آبویں کہتے ہیں۔ غرض ماں بھی اب اور چچا بھی اب اور دادا بھی اب کہلاتا ہے۔

تفسیر - حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ایک محاورہ ہے جو جان کنڈنی کے لئے نہیں بلکہ موت کے قریب

آ جانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ورنہ جان کنڈنی کے وقت تو انسان کلام ہی نہیں کر سکتا۔ جب غرغره موت شروع ہو جاتا ہے تو انسان کے حواس پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے گو وہ بھی کبھی زیادہ لمبا اور کبھی بہت قلیل عرصہ کے لئے ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو بہ جان کنڈنی تک قبول ہوتی ہے (ترمذی ابواب الدعوات باب فی فضل التوبة والاستغفار)۔ جب جان کنڈنی شروع ہو جائے تو پھر تو بہ قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب غرغره موت شروع ہو جاتا ہے تو حواس جاتے رہتے ہیں۔ یہ غرغره بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ابتدائی اور ایک اُس کے بعد کا جو اصلی اور حقیقی ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بڑے طاقتور تھے۔

غرغره موت شروع ہوا تو فرمانے لگے۔ غلام احمد یہ غرغره ہے اور پھر چند منٹ کے بعد فوت ہو گئے۔ تو حَصَّصَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُوتِ سے مراد جیسا کہ بعض نے سمجھا ہے یہ نہیں کہ جب جان کنڈنی شروع ہو گئی تھی۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اُن کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا۔

إِذْ قَالَ يٰٓأَبَايَسَّٰكُ اس آیت پر عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ تو اُن کے آباء میں سے نہ تھے۔ بلکہ چچا تھے۔ پھر انہیں آج کیوں کہا گیا ہے؟ مگر یہ اعتراض اُن کی عربی زبان سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ عربی زبان میں آج کا لفظ چچا کیلئے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ عیسائی جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اُن کی میت صرف اعتراض کرنا ہوتی ہے۔ اس لئے وہ بات بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے ان کی اپنی نابینائی کا ثبوت ملتا ہے۔

یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے نَعْبُدُ إِلَهَكَ کہہ دیا تھا تو پھر اِلَٰهَ اٰبَائِكَ اِيٰهُمْ وَاسْمِعِلَّ وَاسْمِعِلَّ اِلٰهًا وَّاحِدًا کہنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ جو یعقوبؑ کا معبود تھا وہی ابراہیمؑ کا معبود تھا۔ وہی اسمعیلؑ اور اسحاقؑ کا تھا۔ پس اِلَهَكَ پر اکتفاء نہ کرتے ہوئے اِلَٰهَ اٰبَائِكَ کہنا اور پھر اس پر بھی اکتفاء نہ کرتے ہوئے ابراہیمؑ اسمعیلؑ اور اسحاقؑ کے الفاظ بڑھانا کیا معنی رکھتا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الوراہ ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ ہم رب۔ رحمن اور رحیم وغیرہ الفاظ تو استعمال کر لیتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی پوری حقیقت صرف ان چند الفاظ سے واضح نہیں ہوتی اور جب انسان یہ چاہتا ہو کہ وہ کسی بات کو کھول کر بیان کرے تو اس کی وضاحت کے لئے مختلف طریق اختیار کرتا ہے۔ جیسے اگر انسان اپنے کسی محسن کا احسان یاد دلائے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں کا مجھ پر احسان ہے اور پھر اُس کی تشریح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اُس نے کیا احسان کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جلال اور اُس کے جمال کا اظہار مختلف تجلیات میں ہوتا ہے۔ کوئی تجلی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی۔ کوئی تجلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ہوئی۔ کوئی تجلی حضرت اسحاق علیہ السلام پر ہوئی۔ پس اُن کی اولاد نے ضروری سمجھا کہ وہ اپنے اُن آباء کا نام لے کر کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات سے خوب آگاہ ہیں جو اُن کے وجود سے ظاہر ہوئیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی دیکھی ہے اور خدا تعالیٰ کی وہ تجلی بھی دیکھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہوئی تھی اسی طرح ہم نے وہ تجلی بھی دیکھی ہے جو حضرت اسمعیل علیہ السلام پر ظاہر

ہی تھے کیونکہ جو بھی خدا اور اس کے نبی پر ایمان لاتا ہے۔ وہ مسلم بن جاتا ہے مگر ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ان کا نام مسلم نہ تھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ مسلم نام سے پکارے جاتے ہیں۔ پہلی امتوں کے افراد بے شک اطاعت اور فرمانبرداری کے لحاظ سے مسلم تھے مگر لفظ مسلم نام کے طور پر وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور نہ اس نام سے وہ پکارے جاتے تھے۔ لیکن اس امت کے لوگ اس نام سے پکارے جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مذہب منسوخ ہونے والے تھے لیکن اسلام نے کبھی منسوخ نہیں ہونا تھا۔ پس اس کو یہ نام دیا گیا تاکہ لڑ بڑ واقع نہ ہو۔ اور اسی مذہب کے پیرو مسلم کہلائیں جس نے قیامت تک قائم رہنا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب کوئی نام دیتا ہے تو اُس وقت دیتا ہے جب اُس نے ہمیشہ کے لئے قائم رہنا ہو۔ جیسے کسی نبی کا پہلے کوئی کلمہ نہیں ہوتا تھا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلمہ بھی دیا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں نے بہت سے کلمے بنا لئے ہیں جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَيْسَى دُوحُ اللَّهِ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَدْمُ صَفِيحُ اللَّهِ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ اور پھر اس کے لئے انہوں نے کوئی نہ کوئی روایت بھی گھڑی ہے۔ مگر درحقیقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کے آخری نبی تک کوئی کلمہ نہ تھا صرف وہی کلمہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ کیونکہ اگر پہلے خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی نبی کا نام لگایا جاتا اور پھر اُسے ہٹایا جاتا تو یہ بے ادبی ہوتی۔ پس صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگایا گیا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نے قیامت تک چلنا تھا۔ غرض اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جس چیز نے مٹ جانا ہو اُسے نام نہیں دیا جاتا۔ چونکہ اس امت نے قیامت تک رہنا تھا اس لئے اسے مسلم نام دے دیا گیا۔ اسی طرح آپ کی تعلیم کو بھی ایک نام دے دیا گیا یعنی قرآن۔ پہلی کتابوں مثلاً تورات اور انجیل وغیرہ کا نام خدا تعالیٰ نے نہیں رکھا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا نام قرآن خود خدا نے رکھا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ خود اپنی طرف سے اُن کو نام دیتا ہے جنہوں نے قائم رہنا ہوتا ہے۔ پس معنوی لحاظ سے تو وہ سب لوگ مسلم تھے جو پہلی امتوں میں ہوئے مگر جہاں تک مسلم نام کا تعلق ہے خدا تعالیٰ نے یہ نام صرف اس امت کو دیا ہے کیونکہ یہ قیامت تک رہنے والی تھی۔ انجیل اور تورات لوگوں کے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں اور انہی ناموں سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اُن کا ذکر کیا ہے۔ اس بات سے کہ قرآن کریم میں ان کے یہ نام آئے ہیں۔ یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ نے اُن کے یہ نام رکھے تھے۔ جیسے قرآن کریم نے زید کا بھی نام لیا ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کا نام خدا تعالیٰ نے رکھا تھا وہ تو اس کے ماں باپ نے ہی رکھا تھا مگر خدا تعالیٰ نے بھی وہی نام لیا۔ کیونکہ اسی

نام سے وہ مشہور تھا۔

پھر سابق مذاہب کے پیروؤں کو اس وجہ سے بھی مسلم کا نام نہیں دیا گیا کہ نام پانے کا مستحق کامل مذہب ہی ہوتا ہے پس جب وہ مذہب بھیجا گیا جو اپنے کامل ہونے کی وجہ سے تمام مذاہب سے افضل تھا تو اس کا نام بھی اسلام رکھ دیا گیا۔ تاکہ اس کا نام ہی اس کی غرض و غایت پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہو۔ وہیری ایک عیسائی مفسر ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ اس آیت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے لوگ بھی میرے دین کے تابع تھے چنانچہ نَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ سے وہ استنباط کرتا ہے کہ یعقوبؑ کی اولاد نے کہا کہ ہم محمدؐ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر بہت سے دلائل سے اس بات کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ مگر دراصل وہیری کو دھوکا لگا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ انہی تفصیل کے پابند تھے جو اسلام میں پائی جاتی ہیں بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں سچے دین کے پیرو تھے اور اس سے کوئی سلیم العقل انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ورنہ نام کے طور پر یہ لفظ صرف امت محمدیہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی یا نہیں؟ اور اگر کی تھی تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس بارہ میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کا تورات سے ثبوت پیش کریں۔ یہ تو عقلی بات ہے کہ ہر راستباز اپنی اولاد کو اس قسم کی نصیحتیں کرتا اور اُن پر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ خصوصاً موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرنا تو ایک ایسی عام بات ہے جس کا نظارہ ہمیں لاکھوں آدمیوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے تو یہ بات اور بھی ضروری تھی کیونکہ وہ حصہ جوٹھو کر کھا چکا ہو اس کے متعلق والدین کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ اُسے نصیحت کی جائے پس یہ ایک فطری بات ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا لیکن اگر انہوں نے وصیت کی بھی تھی تو سوال یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل نے بائبل میں یہ وصیت رہنے دینی تھی؟ جن لوگوں کو حضرت اسمعیل علیہ السلام سے اتنا بغض ہے کہ راستہ چھوڑ کر بھی اُن کی عیب جوئی کر لیتے ہیں اگر اُن کا ذکر آجاتا تو انہوں نے اُسے کہاں رہنے دینا تھا مگر باوجود اس کے کہ اُن کی کُتب انسانی دست برد سے محفوظ نہیں۔ اس وصیت کے کچھ کچھ نشان ہمیں مل جاتے ہیں اور یہ نشان بھی خود عیسائیوں نے مہیا کیا ہے۔ کئی عیسائیوں نے قرآن کریم کے ترجمے کئے ہیں۔ اُن میں سے ایک مترجم راڈول بھی تھا۔ اُس نے اپنے مترجم قرآن کریم میں اس آیت کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مدراش رباہ میں جو طالمود کا حصہ ہے پیدائش باب ۴۹ آیت ۲ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ

چنانچہ لہا مَّا كَسَبَتْ میں یہی بتایا ہے کہ اُن کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی اور تمہاری بدیاں اُن کے ذمہ نہیں ڈالی جائیں گی تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت ابراہیم - اسمعیل اور اسحاق علیہم السلام نے کیا کیا تھا بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔

وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کا یہ مطلب نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا بلکہ یہ مطلب ہے کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا نیکیاں کی تھیں بلکہ تم سے صرف تمہارے ذاتی اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ اس لئے اپنے اسلاف کے عمل پر اپنی نجات کو منحصر نہ سمجھو۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ

اور (کیا تم نے سنا کہ) وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی یا مسیحی ہو جاؤ (اس طرح) تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو (اُن سے) کہہ دے

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۶﴾

(کہ یوں) نہیں بلکہ ابراہیم کے دین کو جو (خدا ہی کی طرف) جھکنے والا تھا (اختیار کرو) اور (یاد رکھو کہ) وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔

حَلَّ لُغَاتٍ - اَلْحَنِيفِ کے معنی ہیں اَلْمَائِلُ عَنِ الشَّيْءِ کسی چیز کی طرف سے توجہ پھیر کر دوسری طرف جھک جانے والا۔ محاورہ میں اس کے معنی ہیں اَلْمَائِلُ عَنِ الصَّلَاةِ اِلَى الْهُدَى (مفردات) جو شخص ضلالت کی طرف سے منہ پھیر کر ہدایت کی طرف توجہ کرے۔ (۳) اَلْمُسْتَقِيمُ - سیدھا (اقرب الموارد) (۴) اَلصَّحِيحُ اَلْمَيْلَانِ اِلَى الْاِسْلَامِ جس کی اسلام کی طرف صحیح توجہ ہو۔ پس حنیف کے معنی ہیں۔ ضلالت چھوڑنے والا صحیح راستہ پر چلنے والا۔ اسلام کی طرف صحیح رغبت رکھنے والا۔ اور اس کے ایک معنی قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتے ہیں کہ جو سارے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو۔ کیونکہ اس کے معنی بعد یہ ذکر آتا ہے کہ قَوْلًا اٰمَنًا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ الْاِنْبِيَا وَمَا اُنزِلَ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَا اُوْتِيَ مُوْسٰی وَ عِیْسٰی وَ مَا اُوْتِيَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَّبِّهٖمْ ؕ لَا تَفَرِّقْ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ ؕ وَ تَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ - گو یا حنیف کی تشریح یہ ہے کہ جو سب رسولوں پر ایمان لائے۔ ابن کثیر میں ابو قلابہ کا بھی ایک قول آتا ہے کہ اَلْحَنِيفُ الَّذِیْ یُوْمِنُ بِالرُّسُلِ كُلِّهٖمْ مِنْ اَوْلٰیہٖمْ اِلٰی اٰخِرِہٖمَ - (تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان زیر آیت هذا) یعنی حنیف وہ ہے جو سب رسولوں پر ایمان لائے۔ انہوں نے معلوم نہیں

کہاں سے استدلال کیا ہے مگر میں نے اس سے اگلی آیت سے استدلال کیا ہے کیونکہ اگلی آیت میں حنیف ہی کی تشریح ہے اور تمام رسولوں کے ماننے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

تفسیر - فرماتا ہے یہود کہتے ہیں کہ یہودی بننے میں نجات ہے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسائی بننے میں نجات ہے مگر دونوں کی بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ یہودی کہلانے سے کام بنے گا نہ نصرانی کہلانے سے۔ بلکہ ابراہیمی ملت کی پیروی کرنے سے نجات ہوگی۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیمی کہلانے سے نجات ہوگی کیونکہ یہ پھر ویسی ہی بات ہو جاتی جیسی انہوں نے کہی تھی اس لئے فرمایا کہ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ یہی طریق ابراہیم کا تھا جو ہر وقت خدا کے حکموں کی طرف کان لگائے رکھتا تھا۔ محض یہودی یا عیسائی کہلانے سے کچھ نہیں بن سکتا۔

اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب کے پیروؤں میں اپنے منزل کے زمانہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اسی مذہب میں شامل ہو کر نجات میسر آسکتی ہے لیکن یہ ایک غلط خیال ہے۔ نجات کا اصلی باعث فضل الہی ہوتا ہے اور فضل الہی کو جذب کرنے کا ذریعہ اطاعت الہی ہے۔ پس جب تک کسی سچے مذہب میں شامل ہو کر اطاعت الہی ہو اُس وقت تک تو اس میں نجات کا امکان ہے۔ لیکن جب اطاعت نہ ہوتی ہو تو کوئی نجات نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود اور نصاریٰ کو جو زور دیتے ہیں کہ ہدایت پانا چاہو تو ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ پھر ڈانٹا ہے کہ کیا کسی مذہب کا نام لینے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ نجات حاصل کرنے کا طریق یہ ہے کہ ملت ابراہیم کی اتباع کی جائے اور ابراہیم کا طریق یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم بھی ملا۔ انہوں نے اُس کو قبول کر لیا۔ یہی دین ابراہیم ہے۔ اور اسی کی پیروی ہر اس قوم پر فرض ہے جو ابراہیم کی بزرگی کی قائل ہے۔ حنیف کے معنی جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے ایسے شخص کے ہیں جو ضلالت سے منہ موڑ کر ہدایت اور راستی کی طرف جھکا ہوا ہو۔ اسی طرح حنیف اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو اسلام کا کلی طور پر والہ و شیدا ہو اور اس کی طرف اپنی تمام توجہات کو مرکوز رکھتا ہو۔ اور ابو القلابہ نے جو ایک بہت بڑے مفسر اور تابعین میں سے ہیں حنیف کے معنی ایسے شخص کے کئے ہیں جو اول سے آخر تک تمام انبیاء پر ایمان لائے اور کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف قرار دے کر بتایا گیا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری کے لحاظ سے ایک ایسے مقام پر فائز تھے کہ ضلالت کی طرف ایک معمولی میلان بھی اُن کے تصورات سے بالا تھا۔ اور خدا تعالیٰ کے احکام کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری اُن کا شیوہ تھا اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم مشرکوں

میں سے نہ تھے۔ حنیف کے ساتھ ان الفاظ کی زیادتی اس حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لئے کی گئی ہے کہ جو شخص الہام اور نبوت و رسالت کے سلسلہ کو بند کر کے ایک مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ حقیقتاً مشرک ہوتا ہے کیونکہ خدا نمائی کا آئینہ اس کے انبیاء ہوتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی حقیقی توحید دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ خدا تعالیٰ کو ایک سمجھ لیا جائے بلکہ اُسے اپنی تمام صفات میں یکتا قرار دینا اور مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا توحید کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب کسی نبی کی بعثت پر ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو توحید کا اقرار کرنے کے باوجود لوگ قسم قسم کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا حقیقی چہرہ لوگوں کی نگاہ سے مخفی ہو جاتا ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے مگر اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ مسیح علیہ السلام مُردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ پرندے پیدا کیا کرتے تھے۔ اور علم غیب سے حصہ رکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام عقائد مشرکانه ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جہاں اور غلط عقائد کی اصلاح فرمائی وہاں آپ نے ان مشرکانه عقائد کی بھی پُر زور تردید فرمائی اور خدا تعالیٰ کی توحید دنیا میں قائم کی۔ پس انبیاء پر ایمان لائے بغیر توحید حقیقی کا قیام ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ہی نبیوں پر ایمان لانا بھی ضروری قرار دیا ہے۔ اگر یہ مقدس لوگ دنیا میں نہ آتے تو خدا تعالیٰ کا چہرہ لوگوں کو دکھائی نہ دیتا اور وہ ضلالت اور گمراہی سے نہ نکل سکتے۔ پس چونکہ خدا تعالیٰ کی شناخت انبیاء پر ایمان لانے کے ساتھ وابستہ ہے اس لئے حنیف کے ساتھ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے الفاظ اس امر کی طرف توجہ دلانے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا بلکہ وہ سلسلہ نبوت کے دائمی اجراء کا قائل تھا۔ اسی لئے اس آیت کے معاً بعد یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ ہم تمام انبیاء سابقین پر بھی ایمان لاتے ہیں وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو کچھ اور نبیوں کو دیا گیا یا آئندہ دیا جائے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بے شک وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بالکل بیزار تھے اور ایک خدا کی پرستش کرتے تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مشرکین نے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے پھر بھی کسی بت کی نسبت اُن کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی پرستش کیا کرتے تھے بلکہ وہ آپ کو کامل موحد تسلیم کرتے تھے۔ اور ان کی قدیم روایات اس کی تصدیق کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان حالات میں بھی جو بائبل میں موجود ہیں شرک کی تعلیم کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ مگر یہ صرف اس نکتہ کے ایک معنی ہیں جو اپنی جگہ درست ہیں لیکن حنیف کے ساتھ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا اضافہ بتا رہا

ہے کہ اس جگہ مشرک اس شخص کو نہیں کہا گیا جو عرف عام میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے بلکہ اس شخص کو کہا گیا ہے جو سلسلہ رسالت کو مسدود قرار دیتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی توحید کی اشاعت میں روک بنتا ہے۔ اور اس کے مقابل پر اپنے ایک فرضی عقیدہ کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے حالانکہ اصل مقام اطاعت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو کچھ کہے انسان اُسے مان لے اور ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامبر آئے اس کی آواز پر لبیک کہے۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

تم کہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیمؑ

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ

اور اسماعیلؑ اور اسحاقؑ اور یعقوبؑ اور (اُس کی) اولاد پر اتارا گیا تھا اور جو کچھ موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دیا گیا تھا۔ (اسی

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ

طرح) جو کچھ (باقی) انبیاء کو اُن کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا۔ (اس تمام وحی پر) ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اُن میں

بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳﴾

سے ایک (نبی اور دوسرے نبی) کے درمیان (کوئی) بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔

حَل لُّغَاتٍ - الْأَسْبَاطِ سِبْطُ کی جمع ہے۔ اور سِبْطُ کے معنی اصل میں پھیلاؤ کے ہوتے ہیں

اسی وجہ سے لمبے بالوں کو سِبْطُ کہتے ہیں سخی آدمی کو سِبْطُ الْكُفَّيْنِ کہتے ہیں کیونکہ اس کا ہاتھ ہر ایک حاجت مند تک پہنچ جاتا ہے۔ بیٹے کے بیٹے کو بھی سِبْطُ کہتے ہیں (مفردات) کیونکہ جب بیٹوں کے بیٹے ہو جائیں تو نسل کا پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے پس اَسْبَاطُ کے معنی پوتوں کے ہوں گے یا اُن کی نسل کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے پھیلانے کا باعث اور ذریعہ ہوئی۔

تفسیر۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ مسلم وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لائے اور نفس نبوت

کے لحاظ سے اُن میں کوئی فرق نہ کرے۔ جن انبیاء کا اُسے علم ہو اُن کی نبوت کا نام لے کر اقرار کرے۔ اور جو معلوم

نہیں اُن کی نبوت پر مجملاً ایمان لائے۔ یعنی یہ یقین کرے کہ ہر قوم میں خدا تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہے اور ہم سب کو سچا تسلیم کرتے ہیں۔ اور ان کی پیش کردہ تعلیموں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں۔ پس جو شخص اپنے زمانہ یا اس سے پہلے زمانہ کے سب نبیوں کی نبوت کا اقرار کرے اور کسی نبی کا انکار نہ کرے وہ مسلم ہے۔ کیونکہ تمام نبیوں کی نبوت کا اقرار کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فقرہ فرمایا ہے کہ نَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہم اسکے فرمانبردار ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس اقرار کے بعد انسان مسلم بنتا ہے۔ اور یہ صرف اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ دنیا کے تمام انبیاء کی صداقت کا اقرار کرتا ہے۔ ہر مذہب کے پیرو اپنے اپنے مذہب کے نبیوں کی صداقت تو منواتے ہیں۔ لیکن دوسری اقوام کے انبیاء کی صداقت منوانے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ اسلام سب انبیاء کی صداقت کا اقرار کراتا ہے۔ خواہ وہ بنی اسرائیل میں آئے ہوں یا ہندو ایران کے لوگوں میں مبعوث ہوئے ہوں یا دنیا کے کسی اور ملک میں اصلاح کیلئے کھڑے کئے گئے ہوں مگر اس سے تفصیلی ایمان نہیں بلکہ صرف اجمالی ایمان مراد ہے۔ اگر تفصیلی ایمان مراد ہوتا تو مَا أَوْفَى النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ فرما کر اُن نبیوں کا ذکر نہ کیا جاتا جن کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں اور جن کے حالات کا قرآن کریم نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ مگر پھر بھی اجمالی طور پر اُن پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے۔ میں اس موقع پر مسلمانوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو سب نبیوں کو مانے وہی مسلم ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیتے ہیں اور اس زمانہ میں مسیحیت موعودہ کا وعدہ بانی سلسلہ احمدیہ کے وجود میں پورا ہو چکا ہے۔ پس ہر شخص جو اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے اُس کا فرض ہے کہ وہ ہوشیار ہو جائے اور بے توجہی سے آپ کے دعویٰ کو نہ دیکھے۔ کیونکہ بے توجہی سے اسلام جیسی قیمتی چیز ہاتھ سے جانے کا اندیشہ ہے۔ مسلم وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں کو مانے اور مسیح موعود کی نبوت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ پس مسلمانوں کیلئے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ ہم انبیاء کے درجات میں فرق نہیں کرتے۔ کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (البقرة: ۲۵۴) یعنی یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی تھی۔ پس اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب نبیوں کو درجہ اور مقام کے لحاظ سے ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ بلکہ صرف یہ مطلب ہے کہ اُن پر ایمان لانے کے لحاظ سے ہم اُن میں کوئی فرق نہیں کرتے چاہے وہ شرعی نبی تھے یا غیر شرعی۔ ورنہ درجوں کا فرق تو خود قرآن کریم نے تسلیم کیا ہے۔

مسیحی مصنف اس آیت پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی نہ تھے مگر قرآن نے

انہیں نبی کہہ دیا ہے۔ اور وہ دریافت کیا کرتے ہیں کہ اسماعیلؑ کی نبوت کا کیا ثبوت ہے؟ (تفسیر سبل زیر آیت ہذا) حالانکہ اگر وہ غور کریں تو یہی سوال اُلٹ کر اُن پر پڑتا ہے کہ اسحاقؑ کی نبوت کا کیا ثبوت ہے جو ثبوت اسحاقؑ کی نبوت کا ہے وہی اسماعیلؑ کی نبوت کا ہے موسیٰؑ اپنے دادا اسحاقؑ کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا اسماعیلؑ کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بائبیل نے بخل سے کام لے کر حضرت اسماعیلؑ کی نبوت کا ذکر نہیں کیا۔ اور قرآن کریم جو کبھی کسی صداقت کا انکار نہیں کرتا۔ اُس نے نسلی تعصبات سے کام نہ لے کر دونوں بزرگوں کی بزرگی کا اقرار کیا ہے۔ آخر بنی اسرائیل کے پاس اسحاقؑ کی نبوت کا اس کے سوا کیا ثبوت ہے کہ ایک سچے نبی نے جس کی نبوت اُن کے خیال میں دلائل سے ثابت ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا ہے۔ یہی دلیل ایک مسلمان دے گا کہ اسماعیلؑ کی نبوت کا یہ ثبوت ہے کہ ایک سچے نبی نے جس کی نبوت دنیا کے تمام انبیاء کی صداقت کے دلائل سے زیادہ وزنی دلائل کے ساتھ ثابت ہے اُسے نبی قرار دیا ہے۔ اگر بائبیل کی شہادت سے اسحاق علیہ السلام نبی قرار پاسکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی شہادت سے اسماعیل علیہ السلام کو کیوں نبی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مسیحی مصنفوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کے ماننے میں سوائے اس کے کوئی عذر نہیں کہ اُن کا ذکر بائبیل میں نہیں۔ حالانکہ بائبیل سے ثابت ہے کہ اُن کو سارہ کے حسد کی وجہ سے وطن چھوڑ کر بے وطنی کی زندگی بسر کرنی پڑی تھی۔ اور جبکہ سارہ کو اسماعیلؑ سے اس قدر دشمنی تھی کہ اُن کو گھر چھوڑنا پڑا اور وہ بہت دور ایک ملک میں چلے گئے۔ (پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۰) تو بنی اسرائیل نے اپنی کتب میں انکی کب تعریف کرنی تھی اور اُن کی نبوت کا کس طرح ذکر کرنا تھا۔ پس اُن کے حالات کا بائبیل میں نہ ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گو کسی چیز کا عدم ذکر اس کے عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ مگر موجودہ بائبیل بھی ایسے اشارات رکھتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے تھے۔ اول تو اُن کا نام ہی دلالت کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے پیارے ہونے والے تھے۔ کیونکہ آپ کا الہامی نام اسماعیل تھا۔ جس کے معنی ہیں خدا نے سنی۔ اور یہ نام بلاوجہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پیدائش باب ۱۶ آیت ۱۱ میں لکھا ہے۔

”خداوند کے فرشتے نے اُسے (یعنی حضرت ہاجرہؑ کو) کہا۔ کہ تو حاملہ ہے۔ اور بیٹا جنے گی۔“

اس کا نام اسماعیل رکھنا کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔“

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی بشارت کے ماتحت ہوئی تھی۔

اور الہامی طور پر آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا تھا اور جو بچہ اللہ تعالیٰ کی بشارت کے ماتحت پیدا ہوا ہو اور الہام میں اس کا

نام بھی تجویز ہوا ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ نہیں تھا خود الہامِ الہی کی تکذیب کرنا ہے۔
پھر پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۸ میں لکھا ہے۔

”ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسمعیل تیرے حضور جیتا رہے۔“

اصل عبرانی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ

”تیری آنکھوں تلے رہے اور تیرا مقبول ہو۔“

اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

”اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سُنّی دیکھ میں اسے برکت دوں گا۔ اور اُسے برومند کروں گا۔

اور اُسے بہت بڑھاؤں گا۔ اور اُس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے۔ اور میں اُسے بڑی قوم بناؤں گا۔“ (آیت ۲۰)

ان دونوں آیات کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اسمعیلؑ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ ہو۔ کیونکہ ان کے الفاظ ہیں۔ ”تیرے حضور جیتا رہے“ اور تیرے حضور جیتا رہنے کے معنی مقبول ہونے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا یہ مطلب نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اس قدر کہہ دینا کافی تھا کہ وہ جیتا رہے۔ کیونکہ جس قدر لوگ زندہ رہے ہیں سب خدا تعالیٰ کے حضور ہی زندہ رہتے ہیں۔ اُس سے غائب نہیں ہوتے۔ پس ”تیرے حضور“ کے الفاظ بڑھانے کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں تھا کہ تیرے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں سے ہو۔ اور نیک پاک اور خدا رسیدہ ہو چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں نے تیری سن لی۔

فَإِنْ آمَنُوا بِبَيِّنَاتٍ مَّا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

پس اگر وہ لوگ (اسی طرح) ایمان لے آئیں جس طرح تم اس (تعلیم) پر ایمان لائے ہو تو (بس) وہ ہدایت پا گئے۔

هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اور اگر وہ پھر جائیں تو (سمجھو کہ) وہ صرف اختلاف (کرنے) پر (ٹٹلے ہوئے) ہیں۔ اس صورت میں اللہ (تعالیٰ)

تجھے ضرور اُن (کے شر) سے بچائے گا۔ وہ بہت ہی سننے والا (اور) بہت ہی جاننے والا ہے۔

حَلِّ لُغَاتٍ۔ شِقَاقٍ شِقُّ جانب کو کہتے ہیں۔ پس شِقَاقُ کے معنی دوری کے ہیں۔

سَمِيعٌ کے معنے ہیں۔ بہت سننے والا اور

عَلِيمٌ کے معنے ہیں۔ بہت جاننے والا۔

تفسیر۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تشریح بیان فرمائی تھی کہ ایمان کامل وہ ہوتا ہے جس میں انسان کوئی شرط نہ لگائے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم آجائے اسے مان لے۔ نہ قوم کی شرط ہونہ زمانہ کی۔ نہ ملک کی اور نہ یہ شرط ہو کہ پہلے نبیوں کو مانیں گے اور جو آئندہ آئیں گے۔ اُن کو نہیں مانیں گے۔ فرمایا۔ تم عالم ہو یا نہ ہو۔ اگر تمہیں پتہ لگے کہ فلاں شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو تم سے فوراً مان لو۔ پس یہ کہنا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے نجات ملتی ہے۔ یہ سب ڈھکونسلے ہیں۔ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ بغیر کسی شرط کے انسان ایمان لائے اور اس کے ساتھ کوئی قید نہ لگائے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہنے کے لئے تیار رہے۔

اس جگہ باء اور مثل دونوں لفظ ہم معنے آئے ہیں اور بظاہر یہ ایک تکرار نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً تکرار نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں باء زائدہ ہے۔ مگر زائدہ کے یہ معنے نہیں کہ اس کے کوئی معنے ہی نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئے معنے دیتی اور تاکید پیدا کرتی ہے۔ بعض لوگ زائدہ کا لفظ سنکر کہنے لگتے ہیں۔ کہ کیا قرآن میں بھی زائدہ ہیں۔ حالانکہ یہ عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بے حقیقت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاکید کے لئے استعمال ہوئی ہے جیسے اردو میں ”ہی“ کا لفظ ہے۔ یہ کوئی نئے معنے نہیں دیتا بلکہ پہلے معنوں کی تاکید کر دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ ”یہ زید ہی ہے“۔ اس فقرہ میں جو ”ہی“ استعمال ہوا ہے یہ معنوں کو مضبوط کرنے کیلئے استعمال ہوا ہے نہ کہ کوئی زائدہ معنے پیدا کرنے کیلئے۔ اسی طرح باء ہے یہ مثل کی تاکید کیلئے آئی ہے۔ اور اس کے معنے ہیں۔ ”بالکل ویسے ہی“ اگر صرف مثل کا لفظ استعمال کیا جاتا تو تھوڑی بہت ادھر ادھر ہونے کی گنجائش رہ جاتی تھی اور شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید پوری مشابہت مراد نہ ہو۔ لیکن باء کی موجودگی نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اور پوری طرح واضح کر دیا کہ جب تک ایمان کا ہر ایک نقطہ دوسرے نقطہ کے مشابہ نہ ہو اُس وقت تک وہ ایمان ہی نہیں کہلا سکتا۔

زائدہ ہونے کے علاوہ باء استعانت کیلئے بھی ہو سکتی ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ فَإِنْ دَخَلُوا فِي الْإِيمَانِ بِشَهَادَةٍ مِنْكُمْ۔ یعنی اگر وہ صداقت انبیاء کی شہادت دیتے ہوئے اُن پر ایمان لے آئیں جیسے تم نے انبیاء کی صداقت کی شہادت دی ہے اور ان پر ایمان لے آئے تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے یعنی جب تک اُن کے ایمان کی وہی کیفیت نہ ہو جو تمہاری کیفیت ہے اُس وقت تک وہ ہدایت یافتہ نہیں سمجھے جاسکتے۔ یہ بھی تاکید کا ہی ایک

رنگ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو پھر بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ورنہ کسی نبی کو صرف منہ سے مان لینا انسان کو مومن نہیں بنا دیتا۔ اگر اُن کا وہ عاشقانہ رنگ نہیں جو تم میں پایا جاتا تھا۔ اور اگر وہ اپنے عمل سے اپنے ایمان کی شہادت نہیں دیتے تو محض ابراہیمؑ اسماعیلؑ اسحاقؑ موسیٰؑ عیسیٰؑ اور دوسرے نبیوں کو مان لینا کافی نہیں ہو سکتا۔ لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف نبی کے وجود پر ایمان لانے سے وابستہ ہوتا ہے حالانکہ نبی کی مثال تو ایک نئے کی سی ہوتی ہے۔ جس طرح نئے بولنے والے کی آواز لوگوں کو پہنچاتی ہے اسی طرح نبی بھی خدا تعالیٰ کی آواز لوگوں کو پہنچاتا ہے اور نبی پر ایمان لانا صرف اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ پس کسی ایک نبی پر ایمان لانا اور دوسرے کا انکار کر دینا انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ وہ ہر آواز پر لبیک کہنے کیلئے تیار رہے اس جگہ اللہ تعالیٰ کچھ نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ تم کہو کہ ہم ان سب نبیوں کو مانتے ہیں جن کو تم مانتے ہو۔ اب خدا تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیجا ہے جسے ہم مانتے ہیں مگر تم نہیں مانتے۔ تم بھی اسے مان لو تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے حصہ پاؤ۔ اور تمہیں دین و دنیا میں سُرخروئی حاصل ہو۔

إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ پھر جائیں۔ تو تم گھبراؤ نہیں۔ اُن کے اس اعراض کی سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ اختلاف کرنے پر نکلے ہوئے ہیں۔ اور تم سے کسی حالت میں بھی اتحاد کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ یہ عبارت اصل میں اِنْ هُمْ إِلَّا فِي شِقَاقٍ ہے۔ یعنی ان کے اس اعراض سے تم پریشان مت ہو۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض کمزور دل مسلمان خیال کر سکتے تھے کہ یہ لوگ تو ہم سے اور زیادہ دُور ہو جائیں گے۔ فرماتا ہے۔ یہ تو تم سے پہلے ہی دور ہیں۔ اور ان باتوں کی طرف آنے کو تیار نہیں جو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہیں۔ اور جب اُن کے دلوں میں اتنا بغض ہے اور وہ پہلے ہی تم سے جدا ہیں تو پھر اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ پس اس بات سے مت ڈرو کہ علیحدگی کی صورت میں ہمیں اُن سے تکلیف پہنچے گی اور لڑائیاں ہوں گی۔

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ - اُن کے مقابلہ میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وہ اُن کے حملوں سے تمہیں خود بچائے گا اور تمہاری آپ حفاظت فرمائے گا۔ جب تک انسان کو یہ مقام حاصل نہ ہو وہ حقیقی مومن نہیں کہلا سکتا۔ ایمان کا مقام وہی ہے جو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے ماتحت ہو۔ یعنی وہ اس مقام پر کھڑا ہو کہ دشمن اُسے نقصان پہنچانے کیلئے خواہ کس قدر کوشش کرے۔ وہ سمجھے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے وہ دشمن کو مجھ پر غالب نہیں آنے دے گا اور اگر اس مقابلہ میں میرے لئے موت مقدر ہے۔ تب بھی کوئی غم نہیں کیونکہ ہم نے مر کر خدا کے پاس ہی جانا ہے۔ آخر

غور کرو کیا صحابہؓ کی بیویاں نہ تھیں۔ کیا اُن کے بچے نہ تھے کیا اُن کی جائدادیں اور تجارتیں نہ تھیں۔ اگر وہ خدا کے لئے اپنی جائیں قربان نہ کرتے تو ہم تک اسلام کس طرح پہنچتا۔ ہم تو جہالتوں میں مبتلا ہوتے۔ کوئی بتوں کو پوج رہا ہوتا۔ اور کوئی کسی دیوی دیوتا کے آگے اپنا سر جھکائے ہوتا۔ خدا تعالیٰ کی ان پر ہزاروں ہزار برکات ہوں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو ہمارے لئے آگ میں ڈالا۔ اپنی اولادوں کو یتیم کیا۔ اپنی بیویوں کو بیوہ کیا۔ اپنے ماں باپ کو بے نور و بے چراغ کیا۔ اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ مگر افسوس کہ اُن کی اس قدر عظیم الشان قربانی کے بعد اور اُن سے نورِ ایمان حاصل کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ مسلمان انہی کی طرح اس میدان میں نکلتے اور کہتے کہ ہم بھی وہی کچھ قبول کرتے ہیں جو صحابہؓ نے کیا۔ انہوں نے دنیوی تکالیف اور مصائب سے ڈر کر اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور اسلام جن قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے اُن میں حصہ لینے سے انہوں نے ہچکچانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ڈرتے کیوں ہو۔ اگر تم خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور وہی تمہیں ہر قسم کے نقصان سے بچائے گا۔

غرض اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو تم سمجھ لو کہ ان کے دلوں میں تمہاری نسبت سخت عداوت اور دشمنی ہے اور وہ تمہارے خلاف شرارتیں کریں گے مگر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہوگا وہ تمہیں ان کے حملے سے خود بچائے گا۔ اور ان کی شرارتیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرماتا ہے یہ نہ سمجھ لو کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے چونکہ وعدہ ہو گیا ہے۔ اس لئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ دعائیں کرو کہ ایسا ہی ہو۔ خدا تعالیٰ سننے والا ہے اور جن باتوں کا تمہیں علم نہیں اُن کا اُسے خود علم ہے۔ وہ آپ اُن کا انتظام کر دے گا۔

انسان کی دو حالتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان پر اس کا دشمن حملہ کرتا ہے اور اس حملے کا اُسے علم ہوتا ہے اور جہاں تک اُس کے لئے ممکن ہوتا ہے وہ اُس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دشمن ایسے وقت میں حملہ کرتا ہے جبکہ اُسے خبر نہیں ہوتی۔ یا ایسے ذرائع سے حملہ کرتا ہے جن کی اُسے خبر نہیں ہوتی۔ مثلاً اس کے کسی دوست کو خرید لیتا ہے اور اس کے ذریعے اُسے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ یا رات کو اس پر سوتے سوتے حملہ کر دیتا ہے۔ یا راستہ میں چھپ کر بیٹھ جاتا اور اندھیرے میں حملہ کر دیتا ہے یا وہ اُسے تیر مار دیتا ہے یا کھانے میں زہر ملا کر اُسے کھلا دیتا ہے یا اس کا مال یا جانور چُر لیتا ہے۔ یہ وہ حملے ہیں جو اُس کے علم میں نہیں ہوتے اور اس وقت ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ بے خبر ہوتا ہے۔ ان دونوں حملوں کے بچاؤ کی مختلف تدبیریں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ دشمن کس طرح اور کس رنگ میں حملہ کریگا۔ اگر تم کو اس کے حملہ کا علم ہو مگر تم دفاع کی طاقت نہ پاؤ تو ایک سمجھ اور علیم خدا موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دشمن تم پر حملہ آور ہے اور تم میں اس کے دفاع کی طاقت نہیں۔ پس تم گھبراؤ نہیں۔ تم ہمیں آواز دو۔ ہم فوراً تمہاری مدد کیلئے آجائیں گے۔ اور اگر تم سوئے ہوئے ہو یا راستہ پر سے گذر رہے ہو یا تاریکی میں سفر کر رہے ہو اور دشمن نے اچانک تم پر حملہ کر دیا ہے یا کھانے میں زہر ملا دیا ہے یا چوری سے مال نکال لیا ہے۔ یا کسی دوست سے مل کر اُس نے تم پر حملہ کر دیا ہے اور تمہیں اس کا علم نہیں ہوا۔ تو فرماتا ہے کہ ہم علیم ہیں ہم خوب جاننے والے ہیں اور ہمیں ہر قسم کی قوتیں حاصل ہیں۔ اس لئے ایسی حالت میں بھی تم گھبراؤ نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اُس سے دعائیں کرو۔ وہ تمہاری تمام مشکلات کو دور کر دے گا اور تمہارے دشمن کو ناکام اور ذلیل کرے گا۔

صِبْغَةَ اللَّهِ ج وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَ نَحْنُ

(اے مسلمانو! ان سے کہو کہ تم اللہ کا دین (اختیار کریں گے) اور دین (سکھانے کے معاملہ) میں اللہ (تعالیٰ) سے کون بہتر ہو سکتا ہے۔

لَهُ عِبَادُونَ ﴿۱۳۹﴾

اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔

حَلَّ لُغَاتٍ - صِبْغَةَ کے معنی ہیں ملت۔ دین۔ فطرت۔ چمڑے کو رنگ دینا۔ غوطہ دینا، چمٹا دینا۔ (اقرب) اس لحاظ سے صِبْغَةَ اللہ کے معنی ہیں اللہ کے دین کو اختیار کرو۔ یا اللہ کے بتائے ہوئے طریق کو اختیار کرو۔ یا اللہ کی دی ہوئی فطرت کو اختیار کرو۔

تفسیر - صِبْغَةَ اللہ کے معنی جیسا کہ حل لغات میں بتایا گیا ہے دین کے بھی ہیں۔ ملت کے بھی ہیں۔ فطرت کے بھی ہیں اور کسی چیز کو رنگ دینے کے بھی ہیں یہ لفظ اس جگہ مفعول بہ استعمال ہوا ہے جو اس لفظ کے آخر کی زبر سے جو مفعول بہ کا نشان ہے ظاہر ہے عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جہاں کسی کو کسی کام کی ترغیب دلانی ہو وہاں اس فعل کو جس میں ترغیب کے معنی پائے جاتے ہیں حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف مفعول بہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اِتَّبِعُوا مَحْذُوفٌ ہے اور اصل فقرہ یوں ہے اِتَّبِعُوا صِبْغَةَ اللہ یعنی تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرو اور اس سوال کو جانے دو کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم کس شخص پر اتاری ہے اور وہ کونسی قوم

سے تعلق رکھتا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور خدا ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی اس لئے اس کی طرف سے جو دین بھی آئے اس کے ماننے میں تمہیں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کی اتباع کرے۔

ملت کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی نیکی اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس کا نفس اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کے ماتحت چلتا ہے لیکن جب وہ خدائی راہنمائی کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور خدائی طریق کے علاوہ کوئی اور طریق اختیار کر لیتا ہے تو وہ خواہشات اُسے ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں گرا دیتی ہیں۔

پھر فطرت کے مفہوم کے لحاظ سے اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ فطرت صحیحہ سے کام لیتے ہوئے اختلافات کا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے پاک بنائی ہے اور اس سے سچائی کو پہچاننے میں بڑی بھاری مدد ملتی ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ فطرت صحیحہ مذہب کی قائم مقام ہے وہ مذہب کی قائم مقام نہیں بلکہ مذہب کے پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے اگر کسی کو فطرت صحیحہ نصیب نہ ہو تو اُسے سچا مذہب بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ فطرت صحیحہ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی کے پاس اس کے دوست کا خط آجائے تو وہ اُس کے پڑھنے کے لئے عینک لگا لے لیکن اگر وہ عینک لگا کر ہی بیٹھا رہے اور خط نہ پڑھے تو ہر شخص اُسے احمق قرار دیگا۔ اسی طرح دین بھی ایک خط ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا اور عینک فطرت صحیحہ ہے۔ جس طرح خط اصل چیز ہے اور اس سے منہ پھیرنا اور صرف عینک پر اکتفاء کر لینا جہالت ہے۔ اسی طرح جو شخص فطرت صحیحہ کے بعد مذہب کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بھی احمق ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو۔ یعنی ہمیشہ صفات الہیہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور دیکھتے رہو کہ کیا تم صفات الہیہ کے مظہر بنے ہو یا نہیں بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی غرض کے لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صفات الہیہ کا مظہر بنے اور اس کی قابلیت خود اس نے انسانی فطرت کے اندر ودیعت کر دی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی ربوبیت کا مظہر نہیں بن سکتا یا رحمانیت کا مظہر نہیں بن سکتا یا رحیمیت کا مظہر نہیں بن سکتا۔ یا مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ کا مظہر نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ تمام قابلیتیں رکھ دی ہیں اور اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (بخاری کتاب الاستئذان باب بدء السلام) یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مادی شکل نہیں اور نہ اسلام اس کا قائل ہے پس اللہ تعالیٰ کی صورت پر آدم کو پیدا کرنے کا یہی مفہوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم میں صفات الہیہ کا مظہر بننے کی قابلیت رکھ دی۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان صفات کو اپنے وجود کے ذریعہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ جس طرح خدا تعالیٰ ستار ہے۔ اسی طرح وہ بھی ستار بن سکتا ہے۔ جس طرح خدا شکور ہے اسی طرح وہ بھی شکور بن سکتا ہے۔ جس طرح خدا و ہاب ہے اسی طرح وہ بھی و ہاب بن سکتا ہے۔ جس طرح خدا رزاق ہے اسی طرح وہ بھی اپنے دائرہ میں رزاق بن سکتا ہے۔ اور درحقیقت اسلامی نقطہ نگاہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی وہی شخص حاصل کرتا ہے جو صفات الہیہ کا مظہر بن کر اللہ تعالیٰ سے مشارکت پیدا کر لیتا ہے۔ اور اسی کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے۔ دیکھو آک کا ٹڈا آک کے پتوں میں رہ کر ویسا ہی رنگ اختیار کر لیتا ہے اور تیزی جن پھولوں میں اڑتی پھرتی ہے ان کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ کیا ہم ٹڈوں اور تیزیوں سے بھی گئے گذرے ہیں۔ اور ہمارا خدا نعوذ باللہ آک اور پھولوں سے بھی گیا گذرا ہے کہ ٹڈا اگر آک میں رہتا ہے تو ان کا رنگ قبول کر لیتا ہے تیزیوں میں رہتی ہیں ان کا رنگ اخذ کر لیتی ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کے بندے اس کے پاس جائیں اور وہ اس کا رنگ قبول نہ کریں۔ دراصل اپنے دل کی بدظنی ہی ہوتی ہے جو انسان کو نامراد رکھتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ **أَنَا عَقْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي**۔ (صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا والتوبة والاستغفار باب الحث علی ذکر اللہ) جیسا بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس سے سلوک کرتا ہوں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنی عظمت کا احساس نہیں ہوتا یا خدا تعالیٰ کے متعلق یقین نہیں ہوتا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں معزز بنایا ہے اور بڑی بڑی طاقتیں عطا کی ہیں اور وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑے بڑے انعام دینے والا ہے وہ خالی نہیں رہتے بلکہ اپنے ظرف کے مطابق اپنا حصہ لے کر رہتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں توجہ دلائی ہے کہ تم دنیا میں کسی نہ کسی کا رنگ اختیار کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور جب تم نے بہر حال کسی کا رنگ اختیار کرنا ہے تو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنے دوستوں کا رنگ اختیار نہ کرو۔ تم اپنے بیوی بچوں کا رنگ اختیار نہ کرو تم اپنے اساتذہ کا رنگ اختیار نہ کرو تم اپنے ماحول کا رنگ اختیار نہ کرو۔ تم اپنی حکومت کا رنگ اختیار نہ کرو بلکہ تم خدائے واحد کا رنگ اختیار کرو۔ کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اور اس سے تعلق ہی تمہاری نجات کا موجب ہو سکتا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۗ اور اللہ تعالیٰ سے بہتر اور خوبصورت رنگ تم پر اور کون چڑھا سکتا ہے۔ اس رنگ کے بعد تم بہرہ و بے نہیں بنو گے بلکہ ایک حسین ترین وجود بن جاؤ گے جسے دیکھ کر دنیا کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور

وہ تمہیں اپنے مکالمات و مخاطبات سے مشرف کریگا۔ تم پر اپنے غیب کے اسرار کھولے گا۔ اور تمہیں اپنے غیر معمولی انعامات سے بہرہ ور فرمائے گا۔

مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ دہلی گیا تو وہاں مجھے علم حساب کے ایک بہت بڑے ماہر جن کا نام پروفیسر مولر تھا ملے۔ اور انہوں نے دوران گفتگو میں مجھ سے ذکر کیا کہ وہ اور نیویارک کے بعض اور پروفیسر تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس ساری یونیورس کا ایک مرکز ہے جس کے گرد یہ سورج اور اس کے علاوہ اور لاکھوں اور کروڑوں سیارے چکر لگا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میری تھیوری یہ ہے کہ یہی مرکز خدا ہے۔ گویا انہوں نے اس امر کا اظہار کیا کہ پہلے تو سائنس خدا تعالیٰ کے وجود کو رد کرتی تھی مگر اب ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس سارے نظام کا ایک مرکز ہے جو حکومت کر رہا ہے اور وہی مرکز خدا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ نظام عالم کے ایک مرکز کے متعلق آپ کی جو تحقیق ہے مجھے اس پر اعتراض نہیں۔ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ یہ تمام دنیا ایک نظام کے ماتحت ہے اور اس کا ایک مرکز ہے مگر آپ کا یہ کہنا کہ وہی مرکز خدا ہے درست نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہامات نازل ہوتے ہیں اور وہ مجھے اپنے غیب سے اطلاع دیتا ہے کہ اگر آپ کا تجویز کردہ مرکز ہی خدا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ بھی کسی کو الہام نازل کر سکتا ہے۔ کہنے لگے الہام تو نازل نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو پھر میں کس طرح تسلیم کر لوں کہ وہی مرکز خدا ہے۔ مجھے تو ذاتی طور پر اس بات کا علم ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے اور وہ باتیں اپنے وقت پر پوری ہو جاتی ہیں۔ کوئی بات چھ مہینے کے بعد پوری ہو جاتی ہے کوئی سال کے بعد پوری ہو جاتی ہے کوئی دو سال کے بعد پوری ہو جاتی ہے کوئی چار سال کے بعد پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ مجھ پر جو الہام نازل ہوا تھا وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہی سے تھا پھر میں نے انہیں مثال دی اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا وہ گڑہ جسے آپ خدا قرار دیتے ہیں کسی کو یہ بتا سکتا ہے کہ جنگ عظیم میں امریکہ کی طرف سے انگلستان کی مدد کے لئے ۲۸ سو ہوائی جہاز بھجوا یا جائے گا۔ میرا اشارہ اس رویا کی طرف تھا جو گزشتہ جنگ عظیم میں مجھے دکھایا گیا اور جس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ امریکہ انگلستان کو ۲۸ سو ہوائی جہاز مدد کے طور پر بھجوائے گا۔ بلکہ مجھے خواب میں تار کے الفاظ بھی بتائے گئے تھے اور مجھ دکھایا گیا تھا کہ برطانوی نمائندہ نے امریکہ سے یہ تار دیا ہے کہ

The American government has delivered 2800 aeroplanes to the British government.

یعنی امریکن گورنمنٹ نے ۲۸ سو ہوائی جہاز برطانوی گورنمنٹ کو دیئے ہیں چنانچہ دو ماہ کے بعد بعینہ یہی الفاظ

برطانوی نمائندہ نے امریکہ سے بذریعہ تار بھجوائے اور انگلستان کو ۲۸ سو ہوائی جہاز پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگے اس کڑہ سے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جاسکتی۔ میں نے کہا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کڑے کا اور اسی طرح اور ہزاروں لاکھوں کڑوں کا خدا کوئی اور ہے کیونکہ میں اپنے ذاتی تجربہ سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام انسان پر نازل ہوتا ہے جو کئی قسم کی غیب کی خبروں پر مشتمل ہوتا ہے پس آپ بے شک اس مرکز کو ہی خدا مان لیں۔ لیکن ہم تو ایک علیم اور خبیر ہستی کو خدا کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر قدرت بھی ہوتی ہے اس کے اندر جلال بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر جمال بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر علم بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر بسط کی صفت بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر مہجی ہونے کی صفت بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر مہمیت ہونے کی صفت بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر علیم ہونے کی صفت بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر مہمیں ہونے کی صفت بھی ہوتی ہے غرض بیسیوں قسم کی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں اسی طرح اس کا نور ہونا۔ اس کا وہاب ہونا۔ اس کا شکور ہونا۔ اس کا غفور ہونا۔ اس کا رحیم ہونا۔ اس کا ودود ہونا۔ اس کا کریم ہونا۔ اس کا ستار ہونا اور اسی طرح اور کئی صفات کا اس کے اندر پایا جانا ہم تسلیم کرتے ہیں جب ایک طرف یہ صفات اس مرکز میں نہیں پائی جاتیں اور دوسری طرف ہم پر ایک ایسی ہستی کی طرف سے الہام نازل ہوتا ہے جو اپنی صفات کو اپنے کلام کے ذریعہ دنیا پر ظاہر کرتا ہے اور باوجود اس کے کہ ساری دنیا مخالفت کرتی ہے پھر بھی اس کا کلام پورا ہو جاتا ہے تو اس ذاتی مشاہدہ کے بعد ہم آپ کی تھیوری کو کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اگر یہ باتیں درست ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ تھیوری باطل ہے کیونکہ اس کلام کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا خدا نہیں جس کے تابع یہ تمام مرکز ہو۔

غرض صِبْغَةَ اللَّهِ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے اور اس کے رنگ میں رنگین ہونے کی نصیحت کی گئی ہے جو انسانی پیدائش کا حقیقی مقصد ہے اور جس پر بنی نوع انسان کی نجات اور اللہ تعالیٰ کا قرب منحصر ہے۔

قُلْ اتَّحَابُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ج وَ لَنَا

تو (اُن سے) کہہ۔ کیا تم ہم سے اللہ کے متعلق جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور ہمارے

أَعْمَالِنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالِكُمْ ج وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۴۰﴾

اعمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لئے۔ اور ہم تو اس سے اخلاص (کا تعلق) رکھتے ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت میں کیا ہی لطیف دلیل دی ہے۔ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے ہدایت صرف

ہماری قوم میں محدود کر دی ہے اس کو ہم کب مان سکتے ہیں اگر کسی اجنبی شے کے متعلق تم یہ بات کہتے تو تحقیق کی ضرورت بھی ہوتی مگر تم تو خدا کے متعلق یہ بات کہتے ہو جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی پھر ہم کس طرح اس بات کو مان لیں کہ بنو اسحاق سے باہر نبی نہیں آسکتا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ نبی بھیجا کون کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے تو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جسے کوئی فطرت صحیحہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتی۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی۔ اگر وہ صرف تمہارا ہی رب ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ وہ ہمارے سوا کسی اور سے تعلق نہیں رکھ سکتا مگر جب وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تو دے دے اور ہمیں چھوڑ دے۔

لَنَّا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ فرماتا ہے کہ دین میں حسد کی بھی کوئی وجہ نہیں کیونکہ کوئی شخص دوسرے کی کمائی نہیں لے سکتا۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جزا کا مستحق ہوگا۔ تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے اور جس قوم میں سے یہ نبی آیا ہے اس کے افراد کے اعمال اس کے کام آئیں گے جو شخص جس قدر کوشش کرے گا اسی قدر انعام پائے گا۔ کوئی قومی رعایت نہیں ہوگی۔

وَ نَحْنُ لَكُمْ مُخْلِصُونَ اور ہم تو اسی سے اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں اس میں بتایا کہ ہماری محبت ایسی نہیں کہ اگر وہ کچھ دے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ بلکہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ خواہ وہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے تب بھی ہم اسی کے لئے وقف ہیں اور اسی کے اطاعت گزار رہیں گے۔ اس کے سوا ہمیں کوئی اور چیز مطلوب نہیں۔

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

(اے اہل کتاب!) کیا تم (یہ) کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب

وَ الْأَسْبَاطُ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ

اور (اس کی) اولاد یہودی یا مسیحی تھے؟ تو (ان سے) کہہ کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو

أَمْ لِلَّهِ ۞ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ

یا اللہ (تعالیٰ)؟ اور اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس شہادت کو جو اُس کے پاس اللہ (تعالیٰ) کی

اللَّهُ ط وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عِبَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۱﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ

طرف سے ہو چھپائے۔ اور اللہ (تعالیٰ) اس سے ہرگز ناواقف نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ جماعت ہے جو (اپنا زمانہ

خَلَّتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ج لَا تَسْأَلُونَ

پورا کر کے) فوت ہو چکی ہے۔ اور جو کچھ اس نے کمایا (اُس کا نفع نقصان) اُس کے لئے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا

﴿۱۳۱﴾

عِبَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾

(اُس کا نفع نقصان) تمہارے لئے ہے اور جو کچھ وہ کرتے تھے اُس کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔

تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کا یہ دعویٰ بیان کرتا ہے کہ ابراہیمؑ۔ اسماعیلؑ۔ اسحاقؑ یعقوبؑ اور اس کی اولاد بھی یہودی یا مسیحی تھے۔ قرآن کریم اس کا ایک سادہ سا جواب دیتا ہے مگر وہ ایسا جواب ہے کہ جس سے اُن پر موت وارد ہو جاتی ہے حضرت ابراہیمؑ۔ اسماعیلؑ۔ اسحاقؑ۔ یعقوبؑ اور ان کی اولاد سے تعلق رکھنے والے افراد توریت اور انجیل کے زمانہ سے بہت پہلے گزر چکے تھے اور توریت جسے وہ الہامی مانتے ہیں۔ اس میں اس کا صاف طور پر ذکر آتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دانستہ جھوٹ بولتے ہو اور ان گواہیوں کو چھپاتے ہو جو تورات میں موجود ہیں جب اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ پہلے گزر چکے تھے تو ان کا ایمان اس چیز سے جو ان کے بعد آئی کس طرح وابستہ ہو سکتا ہے اور وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام پر ایمان لانے والے کس طرح فرار دیئے جاسکتے ہیں۔ یہ ویسی ہی حماقت ہے جیسے پادری ڈوڈ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ ابراہیم بھی کفارہ پر ایمان لایا تھا تب اس کی نجات ہوئی۔ یا جیسے بعض شیعہ احباب کہہ دیا کرتے ہیں کہ اِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لَآبْرَاهِيْمَ (الصفّ: ۸۴) سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ فرماتا ہے ہم تمہاری بات مانیں یا تمہاری کتاب کو سچا تسلیم کریں۔ تمہاری تورات تو کہتی ہے کہ ابراہیمؑ زمانہ نزول تورات سے بہت پہلے ہوا اور تم اسے یہودی قرار دے رہے ہو۔ یہ کیسی احمقانہ بات ہے۔ تعجب ہے کہ اس زمانہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی قرار دینے والے لوگ موجود ہیں چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں Judaism کے نیچے لکھا ہے۔

(Ibrahim is considered to have been the first adherent of Judaism)

(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا ۱۹۵۰ page 165 vol 13)

یعنی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہودیت کے سب سے پہلے پروکار تھے۔ (الْعِبَادُ بِاللّٰهِ) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ فرماتا ہے یہ ایک اُمت تھی جو گذر چکی۔ تم کیوں اپنی غلطیوں میں ان کو شریک کرتے ہو۔ وہ اپنے اعمال کے آپ ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ پس اس بات سے کیا فائدہ کہ تم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہو۔ تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اُن کا ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیگا۔ اور نہ اُن کی نیکیاں تمہاری نجات کا موجب بن سکیں گی۔ گویا وہی مضمون جو آیت لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی (الانعام: ۱۶۵) میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو نئے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اور عیسائیوں اور یہودیوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنے اعمال پر نگاہ ڈالیں اور سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ نجات کے مستحق ہیں یا نہیں۔

اس رکوع کی پچھلی آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ بنو اسحاق کے انعامات نبوت سے محروم ہو جانے کے بعد بنو اسماعیل ہی حقدار انعام تھے کیونکہ ان کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ خصوصاً ایک صاحب شریعت نبی کی بعثت کی۔ آیت ۱۳۱ و ۱۳۲ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو سمجھایا کہ ملت ابراہیمی کو ترک کر کے بیوقوف نہ ہو جانا۔ جو یہ ہے کہ جو حکم بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے اُسے قبول کر لیا جائے۔ جو شخص اس طریق کو اختیار نہیں کریگا وہ نقصان اٹھائیگا۔ آیت ۱۳۳ میں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیمؑ نہ صرف خود اس طریق پر عامل تھے بلکہ ان کی اولاد بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کرتی چلی آئی ہے کہ ہمیشہ خدا کے فرمانبردار رہنا اور جب بھی کوئی مامور آئے اس کے حزب میں داخل ہو جانا۔ آیت ۱۳۴ و ۱۳۵ میں بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو ان کی اولاد نے عہد بھی کیا تھا کہ وہ واحد خدا کی پرستش کریں گے اور اس کے کامل فرمانبردار رہیں گے اب تم لوگ اگر سچے اسرائیلی ہو تو تمہارا فرض ہے کہ اس عہد کو پورا کرو اور حضرت یعقوبؑ کی طرح فرمانبرداری کر کے دکھاؤ۔ صرف اُن کی اولاد سے ہونا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ ہر ایک اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ آیت ۱۳۶ میں فرمایا دیکھو یہ ضد چھوڑ دو کہ یہودی یا مسیحی ہونے کے بغیر نجات نہیں۔ ابراہیمی طرز عمل اختیار کرو یعنی ہر حکم کو جس زمانہ میں بھی آئے مان لینا اور اس حکم الہی کے مقابل میں کسی روک کی پرواہ نہ کرنا۔ آیت ۱۳۷ میں مسلمانوں کو مخاطب کیا اور انہیں توجہ دلائی کہ وہ لوگ طریق ابراہیمی اختیار کریں یا نہ کریں مگر ہمیشہ اس بات کا اقرار کرو کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، ہم اُسے تسلیم کرتے ہیں۔ آیت ۱۳۸ میں بتایا کہ اگر اہل کتاب تمہاری طرح اس عقیدہ پر راضی ہو جائیں تو سبھ پائیں گے ورنہ سزا۔ آیت ۱۳۹ میں تاکید فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو رنگ بھی چڑھائے وہ اپنے اوپر چڑھا لو۔

یعنی اسی رنگ میں رنگین ہو جاؤ جو اس کا مورچا ہے۔ آیت ۱۴۰ میں فرمایا کہ ان اہل کتاب سے کہو کہ کیا تم خدا تعالیٰ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو کہ اس نے تمہیں کیوں اپنے کلام کے لئے چن لیا۔ یہ اُس کا فضل ہے۔ وہ ہمارے اور تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے پس جو اخلاص سے کام لے گا وہی انعام پائے گا۔ آیت ۱۴۱ میں فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اگر یہودی یا مسیحی قوم میں نجات ہے تو حضرت ابراہیمؑ اور ان کے بیٹے پوتوں کا کیا حال تھا کیا وہ بھی یہودی تھے؟ یہ تو جھوٹ ہے کیونکہ وہ تمہاری مسلمہ آسمانی کتاب سے پہلے زمانہ میں ہوئے ہیں۔ آیت ۱۴۲ میں اس قدر تمام حجت کے بعد فرمایا کہ یہ نبیوں کا گروہ اپنے زمانہ میں گذر گیا۔ ان نبیوں کے اعمال تمہارے کام نہیں آسکتے۔ نہ مسیحؑ کا تکلیف اٹھانا تمہاری نجات کا موجب بن سکتا ہے۔ تم سے تمہارے اعمال کی نسبت پوچھا جائے گا۔ اس لئے تمہیں اپنا فکر کرنا چاہیے۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمْ

کم عقل لوگ ضرور کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو ان کے اس قبلہ سے جس پر یہ (پہلے) تھے

الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي

کس چیز نے پھر دیا ہے۔ (جب وہ ایسا کہیں) اُو (اُن سے) کہنا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں۔

مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۴۳﴾

وہ جسے چاہتا ہے ایک سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔

حَلُّ لُغَاتٍ۔ **سُفَهَاءٌ** سَفِيهِةٌ کی جمع ہے۔ اور **السُّفَهَاءُ** کے معنی ہیں **خَفَّةُ الْجِلْمِ** علم کی کمی۔ **الْجَهْلُ**

جہالت۔ **الْجَفَّةُ** ہلکا پھلکا ہونا۔ **الْعَرَكَةُ** حرکت۔ **الْأَضْطِرَابُ** اضطراب (اقرب) پس **سَفِيهِة** کے معنی ہوئے کم علم۔ کم عقل۔ بات کو سمجھ بغیر بول اٹھنے والے۔ سطحی نگاہ والے۔ بے استقلال۔

الْقِبْلَةُ الْجَهَّةُ۔ **كُلُّ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ شَيْءٍ** قبلہ کے معنی ہیں جہت۔ ہر وہ چیز جس کی طرف منہ کیا

جائے۔ (اقرب)

عَلَيْهَا یہاں علی کے معنی جسمانی قیام کے نہیں بلکہ عمل اور عقیدہ کے لحاظ سے کھڑا ہونا مراد ہے۔ ہمارے

ہاں بھی کہتے ہیں کہ ”جس پر تم قائم ہو“ مطلب یہ کہ جس عقیدہ کے تم پابند ہو۔ پس کَانُوا عَلَيْهِمَ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے وہ پابند تھے۔

تفسیر۔ قرآن کریم کا طریق ہے کہ جب وہ کوئی اہم بات بیان کرنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ فوری طور پر اس کے متعلق اپنا حکم بیان کر دے تمہید کے طور پر بعض باتوں کا ذکر کر دیتا ہے تاکہ اس چیز کی اہمیت لوگوں پر واضح ہو جائے اور ان کے قلوب پہلے سے ہی الہی حکم کو بشاشت کے ساتھ تسلیم کرنے اور اس کے مطابق اپنے اندر تغیر پیدا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور ان پر کم سے کم ابتلاء آئے۔ کیونکہ قرآن کریم کی غرض لوگوں کو ہدایت دینا اور انہیں شریعت کے ساتھ ساتھ حکمت سکھانا بھی ہے۔ پس وہ چاہتا ہے کہ جہاں تک لوگوں کو ٹھوکر کھانے سے بچایا جاسکے انہیں بچانے کی کوشش کی جائے جیسے روزوں کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں اور تو میں بھی روزے رکھتی چلی آئی ہیں اور یہ روزے اس لئے مقرر کئے جاتے رہے ہیں تاکہ تقویٰ پیدا ہو۔ اس تمہید کے بعد فرمایا کہ تم پر بھی روزے فرض کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی تحویل قبلہ کا حکم دینے سے پہلے لوگوں کی طبائع کو اس کے لئے تیار کیا اور انہیں انقلاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيَهُمْ عَنِ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یعنی ایسے لوگ جو حکمت سمجھے بغیر اعتراض کر دینے کے عادی ہیں عنقریب ایک اعتراض کرنے والے ہیں اور وہ اعتراض باوجود نہایت لغو ہونے کے دشمن کرتے ہی چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلہ سے جس پر وہ پہلے قائم تھے کس چیز نے دوسری طرف پھرا دیا ہے۔ حالانکہ اس وقت تک اس بارہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو۔ مگر اصل حکم کے نازل کرنے سے پہلے ہی دشمن کا اعتراض بیان کر دیا اور بتا دیا کہ ہم عنقریب تحویل قبلہ کے بارہ میں ایک حکم دینے والے ہیں جس پر بعض لوگ جو کم علم اور کم عقل ہیں یا بات کو سمجھے بغیر بول اٹھنے والے ہیں یہ اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کو اس قبلہ سے جس پر وہ پہلے قائم تھے کس نے پھرا دیا۔ مگر تم نے اس اعتراض سے گھبرانا نہیں کیونکہ اب اللہ تعالیٰ قبلہ کے بارہ میں ایک نیا حکم نازل فرما کر تمہارے ایمانوں کی آزمائش کرنے والا ہے۔

سَيَقُولُ میں س تا کید اور استمرار کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور استمرار میں مستقبل کا زمانہ شامل ہوتا ہے۔ اسی رنگ میں سَدَّوْفَ کا لفظ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور وہ بھی تاکید کے لئے آتا ہے لیکن سَدَّوْفَ کی نسبت س کا زمانہ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بہر حال سَيَقُولُ کے الفاظ میں یہ خبر دی گئی کہ عنقریب بعض کم عقل لوگ ایک اعتراض کرنیوالے ہیں اور وہ اعتراض باوجود نہایت لغو ہونے کے دشمن کرتا ہی چلا جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے

ہیں کہ نہ صرف اس زمانہ میں دشمنوں نے یہ اعتراض کیا بلکہ اب تک سیل و ہیری اور دوسرے مسیحی مصنف برابر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے مگر مدینہ میں آ کر یہود کی خوشنودی کے لئے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے لگ گئے (تفسیر القرآن و ہیری زیر آیت ہذا) حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ میں قرآن کریم نے اپنی تعلیم کے مخالف کو بیوقوف قرار دیا ہے جو درشت کلامی ہے مگر یہ اعتراض بھی درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اپنی تعلیم کے مخالف کو نہیں بلکہ صریح خلاف عقل کام کرنے والوں کو بیوقوف کہا ہے اور ساتھ ہی اس کی دلیل بھی دی ہے جس کے بعد کسی کو ان کی بیوقوفی میں شبہ ہی نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ انہیں عقل کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اور انہیں دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دلیل کے ساتھ دشمن کو سمجھانے والے کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنے مخالف کے متعلق بلاوجہ سخت کلامی کرتا ہے۔ سخت کلامی تب ہوتی جب یہ بات حقیقت کے خلاف ہوتی یا دشمن کو صرف بیوقوف کہہ کر اس کی ہنسی اڑائی جاتی مگر جب دشمن کو دلیل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے بیوقوف اپنی تعلیم کی مخالفت کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک صریح خلاف عقل کام کرنے پر کہا گیا ہے تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اگر یہ قابل اعتراض بات ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص خواہ کتنی بھی حماقت کرے اُسے کچھ نہ کہا جائے۔ بلکہ اس کی عقل اور تدبیر اور دانائی کی تعریف کی جائے حالانکہ دنیا میں کبھی کسی شخص نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اگر یہی طریق قرآن کریم نے بھی اختیار کر لیا تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہر حال ایسی حالت میں جبکہ خود مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کب اور کس طرف انہیں منہ پھیرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو عظیم و خیر ہے اور جانتا تھا کہ لوگوں نے اعتراض کرنے ہیں جس سے کمزور لوگوں کے ابتلاء کا خطرہ ہے اس نے قبل اس کے کہ لوگ اعتراض کرتے بلکہ قبل اس کے کہ تحویل قبلہ کے بارہ میں کوئی حکم نازل ہوتا ان کے اعتراض کا جواب دے دیا اور فرمایا۔ قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اصل سوال تو خدا تعالیٰ کی عبادت کا ہے اور خدا تعالیٰ جدھر حکم دے اُدھر ہی منہ پھیرنا انسان کو خدا تعالیٰ کی رضا کا مستحق بناتا ہے۔ اگر وہ مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم دے تو مومنوں کو فرض ہے کہ وہ مشرق کی طرف منہ کریں اور اگر مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے تو مومنوں کا فرض ہے کہ مغرب کی طرف منہ کریں اس لئے تحویل قبلہ پر اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں طرف منہ کیوں نہیں کیا۔ اور فلاں طرف کیوں کیا جہالت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لئے مشرق و مغرب سب برابر ہیں اور اگر ایک خاص جہت کی تعیین کی جاتی ہے تو اس لئے نہیں کہ خدا تعالیٰ مشرق میں ہے یا مغرب میں

بلکہ اس کی تعیین بعض اور حکمتوں پر مبنی ہوتی ہے مثلاً بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس کے ذریعے اتحاد قائم رہتا ہے۔ اگر نماز کے لئے کوئی خاص جہت مقرر نہ کی جائے تو کسی کا منہ مشرق کو ہوگا اور کسی کا مغرب کو کسی کا شمال کو اور کسی کا جنوب کو اور ان میں کوئی تنظیم اور یکجہتی نظر نہیں آئیگی۔ پس مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے اور پھر صفوں کو درست رکھنے کے لئے اسلام نے ایک جہت مقرر کر دی۔ ہاں ریل اور جہاز میں اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو انسان جدھر چاہے نماز پڑھ سکتا ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ جہت بالذات مقصود نہیں بلکہ تنظیم اور اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کے لئے اس کی تعیین کی گئی ہے۔

پھر بیت اللہ کو قبلہ عالم مقرر کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائے جو دنیا کی ہدایت اور راہنمائی کا موجب ہو۔ اس کے ہاتھ پر آیات الہیہ کا ظہور ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک کامل شریعت عطا ہو۔ وہ شریعت کے اسرار اور غوامض کو بیان کرنے والا ہو اور تزکیہ نفوس اس کا کام ہو۔ یہ دعا اس امر کا تقاضا کرتی تھی کہ آنے والا عظیم الشان نبی اور اس کے متبع بیت اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں تاکہ جب بھی وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں انہیں وہ ابراہیمی دعا یاد آجائے جو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لئے کی تھی۔ جب ایک انسان آذلہ آکبڑ کہہ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور بیت اللہ کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے تو معاً اس کا ذہن اس دعا کی طرف پھر جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں میرا کام بھی یہی ہے کہ میں لوگوں کو آیات الہیہ کی طرف توجہ دلاؤں۔ انہیں کتاب اللہ کا علم سکھاؤں۔ احکام الہیہ کی حکمت اُن پر روشن کروں اور انہیں پاکیزہ اور مطہر بنانے کی کوشش کروں۔ یہ عظیم الشان مقصد لنڈن یا نیویارک کی طرف منہ کرنے سے کسی کی آنکھوں کے سامنے نہیں آسکتا۔ نہ پیرس کی طرف منہ کرنے سے انسانی قلب میں یہ ولولہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف منہ کرنے سے تو ناچنے اور گانے کا ہی خیال آئے گا عبادت اور زہد اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا کبھی خیال نہیں آئے گا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرب میں ہے اور امریکہ میں نہیں یا مکہ میں ہے اور افریقہ میں نہیں۔ لیکن بعض چیزیں اپنے اندر ایسے محرکات رکھتی ہیں جو انسان کو غیر معمولی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں اس لئے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا ہے ورنہ خدا تعالیٰ ہر قسم کے تجسم سے بالا ہے اور اس کے قرب کے دروازے دنیا کے ہر انسان کے لئے کھلے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ پر بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہی الفاظ سورہ بقرہ کے چودھویں رکوع میں

استعمال ہوئے تھے تو وہاں اس کے یہ معنی کئے گئے تھے کہ تم جدھر چاہو منہ کرو۔ اب انہی الفاظ سے ایک قبلہ کی دلیل اخذ کی گئی ہے دو متضاد مضمون ایک ہی دلیل سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ پہلے اس دلیل سے قبلہ کا رد کیا گیا ہے اور نہ اس سے قبلہ کو ثابت کیا گیا ہے بلکہ پہلی جگہ **لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** فَاَيُنَمَّا تَوَلَّوْا فَانظُرُوْا وَجْهَ اللّٰهِ (آیت ۱۱۶) میں بتایا تھا کہ سب کچھ خدا کا ہے وہ ایک دن تمہیں مشرق و مغرب کا حکمران بنا دیگا اور تمہیں اپنے فضل سے سب کچھ دے دیگا۔ اور اب یہ بتایا ہے کہ قبلہ اصل مقصود نہیں ہوتا کہ اس پر اعتراض کیا جائے بلکہ اصل چیز تو خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے اور خدا جدھر منہ کرنے کا حکم دے اسی طرف منہ کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق بناتا ہے۔ پھر پہلی آیت بھی مدینہ میں نازل ہوئی ہے جبکہ دشمنوں کے نزدیک بھی وہاں قبلہ مقرر ہو چکا تھا۔ پھر قرآن کریم یہ کب کہہ سکتا تھا کہ کسی خاص قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب قبلہ مقصود نہیں تو پھر مقرر کیوں کیا۔ کیونکہ جس طرح کسی مشورہ کے لئے جمع ہونے والے لوگ گو کسی خاص جگہ پر جمع ہونا اپنا مقصد نہیں ٹھہراتے مگر پھر بھی انکو جگہ اور وقت کی تعیین کرنی پڑتی ہے اسی طرح قبلہ گو اصل مقصود نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے اور ان کی صفوں کو درست رکھنے کے لئے ایک جہت مقرر کر دی ہاں سفر میں اگر قبلہ معلوم نہ ہو یا قبلہ تو معلوم ہو مگر نماز شروع کرنے کے بعد ریل یا جہاز یا سواری کا رخ قبلہ کی طرف سے بدل جائے تو نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہت بالذات مقصود نہیں بلکہ اتحاد اور تنظیم اور صفوں کی درستی کے لئے اُس کی تعیین کی گئی ہے۔

پھر فرمایا **يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ**۔ خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایک سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ”ایک سیدھی راہ“ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر زمانہ کے لحاظ سے تعلیمات کسی قدر فرق کے ساتھ آتی ہیں کیونکہ یہ الہی سنت ہے کہ وہ جس قوم پر فضل کرتا ہے اس کے مناسب حال تعلیم بھی بھیج دیتا ہے مسلمانوں کے مناسب حال قبلہ کعبہ ہی تھا چنانچہ آخر اس نے ان کو اس کی طرف پھیر دیا اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع کر دیا تھا اور جو سمجھتے تھے کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی آواز کے پیچھے چلیں اور مشرق و مغرب کی حد بندیوں سے اپنی نگاہ کو بالا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی مخلصانہ اطاعت کی توفیق بخشی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پھیرتے ہی انہوں نے بیت اللہ کی طرف اپنے منہ کر لئے اور صراطِ مستقیم پر دوڑتے چلے گئے۔

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًاۙ عَلٰی

اور (اے مسلمانو! جس طرح ہم نے تمہیں سیڑھی راہ دکھائی ہے) اسی طرح ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجہ کی امت بنایا ہے تاکہ تم

النَّاسِ وَا يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهِيْدًاۙ وَا مَا جَعَلْنَا

(دوسرے) لوگوں کے نگران بنواور یہ رسول تم پر نگران ہو۔ اور ہم نے اس قبلہ کو

الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَیْهَاۙ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ

جس پر تو (اس سے پہلے قائم) تھا صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ تاہم اُس شخص کو جو اس رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے

الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰی عَقْبَيْهِۙ وَاِنْ كَانَتْ

اُس شخص کے مقابل پر جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے (ایک ممتاز حیثیت میں) جان لیں اور یہ امر ان لوگوں کے سوا

لِكَبِيْرَةٍۙ اِلَّا عَلٰی الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُۙ وَا مَا كَانَ اللّٰهُ

جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے (دوسروں کے لئے) ضرور مشکل ہے۔ اور اللہ (تعالیٰ ایسا) نہیں کہ تمہارے

لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌۙ ﴿۱۳۳﴾

ایمانوں کو ضائع کرے۔ اللہ یقیناً سب انسانوں پر نہایت مہربان (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ اُمَّةً وَّسَطًا وَسَطٌ کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں چونکہ درمیان میں رہنے والی

(یعنی حدِ اعتدال کے اندر رہنے والی) چیز ہمیشہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس لئے محاورہ میں وَسَطٌ کے معنی اعلیٰ کے ہو گئے

ہیں۔ افسرانِ اعلیٰ بھی فوج کے درمیان ہوتے ہیں چنانچہ فوج کے کچھ دستے ان کے آگے اور کچھ پیچھے ہوتے ہیں اور

وہ خود درمیان میں ہوتے ہیں کیونکہ اعلیٰ چیز کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے درمیانی چیز اعلیٰ کے معنوں

میں آتی ہے۔ عربی زبان میں وَسِيْطٌ اُسے کہتے ہیں جو قوم میں سب سے زیادہ شریف ہو۔ چونکہ امت محمدیہ نہ تو

اُمّتوں کے درمیان ہے اور نہ تعلیم میں کم ہے بلکہ فرماتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۱)

تم تمام اُمّتوں میں سے بہترین اُمّت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو۔ اس لئے اس کے معنی ہیں اعلیٰ اور اکمل۔

شَهِيدٌ کے معنے ہیں الشَّاهِدُ نگران (۲) أَلَا مَيِّينٌ فِي الشَّهَادَةِ جو اپنی شہادت میں بہت سچ بولنے والا ہو۔ (۳) أَلْقَيْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مارا جائے (۴) أَلْعَالِمِ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وہ عالم جس کے علم سے کوئی بات غائب نہ ہو (۵) الَّذِي يُعَايِنُ كُلَّ شَيْءٍ جو ہر چیز کو دیکھتا ہو۔ (اقرب) كُنُتَ كَأَنَّ کے ایک معنے ہیں ”ہے“ اور اس کے دوسرے معنے صَارَ کے بھی ہوتے ہیں یعنی ”ہو گیا“ اور اس کے تیسرے معنے ”تھا“ کے بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم نے نہیں مقرر کیا اس قبلہ کو جس پر پہلے تُو تھا۔ یا جس کی طرف تُو اب پھر گیا اور جس پر اب قائم ہو گیا ہے۔ گویا ایک معنی کی رو سے تبدیلی سے پہلے قبلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے اور دوسرے معنے کی رو سے تبدیلی کے بعد کے قبلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

نَعَلَمَ عَلَمًا سے نکلا ہے اور اس کے معنے جاننے کے ہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کبھی سبب کو مسبب کی جگہ رکھ دیتے ہیں یعنی جو چیز کسی دوسری چیز کا باعث ہوتی ہے اس کو اس نتیجہ کی جگہ رکھ دیتے ہیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہوتا ہے اور کبھی اس کے اُلٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اس جگہ سبب کو مسبب کی جگہ رکھا ہے۔ علم کا نتیجہ امتیاز پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس سے انسان کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے یا بُری پس چونکہ تمیز علم سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس جگہ تمیز کی بجائے علم کا لفظ رکھ دیا ہے تاکہ یہ بھی ثابت ہو کہ تمیز بغیر علم کے نہیں ہوتی (بحر محیط زیر آیت ہذا) قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں اور لغت میں بھی اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں جیسا کہ سماء کا لفظ بادل کے معنوں میں آجاتا ہے اس لئے کہ بادل درحقیقت بلند یوں سے اور سورج کی روشنی سے بنتے ہیں۔ چونکہ سماء بادل بننے کا موجب اور ذریعہ ہے اس لئے بادل کو بھی سماء کہنے لگ گئے ہیں۔ پس لِنَعْلَمَ کے معنے یوں ہوئے کہ ہم نے یہ کام اس غرض سے کیا تھا تاہم ان لوگوں کو جو رسول کے متبع ہیں ان لوگوں سے جو اس کی طرف سے پھر جاتے ہیں ممتاز کر دیں (۲) اس کے معنے امتیاز کرنیکی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عربی زبان میں جب عَلِمَ کے بعد مِنْ صلہ آئے تو اس وقت بھی علم سے تمیز مراد لی جاتی ہے چنانچہ اِنَّمَّا نَعْتَمِدُ لَكَهْتَ ہیں کہ اَلْعِلْمُ لَا يَتَّعَدَلِي يَوْمَئِذٍ اِلَّا اِذَا اُرِيدَ بِهِ التَّمْيِيزُ (بحر محیط زیر آیت ہذا) یعنی علم کا مِنْ کے ساتھ کبھی تعدیہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی اسے متعدی نہیں بنایا جاتا سوائے اس صورت کے کہ اس سے تمیز مراد ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مِنْ تمیز کے لئے استعمال ہوتا ہے نہ کہ علم بمعنے جاننے کے معنے دینے کے لئے۔ پس جب اس کے ساتھ مِنْ آجاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ تمیز کے معنوں میں ہے (۳) علم کے معنے ظاہر کر دینے کے بھی ہوتے ہیں مگر یہ معنے عام لغات میں نہیں۔ جنہوں نے قرآن کریم کی لغات لکھی ہیں انہوں نے یہ معنے لکھے ہیں اور قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ یہ معنے درست ہیں۔

علم کے معنی ظاہر کرنے کے سورۃ احزاب کی اس آیت میں آتے ہیں کہ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ فِي آزُوجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (الاحزاب: ۵۱) یہاں قطعی اور یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ علم کے معنی ظاہر کرنے کے ہیں کیونکہ کوئی اپنی بات کے متعلق جاننے کا لفظ استعمال نہیں کیا کرتا۔ مثلاً یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ مجھے علم ہے کہ میں کل لاہور گیا تھا۔ اگر کوئی شخص ایسا کہے تو سُننے والے ہنس پڑیں گے کہ یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے۔ پس اگر اس جگہ یہ معنی کئے جائیں کہ جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے اس کا ہمیں علم ہو گیا ہے تو یہ درست نہیں کیونکہ علم غیر کے متعلق ہوا کرتا ہے اس لئے اس کے معنی علم کے نہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان پر فرض کیا تھا وہ ہم نے ظاہر کر دیا ہے یا بتا دیا ہے پس چونکہ اس آیت میں سوائے ظاہر کرنے اور بتا دینے کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ اس لئے یہی معنی کرنے پڑیں گے۔ اور یہی إِلَّا لَعَلَّكُمْ كَامْفَهُوم ہے۔

رَعُوفٌ رَأْفَةٌ اور رَحْمَةٌ دونوں قریب قریب الفاظ ہیں۔ مگر ان میں کچھ فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ رَأْفَت خاص اور رحمت عام ہے۔ رَأْفَةٌ میں دفع شر کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور رحمت میں دفع شر اور ایصال خیر دونوں شامل ہوتے ہیں بیمار کو دیکھ کر رَأْفَت پیدا ہوتی ہے اور اس کی بیماری کی وجہ سے رحمت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو دکھ میں دیکھ کر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ رَأْفَت کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے اور رحمت کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ احسان رحمت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے اور تکلیف کا دور کرنا رَأْفَت کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے۔

تفسیر۔ اس آیت میں كَذَلِكَ کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اشارہ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کی طرف ہے۔ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیا کرتا ہے اور اس نے تم کو اپنے فضل سے ہدایت دے دی۔ اب کسی کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے اسی کی طرف كَذَلِكَ میں اشارہ ہے یعنی جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اسی طرح اُس نے دوسرا احسان تم پر یہ کیا ہے کہ اس نے تمہیں اُمَّةً وَسَطًا بنایا ہے جیسا کہ حَلِّ لُغَات میں بتایا جا چکا ہے وسط کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں لیکن اُمت محمدیہ نہ زمانہ کے لحاظ سے درمیانی اُمت ہے اور نہ تعلیم اور شریعت کے لحاظ سے درمیانی اُمت ہے۔ زمانہ کے لحاظ سے تو اس لئے درمیانی اُمت نہیں کہ اُمت محمدیہ کے بعد اب قیامت تک اور کوئی اُمت نہیں پس وہ آخری اُمت تو کہلا سکتی ہے مگر درمیانی نہیں اور اگر شریعت کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی اُمت محمدیہ درمیانی اُمت نہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نئی شریعت نہیں آئی کہ کہا جائے کہ کچھ شریعتیں اس سے پہلے آچکی ہیں اور کچھ بعد میں آئیں گی اور یہ اُمت

دونوں کے درمیان ہے۔ اسی طرح اگر تعلیم کو لیا جائے تو قرآن کریم سب سے آخری تعلیم ہے۔ اس لحاظ سے بھی قرآن کریم کی تعلیم وسطی اور درمیانی نہیں کہلا سکتی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا (المائدة: ۴) یعنی آج میں نے تمہارے فائدہ کے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنے احسان کو کامل کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین کے طور پر صرف اسلام کو پسند کیا ہے پھر درجہ کے لحاظ سے بھی یہ امت درمیانی نہیں کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین امت ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُنْتُمْ حَبِيْبًا اُمَّةً حَبِيْبًا لِّلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۱) کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ پس اُمَّةً وَ سَطًّا کے معنی یہاں درمیانی امت کے کسی صورت میں چسپاں نہیں ہو سکتے کیونکہ امت محمدیہ نہ تو زمانہ کے لحاظ سے درمیان میں ہے اور نہ تعلیم اور شریعت کے لحاظ سے درمیان میں ہے پس جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَ سَطًّا کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا ہے جو اپنے اعمال میں ایک وسطی رنگ رکھتی ہے اور نہ تو افراط کی طرف جھکنے والی ہے اور نہ تفریط کی طرف مائل ہونے والی ہے بلکہ اس کے اعمال ترازو کے تول کی طرح ایسے اعتدال میں رہتے ہیں کہ کوئی پہلو بھی ایک طرف جھکا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لئے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے تمام کاموں میں میانہ روی کی عادت ڈالنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک ہی طرف کا ہو جائے اور دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دے۔ اگر وہ ایک ہی طرف کا ہو جائے گا تو اس کے طبعی جذبات جوش میں آکر کناروں پر سے بہہ پڑیں گے۔ مثلاً اگر وہ رہبانیت اختیار کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے شہوانی جذبات کسی وقت اس کو بے قابو کر دیں گے اور وہ حلال طریق کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہو جائے گا اسی طرح اگر وہ اپنا سب مال لوگوں میں تقسیم کر دے گا اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے لئے کچھ نہیں رکھے گا تو چونکہ اس کی ضروریات خورد و نوش سب مال لٹا دینے سے باطل نہیں ہو جائیں گی وہ اپنا مال لٹا کر یا تو سوال کرنے پر مجبور ہوگا جو بذات خود ایک ناپسندیدہ امر ہے اور یا پھر چوری اور بددیانتی کی طرف مائل ہو جائے گا اور بجائے نیکی میں ترقی کرنے کے گناہ کا مرتکب ہوگا پس شریعت اسلامی نے امت محمدیہ کو ایک ایسی امت قرار دے کر جو ہر کام میں اعتدال سے کام لیتی ہے گناہ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے اور اُمَّةً وَ سَطًّا میں اسلام کی اسی وسطی تعلیم کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ دوسرے تمام مذاہب سے امتیازی شان رکھتا ہے اور اسی ایک دلیل سے اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِیْمَاہُمْ نَعْنٰہُمْ لَیْسَ لَہُمْ اِیْمَانٌ حَتّٰی یُؤْتُوْا شَہَادَۃً عَلٰی النَّفْسِ تَا کہ تم دوسرے

مذہب اور دوسری اقوام کے لئے ایک گواہ کی طرح رہو۔ یعنی جس طرح گواہ کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور کس کا ہے اسی طرح تم میں سے جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر کے اس کے نیک اثرات کو اپنے اندر پیدا کریں گے وہ دوسری اقوام کے لئے جو ابھی تک قرآن کریم کی صداقت سے لذت آشنا نہیں بطور ایک شاہد کے ہوں گے۔ یعنی زبان اور عمل دونوں سے وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ انہوں نے اس کے دعاوی کو سچ پایا۔ اور لوگ ان کی پاکیزہ زندگی اور آسمانی نصرت کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ سچا راستہ وہی ہے جس پر یہ لوگ چلتے ہیں اور پھر آخر میں بتایا کہ جس طرح ہم نے ان مسلمانوں کو جو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں دوسری اقوام کے لئے شاہد بنایا ہے اسی طرح ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت کے لئے اسلام کی سچائی کا شاہد بنایا ہے۔ یعنی ان کے دل میں آپ کے معجزات اور نصرت الہی کو دیکھ کر اسلام کی صداقت کا مل طور پر گھر کر جاتی ہے۔

غرض اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے ایسا اس لئے کیا ہے تاکہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ کا معجزانہ سلوک دیکھ کر اور تمہاری روحانیت اور تقویٰ کو دیکھ کر لوگ ہدایت پائیں اور دوسری طرف یہ رسول اسلام کی سچائی کا تمہارے سامنے ایک زندہ گواہ ہو یعنی اپنے معجزات اور نصرت الہی کی بارش سے۔ گویا تم دنیا کے لئے اسلام کی صداقت کے گواہ ہو اور رسول تمہارے سامنے اسلام کی سچائی کا گواہ ہو۔

اسی طرح اس کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ رسول تم کو اسلام سکھائے اور تم دوسروں کو سکھاتے رہو۔ دراصل اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کی امت بننے کا یہ طریق بتایا ہے کہ وہ شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہو۔ یعنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے اور لوگوں کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی رہے اسی لئے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اُمَّةً وَسَّكَّطًا بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کو سکھاؤ اور ان کے نگران بنو۔ اور رسول کا کام ہے کہ وہ تمہیں سکھائے اور تمہاری کمزوریوں کو دور کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد زائد فضلے جمع ہو جاتے ہیں جو کبھی قبض کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی اسہال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یا مکانوں اور چھتوں پر پانی کے نکاس کے راستے خراب ہو کر پانی جمع ہو جاتا اور چھتوں میں سوراخ ہونے لگتے ہیں اسی طرح قوموں پر بھی مختلف اوقات میں ایسے حالات وارد ہوتے رہتے ہیں اور جس طرح ایک زندہ انسان جسم کی کسی ایک کھل کے درست ہونے سے اپنے تمام کام آپ ہی آپ نہیں چلا سکتا بلکہ صبح شام اُس کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح قوموں کے اخلاق بھی آپ ہی آپ درست نہیں ہو جاتے بلکہ صبح شام ان کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ

فرد جس کی حیثیت قوم کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں اُس کی زندگی کے لئے تو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ صبح شام نگرانی ہو۔ روزانہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ آج صبح کیا پکائیں اور شام کو کیا پکائیں۔ گرمی ہے تو باہر سوئیں یا سردی ہے تو اندر سوئیں۔ ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے تو سر کو ڈھانک کر رکھیں یا خشکی کا دور دورہ ہے تو سر کو کھلا رکھیں۔ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو سایہ میں چلیں یا بارش برس رہی ہے تو چھت کے نیچے ٹھہریں یا جس ہے تو باہر نکل آئیں۔ غرض صبح شام ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں دن بھر میں انسان اپنے جسم کے متعلق پندرہ بیس دفعہ ضرور سوچتا ہے کہ اُسے اب کس چیز کی ضرورت ہے۔

کبھی خیال کرتا ہے کہ سونے کی ضرورت ہے کبھی خیال کرتا ہے کہ لیٹنے کی ضرورت ہے۔ کبھی خیال کرتا ہے کہ ورزش کی ضرورت ہے کبھی خیال کرتا ہے کہ سیر کی ضرورت ہے کبھی خیال کرتا ہے کہ نہانے کی ضرورت ہے۔ غرض ایک دو درجن دفعہ ضرور وہ اپنے افعال کے متعلق غور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے اپنے جسم کی درستی کے لئے کیا کرنا چاہیے لیکن قوم کی درستی کے متعلق وہ کبھی نہیں سوچتا بلکہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ ہی آپ درست ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ پر الزام لگائے کہ میں نے قومی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا وہ سمجھتا ہے کہ میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ قوم پر میں اپنے غصے کا اظہار کر دوں اور عملی طور پر اس کی اصلاح کے لئے کچھ نہ کروں لیکن یہ درست نہیں۔ قومی درستی فردی درستی سے زیادہ توجہ چاہتی ہے اور ہر فرد کی توجہ چاہتی ہے اگر ہر فرد اس مسئلہ کی طرف توجہ نہیں کریگا تو بعض حصوں میں ضرور نقائص پیدا ہو جائیں گے اور پھر وہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ اُن کا دور کرنا فرد کے اختیار میں نہیں رہیگا بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اُن کا دور کرنا قوم کے اختیار میں بھی نہیں رہیگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نظام قائم رکھنے کے لئے اسلام نے خلافت کا سلسلہ قائم کیا ہے لیکن غلطی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف خلافت ہی کا ذمہ ہے کہ وہ تمام کام کرے حالانکہ یہ خلافت ہی کا ذمہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایک شخص ساری قوم کی اس رنگ میں اصلاح کر سکتا ہے جب تک تمام افراد میں یہ رُوح نہ ہو کہ وہ قوم کی اصلاح کا خیال رکھیں۔ اور جب تک تمام افراد اس کی درستی کی طرف توجہ نہ کریں اس وقت تک اصلاح کا کام کبھی کامیاب طور پر نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل میں مسلمان ذَسَلًا بَعْدَ ذَسَلٍ تَلْبِغِ ہدایت کا کام جاری رکھتے اور لوگوں کی نگرانی کا فرض صحیح طور پر ادا کرتے تو وہ کبھی تباہ نہ ہوتے۔ اب یہ ہماری جماعت کا کام ہے کہ وہ اس سبق کو یاد رکھے اور آئندہ نسلوں کی درستی کے لئے ہمیشہ جدوجہد کرتی رہے۔

غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک طرف تو تمہارا فرض ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے روحانی فیوض حاصل کر کے اقوامِ عالم کی رہنمائی کرو اور دوسری طرف ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر نگران و محافظ مقرر کیا ہے تاکہ اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہاری اصلاح کر سکیں۔

اصل بات یہ ہے کہ جتنا اعلیٰ درجہ کا رسول ہو اتنی ہی اعلیٰ درجہ کی قوم اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے اگر رسول اعلیٰ ہو اور امت ناقص۔ تو رسول کی طاقت ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول تو بھیجے مگر اس کی قابلیتوں کے مطابق اُسے قوم نہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی استعداد کے مطابق قوم ملی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی استعداد کے مطابق قوم ملی۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک نہایت نازک موقعہ پر آکر کہہ دیا کہ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ (المائدہ: ۲۵) یعنی تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں سے جنگ بدر کے موقعہ پر مشورہ لیا تو ایک صحابیؓ نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں کہتے اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ بلکہ یا رسول اللہ! آپ ہمیں حکم دیجیئے ہم سمندر میں گھوڑے ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور اگر لڑائی ہوئی تو خدا کی قسم ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے اور آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ ہماری لاشوں کو روندنا ہوا نہ گذرے (صحیح بخاری کتاب المغازی باب قول اللہ تعالیٰ اذ تستغيثون و السيرة النبوية لابن هشام۔ غزوة بدر) جس وقت وہ صحابیؓ یہ کلمات کہہ رہا تھا۔ درحقیقت اُس کی زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قوم بول رہی تھی وہ اس کی انفرادی آواز نہیں تھی بلکہ اجتماعی آواز تھی جو قوم کی نمائندگی میں اُس کی زبان سے بلند ہوئی۔ اور جس نے صحابہؓ کی فدائیت اور جاں نثاری کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ فرق اسی لئے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محدود زمانہ اور محدود قوم کے لئے آئے تھے اور محدود نقائص کو دور کرنا آپ کے فرائض میں شامل تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام دنیا کی طرف تھی اور قیامت تک آپ کا دور روحانی مقرر تھا اور قیامت تک آپ نے لوگوں کے نقائص کو دور فرمانا تھا پس آپ کو جو جماعت ملی وہ موسیٰؑ کو نہیں ملی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجہ کی امت بنایا ہے اور ہماری غرض یہ ہے کہ تم لوگوں پر نگران رہو اور رسول تم پر نگران ہو۔ یعنی رسول کی نگرانی میں تمہاری تربیت ہو اور پھر تمہاری نگرانی میں دنیا کی اصلاح ہو۔ کیونکہ ایک آدمی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کو اعلیٰ درجہ کی امت اسی لئے بنایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت چاہتی تھی کہ آپ کی

جائے گا تو اس وقت کوئی باہر کا نبی اس کی اصلاح نہیں کرے گا بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی امت کی بروزی رنگ میں اصلاح فرمائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ آیت بھی اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کی ایک زبردست دلیل ہے۔ کیونکہ اگر اسلام عالمگیر مذہب نہ ہوتا۔ اور قیامت تک قائم رہنے والا مذہب نہ ہوتا تو اصلاح خلق کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بروزی رنگ میں مبعوث نہ کیا جاتا۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے اور تیرہ سالہ کی زندگی میں آپ برابر اس طریق پر عمل پیرا رہے۔ اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی سولہ سترہ مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ آخر ایک دن جب کہ آپ مسجد بنی سلمہ میں نماز پڑھا رہے تھے آپ پر تحویل قبلہ کے بارہ میں وحی نازل ہوئی اور آپ نے نماز کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا اور صحابہؓ نے بھی آپ کے ساتھ ہی اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے (البحر المحیط زیر آیت ہذا)۔ لیکن یہ درست نہیں مسیحی مؤرخوں نے اس خیال سے فائدہ اٹھا کر اعتراض کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی اصل غرض یہودی خوشنودی حاصل کرنا تھا جب وہ حاصل نہ ہوئی تو پھر کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ چنانچہ ریورنڈ و ہیری اور سیل لکھتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مدینہ میں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ اس لئے کیا تھا کہ یہودی خوش ہو کر آپ پر ایمان لے آئیں مگر جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے کہا۔ چلو ہم اپنے باپ دادا کے اصل کعبہ ہی کی طرف منہ کر لیتے ہیں (تفسیر القرآن للوہیری زیر آیت ہذا)۔ لیکن جب ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ مکہ میں بھی آپ کو یہی حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور اس حکم کی تعمیل میں آپ ہجرت سے قبل بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ یہودی خوش کرنے کے لئے صرف مدینہ میں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا ہو۔ اور مکہ میں تو کوئی یہودی نہ تھے جنہیں خوش کرنا مد نظر ہو۔ وہاں تو چاروں طرف مشرک ہی مشرک تھے البتہ بعض روایات میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے رہتے تھے لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے اور بیک وقت دونوں طرف منہ رکھنا ناممکن ہو گیا کیونکہ

یروشلم مدینہ سے شمال کی طرف تھا اور مکہ جنوب کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ رکھیں۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ وَحَاصِلُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا بِأَسْتِقْبَالِ الصَّخْرَةِ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَكَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَتَكُونُ يَدَايِهِ الْكَعْبَةَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ صَخْرَةِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَعَدَّى الرَّجُلُ بَيْنَهُمَا فَأَمَرَهُ اللَّهُ بِأَلْتَوِ جُوهًا إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ (تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ البیان زیر آیت ہذا) یعنی تویل قبلہ کی بحث میں بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں ان سب کو جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ صحرا بیت المقدس کی طرف منہ کریں۔ چنانچہ آپ مکہ میں نماز پڑھتے ہوئے ایسے طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی لیکن جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ طریق جاری نہیں رکھا جاسکتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا کریں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ مکہ میں آپ بیت المقدس کو ہی اصل قبلہ سمجھتے تھے۔ بے شک آپ ایسے رنگ میں کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے آجاتا تھا مگر وہ ایک ضمنی فائدہ تھا اصل مقصد بیت المقدس کی طرف ہی منہ کرنا تھا لیکن جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے تو جہت تبدیل ہو جانے کی وجہ سے کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف آپ کا منہ کرنا ناممکن ہو گیا اور آپ نے صرف بیت المقدس کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا۔ بہر حال یہ بات صحیح نہیں کہ مدینہ میں آنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ ایسا کوئی حکم ثابت نہیں پس مکہ مکرمہ میں اگر بیت المقدس کے ساتھ بیت اللہ کی طرف بھی آپ کا رخ ہوتا تھا تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آپ خانہ کعبہ ہی اپنا اصل قبلہ سمجھتے تھے صحیح نہیں۔ آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے لیکن کھڑے ایسے رنگ میں ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے آجاتا۔ پس جب یہ بات ہی غلط ثابت ہوئی تو دشمن کا اعتراض بھی غلط ہو گیا۔ اسی طرح سیل کا یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ آپ مکہ میں جدھر چاہتے منہ کر لیا کرتے تھے۔ اس اعتراض کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا تو اس وقت حدیثوں میں آتا ہے کہ یہود نے تمسخر کرتے ہوئے مشرکوں سے کہا کہ اِشْتَاتِقُ مُحَمَّدًا إِلَى مَوْلِدِهِ وَعَنْ قَرِيبٍ يَزُجُّعُ إِلَى دِينِكُمْ (بحر محیط زیر آیت ہذا) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے وطن کی یاد ستانے لگی ہے اور امید ہے کہ وہ اب جلد ہی تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیگا۔ اس روایت سے صاف طور پر پتہ لگتا ہے کہ پہلے آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے اگر آپ پہلے بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا

کرتے تو کفار آپ کے متعلق یہ اعتراض نہ کرتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آہستہ آہستہ مکہ والوں کے دین میں ہی شامل ہو جائے گا۔ ان کا یہ اعتراض اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے جبکہ آپ بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوں۔

علاوہ ازیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ تبدیلی فی الواقعہ کسی ذاتی فائدہ کے لئے تھی؟ معترضین کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی اس غرض کے ماتحت کی گئی تھی کہ پہلے آپ نے یہودیوں کو اور بعد میں مکہ والوں کو خوش کرنا چاہا۔ لیکن قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا ابتلا تھا مکہ میں مکہ کے لوگوں سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا اور پھر مدینہ میں جہاں یہود و نصاریٰ کا زور تھا اور مشرک بھی ان سے متاثر تھے وہاں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اگر معمولی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا کہ *وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقْبَيْهِ۔* یعنی ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو اس سے پہلے قائم تھا یعنی بیت المقدس کو صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ تاہم اس شخص کو جو اس رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے اس شخص کے مقابل پر جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے ایک ممتاز حیثیت میں ظاہر کر دیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم بطور آزمائش تھا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مکہ والوں کی نظر میں کعبہ کو جو فضیلت حاصل تھی حتیٰ کہ قاتل کو بھی اس میں کچھ نہ کہتے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان سے بیت المقدس کی طرف منہ کروانا ایک بہت بڑا ابتلاء تھا۔ اسی طرح مدینہ میں جہاں یہود کا زور تھا بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف منہ کروانا ایک دوسرا ابتلاء تھا اسی لئے قرآن کریم دونوں دفعہ کی تحویل کو ابتلاء قرار دیتا ہے۔ پہلی تحویل کی نسبت کہا ہے *وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقْبَيْهِ۔* اور دوسری تحویل کی نسبت کہتا ہے۔ *سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ مَا وَوَلَّيْتُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔* یعنی سطحی رائے رکھنے والے اور بے وقوف لوگ عنقریب یہ اعتراض کریں گے کہ ان لوگوں کو ایک قبلہ سے دوسرے قبلہ کی طرف کس چیز نے پھر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں دفعہ کی تحویل ایک ابتلاء تھی اور لوگوں کو مغز دین سے واقف کرنا اصل مقصود تھا۔ اگر معترضین کا خیال درست ہوتا کہ آپ اس ذریعہ سے مکہ والوں کو خوش کرنا چاہتے تھے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا۔ ہم تحویل قبلہ کا حکم دے کر تم پر احسان کرنے والے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں اور اسلام کی طرف ان کا میلان بڑھ جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے پر لوگ اعتراض کریں گے۔ اور ان کے لئے یہ تبدیلی ٹھوکر کا موجب ہوگی۔ گویا قرآن کریم نے تحویل قبلہ کے واقعہ کو ایک ابتلاء اور آزمائش قرار دیا ہے اسی طرح

مکہ میں آپ کا بہت المقدس کی طرف منہ کرنا بھی ان لوگوں کے لئے جو اہل مکہ میں سے مسلمان ہوئے تھے ایک بڑا بھاری ابتلاء تھا کیونکہ وہ صدیوں سے بیت اللہ کو ایک مقدس معبد مانتے چلے آئے تھے اور اُس کے مقابلہ میں بیت المقدس کی اُن کے دل میں کچھ بھی وقعت نہ تھی۔ پس مکہ والوں کو یہ کہنا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ ان کے لئے بڑا بھاری ابتلاء تھا۔ اور مدینہ میں جہاں یہود کا زور تھا یہ کہنا کہ تم بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ ان لوگوں کے لئے جو یہود اور نصاریٰ میں سے مسلمان ہوئے ایک بڑا بھاری ابتلاء تھا کیونکہ ان کے لئے بیت المقدس ایک متبرک مقام تھا اور تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو اس پر ابتلاء آ گیا اور وہ مرتد ہو گئے۔ پس یہ تغیر کسی خوشنودی کے حصول کے لئے نہ تھا بلکہ ایمانوں کی ایک سخت آزمائش تھی۔ اگر قبلہ مقرر کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی غرض ہوتی کہ دوسروں کو خوش کیا جائے تو اس کا صحیح طریق یہ تھا کہ جب تک آپ مکہ میں رہے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرماتے تاکہ اہل مکہ خوش رہیں اور مدینہ میں یروشلم کو قبلہ بنا لیتے تاکہ یہود خوش رہیں۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی برعکس نظر آتا ہے مکہ میں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا اور مدینہ میں تشریف لانے کے کچھ عرصہ بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ اور یہ تبدیلی دونوں جگہ لوگوں کے لئے سخت آزمائش کا موجب بنی اور کئی لوگ مرتد ہو گئے۔

(تفسیر کبیر رازی و تفسیر الجامع البیان زیر آیت ہذا) اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكِدِّيْرًاۙ لَعْنِي تَحْوِيلَ قَبْلَهُۥ كَاوَاَقَعَهُۥ يَقِيْنًاۙ اَنْ لُّوْغُوْنَ كَسُوَا۟ جَنٰهِيْنَ اللّٰهُ تَعَالٰى نِيْ نِيْ هِدَايَتِ دِيْ هِيْ اِيْكَ بَرِيْ بَهَارِيْ اَزْمَانَشْ هِيْ كِيُوْنِكِهْ جِبْ اِنْسَانْ كَا كَسِيْ جِيْزْ كِهْ سَا تَهْ كِهْرْ تَعْلُقْ هُو تُو وِهْ اَسْ كُوَا سَانِيْ كِهْ سَا تَهْ نِيْهِيْ چُو وُرْ سَكْتَا۔ هَا نْ جُو شَخْصْ اللّٰهُ تَعَالٰى كِيْ طَرَفْ سِهْ هِدَايَتْ پَا جَا ئِيْ اُوْرْ كِهْ كِهْ مِيْ هِرْ صُوْرَتْ مِيْ خُدَا تَعَالٰى كَا حَكْمْ مَانُوْ نْ گَا اَسْ كِهْ لِيْ كُوْنِيْ بَرِيْ بَا تْ نِيْهِيْ رِهْتِيْ اُوْرْ وِهْ كَسِيْ اِبْتِلَا ءْ سِهْ شُو كْر نِيْهِيْ كِهَا تَا۔ اَخْر سُوْر جْ اُوْرْ چَا نِدْ كِيْ مِخْنِهْ كِهْ بَعْدَانْ كَا كُوْنْ اِنْكَارْ كْر سَكْتَا هِيْ۔ اَسِيْ طَرَحْ عَقْلِيْ طُوْرْ پَرْ بِيْشِكْ سُوَا لْ پِيْدا هُو تِيْ رِهِيْ۔ مَگر جِنْ لُوْغُوْ نْ كُوْ خُدَا تَعَالٰى نِيْ اِيْمَانْ اُوْرْ يَقِيْنْ كِيْ دَوْلَتْ سِهْ مَالَا مَالْ كِيَا هُو اُنْ كِهْ لِيْ كُوْنِيْ اِبْتِلَا ءْ شُو كْر كَا مَوْجِبْ نِيْهِيْ هُو تَا۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْۙ - فرماتا ہے بے شک یہ ایک ابتلاء تھا جو بعض لوگوں کے لئے ٹھوکر کا موجب بنا مگر اس قبلہ سے تعلق رکھنے کے ساتھ جو الہی وعدے وابستہ تھے اُن سے اللہ تعالیٰ تم کو کب محروم رکھ سکتا تھا جبکہ تم اس رسول پر سچے دل سے ایمان لے آئے تھے اس کے یہ معنی نہیں کہ تحویل قبلہ سے پہلے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا اور ان کے اُخروی درجات میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے بلکہ اس کے اصل معنی یہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف تھا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر ایمان لاتے اور ہم اس گھر سے تمہارا دائمی تعلق پیدا نہ کرتے۔ کیونکہ اگر بیت اللہ کو قبلہ مقرر نہ کیا جاتا تو ابراہیمی پیشگوئی کی عظمت دنیا پر واضح نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ تم دُعائے ابراہیمی کے مصداق پر تو ایمان لاؤ اور تمہارا خانہ کعبہ کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو۔

اسی طرح وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ابتلاء ایمان کو ضائع کرنے کے لئے نہیں آتے بلکہ سچے ایمان کو ظاہر کرنے اور جھوٹے کے جھوٹ کو کھولنے کے لئے آتے ہیں اور اس لئے بھی آتے ہیں کہ ان سے حکمت احکام ظاہر ہو کر علم میں ترقی ہوتی ہے جیسا کہ تحویل قبلہ کے حکم سے مسلمانوں کے علم میں ترقی ہوئی۔ اور اگر ایک طرف ان کے ایمانوں کی مضبوطی لوگوں پر ظاہر ہوگئی تو دوسری طرف خود انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں کام کر رہی تھیں چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ اِس لئے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید ابتلاؤں کا آنا ایک ظلم ہے جو ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابتلاؤں سے مومنوں کا ایمان ضائع نہیں ہوتا بلکہ صرف نام نہاد مومنوں کا ایمان ضائع ہوتا ہے ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ زید پختہ مومن ہو اور پھر ٹھوکر کھا جائے۔ وہ اگر ٹھوکر کھاتا ہے تو صرف اس لئے کہ وہ پہلے ہی صحیح معنوں میں مومن نہیں تھا۔ پس ابتلاء مومنوں کے ایمانوں کو ضائع کرنے کے لئے نہیں بلکہ سچے مومنوں کی روحانی عظمت اور ان کے ایمانوں کی پختگی ظاہر کرنے اور احکام الہیہ کی حکمت ظاہر کرنے کے لئے آیا کرتے ہیں۔

ریورنڈ و ہیری نے اس موقع پر اعتراض کیا ہے کہ جب لوگوں کو ابتلاء آیا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نعوذ باللہ یہ بہانہ بنایا کہ یہ ایک امتحان ہے۔ حالانکہ یہ آیتیں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہیں۔ پس جب ابھی حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا تو ابتلاء کس کو آنا تھا۔ اسی طرح سَبِّحُوا لِلَّهِ أَكْثَرَ مِمَّا كُنْتُمْ تُسَبِّحُونَ کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آیتیں پہلے کی نازل شدہ ہیں۔ پس و ہیری کا یہ اعتراض محض تعصب پر مبنی ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حکم منسوخ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ یعنی ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو پہلے سے قائم تھا صرف اس لئے مقرر کیا تھا تا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے متعلق

بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص حکم نازل ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ محض اجتہادی طور پر اہل کتاب کی اتباع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے ہوں۔ پس اگر قرآن کریم کے احکام جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں منسوخ بھی ہوتے ہیں تو چاہیے تھا کہ وہ آیت بھی قرآن کریم میں موجود ہوتی۔ جس کی طرف **وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا** کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ مگر وہ ہے نہیں۔ پس ماننا پڑیگا کہ اگر قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ ہوتا تھا تو پھر وہ قرآن کریم میں نہیں رکھا جاتا تھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ کبھی منسوخ نہیں ہوا بلکہ جو حکم منسوخ ہونا ہوتا تھا اُسے وحی متلو میں اتارا ہی نہیں جاتا تھا۔ بیت المقدس چونکہ عارضی قبلہ تھا اور مستقل قبلہ خانہ کعبہ بننے والا تھا۔ اس لئے وہ حکم قرآنی وحی سے علیحدہ نازل ہوا اور بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام احکام جن کو بعد میں منسوخ قرار دے دیا گیا تھا وہ قرآن میں نازل نہیں کئے گئے تھے۔ اگر وہ احکام قرآن میں موجود تھے اور پھر منسوخ کر دیئے گئے تھے تو ضروری تھا کہ وہ قرآن میں اپنی اصلی شکل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے مگر ان کا قرآن کریم میں موجود نہ ہونا بتلاتا ہے کہ منسوخ ہونے والی وحی قرآن کریم سے علیحدہ ہوتی تھی۔ جیسا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم قرآن میں کہیں موجود نہیں۔ لیکن اس حکم کا منسوخ ہونا بتاتا ہے کہ اس بارہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور کوئی وحی نازل ہوئی تھی مگر چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس حکم نے منسوخ ہو جانا ہے اس لئے اسے قرآنی وحی میں شامل نہ کیا گیا۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی دو قسم کی ہوا کرتی تھی ایک قرآنی اور دوسری غیر قرآنی۔ قرآنی وحی ہر قسم کے نسخ سے بالاتھی۔ مگر غیر قرآنی وحی منسوخ بھی ہو جاتی تھی جیسا کہ تجویل قبلہ کے متعلق پہلا حکم منسوخ کر دیا گیا۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً

ہم تیری توجہ کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے ہم تجھے ضرور اُس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے

تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَ حَيْثُ

جسے تو پسند کرتا ہے۔ سو (اب) تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ اور (اے مسلمانو!) تم (بھی) جہاں کہیں ہو

مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا

اُس کی طرف اپنے منہ کیا کرو۔ اور جن (لوگوں) کو کتاب (یعنی تورات) دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں

الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَمَا اللَّهُ

کہ یہ (تحویل قبلہ کا حکم) تیرے رب کی طرف سے (سچی ہوئی ایک) صداقت ہے اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں

بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۵﴾

اللہ اُس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔

حَلَّ لُغَاتٍ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ **وَلَّهُ الْأَمْرَ** کے معنی ہیں **جَعَلَهُ وَالْيَا عَلَيْهِ** اُسے فلاں پر مسلط کر دیا۔

(اقرب) اور **وَلِّيْتُ وَجْهِي كَذَا** کے معنی ہیں **أَقْبَلْتُ**۔ میں نے اس کی طرف اپنا منہ پھیرا۔ (مفردات)

تفسیر۔ اس آیت کے متعلق بعض مفسرین روایات نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں

آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہوتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان

زیر آیت ہذا) یہ تو الگ بحث ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے کب روکا گیا۔ لیکن اس غرض کے لئے آسمان کی

طرف سر اٹھا کر دیکھنا اپنی ذات میں ایسا امر ہے جسے عقل انسانی ایک لمحہ کے لئے بھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ اگر قبلہ کے

علاوہ اور باتوں میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہوتی کہ آپ ان کے بارہ میں الہی حکم معلوم کرنے

کے لئے آسمان کی طرف دیکھا کرتے تو ہم اس امر کو بھی مان لیتے کہ شاید نماز پڑھتے وقت آپ آسمان کی طرف دیکھ

لیا کرتے ہوں۔ مگر محض اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں **فِي السَّمَاءِ** کے الفاظ آگئے ہیں ایک ایسے فعل کو صحیح تسلیم کرنا

جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طریق عمل کے بالکل خلاف تھا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ حقیقت

یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے جسے نہ سمجھتے ہوئے یہ خیال کر لیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے بارہ میں

آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتے تھے اور اس امر کے منتظر رہتے تھے کہ کب خدائی حکم نازل ہوتا

ہے۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ ”میری تو نظر ہی ادھر لگی ہوئی ہے۔“ یا کہتے ہیں ”میری توجہ تو فلاں امر کی

طرف پھر گئی ہے۔“ اور جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو ان کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر

کسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح **قَدْ نَدَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ** کے بھی یہی معنی ہیں کہ ہم تیری توجہ کا

بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی تیرے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس بارہ میں آسمان

سے الہی حکم نازل ہو۔

اگر ظاہری الفاظ کا ہی اتباع کیا جائے تو مفسرین کے بیان کردہ معنی یہاں چسپاں ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ”تیرا آسمان میں ادھر ادھر اپنا منہ پھیرنا“۔ اور یہ خود ایک ناقابل تسلیم بات ہے۔ کیونکہ منہ کا آسمان میں تقلب کرنا ناممکن ہے پس الفاظ قرآنی ان معنوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ فیج کے معنی اس جگہ الٰہی کے ہیں۔ اور اس کی مثال قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جَاءَ نَحْمُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ (ابراہیم: ۱۰) یعنی جب لوگوں کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے ان کے ہاتھ ان کے مونہوں کی طرف لوٹا دیئے۔ اس جگہ فیج افْوَاهِهِمْ سے ان کے مونہوں میں ہاتھ ڈالنا مراد نہیں بلکہ ان کی طرف لوٹنا مراد ہے۔ اسی طرح یہاں تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ سے آسمان میں ادھر ادھر منہ پھیرنا مراد نہیں بلکہ آسمان کی طرف آپ کی توجہ کا بار بار پھرنا مراد ہے ورنہ آسمان کی طرف مونہہ اٹھانا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کے بھی خلاف تھا۔ میرے نزدیک اس کے یہی معنی ہیں کہ ہم تیری توجہ کے بار بار آسمان کی طرف جانے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ایسا ہی فقرہ ہے جیسے ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ ہماری نظر تو فلاں طرف لگی ہوئی ہے۔ یعنی ہمیں وہاں سے کامیابی کی اُمید ہے اسی طرح گور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم ملا تھا۔ مگر چرائی پیسگوئیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اُس وقت تک ظاہر کی تھیں اور دوسرے کلام سے آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ آخر قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ملے گا اور وہ ترقی کا پہلا زینہ ہوگا۔ کیونکہ اسلام کی ترقیات کے زمانہ کا اس امر کو نشان قرار دیا گیا تھا۔ پس آپ بار بار خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے تھے کہ کب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ملتا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیج اپنے اصلی معنوں میں ہو اور سماء سے مراد احکامِ سماوی ہوں اور معنی یہ ہوں کہ تیری توجہ کا آسمانی احکام کے متعلق تقلب یعنی تیری توجہ آسمانی احکام کے متعلق تقلب کر رہی تھی اور بے قرار تھی کہ وہ کب نازل ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا محاورہ بھی ہے کہ تَتَكَلَّمْتُ مَعَكَ فِي فَلَانٍ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں شخص کے بارے میں کلام کیا۔ اس لحاظ سے قَدْ كُنَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم آسمانی احکام کے بارے میں تیری توجہ کا تقلب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے منتظر تھے کہ خدائی حکم نازل ہو اور آئندہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے۔

فَلَمَّا لَبِثَكُمْ فِي بَلَدٍ لَّعَنَ قَوْمُهَا الْقَوْمَ لَعْنًا كَثِيرًا وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ لَعْنَةُ الْكُفْرَانِ (البقرة: ۱۷۵) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تجھے اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ کے وہی معنی صحیح ہیں جو میں نے کئے ہیں۔ کیونکہ اگر اس سے پہلے

قبلہ کے متعلق کوئی حکم نازل ہو چکا تھا تو پھر فَلَنُؤَيِّتَنَّكَ کے معنے کچھ نہیں بنتے۔ بعض لوگ اس کے یہ معنے کرتے ہیں کہ ہم تجھے والی کر دیں گے (الکشاف زیر آیت ہذا)۔ حالانکہ اگر اس کے یہ معنے ہوتے تو پھر یہاں قبلہ کا لفظ نہیں رکھنا چاہیے تھا بلکہ بَلَدًا یا كَعْبَةً يَابِئْتَنَا کا لفظ رکھنا چاہیے تھا۔ کیونکہ قِبْلَةً کا لفظ اس جگہ جہت کے معنوں میں ہے اور جہت کا کوئی والی نہیں ہوتا بلکہ کسی ملک یا شہر یا مکان کا والی ہوا کرتا ہے۔ پس اَلرُّؤْيُؤَيِّتَنَّكَ کے معنے والی کر دینے کے ہوتے تو پھر یوں فرمانا چاہیے تھا کہ ہم بیت اللہ یا مکہ کا تجھے والی کر دیں گے مگر خدا تعالیٰ نے قبلہ کا لفظ رکھا ہے جس کے معنے جہت کے ہیں پس یہ معنے کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

علامہ ابن حبان نے نُوَيِّتَنَّكَ کے معنے یہ کئے ہیں وَلَنُؤَيِّتَنَّكَ مِنْ ذٰلِكَ (بحر محیط زیر آیت ہذا) ہم تجھے اس قبلہ پر مضبوطی سے قائم کر دیں گے۔ یہ معنے بھی بتاتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا ورنہ قبلہ پر قائم کر دینے کے کوئی معنے ہی نہیں بنتے۔

نُوَيِّتَنَّكَ تک تو ابھی وعدہ ہی تھا اس کے بعد قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرما کر پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ صرف مدینہ میں نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہو۔ اس کی طرف منہ کرنا یعنی یہ نہ خیال کرنا کہ چونکہ مدینہ میں بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی طرف منہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرو۔ جب دونوں جمع ہو سکیں تو پھر پہلے کی طرح حکم ہوگا اور دونوں کو جمع کرنا اولیٰ ہوگا بلکہ اب یہی حکم ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرو۔ بیت المقدس کا خیال رکھنا ہرگز ضروری نہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر روحانی معاملات میں اس قدر تیز تھی کہ باوجود اس کے کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم تھا آپ اپنی روحانی فراست کی بنا پر اس امر پر کامل یقین رکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ایک نہ ایک دن ضرور نازل ہوگا۔ مگر دوسری طرف خدا تعالیٰ کے حکم کا ادب آپ کو اس قدر ملحوظ تھا کہ آپ نے تحویل قبلہ کے متعلق کبھی دعا نہیں فرمائی۔ صرف آسمان کی طرف آپ نے اپنی نظریں رکھیں اور خدائی فیصلہ کے منتظر رہے۔ آخر آپ کی اس توجہ روحانی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے تبدیل قبلہ کے متعلق اپنا حکم نازل فرما دیا اور حکم دے دیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جاتا ہے۔

پھر فرماتا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرًا اِس سے پہلے فقرہ میں فرمایا تھا قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دے۔ اور اس فقرہ میں فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو۔ اپنے منہ اس

کی طرف پھیر دو۔ پہلی جگہ واحد مخاطب کا صیغہ رکھا اور دوسری جگہ جمع کا۔ اسی طرح پہلے وَجْهَكَ فرمایا اور پھر وَجُوهَكُمْ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے فقرہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور دوسرے فقرہ میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے جو مختلف بلاد و امصار میں رہتے تھے بیشک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ بھی بیت اللہ کی طرف ہی منہ کرتے تھے۔ مگر آپ کا زیادہ تر قیام مدینہ میں ہی تھا۔ اور باہر کا قیام عارضی تھا۔ لیکن دوسرے لوگوں کا مدینہ کا قیام عارضی تھا اور باہر کا مستقل اس لئے پہلی جگہ صرف آپ کو مخاطب کیا گیا۔ اور چونکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں نے بھی اُدھر ہی منہ کرنا تھا جدھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تھا اس لئے ان کا علیحدہ ذکر نہ کیا گیا۔ اور آپ کی نماز میں ہی ان کی نماز کو شامل کر لیا گیا۔

میں سمجھتا ہوں اس آیت سے یقینی طور پر یہ استدلال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں نماز باجماعت کو نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس نے قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرمایا ہے۔ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نہیں فرمایا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ باقی سارے مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقتدائے نماز میں شامل ہونا تھا سوائے منافقوں کے جو دل سے ساتھ نہیں ہوتے اور عمل میں بھی پیچھے رہتے ہیں اور جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو عشاء اور فجر کی نمازوں میں نہیں آتے۔ میراجی چاہتا ہے کہ میں اُن کے گھروں کو جلا کر رکھ دوں (صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلوة باب فضل صلوة الجمعة۔۔۔)۔ پس چونکہ تمام مومنوں نے نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی شریک ہو جانا تھا اس لئے اُن کا علیحدہ ذکر کرنے کی بجائے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ دیا گیا کہ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ بہر حال نماز باجماعت اسلام کا ایک نہایت ہی اہم حکم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق اس قدر تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک نابینا شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں اور راستہ میں لوگ پتھر وغیرہ ڈال دیتے ہیں جن سے مجھے ٹھوکریں لگتی ہیں۔ کیا میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں؟ پُرانے زمانہ میں لوگ دیواروں کے ساتھ ساتھ پتھر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ مکان بارش کے پانی سے محفوظ رہیں اور دیواریں خراب نہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اجازت تو دے دی لیکن پھر فرمایا۔ کیا تمہارے مکان تک اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ پھر جس طرح بھی ہو مسجد میں آیا کرو (صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلوة باب يجب ایتان المسجد)۔ مگر آجکل

ان لوگوں کے سامنے جو اذان کی آواز سن کر بھی مسجد میں نہیں آتے کون سے پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یا انہیں کونسی نابینائی لاحق ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز کے لئے نہیں آتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اندھے شخص کو بھی جوٹھو کریں کھا کھا کر گرگرتا تھا اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ گھر پر نماز پڑھ لے مگر آجکل لوگ معمولی معمولی عذرات کی بنا پر باجماعت نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہیں روحانی نابینائی لاحق ہے غرض قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہہ کر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ امامت کے متعلق احکام صرف ایک شخص کو دینے کا کافی ہیں۔ کیونکہ باقی سارے مسلمان اس کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں گے اور اس طرح وہ سارے کے سارے نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ پھر دوسری جگہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں دنیا بھر کے امام مخاطب ہیں جو ممکن ہے دس لاکھ یا دس کروڑ ہوں اور ان کی متابعت میں تمام مسلمانوں پر وہ حکم حاوی ہے۔

وَلَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ فرماتا ہے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی ان پیشگوئیوں کے مطابق ہے جو ان کی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ مگر اس جگہ اہل کتاب سے صرف یہود کے مخصوص علماء مراد ہیں۔ جو اپنی کتب کی پیشگوئیوں سے واقف تھے ورنہ اگر تمام اہل کتاب اس بات پر یقین رکھتے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہ لاتے۔ ان کا ایمان نہ لانا بتاتا ہے کہ وہ دل سے آپ کی صداقت کے قائل نہیں تھے اور نہ آپ کو پرانی پیشگوئیوں کا مصداق تصور کرتے تھے۔ پس اس جگہ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ سے مراد صرف یہود کے وہ علماء ہیں جو اپنی کتب سے گہری واقفیت رکھتے تھے اور چونکہ قوم اپنے لیڈروں کے تابع ہوتی ہے اس لئے جب کسی قوم کے لیڈر کوئی بات سمجھ لیں تو محاورہ زبان میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ قوم اس بات کو سمجھتی ہے۔ اسی رنگ میں یہاں بھی اہل کتاب سے ان کے مخصوص علماء اور لیڈر مراد ہیں۔ جو انبیاء بنی اسرائیل کی پیشگوئیوں سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ اب شریعت بھی بدلنے والی ہے اور قبلہ بھی تبدیل ہونے والا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسیحیوں کی دست برد کی وجہ سے موجودہ بائبل میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کے متعلق اور مکہ مکرمہ کے متعلق پیشگوئیاں وضاحت سے نہیں مل سکتیں مگر پھر بھی ان سے کچھ نہ کچھ نشان ضرور مل جاتے ہیں چنانچہ اس بارہ میں سب سے بڑی پیشگوئی وہ ہے جو استثنا باب ۳۳ آیت ۳۳ تا ۳۴ میں پائی جاتی ہے۔ اور جس کے الفاظ یہ ہیں کہ۔

”یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی۔ اور اس نے

کہا۔ خداوند سینا سے آیا اور شعیب سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ ایک آتش شریعت اُن کے لئے تھی۔“

چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ پیشگوئی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ماہ الزراع بننے والی ہے اس لئے اس نے شروع سے ہی اس پیشگوئی میں ایسے الفاظ رکھ دیئے ہیں جن کو عیسائی اپنے اوپر چسپاں ہی نہیں کر سکتے۔ عیسائیت کا سارا زور اس اصل پر ہے کہ شریعت لعنت ہے (گنتیوں باب ۳ آیت ۳) لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی خبر ہی اس پیشگوئی میں یہ دی ہے کہ آنے والے موعود کے ہاتھ میں ایک آتش شریعت ہوگی۔ پس جو قوم شریعت کو لعنت قرار دیتی ہے اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس پیشگوئی کو اپنے اوپر چسپاں کرے۔

پھر اس پیشگوئی میں یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئے گا۔ مگر حضرت مسیح علیہ السلام کو دس ہزار چھوڑ دس ہزار قدوس بھی نصیب نہ ہوئے۔ ان کے صرف بارہ حواری تھے ان میں سے ایک نے تو ان کو پکڑا دیا اور دوسروں کے متعلق انجیل میں لکھا ہے کہ جب دشمن حضرت مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے آئے تو وہ سارے کے سارے انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے (متی باب ۲۶ آیت ۵۶) صرف ایک حواری کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے تلوار نکال لی۔ اور ایک شخص پر وار کر کے اس کا کان اڑا دیا (متی باب ۲۶ آیت ۵۱) مگر یہ صرف ایک عارضی جوش کا نتیجہ تھا۔ ورنہ اس کے بعد حواریوں نے جس ایمان کا مظاہرہ کیا اس کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے کارندے جب حضرت مسیح کو گرفتار کر کے سردار کاہن کے پاس لے گئے تو پطرس بھی ساتھ ساتھ چل پڑا۔ وہاں ایک لونڈی نے اُسے دیکھ کر کہہ دیا کہ تو بھی مسیح کے ساتھ تھا اس پر اس نے سب کے سامنے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے پھر دوبارہ کسی لونڈی نے یہی بات دہرائی تو اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا۔ اور کہا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد پھر ان لوگوں میں سے جو وہاں کھڑے تھے کسی نے کہہ دیا کہ تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو اس کے ساتھ ہیں۔ اور تیری بولی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے اس پر اس نے مسیح پر لعنت ڈالی اور قسم کھا کر کہا کہ میں مسیح کو جانتا بھی نہیں (متی باب ۲۶ آیت ۶۹-۷۵) غرض دس ہزار چھوڑ دس قدوس بھی حضرت مسیح کو نہیں ملے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے متعلق تاریخ یہ شہادت دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار قدوسیوں کا لشکر تھا۔ جو بڑے جاہ و جلال کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا اور جس نے اپنی نیکی اور عنقا اور اعلیٰ درجہ کے حسن سلوک سے مکہ والوں کے دل فتح کر لیے اور وہ کفر و شرک کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ (سیرت الحلبیہ جلد ۳ ریعنوان فتح مکہ شرفہا اللہ تعالیٰ)

تیسری خبر اس پیشگوئی میں یہ دی گئی تھی کہ ایک شریعت جدیدہ فاران کی پہاڑیوں پر ظاہر ہونے والی ہے۔ فاران کی پہاڑیوں سے مراد مکہ کی پہاڑیاں ہیں۔ کیونکہ عرب لوگ ہمیشہ سے مکہ کے پاس کے میدان کو دشتِ فاران کہتے چلے آئے ہیں فاران کے معنی درحقیقت دو بھاگنے والوں کے ہیں۔ اور یہ نام اس جگہ کو حضرت ہاجرہؓ اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے جو بائبیل کے بیان کے مطابق سارہ کے ستانے کی وجہ سے یہاں آ کر آباد ہوئے۔

بے شک بائبیل میں مختلف جگہوں کا نام فاران آتا ہے (پیدائش باب ۲۱، ۱۲، گنتی باب ۱۰، ۱۲، ۱۳۔ سلاطین باب ۱۱۔ سوئیل باب ۲۵۔ حقوق باب ۳) مگر آڈل تو مختلف جگہوں کے نام فاران آتا ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ فاران کی تعیین کے لئے ضروری ہے کہ پیشگوئی کے واقعات کو ملحوظ رکھا جائے۔ اور دیکھا جائے کہ وہ کس فاران پر چسپاں ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی جگہ کا نام فاران ہوتا تب تو اور بات تھی لیکن چونکہ کئی مقامات کا نام فاران آتا ہے اس لئے فاران کی تعیین صرف پیشگوئی کے واقعات سے ہی کی جاسکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ مثلاً اگر فاران کی پہاڑیوں سے مکہ کی پہاڑیاں مراد نہیں بلکہ کوئی اور مقام مراد ہے تو سوال یہ ہے کہ وہاں کون شخص آیا ہے جس کے ساتھ دس ہزار قدوسی تھے اور کس کے ہاتھ میں آتشی شریعت تھی اور وہ بھی اس کے داہنے ہاتھ میں۔ عیسائی تو بائیس ہاتھ چلو کے قائل ہیں اگر ان واقعات پر نگاہ ڈالی جائے تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے وجود ثابت ہوتے ہیں جنہیں ایک آتشی شریعت دی گئی۔ جو دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے اور جنہوں نے ہر کام میں دس انیس کو بائیس پر ترجیح دی۔ گویا ان واقعات نے ثابت کر دیا کہ فاران سے صرف وہی فاران مراد ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تھے کوئی اور فاران مراد نہیں۔

دوم۔ بائبیل میں مختلف جگہوں کا نام فاران آتا ہے شبہ بھی پیدا کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی پیشگوئیوں کو مشتبہ کرنے کے لئے اس قسم کے نام رکھ دیئے ہوں گے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہود نے اپنے علماء سے سنا کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کا نام محمدؐ ہوگا تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا تاکہ وہی اس پیشگوئی کے مصداق ہو جائیں۔ (طبقات ابن سعد جلد اول زیر عنوان ذکر من تسمی بالجاهلیة محمد و اسد الغابة ذکر محمد بن احمیحة) اسی طرح ممکن ہے بنی اسرائیل نے فاران کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کو دیکھتے ہوئے مختلف مقامات کا نام فاران رکھنا شروع کر دیا ہو۔ تاکہ آنے والا وہیں ظاہر ہو۔ مگر لوگوں کے خود ساختہ نام دھرے کے دھرے رہ گئے اور خدا تعالیٰ

نے جس رسول کو مبعوث فرمانا تھا اُسے پیشگوئی کے مطابق مکہ میں مبعوث فرما دیا جس کے پاس کے میدان کو عرب لوگ ہمیشہ سے دشتِ فاران کہتے چلے آئے تھے۔

(۳) پھر جس پہاڑ کا نام یہود نے فاران رکھا ہے وہ بھی عرب میں ہی ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ بھی فاران کو عرب سے باہر نہیں لجا سکے۔

(۴) پھر بائبیل سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ فاران سے مکہ کے پہاڑ ہی مراد ہیں۔ چنانچہ پیدائش باب ۲۱ آیت ۲۱ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے:-

”وہ فاران کے بیابان میں رہا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت اس سے بیاہنے کو لی۔“

اور صرف مکہ ہی ایک ایسا شہر ہے جس کے رہنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے شہر کا بانی سمجھتے ہیں اور یہ صرف ایک روایت ہی نہیں بلکہ قوموں کی تو میں اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتی ہیں اور ان کے سب آثار وہاں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ فتوحات اسلام تک کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی پائے جاتے تھے پس مکہ والوں کے دعوے کو بہر حال تسلیم کرنا پڑے گا۔ ورنہ یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ شہر پیش کرنا چاہیے۔ جس کی بنیاد حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے رکھی ہو اور جس کے رہنے والے اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوں۔ اور اگر کوئی ایسا شہر پیش نہ کر سکیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہی وہ فاران ہے جس کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رہنا ثابت ہے اور پھر اسی جگہ کے متعلق مکہ والے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہاں رہے اور یہیں ان کے آثار پائے جاتے ہیں لیکن وہ جگہ جسے یہودی اور عیسائی فاران قرار دیتے ہیں اس میں رہنے والے لوگ یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہاں حضرت اسماعیلؑ آکر رہے تھے۔ حالانکہ لوگ فخر حاصل کرنے کے لئے بلاوجہ بھی ایسی باتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔

(۵) پھر وہ چشمہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے خدا تعالیٰ نے نکالا تھا وہ بھی مکہ ہی میں ہے جو اس بات کا ایک یقینی اور قطعی ثبوت ہے کہ حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ہاجرہؑ یہیں آکر آباد ہوئے تھے۔ پھر انجیل میں بھی ایک پیشگوئی قبلہ کے بدلنے کے متعلق پائی جاتی ہے۔ یوحنا باب ۴ آیت ۲۰، ۲۱ میں لکھا ہے کہ ایک سامری عورت نے جس سے مسیح نے پانی مانگا تھا کہا کہ

”ہمارے باپ دادوں نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی

چاہیے یروشلم میں ہے یسوع نے اس سے کہا اے عورت! میری بات کا یقین رکھ کہ وہ گھڑی آتی ہے

کہ جس میں تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے۔“

اس پیشگوئی میں حضرت مسیح صاف الفاظ میں اعلان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میں نہ یہ پہاڑ قبلہ رہے گا اور نہ یروشلم بلکہ ان دونوں کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ ایک تیسرا قبلہ مقرر کرے گا۔ ان آیات میں جو پہاڑ پر اور یروشلم میں پرستش کرنے کا ذکر ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ یہود سب یروشلم میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور سامری اس پہاڑ پر عبادت کرتے تھے بلکہ اس سے یروشلم اور اس پہاڑ کو قبلہ بنانا ہی مراد ہے یعنی وہ ان کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے پس پہاڑ پر اور یروشلم میں عبادت نہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ آئندہ ان کی طرف منہ کر کے عبادت نہیں کی جائے گی۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انجیل نے پہاڑ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کو پہاڑ پر عبادت کرنے کے الفاظ سے ادا کیا ہے اسی طرح قرآن کریم نے بھی قَدْ نَزَّلْنَا نَقْلًا فِي السَّمَاوَاتِ كَمَا مَحَارَهُ اسْتِعْمَالُ كَمَا هُوَ جَس سے مراد آسمان کی طرف آپ کا منہ کرنا نہیں بلکہ آسمان کی طرف آپ کی توجہ کا مبذول ہونا مراد ہے۔ ان دو پیشگوئیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو کعبہ کی ترقی پر دلالت کرتی ہیں مگر مثال کے طور پر یہ صرف دو ہی کافی ہیں پس ان پیشگوئیوں کی بنا پر گو یہود پہلے ان کا مطلب نہ سمجھتے ہوں مگر وقوع کے بعد ان کے لئے اس امر کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ یہ حکم ایک قدیم پیشگوئی کے مطابق ہے اور اس پر اعتراض کرنا اپنی کتب پر اعتراض کرنا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فِي مِثْلِ كِتَابٍ مِمَّا نَزَّلْنَا مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّ لِقَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا حَسْبًا عَلَيْهِمْ سَلَامٌ۔ اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کامل کتاب عنایت فرمائی ہے وہ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا جو حکم دیا گیا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے نہ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہوگا۔ بلکہ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اور ان پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ناممکن تھا کہ وہ آپ کے احکام کو منجانب اللہ نہ سمجھیں اور آپ کی ہر رنگ میں کامل اطاعت نہ کریں۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ فرماتا ہے۔ ہم ان کی حرکات کو خوب جانتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے علماء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہونے کے باوجود محض ضد ورتکب کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں ورنہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تبدیلی اور بنو اسمعیل میں ایک نبی کے آنے کے متعلق ان کی کتابوں میں پیشگوئیاں

موجود ہیں مگر پھر بھی یہ لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔
تحويل قبلہ ہجرت کے بعد کوئی سولہ یا سترہ مہینے گزرنے پر ہوئی ہے۔ چنانچہ بخاری میں حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لانے کے بعد سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن آپ کو پسند یہی تھا کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارہ میں حکم نازل ہوا اور آپ نے پہلی نماز جو کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ ایک شخص جو نماز میں آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر ایک مسجد کے پاس سے گذرا۔ تو اس نے دیکھا کہ لوگ رکوع کی حالت میں ہیں۔ اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس پر اس نے بلند آواز سے کہا۔ کہ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّى نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَكَّةَ۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس پر لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی بیت المقدس سے منہ ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ (بخاری کتاب التفسیر باب قوله سيقول السفهاء و تفسیر ابن کثیر زیر آیت سيقول السفهاء)

نسائی نے ابوسعیدؓ سے روایت کی ہے کہ ظہر کی نماز تھی جس میں تحويل قبلہ ہوئی۔ ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی پہلے لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔
اور کئی مفسرین نے اور بعض دوسرے راویوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ظہر کی نماز کی دو رکعتیں ہو چکی تھیں جبکہ یہ حکم نازل ہوا۔ یہ حکم مسجد بنی سلمہ میں نازل ہوا تھا۔ اسی لئے صحابہؓ اس مسجد کو مسجد القبلتین کہتے تھے۔

(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ہذا)

اوپر کی روایات سے ظاہر ہے کہ ایک میں تو یہ ذکر آتا ہے کہ عصر کی نماز میں تحويل قبلہ ہوئی اور دوسری میں یہ ذکر آتا ہے کہ تحويل قبلہ کا حکم ظہر کی نماز میں نازل ہوا۔ ظہر والی روایات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ تحويل قبلہ تو ظہر کے وقت ہوئی ہو اور ایک شخص عصر کی نماز میں آکر شامل ہوا ہو اور اس نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھ کر یہ سمجھ لیا ہو کہ تحويل اب ہوئی ہے کیونکہ عصر کے وقت آنے والے کا خیال ظہر کی نماز کی طرف نہیں جاسکتا پس ظہر والی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔

نویلہ بنت مسلم کی روایت ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ خبر آئی کہ بیت اللہ قبلہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی پہلی روایت کی تائید کرتی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ مرد عورتوں کی جگہ اور عورتوں کی جگہ ہو گئیں (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ہذا)

یہ اسلامی حکم ہے کہ مرد آگے ہوں اور عورتیں پیچھے۔ تحویل قبلہ کی وجہ سے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کورُخ بدلنا پڑا اس لئے مردوں اور عورتوں کو بھی اپنی ترتیب بدلنی پڑی۔ اور عورتیں مردوں کی جگہ چلی گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ چلے گئے۔ اس حدیث میں ایسی تفصیل موجود ہے جس کی بنا پر ظہر میں حکم نازل ہونے کا خیال زیادہ صحیح قرار پاتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اہل قبا کو دوسرے دن صبح کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ نماز کی جہت بدل گئی ہے۔ اور وہ بھی اس وقت جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ (بخاری کتاب التفسیر باب قوله وما جعلنا القبلة) اسی سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ اگر ایک میل کے فاصلہ پر بھی دوسرے دن اطلاع پہنچی تو براء بن عازب کو بھی عصر کی تعیین میں غلطی لگ سکتی ہے انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ عصر کے وقت تحویل قبلہ ہوئی ہے کیونکہ انہیں عصر کی نماز میں ہی شامل ہونے کا موقع ملا اور انہوں نے کسی سے دریافت بھی نہ کیا کہ تحویل قبلہ کب ہوئی ہے۔ خود ہی خیال کر لیا کہ یہ پہلی نماز ہے جس میں تحویل قبلہ ہوئی ہے۔

ان روایات میں بھی یہ کہیں ذکر نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا۔ ورنہ اگر یہ بات درست ہوتی تو جو لوگ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے وہاں آچکے تھے۔ ان میں سے کسی کی تو روایت ملتی کہ وہ پہلے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ مکہ میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے اور پھر مدینہ میں بھی سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ پس وہیری کا یہ اعتراض کہ محض یہود کو خوش کرنے کیلئے آپ نے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا اور جب یہ مقصد حاصل نہ ہوا تو پھر مکہ کی طرف منہ پھیر لیا بالکل غلط ہے۔ صرف ایک روایت ایسی ہے جو بتاتی ہے کہ نعوذ باللہ یہود کو خوش کرنے کے لئے مدینہ آ کر قبلہ بدلا گیا۔ مگر اس روایت کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ کسی بد باطن منافق یا یہود کی خود تراشیدہ روایت ہے۔ یہ روایت ابوداؤد نے اپنی کتاب ناخ میں حضرت ابن عباسؓ سے بیان کی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ۔ **أَوَّلُ مَا دُسِّخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقَبِيلَةُ وَذَلِكَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَسْتَقْبِلُ صَخْرَةَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ وَهِيَ قَبِيلَةُ الْيَهُودِ فَاسْتَقْبَلَهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لِيَوْمِئِذٍ بِهِ وَيَتَّبِعُوهُ وَيَدْعُوا بِذَلِكَ الْأَلْبِيبِينَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ (جامع البيان زیر آیت ہذا)۔** یعنی قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم جو منسوخ کیا گیا وہ قبلہ کے بارے میں تھا اور یہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں تشریف لانے کے بعد صخرہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے جو یہود کا قبلہ تھا۔ اور آپ نے اُس کی طرف سترہ مہینے تک منہ رکھا۔ آپ کی بیت المقدس کو

قبلہ بنانے کی بڑی غرض یہ تھی کہ (نعوذ باللہ) یہود خوش ہو کر آپ پر ایمان لے آئیں۔ اور آپ کی اطاعت کریں۔ اور آپ اس قبلہ کی طرف اہل عرب کو بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ

لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ۔

اس روایت کے یہ الفاظ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ تبدیلی یہود کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کی تھی واضح طور پر اس امر کا ثبوت ہیں کہ یہ کسی فتنہ پرداز منافق یا کسی خبیث یہودی کی شرارت ہے۔ اُس نے جب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رُخ کو بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے یہ روایت وضع کر کے مسلمانوں میں پھیلا دی کہ بیت المقدس کی طرف منہ تو صرف اس لئے کیا گیا تھا کہ یہود کو مسلمان بنایا جائے۔ مگر جب یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ اور بعض مفسرین نے بھی اپنی نادانی سے اس وضعی روایت کو اپنی تفسیروں میں درج کر دیا اور لکھ دیا کہ یہود کی تالیف قلب کے لئے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا تھا۔ (تفسیر جامع البیان جلد ۲ صفحہ ۴)

پھر اس روایت کے وضعی ہونے کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے صرف محمدؐ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپؐ کے نام کی بجائے ہمیشہ آپؐ کے روحانی مقام سے پکارا کرتے تھے۔ یعنی محمدؐ کہنے کی بجائے ”رسول اللہ“ کہا کرتے تھے اور غیر مذہب کے لوگ ایشیائی دستور کے مطابق آپ کا ادب اور احترام اس طرح کرتے تھے کہ بجائے آپ کو محمدؐ کہہ کر بلانے کے ابوالقاسم کہہ کر بلاتے تھے جو آپ کی کنیت تھی۔ احادیث میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی مدینہ میں آیا۔ اور اس نے آکر آپؐ سے بحث شروع کر دی بحث کے دوران میں وہ بار بار کہتا تھا اے محمدؐ بات یوں ہے۔ اے محمدؐ بات یوں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی انقباض کے اس کی باتوں کا جواب دیتے تھے مگر صحابہؓ اس کی یہ گستاخی دیکھ کر بے تاب ہو رہے تھے۔ آخر ایک صحابیؓ سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے یہودی سے کہا کہ خبردار آپؐ کا نام لے کر بات نہ کرو۔ تم رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم ابوالقاسم تو کہو۔ اس یہودی نے کہا میں تو وہی نام لوں گا جو ان کے ماں باپ نے ان کا رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپؐ نے صحابہؓ سے فرمایا۔ دیکھو یہ ٹھیک کہتا ہے۔ میرے ماں باپ نے میرا نام محمدؐ ہی رکھا تھا۔ جو نام یہ لینا چاہتا ہے اسے لینے دو اور اس پر غصہ کا اظہار مت کرو۔

اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ صحابہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمدؐ کہہ کر کبھی نہیں پکارتے تھے بلکہ اگر کوئی غیر مذہب کا پیرو بھی آپؐ کو پانچھنڈ کہتا تو وہ انقباض محسوس کرتے۔ جن صحابہؓ کے اخلاص و محبت کا یہ عالم تھا

کہ وہ غیروں کے متعلق بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ آپؐ کو نام لے کر پکاریں ان کے متعلق یہ تصور بھی کس طرح کیا جاسکتا ہے کہ وہ خود آپؐ کو محمدؐ کہہ کر پکارتے ہوں۔ پس اس روایت کے یہ الفاظ کہ محمدؐ پہلے صحفہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتا تھا جو یہود کا قبلہ تھا اور سترہ ماہ تک وہ ایسا ہی کرتا رہا اور اس نے بیت المقدس کی طرف منہ اس لئے کیا تھا کہ وہ یہود کو خوش کرے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی اتباع کریں۔ لیکن جب وہ اس ذریعہ سے مسلمان نہ ہوئے تو پھر اس نے مکہ کی طرف منہ کر لیا خود اپنی ذات میں اس امر کا ثبوت ہیں کہ یہ الفاظ کسی مسلمان کے منہ سے نہیں نکل سکتے۔ بلکہ یقیناً کسی یہودی یا کسی منافق کے ہی ہو سکتے ہیں۔ یہودی ہی یہ کہا کرتے تھے کہ سترہ مہینے تک تو ادھر منہ کرتے رہے اب دوسری طرف کرنے لگ گئے ہیں۔ پس یہ الفاظ کسی مسلمان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ مگر یہ روایت وضع کرتے وقت اُسے اتنا بھی خیال نہ رہا کہ میں الفاظ تو ایسے لکھوں جن سے میری دھوکا دہی پر پردہ پڑا رہے۔ چنانچہ اس نے روایت تو بنالی مگر خدا تعالیٰ نے اس روایت کے اندر ہی اس سے ایسے الفاظ رکھوا دیئے جن سے اس کی افتراء پر دازی کا پردہ فاش ہو گیا اور پتہ لگ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی منافق یا کذاب بول رہا ہے۔ اُسے اپنے بغض کی شدت کی وجہ سے اتنا بھی یاد نہ رہا کہ صحابہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمدؐ کے لفظ سے نہیں بلکہ نبی یا رسول کے لفظ سے پکارا کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ساتھ استعمال کیا کرتے ہیں اور گو ”جامع البیان“ میں ”النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ خود مسلمانوں نے اس روایت کو نقل کرتے وقت لگا لئے ہیں لیکن خواہ اس روایت کے یہ الفاظ ہوں کہ اَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَسْتَقْبِلُ صَخْرَةَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ يَا يَهُودَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَقْبِلُ صَخْرَةَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ دونوں صورتوں میں اس روایت کا مضمون اپنی ذات میں ایسا گندہ اور ناپاک ہے کہ کوئی سلیم الفطرت انسان اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔

اسی طرح بیہقی نے اپنی کتاب ”دلائل النبوت“ میں زہری سے روایت کی ہے کہ قبلہ کی تحویل مسجد حرام کی طرف ماہ رجب میں ہوئی تھی جبکہ ہجرت کے بعد سولہ مہینے گزر چکے تھے۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّدُ وَجْهَهُ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ حالت نماز میں ہی بار بار اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور چاہتے تھے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں کوئی خدائی حکم نازل ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کی طرف منہ پھیرنے کا حکم نازل فرما دیا اور یہ آیات نازل فرمائیں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ النَّبِيُّ كَانُوا عَلَيْهَا اس پر یہود

نے یہ کہنا شروع کر دیا قَدْ اَشْتَقُ الرَّجُلَ اِلَى بَلَدِهِ وَبَيْتِ اَبِيهِ (بہیقی جلد ۲ باب تحویل قبلہ) یعنی یہ شخص پھر اپنے وطن اور اپنے باپ دادا کے گھر کا مشتاق ہو گیا ہے۔ ابن کثیر نے یہ الفاظ درج کئے ہیں کہ قَدْ اَشْتَقُ الرَّجُلَ اِلَى بَيْتِ اَبِيهِ وَدِينِ قَوْمِهِ۔ (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ہذا) یعنی یہ شخص اپنے باپ دادا کے گھر اور اپنی قوم کے دین کا مشتاق ہو گیا ہے۔ اس روایت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیرنا یہودیوں پر سخت گراں گذرا تھا۔ اور وہ بڑے زور سے یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کبھی اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی اُس قبلہ کی طرف اور اسی طعن زنی کے شوق میں انہوں نے وہ روایت وضع کر لی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ بہر حال اس روایت سے صاف طور پر پتہ لگتا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمْ اَلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا والی آیات قبلہ کے بدلنے کے حکم اور یہود کے اعتراض کے بعد نازل نہیں ہوئیں بلکہ پہلے نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ بعد میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے پر یہود نے بھی اعتراضات کئے اور بعض مسلمانوں کے قدم بھی لڑکھڑا گئے اور وہ مرتد ہو گئے۔ یہ مضمون عام تفاسیر کے خلاف ہے لیکن اوپر کی روایت سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ والی آیات پہلے اعتراضات کے جواب میں نہیں بلکہ ان اعتراضات کے رد میں تھیں جو بعد میں لوگوں نے کرنے تھے اور جن کی قبل از وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی کر دی گئی تھی۔

وَلَيْنُ آتَيْتَ الَّذِينَ اَوْتُوا الْكِتَابَ بِحُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا

اور جن لوگوں کو (تم سے پہلے) کتاب دی گئی ہے اگر تو اُن کے پاس ہر ایک (طرح کا) نشان (بھی) لے آئے

قِبَلَتِكَ ۚ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ

(تو بھی) وہ تیرے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تو اُن کے قبلہ کی پیروی کر سکتا ہے اور نہ اُن میں سے

قِبَلَةٌ بَعْضٌ ۙ وَ لَيْنِ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ ۙ مِّنْ بَعْدِ

کوئی (فریق) دوسرے (فریق) کے قبلہ کی پیروی کرے گا اور (اے مخاطب) اگر اس کے بعد بھی کہ تیرے پاس

مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۶﴾

(الہی) علم آچکا ہے تو نے اُن کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً اس صورت میں تو ظالموں میں (شمار) ہوگا۔

تفسیر۔ فرماتا ہے کہ اگر تم اہل کتاب کو ہر قسم کے نشان دکھاؤ تو وہ پھر بھی تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اگر وہ تسلیم کر لیتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ بنو اسحاق میں سے سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کا اقرار کرتے اور اس کے یہ معنی بنتے کہ یہودی مذہب باطل ہو گیا اور اسلام قائم ہو گیا۔ لیکن یہود اس کے لئے تیار نہیں تھے۔ پس اُن کی بے دینی اور مذہبی اور قومی مجبوریاں اُن کو اس قبلہ کی طرف نہیں آنے دیتی تھیں اور وہ انکار پر مصر رہتے تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کبھی کوئی قوم ساری کی ساری نہیں مانا کرتی بلکہ کچھ لوگوں کا ہلاک ہونا ضروری ہوتا ہے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی عزت خدا تعالیٰ کو منظور تھی اس لئے اس نے تینیس برس تک آپ کو کوشاں رکھا اور اس عرصہ میں خبیث گروہ کو اس نے ہلاک کر دیا۔ اور بعد ازاں اہل عرب کو توفیق عطا فرمائی اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ بہر حال اختلافات کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ پس وہ شخص جو اختلافات کو دیکھ کر گھبراتا ہے نہایت بیوقوف ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلْتَهُمْ کہ تو بھی ان کے قبلہ کی کسی صورت میں پیروی نہیں کریگا۔ یہاں قرآنی حسن کلام دیکھو کہ اس فقرہ کو کس طرح اعتراض سے بچایا ہے۔ عام عربی قواعد کے لحاظ سے مَا تَتَّبِعُ قِبَلْتَهُمْ کہنا چاہیے تھا مگر اللہ تعالیٰ نے بجائے فعل کے اسم کا استعمال کیا ہے اور فقرہ کی شکل بدل دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے فقرہ کے ساتھ یہ فقرہ بھی تھا کہ وَلَكِنْ اتَّيَدَّتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِحُجٍّ آيَةً مَا تَتَّبِعُوا قِبَلْتَكَ کہ وہ ہر قسم کے نشانات دیکھنے کے باوجود تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اگر اسی قسم کا جملہ بنایا جاتا اور اس میں اسی قسم کا فعل رکھا جاتا تو اس کے معنی یہ بنتے کہ یہ رسول بھی باوجود دلائل کے اُن کے قبلہ کا پیرو نہیں ہوگا۔ اور چونکہ یہ قابل اعتراض بات تھی اس لئے اس کی بجائے ایک اور چھوٹا سا فقرہ رکھ کر اعتراض دُور کر دیا اور بتا دیا کہ اس رسول کا انکار محض اس وجہ سے ہے کہ اُسے خدا تعالیٰ کی طرف سے دلائل دیئے گئے ہیں۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ مَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلْتَهُمْ یہ تو محض ضد نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضد نہیں کیونکہ آپ نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی طرف منہ کیا تھا۔ اگر آپ کو یہود سے ضد ہوتی تو آپ کسی زندگی میں بھی اور پھر ہجرت کے بعد بھی سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف کبھی منہ نہ

کرتے۔ پس آپ کے اس فعل نے ثابت کر دیا کہ آپ کو ان سے کوئی ضد نہیں تھی۔ ہاں یہود کے فعل نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو ضد تھی۔ کیونکہ انہوں نے تبدیل قبلہ کے متعلق اپنی کتب میں واضح پیشگوئیاں دیکھنے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ غرض دو وجوہ سے آپ پر اعتراض نہیں پڑ سکتا۔ اول اس وجہ سے کہ آپ نے ساہا ہا سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کیا۔ پس آپ کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ آپ میں ضد پائی جاتی تھی۔ دوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا تو یہ الہام الہی کے ماتحت کیا تھا لیکن یہود نے محض ضد کی وجہ سے اس کا انکار کیا نہ کہ الہام الہی کی وجہ سے اس لئے آپ کے فعل کو ان کے فعل سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔

وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضٍ - اب اللہ تعالیٰ ان کی ضد کو اور زیادہ واضح کرنے کے لئے فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے قبلہ کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کے قبلہ میں بھی فرق ہے یہود کا قبلہ تو یروشلم تھا۔ جیسا کہ نمبر ۸۱ تا ۱۰۳ اور دانیال باب ۶ آیت ۱۰ سے ظاہر ہے لیکن یہود کا سامری فرقہ یروشلم کے ایک پہاڑ کی طرف اپنا منہ کیا کرتا تھا جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے۔ حضرت مسیحؑ نے ایک سامری عورت سے کہا کہ

”میری بات کا یقین رکھ کہ وہ گھڑی آتی ہے کہ جس میں تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں

باپ کی پرستش کرو گے۔“ (یوحنا باب ۴ آیت ۲۱)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں کم از کم دو فریق تھے ایک وہ جو یروشلم کے پہاڑ کی طرف منہ کرتے تھے اور دوسرے وہ جو یروشلم کی طرف منہ کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عیسائی مشرق کی طرف اور یہود بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دورانِ بحث میں ان کی عبادت کا وقت آ گیا۔ اس پر انہوں نے مسجد نبویؐ میں ہی مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنے طریق کے مطابق عبادت کر لی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فَانْتَقَبُوا الْمَشْرِقَ فَصَلُّوا صَلَّوْا تَتَهُمْ (شرح زرقانی الفصل العاشر فی ذکر من وفد علیہ۔۔۔ الوفد الرابع) یعنی انہوں نے مسجد میں ہی مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنی عبادت بجالائے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ اس زمانہ میں عیسائی مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ مشرق کی طرف منہ کرنے کی وجہ بقول پادری اکبر مسیحؑ یہ تھی کہ چونکہ مشرق میں خداوند مسیح کا ستارہ دیکھا گیا تھا اور خداوند کی پیدائش و حیات و وفات و قیامت سب ارض مقدس میں ہوئیں اس لئے مشرق اور اس ملک کی طرف منہ پھیرنا ان کو محبوب رہا (سلک مروارید حصہ اول صفحہ ۴۵) اس

بارہ میں مزید تشریح کے لئے دیکھیں تفسیر کبیر تفسیر سورہ مریم زیر آیت إِذَا انْتَبَذْتُمْ مِنْ أَهْلِهَا مَا كَانُوا فِيهَا۔
 غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تمہاری بات کیا مانتی ہے ان میں تو اس قدر تعصب پایا جاتا ہے کہ ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ان کے قلوب میں فرق ہے۔ اور جب یہ آپس میں ایک شریعت رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی ضد میں دین کی شکل بدلتے جاتے ہیں تو انہوں نے تمہاری طرف کیا میلان رکھنا ہے۔

وَ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر علم رکھنے کے بعد بھی تو ان کی گری ہوئی خواہشات کی پیروی کریگا تو تو یقیناً ظالم ہوگا۔ اس آیت پر بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ممکن تھا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر کے ظالم بن جاتے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ بعض جگہ بظاہر واحد مخاطب کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے مگر اس سے ہر انسان مراد ہوتا ہے نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - اِنَّمَا يَبُغُ عِنْدَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (بنی اسرائیل: ۲۴) یعنی اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو تم ان سے نرمی کا برتاؤ کرو اور انہیں اُف بھی نہ کہو۔ اب اس آیت میں بھی واحد مخاطب کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اس جگہ ہر انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ نہ کہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اے قرآن کریم کے پڑھنے والے اگر تو مخالفین اسلام کی گری ہوئی خواہشات کی پیروی کریگا تو تو ظالم بن جائے گا۔ کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایک یقینی علم نازل کر دیا ہے۔ اگر تو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اور اسے چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چلے گا تو تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما چکا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِتَارِكٍ قِبَلَتَهُمْ تُوَانِ كَقَبْلِهِ كَبُحِي بِيْرُوِي نِيْهِس كِرْسَلْتَا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ اتنی وضاحت سے ایک بات فرما چکا ہے تو اسی آیت میں اس کے خلاف یہ کیونکر فرما سکتا ہے کہ اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تو ظالموں میں سے سمجھا جائے گا۔ پس اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ عام مسلمان مراد ہیں۔ چنانچہ آجکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مسلمان قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسرے علوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو کہ روزانہ بدلتے ہیں۔ اور اس یقینی علم کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ جو قرآن کریم کی شکل میں ہے۔

پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ جب مقدمہ کا فیصلہ لکھواتا ہے تو بعض مقامات پر اس میں مجرم کے خطاب کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے۔ اس جرم میں تجھے اتنے ماہ قید کی سزا دی جاتی ہے اس پر تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ فیصلہ کو قلمبند کرنے والا کلرک کھڑے ہو کر شور مچانے لگ جائے کہ مجھے یہ سزا کیوں دی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کا اعلان فرمایا ہے اور اس سے مراد صرف وہی شخص ہے جو اس فیصلہ کی خلاف ورزی کرے کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکم دیتے وقت اپنے کسی قریبی کو مخاطب کر لیا جاتا ہے مگر مراد اس سے دوسرے لوگ ہوتے ہیں اور اس کو مخاطب اس لئے کیا جاتا ہے کہ اگر میرا قریب ترین عزیز بھی ایسا کرے گا تو میں اُسے سزا دوں گا۔ یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ قریبی ایسا کر سکتا ہے بلکہ اس سے جرم کی اہمیت بیان کرنا اور لوگوں کو ہوشیار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس جگہ بھی یہ مراد نہیں کہ ایسا کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممکن تھا بلکہ آپ کو اس لئے مخاطب کیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہوشیار کیا جائے اور انہیں متنبہ کیا جائے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ایسا کرے گا تو اسے سزا ملے گی۔ اور اس کا کچھ بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی ہوشیار کرنے کا ایک طریق ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں (بخاری کتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحد۔۔۔)۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت فاطمہؓ بھی چوری کر سکتی تھیں۔ بلکہ مطلب یہ تھا کہ دوسرے لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ اور انہیں پتا لگ جائے کہ قانون میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں کیا جاسکتا۔

الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ اَلْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ ط

وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس (سچائی) کو (اسی طرح) پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

وَ اِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴۷﴾

اور ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل کتاب کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی

طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ بیٹے کی پہچان ہمیشہ بیوی کی شہادت پر ہوتی ہے۔ جب

ایک خاندان اپنی بیوی کو عقیفہ اور صالحہ سمجھتا ہو تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے متعلق وہ ہرگز کسی شبہ میں گرفتار نہیں ہوتا بلکہ اُسے جائز طور پر اپنی نسل سمجھتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس جگہ پیش کرتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہر انسان اپنی بیوی کی پاکدامنی پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتا ہے اور کبھی اس واہمہ میں گرفتار نہیں ہوتا کہ شاید یہ کسی اور کی اولاد ہو اسی طرح جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور آپ کی راستبازی کو دیکھا ہے اُن کے لئے آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کا اپنا وجود ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (الشعراء: ۲۱۵) تو آپ نے مکہ کے تمام قبائل کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا بھاری لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ اب باوجود اس کے کہ یہ ایک ناممکن بات تھی کیونکہ اس پہاڑ کے پیچھے میدان تھا اور اس میں کوئی لشکر تو الگ رہا پچاس ساٹھ آدمی بھی نہیں چھپ سکتے تھے۔ مگر پھر بھی انہوں نے کہا ہم تمہاری بات یقیناً مان لینگے کیونکہ تم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ گویا وہ ناممکن بات کو بھی جو آپ کے منہ سے نکلے ماننے کے لئے تیار تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اگر تم میری اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہو۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نذیر بنا کر بھیجا ہے اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے آؤ گے (بخاری کتاب التفسیر سورة الشعراء)۔ اس پر وہ آپ کو فریبی اور دغا باز کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن میں اس قدر راستباز اور امین مشہور تھے کہ دشمن بھی اقرار کرتا تھا کہ اس شخص سے بڑھ کر سارے مکہ میں کوئی شخص دیانت دار اور راستباز نہیں۔ پھر اگر ایک انسان اپنی بیوی کے سو جھوٹ دیکھ کر بھی اپنے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں کرتا تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے شخص پر اعتبار نہیں کرتے جس کا ہر قول سچا اور جھوٹ سے مبرا رہا ہے۔ فرماتا ہے کم سے کم بیٹوں جیسا سلوک تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بیویوں کی سچائی پر تو دو گواہ بھی نہیں ہوتے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر تمام مکہ شہاد تھا اور دشمن بھی آپ کی راستبازی سے انکار نہیں کرتا تھا۔ پھر آپ کا انکار کیسے درست ہو سکتا ہے۔

وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ۔ فرماتا ہے ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپا رہا ہے۔ اُسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستبازی کا علم ہے۔ اسے آپ کی دیانت کا علم ہے۔ اسے آپ کی امانت کا علم ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ اور فریب کے کبھی قریب بھی نہیں گیا۔ مگر باوجود اس کے وہ حق کو

چھپا رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر کمر بستہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے واپس تشریف لائے تو آپ کی ایک لونڈی نے آپ سے کہا کہ آپ کا دوست تو (نعوذ باللہ) پاگل ہو گیا ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اُسی وقت اُٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر آپ کے دروازہ پر دستک دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو ان کو ٹھوکر لگ جائے تشریح کرنی چاہی۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے کہا۔ آپ تشریح نہ کریں اور مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خیال سے کہ معلوم نہیں یہ سوال کریں کہ فرشتوں کی شکل کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح نازل ہوتے ہیں؟ پہلے کچھ تمہیدی طور پر بات کرنی چاہی۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے پھر کہا۔ نہیں نہیں آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں درست ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا۔ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے دلائل بیان کرنے سے صرف اس لئے روکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ایمان مشاہدہ پر مبنی ہو۔ دلائل پر اس کی بنیاد نہ ہو کیونکہ آپ کو صادق اور راستباز تسلیم کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ غرض جس بات کو مکہ والوں نے چھپایا تھا اسے حضرت ابو بکرؓ نے اپنے عمل سے واضح کر کے دکھا دیا۔

۱۳۸

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَرِينَ ۝۱۳۸

یہ (مذکورہ بالا) صداقت تیرے رب کی طرف سے ہے۔ پس تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ بن۔

حَلُّ لُغَاتٍ۔ اِمْتِرَاءٌ کے معنے ہیں (۱) جھگڑا کرنا (۲) شک کرنا۔ (المنجد)

تفسیر۔ فرماتا ہے۔ یہ صداقت تیرے رب کی طرف سے ہے اور اس نے دنیا میں ایک دن پھیل کر رہنا ہے۔ جس بات کے پورا ہونے کے متعلق انسان کو شبہ ہو اس کے متعلق تو وہ بہانہ بنا سکتا ہے کہ شاید وہ ٹل جائے لیکن ہمارا رسول تو جو کچھ کہتا ہے وہ ایک اٹل صداقت ہے جو ایک دن پوری ہو کر رہے گی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ حق

تمہارے رب کی طرف سے ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور جس نے درجہ بدرجہ تمہیں ترقی دیتے ہوئے اس بلند مقام تک پہنچایا۔ کیا ایسی اعلیٰ درجہ کی ربوبیت کرنیوالی ہستی کا کلام کبھی ٹل سکتا ہے پس اس کو رد کرنے کا کیا فائدہ۔ اس سے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تم اگر رد بھی کرو گے تو یہ تعلیم ضرور پھیل کر رہے گی اس لئے اس کے انکار سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

میں ابھی چھوٹا تھا کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک سڑک پر جو مدرسہ احمدیہ کے پاس سے مہمان خانہ کو جاتی ہے۔ کبڈی ہو رہی ہے۔ لکیر جو حد فاصل ہوتی ہے کھینچی ہوئی ہے اور ہم ایک طرف ہیں اور غیر احمدی دوسری طرف۔ غیر احمدیوں میں سے جو بھی ہماری طرف آتا ہے ہمارے آدمی اسے پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں حتیٰ کہ ان کے سارے آدمی ہماری طرف آگئے صرف مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی دیوار کی طرف منہ کر کے آہستہ آہستہ ہماری طرف چلنا شروع کیا اور جب لکیر پر پہنچے تو کہنے لگے کہ جب سارے ہی آگئے ہیں تو میں بھی آجاتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ بھی ہماری طرف آگئے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ یہ صداقت تو دنیا میں غالب آنے والی ہے اور جب آخر میں تم نے ایمان ہی لانا ہے تو آج ہی کیوں نہیں مان لیتے۔ چنانچہ دیکھ لو آخر مشرکین مکہ فتح مکہ کے دن آپ کے پاس آئے اور منتیں کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ لَا تَتُوبَ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ۔ آج میں تمہیں کوئی سزائش نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے۔ ع

قضائے آسمان است ایں بہر حالت شود پیدا

(آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۲)

یعنی یہ تو ایک آسمانی قضا ہے اور اس نے ضرور پورا ہونا ہے۔ پھر تم انکار کر کے اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو۔



انڈیکس

جلد دوم

۱	اشاریہ مضامین
۸	کلید مضامین
۴۹	اسماء
۶۵	مقامات
۷۱	حل اللغات
۷۷	کتابیات



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِ الْکَرِیْمِ

اشاریہ کلید مضامین

۱۲	الوہیت الہام امامت ۸	آ	آداب آریہ دھرم آیت/آیات
۱۳	امن امی انجیل انسان ۸	۱	ابنیت مسیح اتوار
۱۴	انصار اللہ انصار مدینہ انعام انقلاب اہل کتاب اپو کرینا ایمان ۹		احسان احیاء موتی اختلاف اختیار اخلاق/خلق ادب اذان اذخرگھاس
۱۴	بادشاہت/حکومت		اسلام
۱۵	باب بابیل ۱۰ بچھڑا بخشش ۱۱ بدظنی بدی بروز بعث بعد الموت		اطاعت اطمینان قلب اظلم اعتدال اعتکاف اقامت صلوة اللہ جل جلالہ

۱۸	تمسخر توبہ توحید تورات تجدد	۱۷	بعثت بقرہ بندر بندہ بہادری بیل بینات
۱۸	جبر جبر و قدر جذبات بزاد سزا جماعت احمدیہ	۱۷	پتھر پہاڑ پیشگوئی
۱۹	جنت جمعہ المبارک جنگ جنگ عظیم دوم جہاد جہنم	۱۷	تہمت تبلیغ تثلیث تحریف تخلیق کائنات تزکیہ نفس تصدیق تعبد تعصب تقدیر تقوی تکفیر تکمیل روحانیت
۲۰	چالیس چشمہ چوری چپک		تلاوت ملفح تمثیل
۲۰	حج بیت اللہ حدیث حرم حزن		
۲۱			

	حسد		رجز
	حسن سلوک		رجم
	حق		رحمت
	حق ج حقوق		رزق
	حکم		رسالت
	حکمت		رشته دار
	حکومت		رضاء الہی
	حواری		رکوع
			رواداری
			روح
	خاتم النبیین	۲۱	روح القدس
	ختنہ		روحانیت
	خفیہ سوسائٹیاں	۲۲	روزہ
	خلافت		رومن کیتھولک
	خلق را اخلاق		رؤیا
	خنزیر		رہبانیت
	خواب		
	خوف		
			ز
			زرتشتی مذہب
			زکوٰۃ
		۲۲	زمانہ
			ژ
		۲۳	ژنداوستا
			س
			ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم
			سبت
			سجدہ
		۲۳	سحر
			خ
			خاتم النبیین
			ختنہ
			خفیہ سوسائٹیاں
			خلافت
			خلق را اخلاق
			خنزیر
			خواب
			خوف
			د
			درست کلامی
			دعا
			دل
			دلیل
			دماغ
			دنیا
			دین
			ر
			رافت

۳۵	قربانی	۳۰	عود
	قریش		عہد
	قصاص		عیسائیت
	قصہ	۳۱	عید الاضحیہ
	قوم		
	قیامت		
		۳۱	غذا
			غزوہ بدر
			غزوہ بنو مصطلق
۳۵	کبر و نخوت		غلامی
۳۶	کتاب		غیر مسلم
	کعبہ		
	کفارہ		
	کلام اللہ		
۳۷	کلمہ	۳۱	فتح مکہ
	کوثر		فرقان
	کھجور		فری میسنز
			فضیلت
			فطرت انسانی
			فلاسفر
۳۷	گالی	۳۲	
	گائے		
	گناہ		
		۳۲	قادیانی
			قانون
۳۷	لوح الرواح		قانون قدرت
			قبلہ
			قبض و بسط
		۳۳	قتل
۳۷	ماحول		قتل نفس
	مادہ		قذف
۳۸	مامور		قرآن کریم
	ماں		

مباہلہ	منافق
مثیل	منصب خلافت (تصنیف حضرت مصلح موعودؑ)
مجاہدہ	منعم علیہ گروہ
مجرم	من و سلوئی
مجوسی	منہاج نبوت
محبت	مواخذہ
محسن	موت
مخالفت	مؤلفۃ القلوب
مذہب	مؤمن
مردہ	مہدی
مسجد	میثاق ۳۹
مسجد حرام	
مسخ صورت	
مسکین	
مسلم - مسلمان	۳۰
مسمریزم	ناشکری
مسج موعود علیہ السلام	نبوت
مشاہدہ	نجات ۳۳
مشرک	نزول ۳۴
معاملات	نسخ فی القرآن
معاہدہ نیز دیکھئے عہد	نشان
معبد سلیمانی	نصاری
معجزہ	نظام
معرفت	نماز
مغضوب علیہم	نیچریت
مقام براہیم	نیکی
ملائکہ	نیت ۳۵
میکائیل	
ملت	۳۱
مناظرہ	والدین
	وحی
	وصیت

ن

و

۴۵۰	اسلام سے باہر اطمینان قلب کہیں حاصل نہیں ہو سکتا	۳۵۷	ادب روحانیت کی تمام تر بنیاد ادب پر ہے
۴۹۲	اسلام قبول نہ کرنے کے روحانی اور مادی نقصانات	۳۵۷	الطریقۃ کلہا ادب
۲۲۴	اسلام اخلاص کے بغیر مذہب قبول کرنے کو پسند نہیں کرتا	۳۵۹	ادب اور عزت نفس
۴۱۶	اسلام روح و مادہ کو حادث قرار دیتا ہے	۳۸۰	گستاخی کے نتیجے میں انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے
۴۹۳	انسان فطرتاً نیک پیدا ہوتا ہے	۳۵۷	بزرگوں اور علماء کی بے ادبی کے نتائج
۲۰	اسلام کے نزدیک بچہ نیک فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے	۳۵۷	ادب اور احترام کے الفاظ کا غلط استعمال بے ادبی پیدا کرتا ہے
۳۹۵	اسلام کے نزدیک خدا کی وحی ہمیشہ کے لئے جاری ہے	۳۵۷	ذومعنی الفاظ کا استعمال ناپسندیدہ ہے
۳۹۲	اسلام ہدایت کے دروازہ کو بند نہیں کرتا	۳۵۷	اذان (نیز دیکھئے نماز۔ عبادات وغیرہ)
۳۹۴	دوزخ کے عذاب کو دائمی قرار نہیں دیتا	۵۴۳	جس تک اذان پینچے اسے مسجد آنے کی تاکید
۴۰۰	دنیا داری کے بارہ میں اسلام کا نقطہ نظر		اذخر گھاس
۴۸۶	اخلاقی تعلیم	۴۵۱	حرم میں کاٹنے کی اجازت ہے
۵۲۹	تعلیم میں میانہ روی		اسلام
۵۵۷	اسلام میں عدل کا معیار		حقیقت
۴۸۶	ماحول بدن اور دل کی صفائی	۲۲۶	اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے
۴۸۵	اسلامی تعلیم کے نتیجے میں مسلمان غیر معمولی دنیوی ترقی کر سکتے ہیں	۲۸۱	اسلام بعض دفعہ ایمان کے معنوں میں آتا ہے
	عبادات	۴۴۲	اسلام اور ایمان میں فرق
۵۴۳	نماز باجماعت کی اہمیت	۳۹۹	اسلامی تعلیم کا خلاصہ انابت الی اللہ اور شفقت علی خلق اللہ
۱۶۴	مسلمانوں کا سبت جمعہ کا دن ہے		فضیلت
۱۶۶	اسلام میں جمعہ کے احکام و آداب	۵۲۸، ۵۰۱	دوسرے مذاہب پر فضیلت
	اسلامی نظام	۴۸۷	دعائے ابراہیمی اسلام کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت ہے
۴۵۰	اسلام دنیا میں ہی جنت عطا کرتا ہے	۱۳۹	اسلام کے لئے ابتدائی دور میں نصرت الہی
	اسلام نے نظام قائم رکھنے کے لئے خلافت کا سلسلہ قائم کیا ہے	۴۸۷	اسلام میں نبوت، خلافت اور امامت کے فرائض
۵۳۱		۲۷۶	اسلام کی تعلیم دوسری تعلیموں سے افضل ہے
		۵۰۰	اسلام ناقابل منسوخ مذہب

۴۸۵	اشاعت اسلام	غریبا کو امراء کے برابر لانے کا انتظام
۵۱۲	اسلام کی اشاعت کے لئے صحابہ کرام کی قربانیاں	اسلام اور نجات
۲۹۸	خانہ کعبہ کی ظلیت میں اشاعت اسلام کے مراکز	نجات کے متعلق تعلیم
۲۸۱	کے قیام کی ضرورت	اسلام کے لئے شرح صدر پروانہ جنت ہے
۲۹۵	اسلام سے دلچسپی رکھنے والوں کو لٹریچر مہیا کرنا	نجات دنیا کے ہر فرد کا حق ہے
۳۹۲	اسلام کی تبلیغ ساری دنیا کے لئے ہے	بنی نوع انسان کی نجات کا ذریعہ صرف اسلام ہے
۳۹۲	(قرآن اور احادیث سے دلائل)	اسلام اور عیسائیت کے نظریہ نجات کا موازنہ
۳۹۵	اسلام کی نشاۃ ثانیہ روحانی اسباب سے حاصل ہوگی	اسلام اور دیگر مذاہب
۱۵۰	غلبہ اسلام	اسلام اور دیگر مذاہب کی تعلیمات کا موازنہ
۴۱۳	مشرق اور مغرب میں اسلام پھیلنے کی پیشگوئی	۴۰۰، ۳۹۴
	اسلام اور جماعت احمدیہ	اسلام ہر مذہب میں بعض صداقتوں کے ہونے کا معترف ہے
	ہمیں تو جہاں بھی اسلام کی صداقت نظر آئی گی ہم اسے پیش کریں گے خواہ کوئی اس سے نیچریت کی طرف ہی کیوں نہ مائل ہو جائے	۴۰۴
	(مسجح موعود)	۵۰۷
۳۰۲	مسلمانوں کے لئے قابل توجہ	شریعت اسلامیہ کی رو سے سب انبیاء کو بینات اور سب کو روح القدس کی تائید حاصل تھی
۴۰۵، ۴۰۴	اسلامی فرقوں میں باہم تکفیر پر افسوس	۲۷۳
۱۵۰	موجودہ مسلمانوں کے زوال کا سبب	اسلام سے پہلی امتیں محمدی تعلیم کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں
۱۵۲	موجودہ مسلمانوں میں عمل خیر ہے عمل صالح لہ نہیں	۴۷۵
	اطاعت	اسلام سے پہلی امتوں کو صرف احکام دیئے گئے ان کی حکمتیں نہیں بتائیں گئیں
۲۵۹	اللہ تعالیٰ کی سچی فرمانبرداری	۴۸۴
	اپنے ذوق کے مطابق نیک اعمال کر کے باقی اعمال سے غفلت فرمانبرداری نہیں	جہاد اور اسلام
۲۵۹	اطاعت الہی فضل الہی کو جذب کرنے کا موجب ہوتی ہے	۴۴۴
۵۰۴	اطمینان قلب	ظالم حکومت سے ہجرت کا حکم اور اگر ہجرت کی اجازت نہ ملے تو مقابلہ کی اجازت
	اطمینان قلب صرف اسلام میں حاصل ہو سکتا ہے	۴۵۲
۴۵۱	اطمینان قلب کا ایک ذریعہ مشاہدہ ہے	۴۵۰
۴۵۰		اسلام دین کے معاملہ میں جبر کو جائز قرار نہیں دیتا
		اسلام دلیل سے بات منواتا ہے
		غیر مسلم عبادت گاہوں کا احترام

۲۴۸	احتیاج اللہ کا احسان ہی حقیقی ہوتا ہے	۴۶۴	اضطرار اضطرار کی ابتداء انسان کے اختیار سے ہوتی ہے
۴۱۷	خلق پیدائش عالم اور اس کی فنا اللہ کے ہاتھ میں ہے		اظلم تین قسم کے لوگ ہیں۔ جھوٹے مدعی نبوت۔
۴۱۷	کن فیکون کی وضاحت	۴۰۸	۲۔ سچے نبی کو جھوٹا کہنے والے۔ ۳۔ مساجد سے روکنے والے
۵۱۵	آدم کو اپنی صورت پر بنانے کا مفہوم		اعتدال بنی اسرائیل کے گناہوں کی بنیاد بے اعتدالی تھی
۴۰۵	اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی	۱۳۷	امت محمدیہ کو اعمال میں اعتدال کی تعلیم
	کلام اللہ تعالیٰ بار بار الہام نازل کرتا ہے اور بار بار اپنے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے	۵۲۹	اعتکاف اعتکاف سے مراد وقف زندگی
۳۰۵	حضرت مصلح موعودؑ کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا دعویٰ	۴۵۵	اقامت صلوٰۃ استقلال کے ساتھ بغیر ناغہ نماز ادا کرنا
۵۱۶	رحمت اللہ خود کسی پر رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا	۲۵۰	اللہ جل جلالہ
۲۷۶	بندے کے ظن کے مطابق اللہ کا سلوک	۴۹۸	اللہ کی ذات وراء الراء ہے
۵۱۵	اللہ کی رحمت عام ہے	۵۲۴	اللہ ہر قسم کے تجسم سے بالا ہے
۳۶۰	اللہ رفیق اور نرمی کو پسند کرتا ہے (حدیث)		اللہ کا جلال و جمال مختلف تجلیات میں ظاہر ہوتا ہے
۳۵۴	محبت اور قرب خدا کی محبت میں فنا ہونے کے تقاضے	۴۹۸	توحید خدا کا بیٹا ماننے سے اللہ میں نقائص ماننے پڑتے ہیں
۲۹۶	اطاعت الہی فضل الہی کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے	۴۱۵	صفات الہیہ خدائی صفات کا مظہر بننے کا طریق
۵۰۴	اللہ کے قرب کے دروازے ہر انسان کے لئے کھلے ہیں	۵۱۴	مقصود اسلامی تعلیم کا خلاصہ انابت الی اللہ اور شفقت علی خلق اللہ
۵۲۴	بندہ اپنی ذاتی جدوجہد سے خدا تک نہیں پہنچ سکتا	۳۹۹	باری باری اور خالق میں فرق
۴۸۷	قرب پانے کا طریق	۸۹	
۵۱۵	نجات اللہ مالک ہے جسے چاہے نجات دے	۹۰	
۳۰۰	غیر مسلموں کی بخشش		
۴۰۰			

۵۰۸	حضرت ہاجرہؓ پر الہام الہی کا نزول	عبرانی میں تُوَاب کے معنوں میں اللہ کی کوئی
۵۰۸	حضرت اسماعیلؑ نام الہام سے رکھا گیا تھا	صفت بیان نہیں ہوئی
	حضرت مسیحؑ ناصری پر آخری الہام نازل ہونے	متفرق
۴۱۷	کارد	اللہ تعالیٰ کسی مذہب کا محافظ کب تک رہتا ہے
	آنحضرتؐ کو بذریعہ الہام خسرو ثانی کے قتل کی اطلاع	یہود صفت تُوَاب کے قابل نہیں ہوتے
۳۳۸	دی گئی	اللہ کے عالم الغیب ہونے کے متعلق لوگوں کے
۵۱۶	حضرت مصلح موعودؑ کا دعویٰ الہام	مختلف نظریات
	حضرت مصلح موعودؑ کا الہام (جون ۱۹۰۸ء)	اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ
۳۲۳	اعملوا اللہ اوّٰد شکرا	صفات الہیہ
	الہام کو پورا کرنے کے لئے انسانی کوشش	تَوَاب
۴۷۶، ۴۵۸	کا جواز	۴۶۹
	انبیاء کے مخالفین کو نبی کی صداقت کے متعلق الہام	۴۸۷، ۴۷۵
۴۲۱	نہیں ہوتا	۴۶۹
	امامت	۵۲۸
	امامت کی دو اقسام امامت نبوت اور امامت	۵۱۲
۴۵۴	خلافت	۴۸۷، ۴۷۵
۴۴۱	امامت کی مختلف حیثیتیں	الوہیت
۴۴۰	امامت و نبوت لازم و ملزوم ہیں	مسیح کی الوہیت کے متعلق عیسائیوں کے نظریات
۴۴۲	حضرت ابراہیمؑ کے امام ہونے کا مفہوم	اور ان کا رد
	ابراہیمؑ کی امامت سے مراد نبوت نہیں بلکہ ان کا	الہام (نیز دیکھئے وحی - پیشگوئیاں)
۴۳۹	اسوہ ہے	الہام کی مختلف قسمیں
۴۳۸	ابراہیمؑ کی امامت اقوام	نبی اور عام آدمی کے الہام میں فرق
۴۴۴	بنو اسحاق سے امامت چھینی جانی مقدر تھی	کسی خواب یا الہام کا سچا ہونا اس کے رحمانی
۴۴۴	بنو اسماعیل میں امامت ہمیشہ رہتی مقدر ہے	ہونے کا ثبوت نہیں
	بنو اسماعیل میں سے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام	سب سے بڑا خیر الہام الہی ہے
۴۴۴	دنیا کی امامت عطا کی گئی	جو قوم مورد الہام ہو وہ باقی قوموں پر فضیلت
	آنحضرتؐ کی امت میں سے مسیح موعودؑ کو امامت کا	رکھتی ہے
۴۴۴	مقام بخشا گیا ہے	الہام کو باقی علوم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے
	امت محمدیہ	الہام کے مقابل پر فلسفیوں کی باتیں کمزور ہوتی
۶	امت محمدیہ کی فضیلت	ہیں

۲۳۳	انجیل خدا کی کتاب نہیں کہلا سکتی (تفصیل)	۵۲۹	اُمَّةٌ وَسَيَكُنَّ هُوْنَ كَامِفْهُوْم
۲۳۴	ایپوکریفا (غیر مصدقہ) اناجیل	۵۲۹	سب سے اعلیٰ اور بہترین امت ہے
	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تنقید کے نتیجے میں		اس امت کے بعد اب قیامت تک کوئی امت
۲۱	انجیل میں تحریف	۵۲۹	نہیں
۴۰۳	انجیل کے متعلق یہود اور نصاریٰ میں اختلاف		امت محمدیہ کا نام مسلم سے جبکہ دوسرے انبیاء کے
	انجیل میں حضرت مسیحؑ کے مثیل مولیٰ ہونے کا	۵۰۰، ۴۹۹	سچے پیرو صرف صفائی لحاظ سے مسلم تھے
۲۸۶	دعویٰ مذکور نہیں	۵۳۲	امت محمدیہ اور امت موسویہ میں فرق
	افسوس ہے کہ انجیل نے حضرت مسیحؑ کے معجزات		قیامت کے دن آنحضرتؐ اپنی امت کی کثرت
۲۷۱	پیش نہیں کئے	۴۸۵	پر فخر کریں گے
۲۸۶	انجیل حضرت عیسیٰؑ کو داؤد کی نسل بتاتی ہے	۵۳۲	آنحضرتؐ کی استعداد کے مطابق آپ کو امت ملی
۲۸۶	انجیل کی رو سے مسیح نے شریعت کو لعنت قرار دیا	۵۳۳	امت محمدیہ قیامت تک شاہد رہے گی
۴۲۹	عیسائی انجیل پر عامل نہیں	۴۳۳	امت محمدیہ میں منعم علیہ لوگوں کا مرتبہ
	انسان	۵۳۳	امت میں بعثت مامورین کا ثبوت
۵۱۴، ۲۹۵	پیدائش کی غرض	۵۳۰	امت کو تعلیم و تربیت ہمیشہ جاری رکھنے کی تاکید
۳۹۵	پیدائش کا مقصد عبد بننا ہے	۵۲۹	امت کو اعمال میں میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے
۵۱۵	انسان کو اللہ کا اپنی صورت پر پیدا کرنے کا مفہوم	۵۳۰	قوموں کے لئے شاہد کا مفہوم
۴۹۶	انسان پر قبض و بسط کی حالتیں	۴۳۹	حضرت ابراہیم سے عقیدت
۴۸۳	انسان مختار بھی ہے اور مجبور بھی		امن
۳۹۴	ہر انسان کے لئے مقدر ہے کہ وہ جنت میں جائے		قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے امن قائم
۵۱۴، ۴۹۳	انسان فطرتاً نیک پیدا ہوتا ہے	۴۰۴	ہو سکتا ہے
	انسان کی فطرت میں اعلیٰ روحانی مقام حاصل		انسان کے امن کو دوام بخشنے والے امور اللہ پر ایمان
۱۱	کرنے کا احساس	۱۴۵	یوم آخر پر ایمان اور عمل صالح
۱۱	انسان کی فطرت میں توحید کا اثر رکھا گیا ہے	۴۰۷	مذہبی امن قائم کرنے کا طریق
	قرآنی نظریہ کے مطابق انسان کی عمر ایک ہزار		امی
۳۰۲	سال بعید از قیاس امر ہے		امی سے مراد ایسا پڑھا لکھا بھی ہے جو محض پڑھ سکتا
۲۴۹	بنی نوع انسان سے عمومی ہدردی کا حکم	۲۲۶	ہے معانی کو سمجھ نہیں سکتا
	انصار اللہ		انجیل
	خدا تعالیٰ کے انصار میں شامل ہونے والوں کے	۵۰۰	انجیل خدا کا دیا ہوا نام نہیں
۴۸۷	لئے لائحہ عمل	۴۲۹	آنحضرتؐ کے زمانہ میں انجیل محرف و مبدل
			ہو چکی تھی

۲۷۸	انصار مدینہ رضی اللہ عنہ آنحضرتؐ پر ایمان لانے کا واقعہ
۳۹۸	انعام احسان اور انعام میں فرق
۱۰۸	من اور سلوی دونوں بطور انعام تھے
۳۷۳	انقلاب انقلاب عظیم پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نیا
۴۶۹	آسمان اور زمین کب بناتا ہے
۵۵۷	اہل کتاب کا آنحضرتؐ کو بیٹوں کی طرح پہچانا
۵۳۸، ۲۶۱	حقیقی اہل کتاب مسلمان ہیں
۲۳۳	اپو کرینفا غیر مصدقہ اناجیل
۲۴	ایمان ایمان کے مختلف معانی
۱۶۳	ایمان کے لئے ایک حد تک انخلاء ضروری ہے
۲۳۳	ایمان کے بغیر عمل صالح پیدا نہیں ہوتا
۲۳۹	نیک عمل کے لئے ایمان و احتساب کی شرط
۴۴۲	ایمان اور اسلام
۵۱۰	ایمان کامل غیر مشروط ہوتا ہے
۲۸۰	ایمان لانا اللہ اور بندے کا سودا ہوتا ہے
۲۳۳	ایمان کی خرابی کی وجہ سے انسان حق کا انکار کرتا
۱۱۴	ہے قوم کے متزلزل کے زمانہ میں اس کے ایمان کی بنیاد
۱۷۱	سنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے
۱۷۴	مردوں کا دنیا میں واپس آنا ایمان کی غرض کو باطل
۵۰	کردیتا ہے
۳۷۵، ۳۷۴	بادشاہت اور حکومت بادشاہت کے متعلق قانون قدرت
۳۷۳	بانہیل تباہ ہو گئے تھے
۴۷۸	بانہیل انسانی دست برد کا نشانہ بنی رہی
۵۰۲	بانہیل سے حضرت یعقوب کی اولاد کو وصیت کا ذکر
۵۴۴	نکال دیا گیا ہے تحریف و تبدیلی کے باوجود بعض پیشگوئیاں محفوظ
۲۳۳	ہیں اس کی موجودہ شکل میں ہزاروں صدائیں پائی جاتی
۲۴	ہیں بانہیل کے عہد نامہ قدیم میں بعث بعد الموت
۱۶۳	کا ذکر بانہیل میں سبت کے احکام
۲۳۳	بانہیل بخت نصر کے زمانہ میں ضائع ہو گئی تھی پھر
۲۳۲	عزرائی نے اس کو دوبارہ لکھوایا
۲۳۳	بانہیل حضرت مسیح کے زمانہ سے بھی پہلے حرف
۲۳۲	مبدل ہو چکی تھی
۲۳۳	بانہیل کو حفظ کرنے کا بھی کبھی رواج نہیں رہا
۲۳۳	بانہیل سے یہود نے عقیدہ حیات بعد المات غائب
۲۳۳	کر دیا ہے
۱۱۴	بانہیل میں موسیٰ کے سفر کے واقعات میں تضاد
۱۷۱	موسوی شریعت میں گائے کی قربانی کا حکم اور اس
۱۷۴	کی حکمت
۱۷۴	بنی اسرائیل سے گائے ذبح کروانے کا واقعہ
۱۷۴	بنی اسرائیل کے کچھڑے کو معبود بنانے کے واقعہ
۵۰	میں قرآن مجید کے بیان میں فرق

۳۳۲	حضرت سلیمان پر شرک اور کفر کا الزام بخشش	۹۱	بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کے قتل کئے جانے کا واقعہ
۴۰۰	غیر مسلموں کی بخشش اور مغفرت بدظنی	۱۰۸	بانہیل بنی اسرائیل کے لئے سلوئی (بئیر) کا آنا بطور عذاب قرار دیتی ہے اور قرآن کریم بطور احسان حضرت ابراہیمؑ کی حضرت اسماعیلؑ کے حق میں دعا اور اس کی قبولیت (بانہیل کے مطابق) ۵۰۹، ۵۰۸
۵۱۵	دل کی بدظنی انسان کو نامراد رکھتی ہے بدی	۴۷۸	بانہیل سے ایسے اشارات ملتے ہیں کہ اسماعیلؑ کی نسل بھی انعامات کی وارث ہوگی
۲۳۷	قابل مواخذہ ہونے کے لئے دو شرائط	۴۷۹	حضرت اسماعیلؑ کے متعلق پیشگوئیاں بنو اسحاق کو اسماعیلؑ اور آپ کی نسل سے شدید نفرت تھی
۲۳۱	فعل بدی مختلف اقسام بروز	۴۷۷	بانہیل میں حضرت اسماعیلؑ کی نبوت کا ذکر نہ ہونے کی وجہ
۵۳۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بروزی مسح موعودؑ بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے	۵۰۸	آنحضرتؐ کے متعلق پیشگوئیاں
۲۷۶	بعث بعد الموت بعث بعد الموت، ہی انسانی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والی ہے	۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۵	آنحضرتؐ کی بعثت کے متعلق موسیٰؑ کی پیشگوئی
۲۵، ۲۴	بعث بعد الموت کا ذکر عہد نامہ قدیم میں	۵۴۵، ۵۴۴	فاران کے مکہ میں ہونے کا ثبوت بانہیل سے
۲۴	بعث بعد الموت کے متعلق حضرت موسیٰؑ، داؤد اور ایوب کی وضاحت	۵۴۶	جبریلؑ کو خدا کا کلام لانے والا فرشتہ قرار دیا گیا ہے
۲۵	بعث بعد الموت کا ذکر تورات اور زبور میں	۳۰۶	میکائیلؑ - رزق دینے والا فرشتہ ہے (بانہیل سے ثبوت)
۷۰، ۶۹	یہود نے بانہیل سے یہ عقیدہ غائب کر دیا ہے	۳۱۴	حضرت سلیمان کی دشمن سوسائٹیوں کا ذکر
۲۳۴	بعثت مامور کی بعثت سے قبل لوگوں کی توجہ اس کے ظہور کی طرف پھیری جاتی ہے	۳۳۳، ۳۳۲	بچھڑا
۲۲۵	بقرہ	۹۱	بچھڑا کی پرستش کرنے والوں کا قتل (بانہیل) بنی اسرائیل سے نیا عہد (اسلام) باندھنے کی پیشگوئیاں
۱۷۴	بقرہ کا لفظ گائے اور بیل دونوں پر بولا جاتا ہے بندر	۳۶۸	قتل اور غلام بنانے سے روکنے کے احکام انبیاء کے واقعات بیان کرنے میں قرآن کریم سے موازنہ
۱۶۷	یہود کے بندر بننے کی حقیقت یہود کے حقیقی بندر نہ بننے کے متعلق سابق مفسرین کی	۲۵۵	
۱۶۹	تائید	۵۰۲	

۲۱۱	پتھر سے پانی کا نکلنا	۱۷۰	بندر کی حصلتیں
۲۱۰	پتھر دل لوگ		بندہ
۱۵۶	پہاڑ بنی اسرائیل پر پہاڑ بلند کرنے کا مطلب	۵۱۵	بندے کے ظن کے مطابق اللہ سلوک کرتا ہے بندہ اپنی ذاتی جدوجہد سے خدا تک نہیں پہنچ سکتا
	پیشگوئی	۴۸۷	
۴۷۹	بائبل میں حضرت اسماعیلؑ کے متعلق پیشگوئیاں		بہادری
	آنحضرتؐ کی بعثت کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی	۴۹۰	بہادری اور بزدلی کا بیج ایک ہے
۵۴۵، ۵۴۴	آنحضرتؐ کے متعلق بائبل کی پیشگوئیاں		بیت اللہ (نیز دیکھئے کعبہ)
۲۸۹	قرآن کریم کے کلمے کلمے نازل ہونے کی پیشگوئی	۴۴۶	خانہ کعبہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے قبلہ عالم مقرر کرنے کی وجہ
۴۸۲، ۴۸۱	آنحضرتؐ کے متعلق بائبل کی بعض پیشگوئیاں جو مسیح پر چسپاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے	۵۲۳	بیل قرآن کریم میں لفظ بقرہ گائے اور بیل دونوں پر بولا جاتا ہے
۲۸۵	مشرکین مکہ کی ذلت و رسوائی کی پیشگوئی	۱۷۴	بنی اسرائیل کا بیل کی پرستش کی طرف میلان اور اس کے ذبح کرنے کا حکم
۴۱۰	مدینہ میں خانہ کعبہ کے متعلق قرآنی پیشگوئی	۱۷۱	مصری لوگوں میں بیل کی پرستش
۴۱۲	مسلمانوں کی فتوحات کی پیشگوئی	۱۷۲	بینات
۴۱۳	اسلام کے مشرق و مغرب میں پھیلنے کی پیشگوئی		وہ دلائل جو اپنی ذات میں کسی نبی کی صداقت کا ثبوت ہوتے ہیں
۲۶۰	مسلمان بیہود کے نقش قدم پر چلیں گے طاغوت کے متعلق آنحضرتؐ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں	۲۶۳	بینات صرف مسیح سے مخصوص نہیں سب انبیاء کو دیئے گئے اس سے حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا استدلال غلط ہے
۲۶۴	اقوام عالم کے دین واحد پر جمع ہونے کی پیشگوئی	۲۹۰، ۲۶۶	بینہ اور دلیل میں فرق
۴۵۰	مسیح موعود کے ذریعہ پوری ہو رہی ہے	۲۶۴، ۲۶۳	
۳۲۴	حضرت مصلح موعود کی خلافت کی پیشگوئی		
۴۷۷	پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے دعا کرنا ناقابل اعتراض امر نہیں		
۳۰۸، ۳۰۷	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اندازی پیشگوئیوں پر اعتراض		
	ت		
	تبتل		پتھر
۱۲	کامل لوگ تبتل اختیار کرتے ہیں	۱۲۳	موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر سوٹا مار کر چشمے جاری کرنے کا معجزہ

۲۷۷	تصدیق کی دو اقسام	۱۲	تبتل قالوا ابلی کا جواب دینے کی انسانی کوشش ہے
۲۸۱	تعبد (نیز دیکھئے عبید اور عبادت)	۴۸۵	تعداد کے بڑھانے کا ذریعہ ہے
۲۲۳	تعلب سے خالی گھڑی میں انسان سچائی قبول کرتا ہے	۵۳۱	اگر مسلمان نسلاً بعد نسل تبلیغ ہدایت کا کام جاری رکھتے تو کبھی تباہ نہ ہوتے
۲۸۲	تقدیر (نیز دیکھئے جبر و قدر)	۳۳۹	کسری ایران کو آنحضرتؐ کا تبلیغی خط لکھنا
۲۸۲	تقدیر کا صحیح علم دینے والا قرآن کریم ہے	۴۸۵	اسلام سے دلچسپی رکھنے والوں کو لٹریچر مہیا کیا جائے
۳۹۱	تقویٰ اصل معیار ہے	۲۹۵، ۲۹۴	عیسائیوں کا ساری دنیا کو تبلیغ کرنا مسیح اور حواریوں کے طرز عمل کے خلاف ہے
۴۰۵، ۴۰۴	تکفیر اسلامی فرقوں کی باہم تکفیر پر افسوس	۴۱۶	عیسائی پادری کا اقرار کہ تثلیث فی التوحید کا عقیدہ انسانی سمجھ سے بالا ہے
۱۳	تکمیل روحانیت	۲۱۸	تحریر میں نیت کا تعلق
۲۲۷	تلاوت (نیز دیکھئے قرآن کریم)	۲۳۲	بائبل حضرت مسیح کے زمانہ سے بھی پہلے محرف مبدل ہو چکی تھی
۳۵۳	تلقیح کھجور کے مادہ پھولوں پر بار آوری کے لئے	۲۱	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تنقید سے بچنے کے لئے انجیل میں تحریف
۲۸۲	تمثیل بیہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے متعلق حدیث میں ایک تمثیل	۴۱۶	تخلیق کائنات
۱۱۸	تمسخر یہ گناہ بے لذت دل کو مردہ کر دیتا ہے	۴۷۵	خلق اور بدع میں فرق
۱۷۵	دینی امور میں ہنسی اور تمسخر جابلوں کا کام ہوتا ہے	۴۸۶	تزکیہ نفس
		۴۷۵	آنحضرتؐ کی بعثت کی ایک غرض تزکیہ ہے
		۴۸۵	تزکیہ کے متعلق تمام ضروری احکام قرآن نے بتا دیئے ہیں
		۴۷۵	انسان کو خدا نما بنانا ہے
		۴۸۵	تزکیہ میں نسل کو بڑھانے کا مفہوم بھی ہے

توبہ	توبہ جان کنڈنی تک قبول ہوتی ہے	توبہ
(حدیث)	۲۹۷	جبر
بنی اسرائیل کے انبیاء بھی توبہ کو ہی گناہ کا علاج	۱۶	اسلام میں کوئی جبر نہیں
بتاتے ہیں		اسلام کے سوا دیگر مذاہب جبر سے کام لیتے ہیں
توحید		جبر و قدر (نیز دیکھئے تقدیر)
توحید ایک بنیادی اصل اور انبیاء کا مشترک مشن ہے	۲۴۸	جبر و قدر کا صحیح توازن تقدیر ہے
انبیاء پر ایمان لائے بغیر توحید حقیقی کا قیام ناممکن ہے	۵۰۵	جبر و قدر کا صحیح علم قرآن کریم نے ہی دیا ہے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ توحید کا قیام		جبر و قدر سمجھانے کے لئے ایک عمدہ مثال
انسان کی فطرت میں توحید کا اثر رکھا گیا ہے	۵۰۵	جبر و قدر کے متعلق حضرت مسیح موعود کی متوازن تعلیم
توحید کسی خاص ملک کی میراث نہیں	۱۱	جذبات
تورات (نیز دیکھئے بائبل)	۶۶	نبی کے جذبات اس کی تعلیم کے تابع ہوتے ہیں
تورات خدا کا دیا ہوا نام نہیں	۵۰۰	فلاسفر کے جذبات اس کے افکار کے تابع نہیں ہوتے
تورات کے احکام پر عمل کروانے والے انبیاء	۲۶۵	متضاد جذبات ایک منبع سے تعلق رکھتے ہیں
آنحضرتؐ کے تورات کا مصدق ہونے کا مفہوم	۳۱۸	رغبت و نفرت اور بہادری و بزدلی کا منبع ایک ہے
تورات کے اصلی نسخہ کے ضائع ہونے پر عزرا نبی	۳۷۴، ۳۷۳	جزا و سزا
نے اسے اپنی یادداشت سے مرتب کیا	۳۲۹، ۳۱۹	شرعی قانون کے مطابق دی جانے والی سزا میں
یہود کا تورات کو پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مفہوم		اہمیت جرم کو مد نظر رکھا جاتا ہے
تورات آنحضرتؐ کے زمانہ میں محرف و مبدل	۴۲۹	نیک عمل کے ساتھ ایمان و احتساب کی شرط
ہو چکی تھی	۴۶۲	جزا و سزا کے لئے ارادہ کی شرط
تورات میں کعبہ کا ذکر ملتا ہے		اچھے اور برے اعمال کی ایک جزا اس دنیا میں بھی
بنو اسماعیل سے دشمنی کی وجہ سے مکہ کا ذکر تورات		ملتی ہے
سے نکال دیا گیا ہے		ہائی ٹریزن کی سزا
تہجد		جزا و سزا کے متعلق یہود کا عقیدہ
تہجد سب سے بڑی نیکی ہے (حدیث)		جماعت احمدیہ
		سچی جماعت کی علامات
		غرض و غایت
		مبلغین، امراء اور پریذیڈنٹوں کے فرائض

۳۹۶	نجات یافتہ ہونے کے لئے دنیوی جنت کا پانا	۳۸۷	سلسلہ کی خدمت کا شوق رکھنے والوں کے لئے کتاب منصب خلافت کے مطالعہ کی تاکید یہاں تو سب کچھ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
۳۹۶	اسلام دنیا میں ہی جنت عطا کرتا ہے	۳۷۶	ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کو بھی آنحضرت کی نبوت کے تابع اور ظل سمجھتے ہیں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مستقل نبی نہیں مانتے
۳۹۶	دنیوی جنت سے مراد	۳۷۶	احمدیت کی تعلیم ہے کہ حکومت وقت کے خلاف کھڑا ہونا درست نہیں
۱۶۵	جمعۃ المبارک	۳۷۶	غیر احمدیوں اور ہمارے درمیان فیصلہ کن آیت مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے جماعتی نظام
۱۶۶	جمعہ مسلمانوں کا سبت ہے	۱۶۶	جماعت احمدیہ کی جمعہ کی چھٹی کے لئے کوشش جماعت کی مخالفت میں ہندو اور عیسائی اور مسلمان متحد ہو جاتے ہیں
۱۶۶	جمعہ کے آداب و احکام	۳۷۶	مساجد سے روکا جانا
۱۶۶	جمعہ کی چھٹی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا گورنمنٹ ہند کو میموریل بھیجنا اور جماعت احمدیہ کی کوشش	۳۷۶	جماعت کی ترقی کی پیشگوئی
۱۶۶	جماعت احمدیہ کی تعلیم ہے کہ حکومت وقت کے خلاف کھڑا ہونا درست نہیں	۳۷۶	اقوام عالم میں قبولیت
۱۶۶	جنگ (نیز دیکھئے جہاد اور غزوات)	۳۷۶	ترقی کے متعلق حضرت مصلح موعود کی ایک روایا تفرقہ سے بچنے کے لئے حضرت مصلح موعود کی ایک روایا
۱۶۶	صحابہ کی طرف سے جاں نثاری کے عزم کا اظہار	۳۷۶	جنت
۱۶۶	اوس اور خزرج کی جنگ	۳۷۶	جنت کا ظل مسجد ہے
۱۶۶	جنگ عظیم دوم	۳۷۶	جنتان کے معنی
۱۶۶	امریکہ کی طرف سے انگلستان کو ۲۸۰۰ ہوائی جہاز ملنے کے متعلق حضرت مصلح موعود کی ایک روایا	۳۷۶	ہر انسان کے لئے مقدر ہے کہ وہ جنت میں جائے
۱۶۶	جو حیرت انگیز طور پر پوری ہوئی	۳۷۶	جنت میں بھی نیک عمل ہوگا
۱۶۶	جہاد (نیز دیکھئے غزوات جنگ)	۳۷۶	جنت کا پروانہ
۱۶۶	سب سے بڑی نیکی جہاد ہے (حدیث)	۳۷۶	یہود کا اعتقاد کہ غیر یہودی جنت میں نہیں جاسکے گا
۱۶۶	جہاد کا غلط تصور	۳۷۶	
۱۶۶	موجودہ زمانہ زبان اور قلم کے جہاد کا مطالبہ کرتا ہے	۳۷۶	
۱۶۶	جہاد بالسیف کا نہیں	۳۷۶	
۱۶۶	جہنم	۳۷۶	
۱۶۶	اسلام جہنم کے عذاب کو دائمی قرار نہیں دیتا	۳۷۶	
۱۶۶	عذاب کا ڈر ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے ہوتا ہے	۳۷۶	
۱۶۶	یہود کا اعتقاد کہ وہ زیادہ سے زیادہ ۱۲ ماہ جہنم میں رکھے جائیں گے	۳۷۶	

۳۹۴	ارسلت الی الخلق كافة		
۴۸۷	انا دعوة ابي ابراهيم		
۵۱۵	انا عند ظن عبدی بی		
۳۹۴	بعثت الی کل احمر واسود	۵۰	چالیس روحانی دنیا میں تکمیل کا عدد ہے
	تزوجوا اللود اللود فانی مکاثر		چشمہ
۴۸۵	بکم الامم		موٹی کے عصا مارنے سے بارہ چشمے پھوٹنے کا مجزہ
۵۱۴	خلق الله ادم علی صورته	۱۲۳	چشموں کے پھوٹنے کا ذکر بائبل میں مذکور نہ
۳۹۸	من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد		ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ بے بنیاد نہیں
	احادیث کا ترجمہ	۱۲۳	بارہ چشموں کے آثار کے متعلق ایک سیاح کی
	حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے مکہ میں آباد		شہادت
۴۶۵، ۴۵۸	ہونے کا واقعہ	۱۲۴	چوری
۴۰۷	وفد نجران کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت		اسلام میں چوری کی سزا
۴۹۶	انسان کی قبض و بسط کی کیفیتوں کا بیان	۵۵۷	چچک
۲۹۹	بوڑھے پاگل اور بہرے سے مواخذہ نہیں ہوگا		ابرہہ کی فوج میں چچک کی بیماری سے تباہی
۴۹۷	تو بہ جان کنڈنی تک قبول ہوتی ہے		
۴۷۰	سب سے بڑی نیکی	۴۴۸، ۴۴۷	
	خدا کی خاطر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی نیکی ہے		
۴۱۲			
۴۸۶	صفائی کے متعلق حدیث		
	اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس	۴۳۹	حج بیت اللہ
۵۵۷	کا ہاتھ کاٹ دوں گا		اسلامی عبادات میں نمایاں مقام رکھتا ہے
	تحويل قبلہ کے متعلق سنن ابی داؤد کی حدیث		حج میں حضرت ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ اور
۵۵۰	کے وضعی ہونے کا ثبوت	۴۳۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آنکھوں
۲۸۲	یہود و نصاریٰ کے متعلق ایک تمثیل		کے سامنے آتے ہیں
	حرم	۴۵۳، ۴۵۲	مقام ابراہیم پر طواف کے بعد دو سنتیں پڑھنا
	حضرت ابراہیم نے مکہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم		
۴۵۸	نے مدینہ کو حرم قرار دیا	۳۶۵	حدیث
	حدود حرم میں جانور شکار کرنا اور رخت کا ٹٹا منع ہے		کسی حدیث کی بناء پر قرآن کی کوئی آیت
۴۵۱		۳۹۹	منسوخ نہیں ہو سکتی
			الاحسان ان تعبد الله کانک تراہ فان لم
			تکن تراہ فانہ یراک

حکومت	حزن
۴۱۳ حکومت کے حصول کے متعلق الہی سنت	۴۰۰ حزن اور خوف میں فرق
اسلام کی رو سے ظالم حکومت سے ہجرت کا حکم ہے	حسد
لیکن اگر ہجرت کی اجازت بھی نہ ملے تو مقابلہ کی	۳۸۲ حسد کی دو قسمیں
اجازت ہے	۲۸۲ یہود کا مسلمانوں سے حسد
حواری	حسن سلوک
مسیح کے حواریوں کا آنحضرتؐ کے صحابہؓ سے موازنہ	بنی نوع انسان سے حسن سلوک روحانیت کی
۲۸۸	۲۴۹ طرف پہلا قدم ہے
۵۴۵ مسیح کے بارہ حواریوں کا طرز عمل	تمام نوع انسانی سے مذہب و ملت کے امتیاز کے
۲۸۸ ایمانی حالت	۲۵۰ بغیر حسن سلوک
۲۹۵ حواری غیر اقوام میں تبلیغ کو ناجائز سمجھتے تھے	والدین اقرباء یتامیٰ اور مساکین سے حسن سلوک
	۲۴۹، ۲۴۸ کا حکم
	والدین اور اقرباء بطور حق نیک سلوک کے مستحق ہیں
	۲۴۹
خاتم النبیین	حق
خاتم النبیین کا بنی اسماعیل میں سے ہونا مقدر تھا	۲۸۵ حق سے مراد دائمی صداقت
۴۷۶ اور حضرت ابراہیم پر یہ بات کھل چکی تھی	حق ح حقوق
دنیا کا نجات دہندہ آخری رسول محمد رسول اللہ	۲۹۱ حق تلفی کی دو قسمیں
۴۷۷ صلی اللہ علیہ وسلم	حکم
وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائع کا	۴۸۳ حکم اور فرض میں فرق
اختتام ہے	۴۸۳ ضرورت کے تحت بدلنے والے احکام
خانہ کعبہ نیز دیکھئے عنوانات بیت اللہ اور کعبہ	حکمت
ختنہ	حکمت کے مختلف معنی
۶۸ مصریوں میں فراعنہ اور امراء ختنہ کراتے تھے	۴۸۴ حکمت اور علم میں فرق
۶۸ ایسے سینیا کے عیسائیوں میں ختنہ کی رسم	آنحضرتؐ کی بعثت کا ایک مقصد حکمت سکھانا
۶۸ امریکہ کے قدیم قبائل میں ختنہ	بھی ہے
۶۸ آسٹریلیا کے قدیم قبائل میں ختنہ	۴۷۵ احکام کی حکمت بتانے کے نتیجے میں جسم کے ساتھ
۴۷۸ ابراہیمی عہد کی علامت	دل و دماغ بھی تابع ہو جاتے ہیں
۴۷۹ بنو اسماعیل میں ختنہ کا رواج	۴۷۵

۷۱	مصریوں اور شامیوں میں مقدس جانور سمجھا جاتا تھا	۴۴۴	ابراہیمی عہد کی ظاہری علامت جسے عیسائیوں نے ترک کر دیا
۷۰	خزیر حرام قرار دیا		خفیہ سوسائٹیاں (نیز دیکھئے فری میسنرز)
۱۶۸	یہود کے خزیر بننے کی حقیقت	۳۴۱	تاریخ میں تین اہم مواقع پر خفیہ سوسائٹیوں کا قیام
	خواب		خلافت
۸۳	الہام اور خواب کی مختلف قسمیں	۴۸۷	اسلامی خلافت کے فرائض
	خوف		اسلام نے نظام قائم رکھنے کے لئے خلافت کا سلسلہ قائم کیا ہے
۴۰۰	خوف اور رزن میں فرق	۵۳۱	حضرت مصلح موعودؑ کو ۱۹۰۸ء میں خلافت کی بشارت دی گئی ہے
	د	۳۲۳	قوم کی اصلاح کا کام صرف خلافت کی ذمہ داری نہیں ہر فرد کی ہے
	درشت کلامی	۵۳۱	خلافت اندلس
۵۲۳	قرآن کریم پر درشت کلامی کا اعتراض		خلافت عباسیہ کے خلاف روم کی عیسائی سلطنت سے معاہدہ
	دعا		خلافت عباسیہ
۴۹۳	دعا میں جذبہ اور جوش پر عقیدہ کا اثر	۲۶۰	اندلس کی خلافت کے خلاف فرانس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کرنا
۴۵۹	دعا میں خدائی منشاء کے مطابق احتیاط		خلافت قومی
	حضرت ابراہیم اور دعا		آنحضرتؐ کی وفات پر انتخاب خلافت کے وقت سعد کا اختلاف
۴۷۰	اپنی ذریت اور اولاد کے لئے دعا	۲۶۰	خلافت کا پروپیگنڈہ کرنے والوں سے قطع تعلق کا حکم
	حضرت اسماعیل کی نسل سے عظیم الشان رسول کی بعثت کی دعا		إِذَا بُيِعَ الْخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْبَلُوا الْأَخْيَرَ كِ تَشْرِيح
۴۷۴	حضرت ابراہیمؑ کی دعائیں اور ان کی قبولیت	۸۸	خلق / اخلاق
۵۰۹	حضرت ابراہیمؑ کی دعا اسلام اور آنحضرتؐ کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت ہے	۸۸	آنحضرتؐ کے اخلاق عین قرآن تھے
۴۸۷	خدائی وعدوں کے باوجود دعا کی ضرورت	۸۸	قوموں کے اخلاق کی درستگی کے لئے نگرانی کی ضرورت ہے
۵۱۲	پیغمبری کو پورا کرنے کے لئے دعا کرنا قابل اعتراض امر نہیں		
۴۷۷	دل	۳۰۹	
	کلام الہی دل پر نازل ہوتا ہے اور فلاسفر کے افکار کا نزول دماغ پر ہوتا ہے	۵۳۰	
۳۰۸			

۱۷۶	دینی امور میں ہنسی اور تمسخر جاہلوں کا کام ہے	دلیل
	۱	دلیل کی اقسام
	۲۶۳	دلیل اور بینہ میں فرق
	۲۶۴	دلیل اور مشاہدہ
	۲۳۰	عقلی دلائل خدا تعالیٰ کی معرفت عطاء کرتے ہیں
۵۲۸	رأفت اور رحمت میں فرق	اسلام دلیل سے بات منواتا ہے
	رجز	دماغ
۱۱۸	رجز سے مراد طاعون یا اولوں کا عذاب	کلام الہی کا نزول دل پر اور فلاسفوں کے افکار
۳۶۶	رحم	دماغ پر نازل ہوتے ہیں
	رحمت	دنیا
۵۲۸	احسان رحمت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے	اسلام دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا صرف نقطہ نگاہ
۵۲۸	رحمت اور رأفت میں فرق	کو بدلتا ہے
	رزق	دنیا کی محبت بعث بعد الموت پر عدم ایمان کا
	رزق کے متعلق خدا تعالیٰ مومن اور کافر میں فرق	ثبوت ہے
۲۶۲	نہیں کرتا	قرآن کریم کی رو سے مردہ اس دنیا میں واپس نہیں
	رسالت	آسکتا
۲۳۰	ہر رسول بشیر اور نذیر ہوتا ہے	دنیا کا نجات دہندہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ
۳۱۶	تمام رسولوں کے ساتھ پیمانے تھے	وسلم ہے
	جتنا اعلیٰ درجہ کا رسول ہوتا ہی اعلیٰ درجہ کی قوم اسے	دنوی جنت سے مراد
۵۳۲	عطا کی جاتی ہے	دین (نیز دیکھئے مذہب)
	آنحضرت ہی ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت	آنحضرت اور آپ کے اتباع کی ساری جدوجہد
۲۷۶	قیامت تک منقطع نہیں ہوگا	دین کے لئے تھی
	وہی محمد ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام	مسیح موعود کے ذریعہ نیا دین جاری نہیں ہوگا بلکہ
۲۷۶	شرائع کا اختتام ہے	محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی زندہ ہوگا
	مسیح موعود کی رسالت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہی	دین کے لئے زندگیاں وقف کرنے کی ضرورت
۲۷۶	رسالت ہے	دین کی اشاعت ممکن نہیں جب تک دنیا میں ہر جگہ
	رشتہ دار	خانہ کعبہ کے ظل قائم نہ کئے جائیں
۲۴۸	رشتہ دار سے حسن سلوک کا حکم	سچے دین کے اندر تضاد نہیں ہوتا
		مختلف ادیان میں بگاڑ کی وجہ

۳۸۰	حضرت مولوی عبداللہ غزنوی کی رویاء کہ قادیان سے ایک نور نکلا ہے اور میری اولاد اس سے محروم رہی حضرت مصلح موعودؑ کی جماعت احمدیہ کے متعلق	۳۸۹	کے لئے کوشش موت کے مترادف ہوتی ہے
۴۱۲	ایک روایا جماعتی ترقی کے متعلق حضرت مصلح موعودؑ کی ایک	۴۵۵	روح کا روحانی پہلو
۵۶۰	روایا حضرت مصلح موعودؑ کی ایک رویاء جنگ عظیم دوم کے متعلق	۵۵۵	روح کی اجازت
۵۱۶	رہبانیت ممانعت کی حکمت	۴۶۳	موجوب نہیں ہونا چاہیے
۵۲۹	ز	۴۱۶	روح اسلام روح و مادہ کو حادث قرار دیتا ہے
	زر تشریحی مذہب	۴۲۳	آریوں کے نزدیک خدا روح کا خالق نہیں
۲۳۷	زر تشریحیوں کا فضیلت نسب کا عقیدہ		روح القدس
	زکوٰۃ	۴۱۶	مسح کی اہلیت کے عقیدہ سے روح القدس میں نقص ماننا پڑتا ہے
۲۴۹	زکوٰۃ مالی عبادات کی سردار ہے	۲۷۳	روح القدس کا نزول غیر نجی پر ہو سکتا ہے
۳۸۵	زکوٰۃ کے مصارف	۲۶۶	روح القدس سے تائید پانا صرف مسح سے مخصوص نہیں
۲۵۰	زکوٰۃ میں صدقہ و خیرات شامل ہے	۲۶۷	صحابہؓ کے ساتھ بھی روح القدس کی تائید شامل تھی
	زمانہ	۲۶۷	روح القدس حضرت حسانؓ کے ساتھ
۳۷۵	ضرورت زمانہ اور انبیاء و مصلحین کی بعثت	۲۶۹	روح القدس حضرت معین الدین چشتی کے ساتھ
	ژ		روحانیت
۳۷۳	ژنداوستا	۲۴۹	بنی نوع انسان سے حسن سلوک روحانیت کی طرف پہلا قدم ہے
	س	۲۵۸	ایک بہت بڑا روحانی مرض
			روزہ
		۱۵۲	جہاد اور سفر میں روزہ
			رومن کی تھولک
۴۸۱	ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم	۲۸	رومن کی تھولک کے عقیدہ فدیہ گناہ کا رد

۳۳۵	سبت	۳۷	سمندر
۱۶۳	سبت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو جلاوطنی کی سزا ملی	۳۷	بنی اسرائیل کے لئے سمندر پھٹنے کے معجزہ کی حقیقت
۱۶۳	سبت کے معنی	۴۰۵	سنت اللہ
۱۶۳	یہود میں ہفتہ کے دن منایا جاتا ہے	۲۰۶	عالمگیر سطح پر بدی کا توازن بڑھ جانے پر نبی مبعوث ہوتا ہے
۱۶۳	بائبل میں سبت کے احکام	۴۵۴	انبیاء کے مخالفین کے سنت اللہ کے خلاف مطالبات
۱۶۳	سبت مقرر کرنے کی حکمت	۳۷۸	سلسلہ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے قتل پر دشمن قدرت نہیں پاتے
۱۶۶	یہود کی طرف سے بے حرمتی کی تفصیل	۳۷۸	سنت ابراہیمی
۱۶۵	مسیح ناصر سبت کا احترام کرتے تھے	۳۷۸	ابراہیمی سنت کی تجدید کی ضرورت
۱۶۳	بعد کے عیسائیوں کا اتوار کو سبت قرار دینے کی وجہ	۳۷۸	سوال
۱۶۶	عیسائیوں میں ہفتہ Saturday کو سبت	۳۷۸	سوال کے مختلف مقاصد
۱۶۶	منانے کی تحریک	۳۷۸	آنحضرتؐ کا صحابہؓ کو سوال کرنے سے منع فرمانا
۱۶۳	مسلمانوں کا سبت جمعہ ہے	۳۷۸	صحابہؓ آنحضرتؐ کے احترام کی وجہ سے سوال کرنے سے احتراز کرتے تھے
۲۵۵	سجدہ	۱۱۲	کثرت سے علمی سوالات کرنے سے ضد پیدا ہوتی ہے
۲۵۵	سجدہ کا روحانی پہلو	۳۲۶	تحقیق کی غرض سے سوالات کرنا منع نہیں
۱۱۲	سجدہ سے مراد امتی کے ایسے اخلاق جو ایک نبی کی امت کے نمایان شان ہوں	۳۲۴	اللہ نے مسلمانوں کو سوالات سے روک کر ان کی فطرت اور ذہنیت کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے
۳۲۶	سحر	۳۲۴	سورۃ فاتحہ
۳۲۴	خلاف حقیقت ہے	۳۲۴	مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاریٰ
۳۲۴	سحر سے مراد لمع سازی کی باتیں	۲۸۳	سورۃ بقرہ
۳۲۴	مفسرین کے نزدیک دنیا میں دو دفعہ سحر سکھایا گیا	۲۳۱	سورۃ بقرہ کے مضامین کی کئی آیت رینا و ابعث فیہم
۳۲۴	حضرت سلیمان کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کو جادو آتا تھا	۲۸۱	رسول ہے
۳۲۴	سزا و جزا	۱۰۶	سورۃ جمعہ
۲۳۱	سزا کا فلسفہ	۱۰۶	آنحضرتؐ کی بعثت ثانیہ کی پیشگوئی
۲۸۱	سلوئی	۳۷۲	
۱۰۶	بنی اسرائیل کو ملنے والا سلوئی		
۱۰۶	ہر وہ چیز جو وجہ تسلی ہو		

۲۶۵	غیر تشریحی انبیاء بعض انبیاء کو شریعت نہیں دی گئی جیسے عیسیٰ علیہ السلام	۴۸۱	سورۃ کوثر دعاے ابراہیمی کا جواب ہے
۲۷۰			
۵۴۵	عیسائیت کا شریعت کو لعنت قرار دینا		ش
۲۸۶	انجیل کی رو سے مسیح نے شریعت کو لعنت قرار دیا		شرح صدر
	شفاعت		اسلام کے لئے شرح صدر جنت میں جانے کا
۴۳۵	اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکتی	۲۸۱	پروانہ ہے
	قومیں اپنے منزل کے دور میں شفاعت انبیاء پر		شکر
۴۳۶	زور دیتی ہیں	۴۹۹	عورتوں کی بیعت میں شرک نہ کرنے کا عہد
۴۳۴	یہود ابراہیم کی شفاعت کے امیدوار تھے		حضرت عیسیٰ کو مردوں کا زندہ کرنے والا پرندے
۲۷	اسلام میں مسئلہ شفاعت		پیدا کرنے والا اور غیب سے حصر رکھنے والا سمجھنا
۲۳	یہود اور مسئلہ شفاعت	۵۰۵	مشرکانہ عقائد ہیں
۲۶	عیسائیت اور مسئلہ شفاعت		مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کے مشرکانہ
۲۷	کفارہ اور شفاعت ایک چیز نہیں	۵۰۵	عقائد کی اصلاح فرمائی ہے
۲۷	شفاعت گناہ پر دلیر کرنے کے لئے نہیں ہوتی		بنی اسرائیل سے شرک مٹانے کے لئے گائے ذبح
	شکر	۱۷۵	کرنے کا حکم
	حضرت مصلح موعود کو الہام میں آل داؤد قرار دے		شریعت
۳۲۳	کر شکر گزاری کے ساتھ اعمال کرنے کا حکم	۳۷۵	قانون شرعی کا قانون قدرت پر قیاس کرنا چاہیے
	شودر		پہلی شرائع کی موجودگی میں نئی شریعت کی کیا
۲۹۷	شودر کے لئے وید سننے کی سزا	۳۶۹	ضرورت ہوتی ہے
	شہادت		شریعت اور تعلیم کے متعلق اللہ تعالیٰ کی دو سنتیں
	آنحضرتؐ کے وقت ایک لڑائی میں سترقاری شہید	۳۷۵، ۳۷۱	
۳۶۵	ہوئے	۴۸۴	پہلی شریعتوں میں احکام کی حکمتیں نہیں بتائی
	شہادت (گواہی)	۵۲۸	جاتی تھیں
	زنا کے الزام میں چار گواہ پیش نہ کر سکنے والا جھوٹا		اسلام آخری شریعت ہے
۲۲۳	قرار پائے گا (خواہ وہ فی ذاتہ سچا ہی ہو)	۴۷۶	وہی ایک رسول ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) جس کی
	زنا کے کیس میں چار گواہ پیش کرنے کے حکم کی حکمت		کتاب پر تمام شرائع کا اختتام ہے
۲۲۳			مثیل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتش
			شریعت کے متعلق حضرت موسیٰ کی پیشگوئی
		۵۴۵، ۲۸۸	

۳۷۲	امت محمدیہ میں صحابہؓ کی مثیل ایک جماعت کی پیشگوئی	۳۴۲	شیطان سے مراد شیطان صفت لوگ
۲۰۷	صحابہ کا آنحضرتؐ سے عشق	۴۴۹	شیطان کی ہلاکت مسیح موعودؑ کے ذریعہ مقدر ہے
۹۴، ۹۳	صحابہ کا بلند اخلاقی و ایمانی معیار	۱۸	مس شیطان سے صرف مسیحؑ اور مریمؑ کے پاک ہونے کے عقیدہ کا رد
۸۳	انبیاء کے دلائل صداقت	۲۴۲	شیعہ
۱۴۹	مذہب کی صداقت کا معیار	۲۳۹	امت اور نبوت
۲۱۹	اس زمانہ میں صداقت سے محرومی کا بڑا سبب	۵۱۹	آیت اِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لَ اَجْرٌ اِهْبِجْہ کے غلط معنی
۲۲۳	تعصب سے خالی گھڑی میں ہی انسان سچائی کا شکار ہوتا ہے		ص
	صدوقی (فرقہ یہود)		صبر
۲۴۵	حضرت عزیز کو ابن اللہ قرار دیتا تھا	۳۸۷	صبر کے مثبت اور منفی معنی
	صفائی	۳۸۶	صبر اور بزدلی میں فرق
۴۸۶	اسلام میں ظاہری صفائی کی تاکید اور اس کے آداب	۳۸۶	صبر کی فضیلت
	صلیب	۳۸۷	خدا تعالیٰ کے رضاء پر استقلال سے قائم رہنا
۲۷۱	صلیبی موت سے مسیح کا بچنا بہت بڑا معجزہ ہے	۳۸۷	صبر کہلاتا ہے
۲۲	مسیح اپنی مرضی سے صلیب پر نہیں لٹکے	۵۱۲	مقدرت کے باوجود بدلہ لینا
۱۹	مسیح اپنی صلیب سے لوگوں کی نجات وابستہ نہیں بتاتے		صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
۱۹۶	واقعہ صلیب کے متعلق مختلف اقوام میں اختلاف	۵۳۲	اشاعت اسلام کے لئے بے مثال قربانیاں
	ط		جنگ بدر کے موقعہ پر صحابہ کی طرف سے جاں نثاری کے عزم کا اظہار
۱۱۸	طاعون	۳۶۵	صحابہ میں حفاظ اور قاریوں کی کثرت
	رجز ہے	۵۵۱	آنحضرتؐ کے ادب کی وجہ سے آپ کو آپ کے نام سے مخاطب نہیں کرتے تھے
۲۶۴	طاعون کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیاں	۳۷۸	آنحضرتؐ کے احترام کی وجہ سے سوالات کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے
۳۰۶	طالمود	۲۸۸	دس ہزار صحابہؓ
۳۳۷	ایران میں تیار ہوئی	۲۶۸	روح القدس سے صحابہؓ کی تائید
		۵۳۲	آنحضرتؐ کے صحابہ اور موسیٰؑ کی قوم کا موازنہ
		۲۸۸	حواریان مسیحؑ سے صحابہ کا موازنہ

۳۹۵	عبد خدا کا عبد بننا انسان کی پیدائش کا مقصد ہے عبد کامل وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نقش کو قبول کرنے لگ جائے	۴۳۸	ابراہیم کی دس آزمائشوں کا ذکر طور
۲۸۱	بندے کو الہی منشاء کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے	۱۵۶	بنی اسرائیل پر رفع طور کے معنی
۴۵۹	بندہ کا اللہ پر کوئی ذاتی حق نہیں عبرانی (زبان)		<u>ظ</u>
۳۰۰	تو اب کے معنوں میں اللہ کی کوئی صفت عبرانی زبان میں موجود نہیں	۲۹۱	ظالم ظالم مشرک کے معنی میں بھی آتا ہے ظلم (نیز دیکھئے بروز)
۳۰۶	جبرئیل کے معنی عبرانی میں	۴۷۶	ہم مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کو آنحضرتؐ کی نبوت کے تابع اور ظل سمجھتے ہیں
۳۰۵، ۳۰۴	عدد چالیس کا عدد روحانی دنیا میں تکمیل کا عدد		<u>ع</u>
۵۰	عدد کی کثرت نسلی اور تبلیغی دو طریقوں سے تعداد بڑھائی جاسکتی ہے	۴۶۳	عادت نیکی کی عادت کے باوجود اس کا ثواب ملتا ہے
۴۸۵	آنحضرتؐ کا فرمانا انہی مکاتیب بکم الامم عدل	۴۳۲	عالمین فضلتکم علی العالمین میں عالمین سے مراد
۴۸۵	عدل اور احسان	۶	عالم سے مراد اس زمانہ کے لوگ
۳۹۸	عذاب (نیز دیکھئے جہنم) عذاب نبی کے انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ شرارت اور فساد کی وجہ سے آتا ہے (مسیح موعود)	۴۵۹	عبادت جن وانس عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں عبادت الہی اتنی کامل ہو کہ خدا نظر آنے لگے یا کم از کم اتنا احساس ہو کہ میں اس کے حضور حاضر ہوں
۴۶۳	کفار کے آیت طلب کرنے سے مراد عذاب ہوتا ہے	۳۹۹	عبادت میں خرچ ہونے والا وقت
۴۱۹	یہود کا عقیدہ کہ انہیں چند دن ہی عذاب ملے گا عرب (قوم)	۴۳۸	بدنی اور مالی عبادت کی سردار نماز اور زکوٰۃ
۲۳	عربوں میں زمانہ قبل مسیح سے ختمہ کی رسم رائج تھی	۴۲۹	اقیموا الصلوٰۃ میں استقلال کے ساتھ بغیر کسی ناغہ کے نماز ادا کرنا شامل ہے
۶۸، ۶۷	عربوں کے نزدیک صابی سے مراد الہامی کتاب کو ماننے والا	۲۵۰	عبادت گاہ غیر مسلم عبادت گاہوں کا احترام
۱۴۳		۴۰۸	نجران کے عیسائیوں کا مسجد نبویؐ میں عبادت کرنا
		۵۵۵	

۳۳۹	عرب قوم ایرانیوں کی نظر میں	ترغیب دینے کے لئے فعل کو حذف کر کے مفعول بہ
۵۱۳	عربی زبان	لایا جاتا ہے
۵۲۷	عربی میں سچائی کے اظہار کے لئے جتنے الفاظ	بعض دفعہ سبب کو مسبب کی جگہ رکھا جاتا ہے
۴۹۸	استعمال ہوتے ہیں وہ سب دوام پر دلالت	آب کا استعمال پچا کے لئے ہو سکتا ہے
۲۸۵	کرتے ہیں	س تاکید اور استمرار کے لئے استعمال بھی کیا جاتا ہے
۵۲۲	عربی زبان کی ایک بڑی خوبی صلہ کے استعمال سے مفہوم کا	۵۲۲
۴۹۰	فرق	عربی زبان میں سوف بھی تاکید کے لئے آتا ہے
۴۷۷	توین تحقیر اور تعظیم دونوں کے لئے آتی ہے	عفو
۴۸	لفظ کے حروف اور ان کی ترکیب میں بھی معنی پائے	عفو کی کامل صورت
۷۸	جاتے ہیں	یہود کے بارہ میں عفو سے مراد
۷۹	کوئی سے تین حروف سے بننے والے تمام الفاظ	عقل
۷۹	میں معنوی اشتراک ہوتا ہے	عقل کی وجہ تسمیہ
۷۹	اشتقاق کبیر کا نظام	علم
۷۹	اصدا کا نظام	الہام کو باقی علوم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے
۲۱۲	کبھی غلاٹی مصدر رباعی کے معنوں میں استعمال	تمام علمی ترقیات اختلاف سے وابستہ ہیں
۲۱۲	ہوتا ہے	علم کا نتیجہ امتیاز پیدا کرنا ہوتا ہے
۲۱۲	مصدر بمعنی اسم فاعل کی مثال	سوالات کرنے کی بجائے خود غور کرنے کی عادت
۲۱۲	ضما کے مرجع کے متعلق بعض اصول	ڈالنی چاہیے (حضرت خلیفۃ اولؒ)
۱۸۴	توین نکرہ بنانے کے لئے بھی آتی ہے اور تعظیم	علم اور حکمت میں فرق
۲۰۵	کے لئے بھی	انسان کی عزت اس علم کے مطابق ہوتی ہے
۱۷۸	بعض دفعہ مضاف محذوف کیا جاتا ہے	جسے وہ اچھی طرح سیکھتا ہے
۳۵۱	مضاف الیہ کی نسبت سے بھی مضاف کی ضمیر لانی	عمر
۳۵۱	جائز ہے	انسانی عمر کا ایک ہزار سال ہونا بعید از قیاس ہے
۲۵۱	ماضی کی جگہ مضارع کا استعمال اور اس کے مواقع	عمل صالح
۲۵۱	بعض دفعہ نہی پر زور دینے کے لئے نفی استعمال	امت محمدیہ کو اعمال میں میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے
۳۵۱	کرتے ہیں	عمل صالح اور نیک کام میں فرق
۳۵۱	بعض موقعوں پر حذف سے زور دینے کا مفہوم پیدا	اپنی پسند کا عمل کر کے باقی اعمال سے غفلت
۲۵۹	کیا جاتا ہے	فرمانبرداری نہیں

عمل صالح سے مراد فساد سے پاک با مصلحت اور	۱۵۱، ۱۴۰	مسیحی حکومتوں کا موجودہ غلبہ مسیحیت کی صداقت کی دلیل نہیں	۱۵۰
مناسب حال عمل	۲۳۹، ۲۳۸	حضرت عیسیٰ کے واقعہ صلیب کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ	۱۹۶
ایمان و احتساب کی شرط	۵۰۲	مسیحی کفارہ کی بنیاد	۱۷
باپ دادا کے عمل اولاد کے کام نہیں آئیں گے	۲۹۳	گناہ پردہ کرنے کے عقائد، شفاعت، کفارہ، اور ان کا رد	۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵
آخرت میں بھی عمل ہوگا	۴۵۵	عقیدہ کفارہ نے عمل صالح کی ضرورت کو باطل کر دیا ہے	۱۴۶
عود	۴۴۴	عیسائیت اور مسئلہ شفاعت	۲۶
مساجد میں عود وغیرہ جلانے کی تاکید	۲۶۲	ابتدائی عیسائی ہفتہ کو سبت مناتے تھے بعد میں اتوار کو سبت قرار دینے کی وجہ	۱۶۴
عہد	۱۵۸	عیسائیت میں سیونتھ ڈے ایڈونٹسٹ کی تحریک	۱۶۶
ابراہیم کا عہد مشروط تھا	۳۶۸	seventh day adventists	۲۹۴
مدینہ کے نواح میں رہنے والے یہود سے خاص عہد کا تعلق	۲۹۲	عیسائیت نجات کو کفارہ پر ایمان لانے تک محدود کرتی ہے	۲۳۹
بنی اسرائیل کے ساتھ عہد	۳۶۸	عیسائیت دوسرے انبیاء کو چورا اور بٹھا قرار دیتی ہے	۴۳۹
بنی اسرائیل سے نیا عہد (اسلام) باندھنے کی پیشگوئیاں	۲۹۲	حضرت مسیح کے بعد الہام بند ہونے کا رد	۳۹۵، ۴۱۷
مقدس مقام پر کئے جانے والے عہد کی اہمیت	۵۵۵	عیسائیوں کا دوزخ میں نہ ڈالے جانے کا اعتقاد مسیحیوں کا اعتقاد کہ مسیح نے صلیب پر جان دے دی	۳۹۰
عیسائیت		عیسائیوں کا ساری دنیا کو تبلیغ کرنا مسیح کی تعلیم کے خلاف ہے	۳۱۶
تاریخ		جواری غیر اقوام میں تبلیغ کو ناجائز سمجھتے تھے انجیل غیر اسرائیلیوں کو عیسائیت میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دیتی	۳۹۲
عیسائیت نیا مذہب نہیں بلکہ یہودیت کا احیاء ہے		مسیحی انجیل پر عامل نہیں	۴۲۹
یہود کی تائید		ابراہیمی عہد کی ظاہری علامت ختمہ کو عیسائیوں نے ترک کر دیا ہے	۴۴۴
یہودیوں پر روم کے عیسائی بادشاہوں کے مظالم مسیحیوں کا قبلہ مشرق کی طرف تھا			
عقائد			
شریک سمجھنے کے عقیدہ کی تردید			
عیسائی پادری کا اقرار کہ تثلیث فی التوحید کا مسئلہ انسانی سمجھ سے بالا ہے			
بائبل میں ابن اللہ کا استعمال دوسروں کے لئے عیسائیوں کے نزدیک کوئی غیر عیسائی نجات حاصل نہیں کر سکتا			
نصاری کی وجہ تسمیہ			

۴۸۳	فرض	۴۰۸	شجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت
۴۸۳	نہ بدلنے والے احکام فرض	۳۹۵	عیسائیت اور اسلام کے نظریہ نجات کا موازنہ
۴۸۷	فرض اور حکم میں فرق		عیسائی باوجود کوشش کے موئیؑ کی پیشگوئی کو مسیح پر چسپاں نہیں کر سکتے
۴۸۷	خلافت اسلامی کے فرض	۵۴۵	عمید الاضحیہ
	جماعت احمدیہ کے مبلغین اور امراء کے فرض		اس عمید میں حضرت ابراہیمؑ کو یاد کیا جاتا ہے
۸۰	فرقان (نیز دیکھئے قرآن مجید)	۴۳۹	
۷۸، ۷۷	فرقان کے معنی		
۸۵	خالص عربی لفظ ہے شامی نہیں		
۸۲	قرآن کریم کو فرقان کہے جانے کی وجہ		
۸۵	ہر نبی کو فرقان دیا جاتا ہے		
	فرقان کے معنی سب دلائل صداقت کا مجموعہ	۱۰۸، ۱۰۷	غذا کا طیب اور غیر طیب ہونا نسبتی امر ہے
	فری میسنرز (Freemasons)	۱۰۷	غذا کا اخلاق پر اثر
۳۲۸	یہود سے تعلق		غزوہ بدر
	اس سوسائٹی کی علامت و نشانات اور اصطلاحات	۴۹۲	ابو جہل کی ہلاکت
۳۳۰	یہود سے ماخذ ہیں	۸۲	غزوہ بدر کو فرقان قرار دیا گیا ہے
	سوسائٹی کا حضرت سلیمانؑ کے دشمنوں سے گہرا تعلق	۱۹۹	غزوہ بدر کا اثر یہود مدینہ پر
۳۳۰	فری میسنرز حضرت موئیؑ کو اپنا گریٹڈ ماسٹر قرار دیتے ہیں	۹۳	غزوہ بنو مصطلق
۳۲۹	عورت ان کی ممبر نہیں بن سکتی	۲۵۶	غلامی
۳۲۸	فضیلت	۲۵۵	اپنے آپ کو فروخت کرنے کی رسم
	بعض انبیاء اور قوموں کی عالمین پر فضیلت کا مفہوم		خروج من الدیار سے مراد غلامی بھی ہے
	فطرت انسانی		غیر مسلم
۵۱۳	انسانی فطرت میں صفات الہیہ کا مظہر بننے کی قوتیں	۴۰۶	غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام
	ودیعت کی گئی ہیں	۴۰۶	غیر مسلم مسلمانوں کی مسجد میں ذکر الہی کر سکتا ہے
۱۱	انسانی فطرت میں توحید و دیعت کی گئی ہے		
	فطرت انسانی میں اعلیٰ روحانی مقام حاصل کرنے کا احساس	۲۸۸	فتح مکہ (دیکھئے عنوان مکہ)
۱۱			فتح مکہ کے موقعہ پر دس ہزار قدوسیوں کی پیشگوئی کا پورا ہونا

رسول کریمؐ اپنی وفات تک سارے قرآن پر عامل رہے اور عمل کرواتے رہے	۳۶۸	۲۹۶	قبض و بسط اس بارہ میں ایک حدیث
قرآن کریم میں آنحضرتؐ کے مثیل موئی ہونے کا دعویٰ	۲۸۶	۲۹۶	نبیوں کی قبض صدیقیوں کی بسط ہوتی ہے
صحابہؓ میں قاریوں اور حفاظ کی کثرت	۳۶۵	۱۳۶، ۱۳۵	قتل لفظ قتل کا مختلف معنوں میں استعمال
امتیازی خصوصیات		۱۳۶	قتل سے مراد ارادہ قتل
تمام الہی کتب سے افضل کتاب	۳۷۳	۸۸	قتل کے معنی قطع تعلق و دفع شر
کامل اور بے عیب کتاب	۲۶۱	۱۳۵	بنی اسرائیل کا نبیوں کو قتل کرنے کے معنی
ہادی و رہنما	۳۰۹		کسی سربراہ کے قتل کا ارادہ ساری قوم کے قتل کے
ماننے والوں کے لئے بشریٰ	۳۱۰	۲۰۶	برابر ہوتا ہے
واحد الہامی کتاب ہے جس کا نام خدا نے خود رکھا	۵۰۰		سلسلہ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے قتل پر ان
قرآن کریم کے آتش شریعت کہلانے کی دو جوہات		۲۰۶	کے دشمن کبھی تسلط نہیں پاتے
	۲۸۸	۹۰	اقتلو انفسکم میں قتل کے معنی
خدا کا کلام اور آخری شریعت ہے	۵۲۹، ۳۶۳		قتل نفس
دائمی حفاظت کا وعدہ	۴۵۹، ۳۷۲، ۳۶۴		آیت و اذقتلتم نفسا کے متعلق مفسرین کی آراء
شروع سے اب تک محفوظ صورت میں لکھا ہوا چلا		۱۹۰ تا ۱۹۴	اور ان کی تردید
آتا ہے	۴۸۲، ۳۶۸		نفس سے مراد عبسی بن مریم (احمدی علماء کی تشریح)
قرآن کریم کی افضلیت	۱۴۷	۱۹۵	نفس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قرآن کریم کو فرقان کہے جانے کی وجہ	۸۵		(حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی تشریح)
قرآن کی جامعیت اور اختصار	۲۲۹	۲۰۲	قتل
تعلیم			کے کیس میں چار گواہ لانے کے حکم کی حکمت
بے نظیر تعلیمات	۴۸۶		قرآن کریم
تعلیم میں تدریجی ارتقاء	۴۸۲		قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ایسی کتاب جس سے خدا تعالیٰ کا وجود نظر آجاتا ہے			آنحضرتؐ ہی اس عظیم الشان امانت کے اہل تھے
	۴۸۲		وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائع کا
احکام کی حکمت بھی بتاتا ہے	۴۸۴		اختتام ہے
قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر کے صحیح امن قائم ہو سکتا ہے	۴۰۴		آنحضرتؐ کے اخلاق قرآن کریم کی تفسیر تھے
انسانی ضروریات جذبات احساسات تمدن سیاست		۴۷۷	
اور معاملات کے مکمل احکام پر مشتمل	۳۷۳	۳۰۹	

۳۰۸	قرآن اور بائبیل	قرآن کی تعلیم جذبات کو تابع کرتی ہے
۴۸۴	بنی اسرائیل کے پچھڑے کو معبود بنانے کے	صرف قرآن کریم ہی تقدیر کا علم دینے والا ہے
۵۰	واقعہ میں قرآن اور بائبیل میں فرق	قرآن کا علم یقینی ہے
۳۶۳	گائے کے رنگ کے بارہ میں بائبیل سے اختلاف	قرآن کے معارف کبھی ختم نہیں ہو سکتے
۱۸۰، ۱۷۷	اور واقعات سے قرآن کی تصدیق	کوئی مخالف قرآن کریم میں اختلاف ثابت نہیں کر سکتا
۳۶۹	قرآن کریم بنی اسرائیل کے لئے سلوی بطور احسان	قرآن کریم ہر ایک بدی اور نیکی کی بڑ اور پھراس کی بڑ بناتا ہے
۱۰۸	قراردیتا ہے اور بائبیل بطور عذاب قرار دیتی ہے	حقیقی مردہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا
۲۲۰	یہود قرآن کریم کی آیات کو غلط معانی پہناتے ہیں	قرآن کریم پڑھنے کا صحیح مقصد
۲۸	اس عقیدہ کا رد کہ گناہ بدلہ دینے سے معاف ہو جاتا ہے	مسلمانوں کے لئے گہری نظر سے مطالعہ کی ضرورت
۱۵	یہود کو کفارہ کا عقیدہ رکھنے پر انتباہ	
۲۰	مسیحیوں کے کفارہ کی تردید	ترتیب اور ظاہری محاسن
۲۲۳	اس دعویٰ کا ابطال کہ قرآن دوسری الہامی کتب کی نقل ہے	ترتیب میں حسن
۳۷۶	قرآن نے تمام کتب کو منسوخ کر دیا ہے	احکام میں اعلیٰ درجہ کی ترتیب
۳۷۲	قرآن کریم کبھی منسوخ نہیں ہوگا	قرآنی ترتیب کا اصول
۵۳۸، ۳۶۴	نسخ قرآن کی تردید خود قرآن کریم سے	حسن کلام کی ایک مثال
۳۶۵	نسخ حقیقی کی ایک مثال بھی نہیں کہ جس میں الفاظ اور حکم دونوں منسوخ ہوں	قرآن کے محاورات
۳۶۵	کسی حدیث کی بناء پر قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی	قرآن کریم میں فرقان کے لفظ کا استعمال مختلف معنوں میں
۳۶۳	نسخ کا عقیدہ تسلیم کرنے کے بعد قرآن کریم کا اعتبار اٹھ جاتا ہے	الفاظ کی خفیف تبدیلیوں سے مضامین کی ادائیگی صداقت
۴۸۳	موازنہ	قرآنی تعلیم کی صداقت کے تین دلائل
۳۶۸	دوسری الہامی کتب سے موازنہ	مصداق اور مصدق
۵۰۲	پہلی شراخ کی موجودگی میں نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی	بائبیل کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا اور مصدق ہے
	قرآن کریم کا انبیاء کے واقعات کی صحیح تفصیل بیان کرنا	آنحضرت کے متعلق بائبیل کی پیشگوئیاں قرآن کریم کے ذریعہ پوری ہوئیں
		قرآن کریم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہونے کی پیشگوئی

۱۸۸	قصص	۳۰۸	اعتراضات کے جواب
	قصص میں حیات ہونے کا مفہوم	۵۲۳	یہود کے قرآن پر شبہات کے چار جواب
	قصہ		درشت کلامی کا اعتراض اور اس کا جواب
	بنی اسرائیل کے بیان کردہ قصوں کا نقل کرنا تو		متفرق
	جائز ہے لیکن ان کی تصدیق یا تکذیب جائز نہیں	۵۵۶	رسول کریم کی بجائے ہر انسان مخاطب ہوتا ہے
۱۹۰	(ابن کثیر)		قرآن کے نزدیک ملائکہ میں خدا کی نافرمانی
	قوم	۳۲۵	کا مادہ ہی نہیں ہوتا
۳۹۶	زندہ قوم کی علامت	۱۹۰	قرآن کی مخالف اسرائیلی روایات قابل رد ہیں
	قوموں کے اخلاق کی درستی کے لئے نگران کی		باوجود یہود کی عمومی خرابی کے قرآن ان کے نیک
۵۳۱	ضرورت ہوتی ہے	۲۲۷	لوگوں کو مستثنیٰ کرتا ہے
۵۳۱	قوم کی اصلاح ہر فرد کی ذمہ داری ہے		قرآن کریم نے بے ہودہ اور لغو سوالات کرنے
۳۹۶	ترقی سے محروم قوم کی علامت	۳۷۸	سے منع کیا ہے
	قومیں اپنے دور منزل میں شفاعت انبیاء پر زور		قرآن کریم اور جماعت احمدیہ
۴۳۶	دیتی ہیں		حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ قرآن
	جو قوم مورد الہام ہو اسے باقی قوموں پر فضیلت	۳۶۰	کی آیات کے منسوخ ہونے کے عقیدہ کی درستی
۴۳۲	حاصل ہوتی ہے		قرآن کریم کے بعض مطالب کے متعلق حضرت
	آنحضرت کے ذریعہ اقوام عالم کو دین واحد پر	۴۸۱	مصلح موعود کو القاء
۴۴۹	جمع کیا جائے گا		اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن کریم کے بے شمار
۱۴۵	ایک منتخب قوم کیوں بگڑ جاتی ہے	۳۶۳	معارف کھولے ہیں (مصلح موعود)
	منزل کے زمانہ میں قوموں کے ایمان کی بنیاد سنی		قرآن کریم کو ماننے کے بعد حضرت مسیح موعود پر
۲۲۳	سنائی باتوں پر ہوتی ہے	۲۸۵	ایمان لانے کی ضرورت
	قیامت نیز دیکھنے آخرت اور حیات بعد الموت		قربانی
۲۹۹	قیامت کے دن ایک نبی کی بعثت		حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی
	قیامت کے دن معذور افراد کو حق پہنچانے کا	۱۲	جانوروں کی قربانی گناہ کا کفارہ نہیں ہوتی
۲۹۹	موقع دیا جائے گا	۱۸۱	گائے کی قربانی کی حکمت
	ک		قریش
	کبر و نخوت	۱۹۹	کعب بن اشرف کا قریش کو جنگ کے لئے
۴۷۰			اکسانا

۴۱۰	مشرکین مکہ مسلمانوں کو کعبہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے	۳۷۲	کتاب
۴۵۶	آنحضرتؐ کے ذریعہ بیت اللہ کی تطہیر	۵۰۰	بعض دفعہ کتاب واجب العمل ہوتی ہے لیکن اس کی مردہ تعلیم کو زندہ کرنے کے لئے نبی مبعوث کیا جاتا ہے
۵۳۴	آنحضرتؐ کی زندگی میں کعبہ اور بیت المقدس دونوں کو نماز میں سامنے رکھتے تھے	۵۰۰	سوائے قرآن کے کسی الہامی کتاب کا نام خدا نے نہیں رکھا
۴۵۲	عالم اسلام میں عالمگیر اخوت اور اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ	۷۶	الکتاب کے معنی کتاب کا کچھ حصہ بھی ہے
۴۴۸	ہر سال تمام مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور ازدیاد ایمان کا باعث ہے	۷۳	موسىٰ کو دی جانے والی کتاب
۴۵۴	خانہ کعبہ کی ظلیت میں اشاعت اسلام کے مراکز کے قیام کی ضرورت	۴۶۵	کعبہ (نیز دیکھئے بیت اللہ اور قبلہ)
۴۵۷	کعبہ کے متعلق قرآن کریم کی ایک پیشگوئی	۴۶۵	دنیا میں پہلی عبادت گاہ
۴۴۶	کعبہ کو خدا تعالیٰ کی دائمی حفاظت حاصل ہے	۴۶۵	خانہ کعبہ حضرت ابراہیم سے پہلے موجود ہونے کا ثبوت
۴۴۷، ۴۴۶	ابرحہ کا حملہ	۴۶۵	کعبہ کے آثار کے متعلق حضرت ابراہیمؑ کو الہام بتایا گیا تھا
	کفارہ	۴۶۲	کعبہ کا ذکر تورات میں مل جاتا ہے
	اسلام میں کفارہ صرف حقوق اللہ میں ہے حقوق العباد میں نہیں	۴۶۶	کعبہ کی قدامت کے متعلق یونانی مورخین کی شہادت
۲۸	کیا کفارہ اور شفاعت ایک چیز ہیں	۴۸۰	خانہ کعبہ میں حضرت اسماعیلؑ کا بت بھی رکھا جاتا تھا
۱۵	عقیدہ کفارہ کا بنی اسرائیل پر اثر	۴۴۶	الہیت کہلانے کی وجہ
۱۸	عیسائیوں کے نزدیک مسیح ابن اللہ قربان ہو کر گناہوں کا کفارہ ہوا	۴۴۹	مثابہ ہونے کی تشریح
۲۰، ۱۴	قرآن مجید میں مسیحیوں کے کفارہ کا رد	۴۴۹	عالمگیر مرکزیت کا مقام
	مسیحی کفارہ نے عمل صالح کی ضرورت کو باطل کر دیا ہے	۴۴۹	تمام دنیا کو ایک نقطہ اتحاد پر جمع کرنے کا ذریعہ ہے
۱۴۶	مسیح اپنی صلیب سے لوگوں کی نجات وابستہ نہیں بتاتے	۴۵۸	کعبہ کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خود قائم کی تھی
۱۹	کلام اللہ	۴۵۱	ہمیشہ محفوظ اور مقام امن رہا ہے
	کلام الہی اور قانون قدرت میں تطابق ضروری ہے	۴۵۱	حرم کے علاقہ میں جانوروں کا شکار اور درختوں کا کاٹنا بھی منع ہے
۳۷۵		۴۰۹	حرم کسی مجرم یا قانون شکن کو پناہ نہیں دیتا
		۴۰۹	جنگی مجرم ابن اخطل کا حرم کعبہ میں قتل

گناہ	کلام الہی کو پورا کرنے کے لئے انسان کو
اسلام کے نزدیک گناہ سے نفرت اور اجتناب ہی	کوشش کرنی چاہیے
۲۸ گناہ کو معاف کرتا ہے	کلمہ
۱۶ گناہ کا علاج توبہ (انبیاء، بنی اسرائیل کے نزدیک)	سوائے آنحضرتؐ کے کسی نبی کو کلمہ نہیں دیا گیا
۱۴ جانوروں کی قربانی گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی	۵۰۰ دوسرے انبیاء کو کلمہ نہ دینے کی حکمت
۱۰ بنی اسرائیل کے گناہ پر دلیر کرنے والے عقائد کا رد	کوثر
موروثی گناہ کے نظریہ کی تردید حدیث نبوی میں	آنحضرتؐ کو دیئے جانے والے کوثر سے مراد
۲۸ گناہ کا بدلہ دینے کے عقیدہ کا رد	کھجور
۲۱۹ آج کے زمانہ میں سب سے بڑا گناہ	کے نزدیک بار آوری
۳۶۳ ایک گناہ کے نتیجے میں مزید گناہ پیدا ہوتے ہیں	۳۵۳
۳۸۴ گناہ کو مٹانے کے تین طریق	گ
گناہ سے باز رکھنے کے دو اصول۔ خوف	
عذاب اور محبت واحسان	گالی
۳۹۱، ۳۹۰	گالی سن کر صبر کرنا بڑا مجاہدہ ہے
موروثی گناہ کا عقیدہ رکھنے کے انسانی فطرت پر	۳۸۶
۴۹۳ اثرات	گائے
ل	اسلام میں گائے کی قربانی کی حکمت
لوح۔ الواح	۱۸۱ اگر ہندو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں
۷۴ موسیٰ کو کوہ طور پر دی جانے والی الواح	۱۸۲ تو ہم گائے کی قربانی کو بند کر دیں گے (صبح موعود)
م	۱۸۱، ۱۷۱ بنی اسرائیل میں گائے کی عظمت مصری اثر کے
ماحول	تحت تھی
۴۸۶ ماحول کی صفائی کے متعلق اسلامی تعلیمات	موسیٰ کی شریعت میں گائے کی قربانی کا حکم اور
مادہ	اس کی حکمت
اسلام روح و مادہ کو حادث قرار دیتا ہے	۱۷۱ بنی اسرائیل کو خاص صفات کی گائے ذبح کرنے کا
۴۲۴ آریوں کے نزدیک خدا مادہ کا خالق نہیں	۱۷۵ حکم تھا
۲۷۳ غیر مادہ ذات سبب مسبب سے بالا ہوتی ہے	گائے کے رنگ کے بارہ میں قرآن کریم اور بائبل
مادی چیزیں سبب مسبب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں	۱۸۰، ۱۷۷ کا اختلاف اور قرآن کی واقعات سے تائید
۲۷۳	مسلمانوں کے لئے گائے کی قربانی کا حق چھوڑنا
	اور خواہ مخواہ قربانی کے گائے بیلوں کا مظاہرہ کرنا
	دونوں ناجائز ہیں (مصلح موعود)
	۱۸۱

	محمسن	مامور (نیز دیکھئے نبی)
۳۹۸	خدا اور رسول کا کامل فرمانبردار	مامور کی بعثت سے قبل لوگوں کی توجہ اس کے ظہور
۳۹۷	کامل علم رکھنے والا کامل عمل کرنے والا	کی طرف پھیری جاتی ہے
	مخالفت	امت محمدیہ میں بعثت مامورین کا ثبوت
۳۹۰	اگر دیانتداری پر مبنی ہو تو جائز ہے	ماں
	مذہب	بچہ ماں اور باپ دونوں کی خصلت لے کر پیدا
۴۰۴	سچے مذہب کی علامات	ہوتا ہے (حدیث)
۵۱۴	فطرت صحیحہ کے بغیر سچے مذہب کی پہچان نہیں ہوتی	مباہلہ
۴۰۴	ہر مذہب اپنے اندر بعض صداقتیں رکھتا ہے	مباہلہ کی شرائط
	اختلاف مذہب دنیوی تعلقات کو توڑ دینے کا	یہود کو مباہلہ کی دعوت
۴۶۳	موجب نہیں ہونا چاہیے	یہود کا مباہلہ سے اعراض
۴۰۷	مذہبی رواداری اور وسعت حوصلہ	مثیل
	ایک دوسرے کے مذہب پر ناجائز حملے	مثیل موسیٰ کا مصداق
۴۰۴	ترک کرنے کی نصیحت	مثیل موسیٰ کے لئے آتش شریعت لازمی ہے
	کوئی مذہب بعثت بعد الموت کے متعلق تعلیم دینے	حضرت مسیحؑ کا مثیل موسیٰ ہونے سے انکار
۲۴	بغیر نامکمل ہے	مثیل موسیٰ مسیح کی دو بعثتوں کے درمیان
۲۳۶	مذہب کے بگاڑ کی وجہ	ظاہر ہوگا (انجیل)
۱۴۹	جس مذہب کو الہی نصرت ملے وہی سچا مذہب ہوگا	مجاہدہ
	اسلام کے سوابقی مذاہب جبر اور تحکم سے کام لیتے	گالی سن کر صبر کرنا بڑا مجاہدہ ہے
۴۵۰	ہیں	مجرم
	دوسرے مذاہب منسوخ ہونے والے تھے جبکہ	مجرم مسجد کی پناہ میں آکر قانون سے بالائیں ہو جاتا
۵۰۰	اسلام نے کبھی منسوخ نہیں ہونا	۴۰۹
۳۶۹	مذہب کے ناقابل عمل ہو جانے کی دو صورتیں	۴۰۹
	مذہب کا تنزل کے زمانہ میں نجات کے متعلق	جنگی مجرم ابن اخطل کا حرم کعبہ میں قتل کیا جانا
۵۰۴	اعتقاد	مجوسی
	مردہ	آنحضرتؐ کے زمانہ میں مجوسیوں کی ایرانی سلطنت
۲۰۶، ۱۸۸	احیاء موتی سے مراد	۳۳۷
	قرآن کریم حقیقی مردوں کے اس دنیا میں واپس	سے یہود کی دوستی
۱۸۸، ۱۰۰	آنے کے خلاف ہے	محبت
		محبت ناشائستہ حرکات سے باز رکھتی ہے

۱۶۹	مسخ صورت مسئدکی اصل حقیقت مسکین	۱۰۰	مردوں کا زندہ ہو کر اس دنیا میں واپس آنا ایمان کی غرض کو باطل کرتا ہے
۲۴۹	مسکین سوال کے ذریعہ کسی کو اپنی غربت کا پتہ نہیں لگنے دیتا	۱۰۱	مردوں کا واپس دنیا میں آنا شریعت کے بعض مسائل کو باطل کر دیتا ہے
۲۴۹	مسکین سے حسن سلوک کا حکم	۱۹۴	حضرت مسخ موعود علیہ السلام کی طرف سے اس خیال کی تردید کہ ظاہری مردے زندہ ہو سکتے ہیں
	مسلم - مسلمان		مسجد
۴۹۹، ۴۰۰	امت محمدیہ کا نام مسلم ہے جبکہ دوسرے ادیان کے سچے پرستار صفتاً مسلم تھے	۴۱۰	مساجد کی تعمیر کی اغراض
۳۹۵، ۳۹۲	سچے مسلمان کی علامات	۴۳۸، ۴۰۹	مسجد جنت کا نقل ہوتی ہے جس مسلمان کے گھر تک اذان پہنچے اس کے لئے
۵۰۷	مسلم وہ ہے جو نبیوں کی نبوت کا اقرار کرے (اور اس میں مسخ موعود بھی شامل ہیں)	۵۳۳	مسجد آنا ضروری ہے
۴۲۹، ۲۶۱	مسلمان صحیح معنوں میں اہل کتاب ہیں	۴۵۶	مساجد کی حرمت
۴۵۱	دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس کا معبد ہمیشہ اس کے قبضہ میں رہا ہو سوائے اسلام کے	۴۵۵	مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید
۵۰۷	حضرت مصلح موعود کی مسلمانوں کو ایک نصیحت	۴۵۵	مساجد میں عود وغیرہ جلانے کی تاکید
۵۱۲	صحابہ کرام کی قربانیوں کی پیروی کرنے کی نصیحت	۴۸۶	مسجد میں بدبودار چیز کھا کر آنے کی ممانعت مسجد کی پناہ میں آنے والے کو اسلامی شریعت نے قانون سے بالائیں سمجھا
۵۳۱	اگر مسلمان تبلیغ ہدایت اور لوگوں کی نگرانی نسلًا بعد نسل کرتے تو کبھی تباہ نہ ہوتے	۴۰۹	مسجد حرام
۲۶۱	قرآن کریم کا یہودی خرابیاں بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کو ہوشیار کرنا ہے	۴۵۶	ضرورت پڑنے پر مسجد میں مذہبی سیاسی قضائی اور تمدنی امور پر گفتگو ہو سکتی ہے غیر مسلم اگر مسجد میں ذکر الہی کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے
۲۶۰	یہود کے نقش قدم پر چلنے کے متعلق آنحضرت کی پیشگوئی	۴۰۸	مسجد نبوی میں خیران کے عیسائیوں کو آنحضرتؐ نے عبادت کی اجازت دی
۲۶۰	دور تنزل کے حالات	۴۳۸	خدا کے سچے پرستار کا گھر مسجد بن جاتا ہے
۵۵۶	قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسرے علوم کے پیچھے پڑنا	۴۶۸	بادشاہوں کی بنائی ہوئی ویران مساجد
۴۳۳	یونانی فلسفہ کی طرف میلان	۴۰۹، ۴۰۶	مساجد سے روکنے والا ظلم ہوتا ہے
۳۵۶	علماء اور بزرگوں کے ادب کا اٹھ جانا	۵۳۹	مسجد ذوالقبتین
	بدلے ہوئے حالات میں بھی جہاد بالسیف پر زور دینے کی غلطی	۵۳۳	مسجد بنی سلمہ میں تھوہل قبلہ کا حکم
۴۷۰		۴۰۹	مدینہ میں مسجد ضرار

۳۲۹	معبد سلیمانی تعبیر معجزہ	۱۶۶	سبت کی بے حرمتی کی سزا میں مسلمانوں کے لئے عبرت مسلمانوں کے لئے قرآن کریم کا گہری نظر سے مطالعہ کی ضرورت
۳۱۶	آنحضرتؐ کے معجزات کی نظیر موسیٰ اور عیسیٰ کے معجزات میں نہیں ملتی	۲۲۷ ۱۱۸	موجودہ مسلمانوں کی حالت موجودہ مسلمانوں میں اسلام کی طرف قیاس
۳۱۵، ۲۷۱	حضرت مسیحؑ پر معجزہ نہ دکھانے کا الزام	۲۳۶	آرائیوں کا انتساب حضرت مسیحؑ کے آسمان پر جانے کے متعلق
۸۱	خاص معجزات کو فرقان قرار دیا گیا ہے	۱۹۷	موجودہ مسلمانوں کا عقیدہ
۱۰۰	انبیاء کے معجزہ میں اخفا کا پہلو ہوتا ہے	۴۵۱	ایسے جہاد کا قائل ہونا جو دنیا میں کسی کو پناہ نہیں دیتا
۳۷	بنی اسرائیل کے لئے سمندر پھٹنے کے معجزہ کی حقیقت	۵۶۵، ۲۴۶	مشرکانہ عقائد
۱۲۳	معجزہ کی حقیقت	۲۴۷	یتامی، والدین اور اقرباء سے بدسلوکی موجودہ مسلمانوں کی حالت (مہدی کے انتظار میں)
۴۸۲	معرفت عقلی دلائل خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے ہیں	۲۷۹ ۳۲۶	مسمریزم مسیح موعودؑ
۲۸۳	مغضوب علیہم سے مراد یہود مقام ابراہیمؑ	۱۰۷ ۱۱۸	مسیح موعود کے لئے نزول کا لفظ مسیح موعود کے متعلق کسی حدیث میں آسمان سے نازل ہونے کے الفاظ نہیں
۴۵۲	کعبہ کے پاس ایک خاص جگہ ہے جہاں طواف بیت اللہ کے بعد دو سنتیں پڑھنے کا حکم ہے	۴۳۰	مشاہدہ دلیل اور مشاہدہ
۴۵۳	کعبہ کی تعبیر کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے اس جگہ شکرانہ کے طور پر نماز پڑھی تھی	۴۳۰ ۴۵۰	حقیقی ایمان کے مقام تک پہنچاتا ہے اطمینان قلب کا ایک بڑا ذریعہ ہے
۴۵۳	مقام ابراہیمؑ سے مراد حضرت ابراہیمؑ کا روحانی مقام	۳۰۲	مشرک (نیز دیکھئے شرک) مشرکین کی دو قسمیں
۳۱۳	ملائکہ	۴۸۶	معاملات معاملات اور لین دین کے متعلق اسلام کی تعلیم
۲۶۵	ملائکہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصریح	۳۱۳	معاهدہ معاهدہ کا پورا کرنا شرافت نفس اور خشیت اللہ سے
۲۶۷	فرشتوں کی دو اقسام وحی عام طور سے ملائکہ کے توسط سے ہوتی ہے	۲۱۸	تعلق رکھتا ہے

۱۰۵	من سے مراد ہر وہ رزق جو بلا محنت و مشقت حاصل ہو	۳۲۵	ملائکہ سب نیک ہوتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کا مادہ ان میں نہیں پایا جاتا
۲۲۰	منہاج نبوت	۳۲۲	ملائکہ دنیا میں انسانوں کی طرف کس حالت میں آتے ہیں
۲۹۹	مواخذہ بوڑھے پاگل اور بہرے سے مواخذہ نہیں ہوگا	۲۶۵	فرشتوں کا سردار جبریل ہے
۹۹، ۹۸	موت کے چھ معنی	۳۰۶	جبریل کو یہود عذاب کا فرشتہ اور اپنا دشمن سمجھتے تھے
۹۹	موت سے مراد جہالت	۳۰۶	قرآن اور بائبل کا اتفاق ہے کہ جبریل ملائکہ کا سردار اور کلام الہی لانے والا فرشتہ ہے
۳۸۹	رضاء الہی کے لئے کوشش موت کے مترادف ہوتی ہے	۳۰۸، ۳۰۷	میکائیل
۳۰۰، ۲۹۶	(یہود کے ذکر میں) تمنائے موت کے دو معنی	۳۱۳	میکائیل کا تعلق رزق اور دنیا کی خبر گیری سے ہے
۲۸۵	مؤلفۃ القلوب پر خرچ کرنے کا صحیح مفہوم	۳۱۲	ملائکہ سے دشمنی خدا اور رسولوں سے دشمنی کے مترادف ہے
۲۰۱	مومن (نیز دیکھئے ایمان)	۳۲۲	کیا ہاروت اور ماروت ملائکہ میں سے تھے؟
۲۷۰	خوف مستقبل اور حزن ماضی سے محفوظ ہوتا ہے	۳۲۱	ملائکہ سے مراد فرشتہ خصلت انسان
۲۷۰	کامل مومن بدلتے ہوئے حالات کے مطابق عائد فرائض کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے	۵۰۲	ملت
۳۱۳	مہدی جو شخص مہدی نہ ہو وہ دنیوی انعامات بھی حاصل نہیں کر سکتا	۳۸۰	ملت ابراہیم کی اتباع میں نجات ہے
۱۹۹	جب انسان اس تعلیم پر عمل کر کے جسے جبرئیل لاتا ہے مہدی بن جاتا ہے تب اسے بشری یعنی	۳۲۱	مناظرہ میں عوامانیت بخیر نہیں ہوا کرتی
۳۱۳	دنیوی انعامات حاصل ہوتے ہیں	۱۹۹	مناظرہ کے منافقین پر جنگ بدر کا اثر
۲۷۹	جب آنے والا آگیا تو تاویل میں کرنے لگ گئے کہ جو سیوں کے خیالات ہم میں آگئے ہیں	۳۲۳	مناظرہ کا طریق کار
۲۷۹	بیثاق	۲۸۷	منصب خلافت (تفسیر حضرت مصلح موعودؑ)
۲۲۳	بنی اسرائیل کے بیثاق سے مراد تو رات کے دس بنیادی احکام	۲۳۳	سلسلہ کی خدمت کا شوق رکھنے والوں کو اس کتاب کے مطالعہ کی تاکید
۲۲۳	بنیادی احکام	۲۳۳	منعم علیہ گروہ (نبی صدیق شہید اور صالح)
		۱۰۵، ۱۰۴	من و سلویٰ
			من سے مراد تزنجبین اور کھسبی

۲۲۵	نبی خدا نہیں ہوتا	۱۵۵	میشاق سے مراد موسیٰ پر نازل ہونے والے دس احکام
۲۰۶	انبیاء کے ذریعہ احیاء موتی		
۶۶	انبیاء اپنے خیالات نہیں بلکہ اللہ کی وحی کی اشاعت کرتے ہیں		
۲۲۵	مامورین کو ان کے مخالفین زمانہ کی پیداوار قرار دیتے ہیں		
۲۰۶	سلسلہ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے قتل پر ان کے دشمن کبھی تسلط نہیں پاتے	۱۴۵	نبوت
۱۸۲	ہم قرآنی تعلیم کے مطابق کرشن اور رام چندر کو نبی مانتے ہیں		بعثت کی غرض
	مقام	۴۷۴	انبیاء کی بعثت کی غرض
۴۴۰	نبوت اور امامت لازم و ملزوم ہیں	۲۴۸	توحید انبیاء کا مشترک مشن ہے
	نبی پر ایمان اور اس کی اطاعت	۴۰۵	عالمگیر خرابیوں کے وقت نبی کی بعثت ہوتی ہے
۴۴۰	ہر نبی کی اطاعت فرض ہے		نبی اس وقت آتا ہے جب لوگ صحیح راستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں
	خصائص	۲۷۴	انبیاء کی بعثت کی غرض لوگوں کو تباہ کرنا نہیں ہوتی
۴۲۲	ہر نبی دوسرے انبیاء کا مثیل ہوتا ہے	۴۲۲	نبی کے فرائض
۲۶۶	تمام انبیاء کو بینات دیئے گئے	۴۸۱	نبی کی بعثت کے لئے ضرورت زمانہ کی شرط
۳۰۸	نبی اور فلاسفر کے کلام میں فرق	۳۷۵	جھوٹا مدعی نبوت اظلم ہوتا ہے
۴۴۰	نبی کا امتحان نبوت ملنے سے پہلے نہیں لیا جاتا	۴۰۸	انبیاء کی بعثت کے بعد پہلے رحمت کی آیات نازل ہوتی ہیں
۴۹۶	نبیوں کی فیض صدیقیوں کا بسط ہوتی ہے	۴۲۳	نبی کی آمد کے وقت زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ میں ہجماں پایا جاتا ہے
۴۹۶	انبیاء پر بھی قبض و بسط کا دور آتا رہتا ہے	۳۱۷	نبی کی آمد کے وقت عالم پر درزہ کی کیفیت
۳۰۲	نبی کی عمر سے اس کی امت کی عمر مراد ہوتی ہے	۳۱۷	ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت دی جاتی ہے
	انبیاء خدا تعالیٰ کی بات پورا کرنے کے لئے ہر قسم کی جدوجہد سے کام لیتے ہیں		خواہ وہ نئی ہو یا پرانی
۴۷۷	اقسام	۸۳	انبیاء کے دلائل صداقت
۲۶۵	نبوت تشریحی وغیر تشریحی	۸۳	انبیاء کو دعویٰ سے پہلے پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے
	غیر تشریحی	۸۳	انبیاء کے معجزات میں انخفاء کا پہلو
	بعض دفعہ کتاب واجب العمل ہوتی ہے لیکن اس کی مردہ تعلیم کو زندہ کرنے کے لئے اللہ ایک انسان کو کھڑا کر دیتا ہے	۱۰۰	ہر نبی کو فرقان دیا جاتا ہے
۳۷۲		۸۵، ۸۲	

۴۳۱	مضمرق	۲۶۵	بنی اسرائیل میں شریعت موسویہ کے پیرو غیر تشریحی انبیاء
۵۰۸	نبوت آدمؑ سے شروع ہوئی		نبوت اور امت محمدیہ
۲۴۲	اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت		حضرت ابراہیم کی بنی اسماعیل میں ایک صاحب شریعت نبی کی بعثت کی دعا
۳۷۳	بنی اسرائیل میں نبی کی بعثت یہود کو برداشت نہیں	۵۲۰	سوائے آنحضرتؐ کے کسی نبی کو کلمہ نہیں دیا گیا
۲۷۰	بنی اسرائیل مسیحؑ سے پہلے کے تمام انبیاء کی عظمت کے قائل تھے	۵۰۰	آنحضرت کے کارناموں کی نظیر دنیا کے کسی نبی میں نہیں
۲۷۲	سوائے حضرت عیسیٰ کے انبیاء بنی اسرائیل کی علیحدہ جماعتیں نہیں تھیں	۴۸۱	آنحضرتؐ ہی ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت قیامت تک منقطع نہیں ہوگا
۴۳۹	عیسائی انبیاء کو چورا اور ہٹا رکھتے ہیں	۴۷۶	آنحضرتؐ آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیتے ہیں
	نجات	۵۰۷	مسیح موعود کی نبوت آنحضرت کی نبوت کے تابع اور ظل ہے
۱۵۱، ۱۵۰	نجات یافتہ ہونے کے لئے صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کافی نہیں	۴۷۶	مسیح موعود کی نبوت مستقل نبوت نہیں
۲۳۸	محض کسی عقیدہ کا ماننا نجات کی گارنٹی نہیں	۴۷۶	قیامت کے دن ایک نبی کی بعثت مخالفت
۲۳۸، ۲۳۷	مختلف مذاہب کا عقیدہ نجات	۲۹۹	ہر نبی کے دشمن دوسرے انبیاء کے دشمنوں کے مشابہ ہوتے ہیں
۱۴	یہود و نصاریٰ کے نظریہ نجات کا رد	۲۷۴	نبی کی تعلیم لوگوں کے خیالات کے خلاف ہوتی ہے
	مسیح اپنی صلیب سے لوگوں کی نجات وابستہ نہیں بتاتے تھے	۴۲۰	مخالفین کے منہاج نبوت کے خلاف مطالبات
۱۸	دنیا کا نجات دہندہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۴۲۰	مخالفین کا ہر نبی کے زمانہ میں مطالبہ کہ ہم پر خدا براہ راست کلام نازل کیوں نہیں کرتا
۴۷۷	نجات کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصریحات	۴۰۸	سچے نبی کو جھٹلانے والا اظلم ہے
۲۹۹	نجات فضل سے ہے نہ کد اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے	۳۱۹	اللہ اپنے رسول کے خط پھاڑنے والے کو تباہ کر دیتا ہے
۵۰۴	نجات کا مستحق کون ہے	۲۹۸	نبی کے انکار کی وجہ سے عذاب نہیں آتا بلکہ شرارت اور فساد کی وجہ سے آتا ہے
۳۹۹	اسلام کے نزدیک نجات دنیا کے ہر فرد کا حق ہے		
۲۹۵	نجات کے متعلق اسلام کی وسعت نظری		
۲۹۹	سچے مذہب کے تمام پیرو نجات حاصل کرنے کے مستحق ہوتے ہیں		
۲۹۸	نجات ملت ابراہیم کی اتباع میں ہے		
۵۰۴			

نشانی	(غیر مسلم) بطور تملطف و رحم نجات حاصل کر سکتے ہیں	۲۹۸
۲۷۱	نجات یافتہ ہونے کی دنیوی علامات	۳۹۶
۱۳۹	اسلام اور عیسائیت کے نظریہ نجات میں فرق	۳۹۵، ۳۹۴، ۳۹۳
۳۶۹	نجات کو محمد و قرادینے میں یہود، ہنود اور عیسائیوں کے اعتقادات	۲۹۴
۲۴۹	مذہب کے زمانہ منزل میں نجات کے متعلق نظریات	۵۰۲
۲۵۰	نزل	
۵۴۳	نزل کے معنی قرآن کریم میں	۱۱۹، ۱۰۷
۵۴۴، ۵۴۳	مسح موعود کے متعلق کسی صحیح حدیث میں آسمان سے نازل ہونے کا ذکر نہیں	۱۱۸
۵۴۳	نسخ فی القرآن	
۴۷۰	حضرت مسح موعود علیہ السلام کے ذریعہ عقیدہ نسخ کی اصلاح	۳۶۲، ۳۶۰
۳۶۷	قرآن میں مذکور نسخ گزشتہ الہامی کتب کے متعلق ہے نہ کہ خود قرآنی آیات کے متعلق	۳۶۷
۳۶۴	نسخ کی تردید قرآن کریم سے	۳۶۴
۳۶۲	نسخ آیات قرآنیہ کا عقیدہ تسلیم کر کے قرآن کریم کا اعتبار اٹھ جاتا ہے	۳۶۲
۳۰۲	کوئی شریعت کن حالات میں منسوخ کی جاتی ہے	۳۷۱، ۳۷۰، ۳۶۹
۴۸۹	خبروں اور واقعات میں نسخ نہیں ہوتا (ابن کثیر)	۳۶۶
۴۶۴	مفسرین کے نزدیک نسخ کی تین صورتیں	۳۶۲، ۳۶۱
۴۶۴	مختلف علماء کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد	۳۶۳
۴۶۳	پانچ سے گیارہ سو تک ہے	
۴۶۳	مفسرین کے نزدیک آیت لا اکواہ فی الدین کا حکم	
۴۹۶	منسوخ ہے	۳۶۱
۲۷۱	مسح کے ذریعہ یونس نبی کا نشان دوبارہ دکھایا گیا	
۱۳۹	نصاری (نیز دیکھئے عیسائیت)	
۳۶۹	نصاری کی وجہ تسمیہ	
۲۴۹	نظام	
۲۵۰	نیالہی نظام دنیا میں کب قائم ہوتا ہے	
۵۴۳	نماز	
۵۴۴	بدنی عبادات کی سردار ہے	
۴۷۰	اقیموا الصلوٰۃ میں استقلال کے ساتھ بغیر ناعہ نماز ادا کرنا شامل ہے	
۵۴۳	اسلام نے نماز باجماعت کو ضروری قرار دیا ہے	
۵۴۴	جس مسلمان کے گھر تک آذان کی آواز پہنچے اس کے لئے مسجد میں آنا ضروری ہے	
۵۴۳	عشاء اور فجر کی نماز میں نہ آنے والوں کے متعلق آنحضرت کی توجیح	
۴۷۰	نیند کے متوالے کے لئے صبح اور عشاء کی نمازیں مسجد میں جا کر پڑھنا بڑی نیکی ہے	
۳۰۲	نچیریت	
۴۸۹	ہمیں تو جہاں بھی اسلام کی صداقت نظر آئے گی	
۴۶۴	ہم اسے پیش کریں گے خواہ کوئی اس سے نچیریت کی طرف مائل ہو (مسح موعود)	
۴۶۴	نیکی	
۴۶۳	نیک کام اور عمل صالح میں فرق	
۴۶۳	نیکی کی ابتداء انسان کے اختیار سے ہوتی ہے	
۴۶۳	نیکی کی عادت کے باوجود اس کا ثواب ملتا ہے	
۴۶۳	نیکی کے نتیجہ میں مزید نیکیاں پیدا ہوتی ہیں	
۴۹۶	حسنات الابراہیمات المقربین	

۵۰۱	وصیت حضرت یعقوبؑ کی اپنی اولاد کو نصیحت	۴۷۱	ہر شخص کے لئے قوم اور زمانہ کے حالات کے مطابق بڑی نیکی مختلف ہوگی
۵۱۲	وعدہ خدائی وعدوں کے باوجود دعا کی ضرورت	۴۷۱، ۴۷۰	سب سے بڑی نیکی جہاد اور تہجد
۴۲۲	خدائی وعدوں کی بے حرمتی	۴۷۶	الہام کا پورا کرنا اپنی ذات میں نیکی ہے
۴۵۵	وقف زندگی دین کے لئے وقف زندگی کی ضرورت	۲۴۰	نیت نیک عمل کے ساتھ یہ نیت ضروری ہے کہ میں خدا کے لئے یہ کام کر رہا ہوں
۳۷۳	وید	۲۳۱	ارتکاب گناہ میں نیت کا دخل
۲۹۷	شودروں کو وید سننے کی ممانعت	۲۳۸	بدی کے قابل مواخذہ ہونے کے لئے ارادہ کی شرط
		۲۱۸	تحریف میں نیت کا تعلق
			و
			والدین
			بچے باپ اور ماں دونوں کی خصلتیں لے کر پیدا ہوتا ہے
۳۴۴	ہجرت ظالم حکومت سے ہجرت کرنے کا حکم	۲۰	والدین اولاد کے لئے خدا کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں
۱۵۶	آئینہ حضرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت	۲۴۸	والدین کی خدمت بڑی نیکی ہے
۲۶۸	ہجو جو اباً ہجو کہنے کا جواز	۴۷۱	والدین سے احسان کا حکم
۴۲۴	ہدایت حقیقی اور سچی تعلیم ہی ہدایت دے سکتی ہے	۲۴۸	والدین سے احسان کے معنی بدلہ احسان
۳۹۱	ہدایت کی جستجو ترک کرنے کے اسباب	۲۴۸	وحی (نیز دیکھئے الہام)
۳۱۱	ہدایت ورشہ میں نہیں دی جاتی	۴۳۳	کمال انعام وحی سے تعلق رکھتا ہے
۱۶۴	ہفتہ یہودیوں کا مقدس دن (سبت)	۲۶۷	وحی عام طور پر ملائکہ کے توسط سے ہوا کرتی ہے
		۳۹۵	وحی ایمان کو تازہ کرنے اور علوم کو بڑھانے کے لئے آتی ہے
		۳۹۵	عیسائی مسیح کے بعد وحی کو بند سمجھتے ہیں
۱۸۱	ہمسایہ ہمسایہ کو دکھ دینا مومن کا کام نہیں	۳۹۵	اسلام کے نزدیک وحی ہمیشہ کے لئے جاری ہے
			و بالآخر وہم یوقنون سے مراد آئندہ نازل ہونے والی وحی
۴۱۶	ہندو مذہب ہندوؤں کے عقیدہ ازلیت روح و مادہ کا رد	۳۹۲	

۲۴۵	یہود میں شرک اور دوسری برائیاں	آنحضرتؐ کے زمانہ کے یہود کی سازشیں حضرت
	یہود کا صدوقی فرقہ حضرت عزیر کو ابن اللہ قرار دیتا تھا	سلیمانؑ کے باغیوں (فری میسنرز) سے مشابہ ہیں ۳۳۶
۲۴۵	عہد شکنی	کسریٰ ایران سے دوستانہ تعلق ۳۳۷
	والدین اور اقرباء سے بدسلوکی	ایرانی دربار میں رسوخ اور آنحضرتؐ کے خلاف
۲۴۶	بے دینی اور اباحت	سازشیں ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۳۷
۲۵۲	بتکبیر	خسر و ایران کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری کے
۲۷۴	دو تہنی نقائص	پچھتے یہود کی سازش تھی ۳۳۸
۲۵۳	عملی حالت	سرولیم میور کا اعتراف کہ یہود نے کسریٰ ایران کو
۲۵۸	سبت کا احترام نہ کرنے کے نتیجے میں جلاوطنی کی سزا	آنحضرتؐ کی گرفتاری پر اکسایا تھا ۳۴۱
۳۳۵	عملاً صداقت کا انکار کرتے تھے	خیبر کے موقع پر بیرونی طاقتوں سے مدد لے کر
۲۸۵	اپنی کتب کی صداقت سے انکار	آنحضرتؐ کا مقابلہ کرنا ۳۴۸
۲۸۴	حضرت زکریا اور یحییٰ کو نبی نہیں مانتے	یہود کا قبلہ یروشلم تھا ۵۵۵
۲۷۰	مسح کی روح کو شیطانی قرار دیتے تھے	یہود کے حالات کے متعلق حدیث میں ایک تمثیل ۲۸۲
۲۷۲	ملعون اور مغضوب ہونے کے اسباب	عقائد
۲۸۳، ۲۷۶	حضرت مسیحؑ اور آنحضرتؐ کا انکار کر کے غضب الہی کا	خدا تعالیٰ کی صفت تواب کے قائل نہیں تھے ۳۰۶
۲۸۳	نشانہ بنے	جبریل کو عذاب کا فرشتہ اور اپنا دشمن سمجھتے تھے ۳۰۶
	دوسری حجت یہ کہ ان کی مٹی ہوئی تعلیم کو اسلام دنیا میں	یہود کا کہنا تھا کہ ابراہیمؑ یہودی تھے ۵۱۹
۳۷۳	واپس لایا ہے	یہود حضرت ابراہیمؑ کی شفاعت کے امیدوار تھے ۴۳۴
۲۴۷	یہود کے نیک لوگوں کا استثناء	یہود کی شفاعت کی نفی ۴۳۶
	نبی آخر الزماں کی انتظار	نبوت اور نجات صرف اپنے تک محدود سمجھتے تھے
	یہود کی کتب میں ایک آنے والے رسول اور جدید	۲۹۸، ۲۹۴
۲۸۴	کتاب کا ذکر	جنت صرف ان کے لئے مخصوص ہے ۲۹۵
۳۶۶	یہود سے نیا عہد (اسلام) باندھنے کی پیشگوئیاں	وہ زیادہ سے زیادہ بارہ ماہ جہنم میں رکھے جائیں گے
۲۸۹	آنحضرتؐ کی آمد سے پہلے آپ کے منتظر تھے	۳۸۸
	یہود مدینہ	سوائے داتھن۔ ایسی رام اور دہریوں کے کوئی
	مدینہ میں موعود نبی کی انتظار میں آباد ہوئے تھے	یہودی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا
۲۷۸، ۲۵۷	آنحضرتؐ کی بعثت سے قبل یہود تقاول کے طور پر اپنے	بد اعمالی
۵۴۶، ۲۸۹	بچوں کا نام محمد رکھتے تھے	تورات کو پیٹھ پچھے پھینکنے کا مفہوم ۴۲۹، ۳۱۹
		یہود کی بد اعمالیوں پر مسیحؑ کا نوحہ ۲۹۰
		آنحضرتؐ کے زمانہ میں یہود بحیثیت مجموعی
		مردہ تھے ۲۵۲

۳۵۳	آحضرتؑ سے دانستہ بے ہودہ سوالات کرنا اور اس کا مقصد	۵۳۸، ۴۲۶، ۳۳۸	یہود کے بڑے بڑے علماء آحضرت کی صداقت کے قائل تھے
۳۵۴	آحضرتؑ کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہنا	۲۶۲	مدینہ کے نواح میں بسنے والے یہود سے خاص عہد کا تعلق
۳۳۷	اسلام کے خلاف سازشیں	۲۸۴	ایمان نہ لانے کی وجہ
۳۸۳	یہود کی بدینتی		اسلام کے خلاف سازشیں
۳۸۴	مسلمانوں کی مرکزیت تباہ کر کے انہیں لامرکزیت کی طرف لے جانے کی کوشش	۳۲۶	ہاروت و ماروت کے واقعہ میں بتایا گیا ہے کہ یہود آحضرتؑ کے خلاف سازشیں کریں گے
۳۱۰، ۳۰۸	یہود کے قرآن پر شبہات کے چار اصولی جواب	۳۴۲، ۳۳۶، ۲۷۴	آحضرتؑ کے خلاف قتل کی سازشیں
۲۹۶	یہود کو مہلبہ کی دعوت	۳۱۰، ۳۰۳	آحضرتؑ کے انکار کی وجوہات
۳۰۱، ۲۹۶	یہود کے ذکر میں تمنائے موت کے معنی		آحضرتؑ کے استخفاف کے مرتکب ہوتے تھے
۳۰۲	لمبی عمر کی خواہش اور اس کی وجوہات	۳۵۹، ۳۵۴	



اسماء

۴۵۴	آپؐ کی ظلیت میں دین کے لئے وقف زندگی کی ضرورت	۵۱۴	آدم علیہ السلام
۴۵۵	آپؐ کے نمونہ پر چلنے والے ابراہیمؑ کی اولاد اور اس کے نکل ہوں گے	۴۳۱	اللہ کا آدم کو اپنی صورت پر پیدا کرنے کا مطلب آدم سے نبوت شروع ہوئی
۳۸۱	آخری عمر میں اسماعیل اور اسحاق کا پیدا ہونا	۴۳۲	تمام جہانوں پر آدمؑ کی فضیلت کا مفہوم
۴۳۲	آپ کے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کے متعلق خدا کا وعدہ تھا		
۴۴۴	خدا کا عہد مشروط تھا		
۴۷۷، ۳۸۲	اللہ تعالیٰ کی وحی کہ جو کچھ سارہ کہتی ہے وہی کر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو وادی غیر زرع میں چھوڑ		
۴۳۸	آنے کا حکم		
۴۳۲	آپؐ کی آل کی تمام جہانوں پر فضیلت کا مفہوم	۴۴۲	ابراہیم علیہ السلام
۴۹۵	اپنی ذریت کو نصح		
۴۵۹	خدا کی منشاء کے مطابق دعا میں احتیاط	۴۳۸	آپؐ کے نبی ہونے کے بعد امام ہونے کا مفہوم امامت سے مراد آپ کی نبوت نہیں بلکہ آپؐ کا اسوہ ہے
۴۷۰	ذریت کے لئے دعا	۴۹۳	خدا کا چنیدہ
۴۷۴	اسماعیل کی اولاد میں عظیم الشان رسول کی بعثت کی دعا	۵۰۵، ۵۰۴	ابراہیمؑ کے حنیف ہونے کا مفہوم
	ابراہیمؑ پر یہ امر کھل چکا تھا کہ خاتم النبیین بنی اسماعیل میں مبعوث ہوگا	۴۶۸	مصائب کے لئے تعویذ
۴۷۶	آپؐ کی دعا آنحضرتؐ اور اسلام کی صداقت کا زبردست ثبوت ہے	۴۹۱	آپؐ کا عظیم الشان نمونہ
۴۸۷	مکہ کے پر امن شہر بننے کے لئے دعا	۴۶۷	آپؐ کی عظیم قربانی
۴۵۷	خانہ کعبہ آپؐ نے نہیں بنایا بلکہ آپؐ نے قدیم عمارت کی تجدید کی تھی	۴۳۸	آپؐ کی اطاعت کا اعلیٰ نمونہ
۴۶۶		۴۶۷	آپؐ کا تذلل
		۴۳۸	طالمود کے مطابق آپؐ کی دس آزمائشیں ہوئیں
		۴۵۳	آپؐ کے روحانی مقام کی پیروی کا حکم

۵۵۱	ابوالقاسم (محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) دیکھئے عنوان محمد	۴۶۶، ۴۶۵	حضرت ابراہیم کو کعبہ کی جگہ الہاماً بتائی گئی تھی حج اور عید الاضحیہ کے موقع پر امت محمدیہ حضرت ابراہیم
		۴۳۹	کو یاد کرتی ہے
۳۵۰	ابوقحافہ رضی اللہ عنہ (حضرت ابوبکرؓ کے والد)	۵۱۹	یہود کا آپ کو یہودی قرار دینا
۵۰۴	حضرت ابوبکرؓ کے خلیفہ بننے پر اظہار حیرت و تشکر ابوالقلابہ (مفسر قرآن)	۴۳۴	یہود حضرت ابراہیم کی شفاعت کے امیدوار تھے
۱۷۰	ابوالعالیہ	۴۴۷، ۴۴۶	ابرہہ
۱۷۰	ابوما لک (قرندۃ خاسئین کی تفسیر)	۴۴۷	خانہ کعبہ پر ابرہہ کا حملہ
	ایباہ	۱۱۸	ابرہہ کی فوج میں چچک سے تباہی
۳۴۳	حضرت سلیمانؑ کے بیٹے یربعام کا ایک مخالف	۱۶۹	ابن ابی حاتم مسخ صورت کے متعلق قول ابن اخطل
۵۹	اتون (مصری دیوتا)	۹۴	ابن عبد اللہ بن ابی ابن سلول رضی اللہ عنہ کا مومنانہ نمونہ
۶۰	اختانون (فرعون مصر)	۴۰۹	فتح مکہ کے موقع پر حرم کعبہ میں قتل ہوا
۳۴۳، ۳۳۳، ۳۳۲	انبیاء (نبی)		ابوبکر رضی اللہ عنہ
۴۴۱	ادریس علیہ السلام (صدیق نبی)	۵۵۹	آنحضرتؐ پر ایمان لانے کا واقعہ
۱۱۸	اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ	۳۵۰	حضرت ابوبکر کا قبول اسلام اور خلافت و بادشاہت
۳۸۱	اسحاق علیہ السلام	۳۵۷	سارا مال خدا کی راہ میں دینا
	اسماعیل علیہ السلام		ابوجہل
۳۸۱	حضرت ابراہیمؑ کا پلوٹھا بیٹا	۴۹۲	ابوجہل کی ہلاکت
۵۰۸	آپ کے الہامی نام میں خدا سے تعلق کا وعدہ		ابوحیان رحمہ اللہ علیہ (مصنف بحر محیط)
۵۰۸	آپ کی نبوت کا ثبوت		
۴۴۱	اپنے رب کا پسندیدہ	۵۴۲، ۲۶۵، ۲۶۴، ۸۹	
	آپ اور آپ کی ذریت کے متعلق بائبل کی پیشگوئیاں		ابورافع،
۴۷۹	بائبل میں حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل کے حق	۲۰۱، ۱۹۹	سلام بن ابی الحقیق کا قتل
۵۰۹	میں دعا اور اس کی قبولیت	۵۴۹	ابوسعید رضی اللہ عنہ

۶۸	ایمن این ہب (فرعون مصر)	اسماعیل کا ختنہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابراہیم
	ایوب علیہ السلام	آپ کو عہد میں شامل سمجھتے تھے
۲۵	بعثت بعد الموت کے متعلق آپ کی وضاحت	اسماعیل کی عظیم قربانی
		اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں آباد کرنے کا ابراہیمؑ
		کو حکم
۱۷۳	باکھا	۴۳۸
	باکھا	۴۶۵، ۴۵۸
۲۳۳، ۱۹۷، ۱۵	بخت نصر (دیکھئے نبوکدنصر)	ان کے بھائی ہمیشہ ان کے مخالف رہیں گے (پیٹنگوئی)
۳۳۵	یروشلم کو تباہ کرنے والا بابلی بادشاہ	۳۷۶
	بیت المقدس پر بخت نصر کے حملہ کے وقت	آپ سے حضرت سارہ کی نفرت (بانہیل کی رو سے)
۳۷۳	بانہیل کے تمام نئے تباہ ہو گئے تھے	۵۰۱
۵۵۰، ۵۴۹	براء بن عازبؓ	اسرائیل کا بغض
۴۱	برگش (مورخ)	۵۰۷
	برگش	عیسائی اسماعیل کو نبی نہیں مانتے
۱۶۵	برنباس	فتح مکہ تک کعبہ میں حضرت اسماعیلؑ
	برنباس	کا بت تھا
۵۹	بریٹڈ (مصنف تاریخ مصر)	۵۴۷، ۴۸۰
	مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود	۴۷۸
	خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ	۲۳
۵۱۶	آپ کا دعویٰ الہام	۷۷
۳۲۳	الہام اعملوا ال داؤد شکرا (جون ۱۹۰۸)	۵۵۵
	آپ کو الہام میں سلیمان علیہ السلام کی بعض	۲۷۲
۳۲۴	خصوصیات کا وعدہ دیا گیا	۳۵۷
۳۲۴	حکالیف اور اعتراضات پیش آنے کے متعلق الہام	۲۵۷
۵۶۰، ۴۱۲	آپ کی روایا	۲۵۷
	اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن کریم کے بے شمار	اوس بنوقیظ اور بنوقریظ کے حلیف تھے
۳۶۳	معارف کھولے ہیں	۳۸۹
	ہاروت و ماروت کے متعلق قرآن میں مذکور	۲۳۵
۳۲۶	واقعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا دیا جانا	۱۷۲
	آپؐ کے دل میں ڈالا گیا کہ رہنا و ابعت فیہم	۷۱
۴۸۱	رسولاً سورہ بقرہ کے مضامین کی کتنی ہے	Adolphelods

۴۷۶	حضرت ابراہیم پر یہ امر کھل چکا تھا کہ خاتم النبیین بنو اسماعیل میں مبعوث ہوگا	۴۸۱	آپ کے دل میں ڈالا گیا کہ سورۃ کوثر دعائے ابراہیمی کا جواب ہے
۴۷۸، ۴۷۷، ۳۸۱	بنو اسماعیل اور بنو اسحاق کی باہمی رقابت	۳۷۹	آیت مانسوخ من ایتہ کے جدید معنی
۴۶۲	دشمنی کی وجہ سے یہود نے تورات سے مکہ کا ذکر نکال دیا ہے	۵۰۷	آپ کا دعویٰ کہ قرآن میں اختلاف ثابت کرنے والے شخص کا قرآن سے ہی رد کیا جائے گا
۳۷۳	بنو اسماعیل میں نبوت یہود کو برداشت نہیں	۵۰۷	حضرت مسیح موعود کے دعویٰ کو تو جسے دیکھنے کی نصیحت
۵۳۴	بنو سلمہ - مسجد بنی سلمہ (مدینہ) میں دوران نماز حویل کعبہ کا حکم	۳۷۹	مسلمانوں کو نصیحت
۲۳	بنو عمرو	۳۷۹	حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ سے بخاری پڑھنا
۲۵۷، ۲۱۰	بنو قریظہ	۳۷۹	زمانہ طالب علمی میں ہی آپ کا درس قرآن کریم دینا
۲۵۷	بنو قینقاع	۳۷۹	حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا آپ کو سوالات کرنے سے منع فرمانا
۲۰۱	جلاوطنی	۳۹۹	آپ کا ایک شعر
۲۵۷	بنو نضیر		بلعزہ بول - بدر و حوں کا سردار
۲۰۳	آنحضرتؐ کو قتل کرنے کا منصوبہ	۲۷۱	(یہودی عقیدہ کی رو سے)
۲۱۰	شرارتوں میں بڑھ جانا	۳۳۰	بلقیس (ملکہ سبا)
۲۰۱	بنو نضیر کے سردار کے قتل کا حکم		بنو اسحاق
	بنی اسرائیل (نیز دیکھئے عنوان یہود)		حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ دنیا کا نجات دہندہ
۴۳	مورخین کا خیال کہ بنی اسرائیل کبھی مصر میں نہیں گئے	۴۷۷	آخری رسول بنو اسحاق میں سے نہ ہو
۴۵	مصر میں ورود کے چار قیاسی دلائل	۴۸۰، ۴۷۹	کنعان پر بنو اسحاق کے قبضہ کی پیشگوئی
۳۲	مصر میں غلامانہ زندگی	۴۷۸، ۴۷۷	بنو اسحاق کی بنو اسماعیل سے رقابت
۳۳	فرعون کے حکم سے نرینہ اولاد کا قتل	۴۳۲، ۳۳۹	بنو اسماعیل
۳۹	مصر سے کنعان جانے کا راستہ		بنو اسماعیل میں ختنہ کا رواج ان کے عہد میں شامل ہونے کا ثبوت ہے
۳۵	سمندر پھاڑے جانے کی تفصیل (بانہیل میں)	۴۷۹	بنو اسماعیل میں حضرت ابراہیم کی طرف سے ایک صاحب شریعت نبی کی بعثت کی دعا
۴۶	سمندر سے گزرنے کے مقام کی تفصیل	۵۲۰	حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ دنیا کا نجات دہندہ
۱۹۷	بخت نصر کا بنی اسرائیل کو قید کر کے فارس افغانستان اور کشمیر میں پھیلا دینا	۴۷۷	آخری رسول بنو اسماعیل میں سے ہو
۲۲۳	بنی اسرائیل کو یہودیت کا نام داد دے کے بعد حاصل ہوا		

۳۲	تاریخ	۳۲	بنی اسرائیل پر احسانات خداوندی
۱۴۸	حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یربعام کی	۱۴۸	فطری قابلیت
۳۳۳	بغاوت اور سلطنت کا دو حصوں میں بٹ جانا	۶	فضیلت ان کے زمانہ سے مخصوص ہے
۳۳۵	یرمیاہ کی طرف سے جلاوطن ہونے کی پیشگوئی	۱۳۵	نبیوں کو قتل کرنے کے معنی
۱۳۷، ۱۳۳	۵۸۶ ق م میں یروشلم کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل		گناہوں کا بنیادی سبب
۳۳۵	کا اسیر ہو کر بابل لایا جانا		اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھنے کا مطالبہ
۳۳۵	بابل کی اسیری خفیہ سوسائٹیوں کا قیام	۴۸	چھڑے کی پرستش کا واقعہ
	پ	۱۸۱، ۱۷۱	بنی اسرائیل میں گائے اور تیل کی عظمت
	پطرس	۱۷۵	شرک دور کرنے کے لئے گائے ذبح کرنے کا حکم
	(حواری) نے مصیبت کے وقت مسیح کا تین بار	۱۵۶	رفع طور کے معنی
۵۴۵، ۲۹۵	انکار کیا	۱۰۳	بادلوں کے سایہ سے مراد بارش
۱۶۵	پولوس St. Paul	۱۰۶، ۱۰۵	من وسلوی
	ث	۶	آخری کلام پر ایمان لانے کی تلقین
۹۷	شمود (قوم)		اسرائیلی قصبوں کا نقل کرنا تو جائز ہے لیکن ان کی
	ج	۱۹۰	تصدیق یا تکذیب جائز نہیں (ابن کثیر)
۲۶۵	جبریل ملائکہ کا سردار ہے	۲۳۳	میشاق سے مراد تورات میں مذکور دس بنیادی احکام
	قرآن اور بائبل دونوں متفق ہیں کہ جبریل ملائکہ	۴۳۲	تمام قوموں پر فضیلت دینے کا مفہوم
	کا سردار ہے اور اس کا کام کلام الہی بندوں تک	۲۷۰	یہود مسیح سے پہلے تمام انبیاء کی عظمت کے
۳۰۶	پہنچانا ہے		قابل تھے
۳۱۰	جبریل ایک درمیانی واسطہ ہے		سوائے حضرت عیسیٰ کے انبیاء بنی اسرائیل
۲۶۸	جبریل حضرت حسان کی تائید میں	۲۷۲	کے علیحدہ علیحدہ پیروکار نہیں تھے
	یہود اپنے تنزل کے زمانہ میں جبریل کو لڑائی اور		موسوی علیہ السلام سے غیر ضروری اور بے ہودہ
۳۰۶	عذاب کا فرشتہ سمجھتے تھے	۳۷۸	سوالات کثرت سے کرنا
۳۰۷، ۳۰۶	یہود کا جبریل کو اپنا دشمن قرار دینے کی وجوہات	۳۰۴	موسوی کی زندگی میں ہی آپ کی مخالفت کرنا
۳۱۲	دشمنی کے نتائج	۵۰۱	بنی اسرائیل کا حضرت اسماعیل سے بغض
	جسٹینین شاہ روم (۵۲۷-۵۶۷)	۳۸۲	بنو اسماعیل سے بنی اسرائیل کی دائمی رقابت
۳۳۷	یہود پر مظالم	۲۴۲	بنی اسرائیل کو نبوت سے محروم کئے جانے کی وجہ

خوڑس کا یہود سے معاہدہ اور فتح پانے پر ان کو بابل سے یروشلم جانے میں امداد کرنا	۳۴۵، ۳۳۶	ح	حارث بن حلزہ (جاہلی عربی شاعر)	۱۸۸
خوڑس ہی ذوالقرنین ہے	۳۴۵		حجی	
خوڑس کو خدا کی تائید حاصل ہے	۳۴۵		(بابل کی اسیری بنی اسرائیل کے ایک نبی)	
د				
داقھن	۲۳۵		حز قیل (نبی بنی اسرائیل)	۳۵۲، ۳۳۶
حضرت موسیٰ کا ایک دشمن جو یہود کے نزدیک باوجود یہودی ہونے کے ہمیشہ جہنم میں رہے گا	۳۸۹		جنہیں اللہ تعالیٰ نے یروشلم کی دوبارہ آبادی کے متعلق کشف دکھایا تھا	۲۷۲
دانیال (دانی ایل) نبی	۳۰۶، ۲۷۲		حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ	
داؤد علیہ السلام	۳۵۲، ۳۳۳، ۲۷۲		آپؑ کی قادر الکلامی	۲۶۸
حضرت مسیحؑ کا آپ کی نسل سے ہونا غلط ثابت ہوتا ہے	۲۸۶		آپؑ کے ساتھ جبریل کی تائید	۲۶۸
حضرت مصلح موعود کو آل داؤد ہونے کا الہام	۳۲۳		حنوک	۳۲۹
حیات بعد الموت کے متعلق وضاحت	۲۵		حورام ابی	
ڈ			حضرت سلیمان کا ایک دشمن	۳۳۰
ڈایوڈ داس سکولس			فری میسنرز سے اس کا تعلق	۳۳۰
(یونانی مورخ) ۶۱۰ ق م میں کعبہ کے متبرک مقام ہونے کا ذکر کرتا ہے	۴۶۷، ۴۶۶		خ	
ڈوہائے آرمی سٹیکل (یورپین مورخ)	۴۱		خزرج (مدینہ کے انصار کا ایک قبیلہ)	
ذ			زمانہ جاہلیت میں بنو نضیر (یہود) کے حلیف تھے	۲۵۷
ذکریا بن عدو			خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ	۱۱۸
بابل کی اسیری کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے نبی			خسرو ثانی (شاہ ایران)	۳۵۰، ۳۳۸
	۳۵۲، ۳۳۶		آنحضرتؐ کی گرفتاری کا حکم دینے والا ایرانی بادشاہ	
			۲۹ فروری ۶۲۸ کو بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا	۳۴۰، ۳۳۹
ذوالقرنین			خوڑس (سائبرس) شاہ فارس	
سے مراد خوڑس شاہ ایران	۳۳۵		خوڑس کا بابل کو فتح کرنا	

س	ر
سامری	۵۰۱، ۱۵۶
قرآن مجید کے نزدیک سونے کا پچھڑا بنانے والا ایک اسرائیلی شخص تھا نہ کہ حضرت ہارون	رام چندر
سارہ	قرآنی تعلیم کے مطابق نبی ہیں (حضرت مسیح موعود)
۳۸۱ حضرت ابراہیمؑ کی ماموں زاد بہن بھی تھیں	۱۸۲
۳۸۱ ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے نکال دینے کا مطالبہ	۱۷۰
حضرت سارہ کی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل سے نفرت (بائبل کی رو سے)	۹۹
۴۷۷ سائرس (خورس) شاہ فارس	۳۳۳
۳۳۵ سائروس (شیرویہ) شاہ ایران	۳۳۳
۳۳۸ سٹیننگ (پروفیسر جے۔ ایف) Stanning کی بائبل کے تضادات کے متعلق رائے	۳۳
۱۱۴ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ	روشن علی (حافظ) رضی اللہ عنہ
۱۱۸ سعید بن جبیر	۳۷۹
۵۹، ۴۵ سگمنڈ فرائڈ Sed. Freud	حضرت خلیفۃ المسیح الاول سے تعلیم حاصل کرنا اور کثرت سے سوال کرنے کی عادت
سعد جنہوں نے خلافت اولیٰ کے انتخاب کے وقت اختلاف کیا تھا	۴۴۹
۸۸ سلام بن ابی الحقیق (یہودی سردار کا قاتل)	۲۷۲، ۲۷۰
۱۹۹ سلیمان علیہ السلام	زرتشت
۳۵۱، ۲۷۲، ۱۴۱ سلیمان کا خط ملکہ سبا کے نام	۳۲۵
۷۶ حضرت سلیمان کے متعلق عوام میں مشہور قصے	۳۲۵
۳۲۴ یہ خیال کہ آپ جادو جانتے تھے بالکل غلط ہے	۵۵۲
۳۲۶ حضرت سلیمان کے زمانہ میں فری میسنز کی بنیاد	زہرہ
۳۲۹ پڑی	۵۰۰
	ز
	زکریا علیہ السلام
	زہرہ
	بابل کے قصوں کا ایک کردار
	زہرہ (ستارہ)
	زہری رحمۃ اللہ علیہ
	زید رضی اللہ عنہ
	قرآن کریم میں آپ کا ذکر

۱۶	عاموس نبی	۳۳۲، ۳۳۲	بائیل میں آپ پر شرک اور کفر کا الزام
۳۹۸	عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا	۳۲۲، ۳۲۳	حضرت مصلح موعود کو الہام میں حضرت سلیمان کی
۳۰۹	آنحضرتؐ کے متعلق کان حلقہ القرآن		بعض خصوصیات کا وعدہ دیا گیا
۳۵۴	حضرت عائشہ کا یہود کو جواب		سیل (پادری) مترجم قرآن
	عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس بنو خزرج	۳۸۹، ۲۳۵، ۱۲۵، ۲۲	
۹۳	غزوہ بنی مطلق کے موقع پر شرارت	۵۳۴، ۵۲۳	تحویل کعبہ پر سیل کا اعتراض
۹۴	بیٹے کا ایمانی مظاہرہ		
	عبداللہ غزنوی		
۳۸۰	(حضرت مولوی) آپ کا ایک رویا		شلائیڈن
	عبدالطلب	۴۱	جدید مؤرخ کی رائے کہ موسیٰ بحیرہ روم
۴۴۷	آپ کی ابرہہ سے ملاقات اور گفتگو		کے ساحل سے گذرے تھے
	عزرا علیہ السلام		شیرویہ (سائروس) شاہ ایران
۳۷۳	آپ کے وقت تورات کے سب نسخے ضائع ہو گئے تھے	۳۳۸	خسرو ثانی کا بیٹا جس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا
۲۳۳	یادداشت سے بائیل دوبارہ لکھوائی	۳۵۰	شیرویہ کے باپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۳۳۵	آپ کے زمانہ میں یروشلم دوبارہ آباد ہوا	۳۴۰	کے جو وارنٹ گرفتاری جاری کئے تھے اسے شیرویہ
	عزیر علیہ السلام		نے منسوخ کر دیا تھا
۲۴۵	یہود کا آپ کو ابن اللہ قرار دینا		آنحضرت کے تبلیغی خط کا مخاطب شیرویہ تھا
۸۸	(حضرت) عمران بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی		
۳۹۷	علی بن طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ رابع	۳۳۳	(حضرت سلیمان کے دشمن یربعام کی ماں)
۳۳۹	ایران کی فتح	۲۶۰	صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمۃ کے خلاف سازش
	عمران		
۴۳۲	آل عمران کی تمام جہانوں پر فضیلت کے معنی		
۵۹	عمون ہوتپ، مصر کا موحد بادشاہ	۲۰۰	طلحہ بن ابراہم رضی اللہ عنہ
	عیسے ابن مریم (مسیح ناصری) علیہ السلام		
۲۳۱، ۲۸۶		۹۷	عاد (قوم)

۲۷۳، ۲۷۴	رد الوہیت	۲۸۶	انجیل حضرت عیسیٰ کو داؤد کی نسل سے بتاتی ہے
۲۷۳، ۲۷۴	مسیح کی الوہیت کا رد	۵۳۵	آپ کا گرفتار ہو کر سردار کا ہن کے پاس لے
۲۷۳، ۲۷۴	مسیح کو زمین و آسمان کی پیدائش میں شریک قرار	۲۸۷	جایا جانا
۲۷۳، ۲۷۴	دینے والے عیسائیوں کا رد	۲۸۷	انجیل میں آپ کی دو بعثتوں کا ذکر
۲۷۳	حضرت عیسیٰ کے مخلوق ہونے کا ثبوت	۵۳۷	تحویل قبلہ کے متعلق حضرت مسیحؑ کی ایک پیشگوئی
۲۷۳	حضرت مسیح کی اہنیت کی تردید	۱۸	مسیح شیطان سے صرف مسیح اور مریم ہی پاک نہیں
۲۷۳	مسیح کی اہنیت سے روح القدس میں نقص ماننا	۲۰	موروثی گناہ سے آپ کے پاک ہونے کا نظریہ اور
۲۷۳	پڑتا ہے	۲۰	اس کا رد
۲۷۳	مسیح کے تعلق میں کلمہ اور کلام کا غلط مفہوم	۲۲	یونس نبی کا نشان دکھانے کا وعدہ
۲۷۳	آپ کی زبان سے دوسروں کے لئے ابن اللہ	۱۹۶	واقعہ صلیب کے متعلق مختلف اقوام میں اختلاف
۲۷۳	کا استعمال	۲۲	آپ اپنی مرضی سے صلیب پر نہیں لٹکے
۲۷۳	بینات اور روح القدس کی تائید کی وجہ سے	۲۲	آپ کی صلیب سے بچنے کے لئے دعائیں
۲۷۳	آپ کو دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل نہیں	۲۲	آپ نے صلیب پر جان نہیں دی
۲۷۳، ۲۷۴	مسیح نامصری کے بارہ میں مشرک کا نہ عقائد	۲۲	مسیح کے صلیب سے بچ جانے کے متعلق حضرت مسیح
۲۷۳	یہود کا الزام کہ آپ کی روح شیطانی ہے	۱۹۶	موجود علیہ السلام کی تحقیق
۳۱۵، ۲۷۱	آپ پر معجزہ نہ دکھانے کا الزام		صدافت
۲۷۱	آپ کے مخالفوں کا مطالبہ کہ آپ کی صداقت کے	۲۷۰	آپ صداقت کی تمام علامتیں ساتھ رکھتے تھے
۲۷۱	متعلق ہمیں الہام ہونا چاہیے	۲۷۲	تمام انبیائے بنی اسرائیل کے برعکس آپ کی
۲۷۱	یہود کی بد اعمالیوں پر آپ کا نوحہ	۲۷۲	علیحدہ جماعت تھی
۲۷۱، ۲۷۲	مسیح کے حواری	۲۷۱	صلیبی موت سے بچنا آپ کا بڑا معجزہ ہے
	غ		مقام
۳۰۲، ۲۶۵	غلام احمد قادیانی (مرزا) مسیح موعود و مہدی معبود	۲۸۶، ۲۷۰	آپ غیر تشریحی نبی اور رسول تھے
	دعویٰ	۳۹۳	آپ کی بعثت صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی
۵۰۷	اس زمانہ میں موعود مسیحیت کا وعدہ حضرت بانی	۳۷۲	آپ کی بعثت کا مقصد تورات کی بعض تعلیمات کو
۲۴۴	سلسلہ احمدیہ کے وجود میں پورا ہو چکا ہے	۳۸۶	نمایاں کرنا اور مغز شریعت کی طرف توجہ دلانا تھا
	آنحضرت کی امت میں سے مسیح موعود کو امامت	۵۳۵	آپ نے کبھی مثیل موسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا
	کا مقام بخشا گیا ہے	۲۷۱	آپ کے ساتھ دس ہزار قدوسی کبھی نہیں رہے
		۲۷۱	آپ پر آخری الہام نازل ہونے کا رد

۱۸۲	آپ کا ہندوؤں کو صلح کا پیغام	۳۷۲	سورہ جمعہ میں آپ کی بعثت کی پیشگوئی اور آپ کے سپرد کاموں کی تفصیل
۱۸۲	حضرت کرشن اور رام چندر کو نبی تسلیم کرنا	۴۷۶	بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسیح کی دوسری بعثت مثیل موسیٰ کے ظاہر ہونے کے بعد ہونا مقدر تھی
۱۶۶	جمہد کی چھٹی کے متعلق حضور کا میموریل حکومت ہند کو بھجوانا	۲۸۷	آنحضرت آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیتے ہیں
۱۳۲	احمد یوں کو قادیانی کہنے میں مسیح اور ان کے اتباع سے مشابہت	۵۰۷	آپ کی نبوت آنحضرت کی نبوت کے تابع اور ظل ہے
۱۵۰	آپ کی جماعت کے لئے خارق عادت نصرت الہی	۴۷۶	آپ مستقل نبی نہیں ہیں
۱۵۰	آپ سے وابستہ ہو کر ہی مسلمان غلبہ پائیں گے	۳۷۲	آپ کوئی شریعت نہیں دی گئی بلکہ شریعت اسلامیہ کی تجدید اور احیاء کا کام آپ کے سپرد ہوا ہے
	صداقت	۴۷۶	مسیح موعود کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا
۸۵	آپ کو فرقان کا دیا جانا	۴۷۶	دین ہی زندہ ہوگا نیا دین جاری نہیں ہوگا
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بے مثال جذبہ	۲۸۵	قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد آپ کو ماننے کی ضرورت
۱۸۲	آپ کی صداقت کے متعلق ضرورت زمانہ کی دلیل	۴۷۶	آپ کا دعویٰ کہ خدا تعالیٰ آپ کے ذریعہ تمام قوموں کو اکٹھا کر دے گا
۳۷۵	آپ کی سچائی کی ایک اور دلیل	۴۷۶	حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمام اقوام کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے ہیں
۴۰۸	آپ کی سچائی کی ایک اور دلیل	۴۱۳	آخری زمانہ کے موعود کی بعثت کے بعد اسلام کے مغرب میں پھیلنے کی پیشگوئی
۵۶۰	اپنی قبولیت کے متعلق ایک فرمان	۴۴۹	مسیح موعود کے ذریعہ شیطان کی ہلاکت
	آپ کی نبوت و رسالت کو ثابت کرنے کے لیے یہی امر کافی ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی آیات کے منسوخ ہونے کے عقیدہ کی اصلاح کی	۱۹۴	کذلک یوحی اللہ العوتی کی تفسیر
	الہامات اور پیشگوئیاں	۲۱	آپ کی تنقید سے بچنے کے لئے انجیل میں تحریف کر دی گئی
	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے ہندوستان میں طاعون پڑنے کی پیشگوئی اور اس کا پورا ہونا	۳۷۵	مسیح ناصری کے صلیب سے بچائے جانے کے متعلق
	عقائد - تعلیم - نصائح	۴۸۴	آپ کی تحقیق
	ملانکہ کے متعلق آپ کی تصریح	۱۹۶، ۱۹۵	آپ کی طرف سے مسیحوں کے عقیدہ کفارہ کی تردید
	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیش کردہ اصول کہ قانون قدرت اور کلام الہی میں تضاد نہیں ہو سکتا	۲۱	اور اس کا اثر
	جبر و قدر کے متعلق متوازن تعلیم		
	عذاب نبی کے انکار کی وجہ سے نہیں شرارت اور فساد کی وجہ سے آتا ہے		

۵۹، ۴۷	فرائڈ (ڈاکٹر)	حضرت مسیح موعودؑ نے آکر بتایا کہ شروع سے آخر تک سارا قرآن قابل عمل ہے کوئی آیت منسوخ نہیں
۳۳	فرعون	۳۶۳، ۳۶۱، ۳۶۰
۴۱	حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت کا فرعون رعمیس ثانی	۵۰۵
۴۳	فرعون کا ساحلی راستہ اختیار کرنے کی وجہ	۳۵۷
۶۸	منفتحان جو حضرت موسیٰؑ کا تعاقب کرتے ہوئے غرق ہوا	کلام
	فلاس ٹارگی اس، ۳۴۲ ق۔ م کا مورخ	خدا کے عزیز ہونے کے متعلق حضور کا ایک اردو شعر
		۴۷۵
		۲۹۳
		ایک شعر میں خاص اسلوب بیان
		تاریخ
۳۳۱	قائیل بن آدم	حضرت مسیح موعودؑ کے وجود میں بنو اسحاق اور بنو اسماعیل دونوں شاخیں مل گئی ہیں
۴۲۹، ۱۷۰	قتادہ رضی اللہ عنہ	۴۵۰
۹۹	قرطبی (مفسر قرآن)	۴۹۸، ۴۹۷
	قریش	۳۲۳
۴۸۰	بنی اسماعیل ہونے کا ثبوت	۴۰۰
	قیصر روم	۴۵۸
	چھٹی صدی کے اواخر میں جسٹینین قیصر روم کے یہود پر مظالم	۳۰۷
۳۳۷		۳۷۶
		۴۹۲
		آپ کا انکار کرنے والوں میں روحانی جمود
		آپ جب منہاج نبوت کا ذکر فرماتے تو دشمن چڑھتے
۴۴۹	کرشن	۴۲۰
	قرآنی تعلیم کے مطابق نبی ہیں (حضرت مسیح موعودؑ)	غلام مرتضیٰ (مرزا) والد ماجد حضرت مسیح موعودؑ
۱۸۲		۴۹۸، ۴۹۷
۱۹۰	کرمانی	آپ کی طاقت اور وفات کا ذکر
۱۹۹	کعب بن اشرف، مدینہ کا یہودی سردار	
۱۹۹	کعب بن اشرف کے جرائم	۵۵۷
۲۰۴	کعب کے قتل کے متعلق قرآن میں حکم	۱۷۳
		ف
		فاطمہ رضی اللہ عنہا
		فتاح (مصریوں کا دیوتا) Ptah

۲۰۳	یہودی عورت کا زہر دینا	کسریٰ
۲۲۴	اس خیال کا رد کہ حضور نے یہود سے بائبل کے واقعات سن سنا کر قرآن میں شامل کئے	کسریٰ ایران کو آنحضرتؐ کا تبلیغی خط بھیجنا
۱۸۲	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہندوؤں کو دعوت کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں	آنحضرت کا مکتوب مبارک پھاڑنے کی جسارت
۵۵۱	صحابہ کرام احتراماً آپ کی کنیت ابوالقاسم سے آپ کو پکارتے تھے	آنحضرت کے زمانہ سے قبل یہود کا کسریٰ سے دوستانہ تعلق
۳۰۹	آپ ہی اس عظیم الشان امانت (قرآن) کے اہل تھے	ککاؤ، فرعون مصر
۵۵۸	اہل مکہ کو پہلا انذار	کنفیوشس
۳۳۹، ۳۱۹	کسریٰ ایران کو حضور کا تبلیغی خط	ل
۳۳۸	خسر و ایران کی طرف سے آپ کی گرفتاری کا حکم	لات
۳۳۹	خسر و ایران کے آنحضرت کو گرفتار کرنے کے پیچھے یہودی سازش تھی	عربوں کا دیوتا جس کا ذکر یونانی جغرافیہ نویس ہیرودس نے کیا ہے
۵۴۵	فتح مکہ کے وقت دس ہزار قدوسی آپ کے ساتھ تھے	م
۲۴۴	مقصد بعثت	ماروت (دیکھئے عنوان ہاروت و ماروت)
۲۴۴	حضرت ابراہیم کی دعائیں آپ کی بعثت کے مقاصد کی تعیین	مارٹن (ڈاکٹر)
۲۸۷	آنحضرتؐ نے دعائے ابراہیمی کے مطابق تمام کام کر دکھائے	اے ماریٹ (پروفیسر فرانس یونیورسٹی)
۲۴۵	آنحضرتؐ کی بعثت کا ایک اور مقصد تزکیہ نفوس	مامون
۲۵۶	آپ کے ذریعہ بیت اللہ کی تطہیر	ماوردی
۳۷۳	آنحضرت انبیاء سابقہ کی گم شدہ تعلیمات کو دوبارہ دنیا میں لائے	مجاہد (تابعی مفسر قرآن)
۲۸۷	مصدق/مصدق	محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
۲۸۰، ۳۸۲	ابراہیمی دعا کا مصداق ہونے کا دعویٰ	صداقت کے دلائل
۳۰۳	حضرت اسماعیل کی نسل سے ہونے کا ثبوت	صحابہ کا حضور سے عشق
	آپ انبیاء بنی اسرائیل کی پیشگوئیوں کے مطابق آئے ہیں	رسول کریمؐ لکھنا نہیں جانتے تھے
		یہود کا محض دنیا کی خاطر حضور کا انکار
		یہود کے منصوبہ ہائے قتل
		بؤنفسیر کا حضور کے لئے منصوبہ قتل

۴۸۱	آپ کو سورۃ کوثر میں دیئے گئے وعدے دعائے ابراہیمی کا جواب ہیں	۵۴۵، ۵۴۴، ۳۸۹، ۲۸۷، ۲۸۵	بائبل میں آپ کے متعلق پیشگوئیاں
۵۵۸	صدقت آپ کی صدقت کی سب سے بڑی دلیل آپ کا وجود ہے	۳۱۸ ۲۸۵ ۳۱۸	مصدق لہما معہہ کا مفہوم مثیل موسیٰ ہونے کا دعویٰ موسیٰ کے مصدق
۳۷۵	ضرورت زمانہ کے اصول کے تحت آپ کی بعثت دعائے ابراہیمی آنحضرت کی صدقت کا بہت	۵۵۷	آنحضرتؐ کو بیٹوں کی طرح پہچاننے کا مطلب یہود نبی موعود کی انتظار میں مدینہ میں آکر آباد ہونے
۴۸۷	بڑا ثبوت ہے آپ کو کثرت سے اور بڑے بڑے معجزات دیئے گئے	۲۵۷ ۲۸۹	یہود آنحضرتؐ کی بعثت سے قبل اپنے بچوں کا نام تقاویٰ کے طور پر محمد رکھتے تھے
۳۱۶	آنحضرتؐ کو بھی بینات دی گئیں	۲۶۶	حضرت ابراہیم پر یہ امر کھل چکا تھا کہ خاتم النبیین
۳۰۹	مجسم قرآن اخلاق	۴۷۵ ۴۷۷	بنی اسماعیل سے مبعوث ہوگا دنیا کا نجات دہندہ آخری رسول
۳۰۹	آپ کے اخلاق قرآن کی تفسیر تھے آنحضرتؐ کی راست بازی اور دیانت اہل مکہ تسلیم کرتے تھے	۴۷۶	آپ ہی ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت قیامت تک منقطع نہیں ہوگا
۵۵۸	خدائی احکام کا ادب	۵۲۸، ۴۷۶	وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائع کا اختتام ہے
۵۴۲	آنحضرتؐ کی روحانی فراست	۴۸۱	فضائل آنحضرتؐ کا مقام فضیلت
۳۰۹	آپ کا قلب مطہر	۳۷۳	موسیٰ سے بڑا نبی
۵۵۷	آنحضرتؐ کا عدل	۵۰۰	سوائے آپؐ کے کسی نبی کو کلمہ نہیں دیا گیا
۵۴۵	فتح مکہ کے موقع پر آنحضورؐ کا بے نظیر عفو حضور نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں	۴۴۴	آپ کو تمام دنیا کی امامت عطا کی گئی آنحضرتؐ کی بعثت تمام دنیا کے لئے اور قیامت تک کے لئے ہے
۴۰۸، ۴۰۷	عبادت کرنے کی اجازت دی	۵۳۲، ۳۹۴	آپ کے ذریعہ دنیا کی تمام قوموں کو دین واحد پر جمع کیا جائے گا
۳۵۴	رفیق اور نرمی سے کام لینے کی تلقین	۴۴۹	آپ کے کاموں کی نظیر دنیا کے کسی اور نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتی
۵۵۴	آنحضرتؐ میں ضد کی نفی کا ثبوت	۴۸۱	آپ کو دیئے جانے والے کوثر سے مراد
۳۵۵	آنحضورؐ کا بکریاں چرانا صحابہ/امت	۴۸۱	
۵۳۲	آنحضرتؐ کی استعداد کے مطابق آپ کو قوم ملی	۴۸۱	

محمد علی (مولوی)	آنحضرت کے زمانہ بعثت میں انسانی عقل کی پختگی
۴۲۰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنا	۴۷۵ آپ قیامت تک امت محمدیہ کے شاہد رہیں گے
معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ	۵۳۳، ۵۳۰
۲۶۹ دم بدم روح القدس اندر معین می دند	۴۸۵ قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر
۲۷۰ ملا کی بنی اسرائیل کے نبی	۳۷۸ صحابہ کو سوالات سے منع کرنے کی اصل وجہ
۵۱۶ ملر (پروفیسر ماہر حساب دان)	حالات کے مطابق ایک ہی سوال کے مختلف
۱۷۳ منتو (مصری دیوتا) Mentui	۴۷۱، ۴۷۰ جوابات دینا
منفتاح (فرعون مصر)	صحابہ سے فرمانا کہ دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے
۴۳ جو حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے غرق ہوا	۳۵۴ زیادہ واقف ہو
۴۳۱ موسیٰ علیہ السلام	۴۰۰ آپ کی اور آپ کی صحابہ کی تمام جدوجہد دین
۶۲ پیدائش کا واقعہ بائبل اور قرآن مجید میں	مخالفت کے لئے تھی لیکن دنیا سے بھی محروم نہیں رہے
۶۴ موسیٰ نام عبرانی ہے اور اس کے معنی	مخالفت
۵۹ اسرائیلی ہونے کا ثبوت قرآن مجید سے	۴۲۰ الہام ہونا چاہیے
جدید محققین کے نزدیک مصری نژاد تھے اور اس کی	یہود کے دو علماء کا آپ کی صداقت تسلیم کرنے کے
۶۷، ۶۰، ۵۹ تردید	۴۲۶، ۳۴۸ باوجود ایمان نہ لانا
۳۳ آپ کی پیدائش کے وقت کافر فرعون رعمسیس ثانی تھا	۲۷۴ یہود کا ارادہ قتل
۷۳ آپ کو دی جانے والی الکتاب	آنحضرت کی ازواج مطہرات کے خلاف کفار کی
۱۵ نیکی، توحید اور شریعت کی پابندی کی تعلیم	۲۶۸ گندی نظمیوں
۳۹ آپ کے مصر سے کنعان جانے کا راستہ	آپ کی رسالت سے انکار کی کوئی وجہ اور جواز نہیں
۴۰ بحیرہ احمر کا ساحلی راستہ اختیار کرنے کی وجہ	۴۳۱، ۳۱۰
آپ کے ذریعہ پتھر سے چشمے جاری ہونے کے معجزہ	۴۹۲ آنحضرت کو قبول نہ کرنے کے نقصانات
۱۲۲ کی حقیقت	بعثت ثانیہ
اس خیال کا رد کہ توحید کا عقیدہ موسیٰ نے مصر سے	۳۷۲ آنحضرت کی بعثت ثانیہ کی پیچیدگئی سورہ جمعہ میں
۶۵ لیا ہے	۵۳۳ آپ کی بعثت ہائے ثانیہ
۷۲ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی؟	۵۳۳ آپ کی بعثت بروزی
۲۶۶ آپ کو بینات دیئے گئے	۴۷۶ مسیح موعود برود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے
۲۷۳، ۲۶۵ آپ کے بعد آپ کے تابع انبیاء کا آنا	۵۶۰ محمد حسین (بنالوی)
آپ کی بعثت ایک محدود زمانہ اور محدود قوم کے	

مقامات

اندلس	آ	
خلافت عباسیہ کا اندلس کے خلاف فرانس سے معاہدہ	—	
۲۶۰		آسٹریلیا
ایران (قدیم نام فارس)	۶۸	پرانے قبائل میں ختنہ کی رسم
۳۳۷		ا
ایران کی مجوسی حکومت کا یہود سے تعلق	—	
خسر و ثانی کا آنحضرت کی گرفتاری کے لئے حکم		
۳۳۸	۴۴۷	ا بے سینیا حبشہ ایتھوپیا
جاری کرنا		
۳۳۹		ا بے سینیا
حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر فتح		
ایشیا	۶۸	عیسائیوں میں ختنہ کی رسم
کسی بزرگ شخصیت کو بلانے کا ایشیائی دستور	۴۶۰	اٹلی
۵۵۱		
ایلیم (دشت سینا)	۳۷	احمر (بحیرہ)
۱۲۵		
ایک مقام جہاں بارہ چشموں کے آثار ہیں	۱۲۴	اسلام آباد (کشمیر)
	۵۲۴، ۴۵۰، ۴۰۷	افریقہ
<u>ب</u>		
بابل (عراق)		افغانستان
۳۲۴، ۳۲۶، ۳۳۵، ۱۴۳	۱۹۷	میں بنی اسرائیل
۳۲۲		امریکہ
بابل میں ہاروت و ماروت		
۳۳۴	۵۲۴، ۵۱۷، ۵۱۶، ۴۶۰، ۴۵۰	جنگ عظیم دوم میں امریکہ کا انگلستان کو ۲۸۰۰ جہاز
بابل میں بنی اسرائیل کی خفیہ کارروائی		
۳۳۷		دینے کے متعلق حضرت مصلح موعودؑ کی روایا
بابل چھٹی صدی میں یہودیت کا مرکز تھا	۵۱۶	۶۸
۳۷		قدیم قبائل میں ختنہ کی رسم
بحیرہ احمر	۶۸	
۴۱		انگلستان
بحیرہ روم	۵۱۷، ۵۱۶	
۴۱		
بحیرہ قلزم		

۴۵۸	چاہ زمزم (مکہ)	۴۵۱	بنارس (ہندوستان)
۴۶۰	چین	۵۲۳	بیت المقدس (یروشلم)
	<u>ح</u>	۳۷۳	بیت المقدس پر بخت نصر کا حملہ
		۵۳۴	قبلہ اول
	حران (عراق)		کئی زندگی میں آنحضرت بیت المقدس کو ہی
۱۴۳	ایک ستارہ پرست قوم کا صدر مقام		قبلہ بناتے تھے لیکن ایسے طور سے کہ کعبہ بھی
	حورب	۵۳۴	ساٹنے رہے
	دشت سینا کا وہ مقام جہاں شریعت موسویہ کی	۵۳۴	کئی زندگی میں ۱۳ سال اور مدینہ میں سولہ سترہ
۱۵۸	بنیاد پڑی		ماہ قبلہ رہا
	<u>خ</u>		<u>پ</u>
	خیبر	۵۲۴	پیرس
	کے یہود کا بیرونی طاقتوں سے امداد حاصل کر کے		<u>ت</u>
۳۴۷	مقابلہ کرنا		تل ابی سلیمان (مصر)
۲۰۳	خیبر میں آنحضرت کو زہر دینے کا واقعہ	۴۶	(جھیل) تمساح (مصر)
	<u>د</u>		جس کے پاس سے موہی گزرے تھے
۳۳۳	دمشق (شام)	۴۱	
۵۱۶	دہلی (ہندوستان)		<u>ث</u>
	<u>ڈ</u>		(وادی) ثمیلات
۴۱۶	ڈلہوزی (ضلع گورداسپور۔ ہندوستان)	۳۹	فراعنہ مصر کا صدر مقام
	<u>ر</u>		<u>ج</u>
۲۶۰	روم	۴۶۰	جاپان
۳۳۷	روم کی مسیحی سلطنت سے یہود کی دشمنی	۱۲۴	جہلم (دریا)
۴۱	روم (بحیرہ)	۳۲۵	<u>چ</u>
			چاہ بابل (عراق)

۱۵۶	طور سینا	ز	
	<u>ع</u>	۵۴۷	زمزم (مکہ)
۱۰۵	عراق	<u>س</u>	
۱۹۷	عراق میں بنی اسرائیل		سبا (یمن)
۵۲۴	عرب		کی ملکہ کا خط حضرت سلیمان کے نام
۳۴۸	عرب (ملک) سے یہود کا اخراج	۷۶	سپین
۴۲	میں بہت سے مقامات کا نام مصر ہونے کی وجہ	۲۶۰	سکاٹ لینڈ کی فری میسن سوسائٹی
۱۹۷	فارس میں بنی اسرائیل	۳۳۰	سویز (مصر کا شہر)
	<u>ف</u>	۴۱	سیالکوٹ (پاکستان)
۲۸۸	فاران	۴۱۶	سینا (دشت)
۵۴۶	وجہ تسمیہ	۱۰۵	(کوہ) سینا پر موسیٰ کو تعلیم کا ملنا
۵۴۶، ۲۸۸	فاران کا پہاڑ مکہ کے نواح میں ہے	۱۵۵	<u>ش</u>
۵۴۷	بائبل سے ثبوت کہ فاران مکہ کے پہاڑ ہیں		شام
	بائبل میں مختلف جگہوں کا نام فاران ہونے کی وجہ	۴۶۰، ۱۰۵	شعیر
۵۴۷		۲۸۸	<u>ص</u>
۳۳۵	فارس نیز دیکھئے ایران		صنعاء
۴۶۱	فرانس		جہاں ابرہہ کعبہ بنانا چاہتا تھا
۴۶۰	فلسطین		
۲۴۶	فرنگی محل - لکھنؤ	۴۴۷	<u>ط</u>
	<u>ق</u>		طائف
۴۶	قادس	۴۶۰	طور
	قادیان		(دشت سینا کا ایک پہاڑ) کے پاس یہود کی
	قادیان سے نور ظاہر ہونے کے متعلق حضرت مولوی		بدعہدی
۳۸۰	عبداللہ غزنوی کی روایا	۲۹۲	

۵۲۴	لندن	۱۲۹	قاہرہ
		۴۱	قلزم (بحیرہ)
	م		قبا
	مدائن	۵۵۰	مدینہ کے قریب ایک گاؤں
	(پایتخت ایران) کی طرف آنحضرت کے	۴۶۰	قدھار
۳۴۰	قاصد کا جانا		
	مدینہ منورہ		ک
۵۲۹، ۵۳۵، ۵۳۴، ۵۲۵، ۲۵۷		۴۶۰	کابل
۴۵۸	مدینہ کو آنحضرت نے حرم قرار دیا ہے	۳۲۵، ۱۲۴	کشمیر
	یہود کے تین قبائل موعود نبی کی انتظار میں مدینہ	۳۳۵	کشمیر میں بنی اسرائیل کا جانا
۲۷۸	میں مقیم ہو گئے تھے	۱۹۷	کشمیر میں بنی اسرائیل
۱۹۸	یہود کے جرائم	۳۲۵	کشمیر میں ہاروت ماروت کا کنواں
۲۰۱	بنو قینقاع کی جلا وطنی	۱۲۴	کلکڑ ناگ (کشمیر)
۲۱۰	بنو نضیر اور بنو قریظہ کا شرارتوں میں بڑھ جانا	۲۹۴	کنعان
۲۷۸	مدینہ کے عرب قبائل کا قبول اسلام	۴۷۹، ۳۸۲	کنعان کی فتح کا بنی اسحاق سے ہی تعلق تھا
۳۴۸	مدینہ سے یہود کا اخراج	۱۳۵	ہیشہ مصائب کی آماجگاہ بنا رہا
۳۳۳	مصر	۴۶۰	کوشٹہ
	حضرت یوسف کے زمانہ میں مصر میں بت پرستی		
۴۹۹	عام تھی		
۴۶، ۳۲	مصر میں بنی اسرائیل کی غلامانہ زندگی		گ
	بنی اسرائیل کے مصر میں ورود کے چار قیاسی دلائل		گوشن (مصر)
۴۶، ۴۵		۳۹	فراعنہ کے صدر مقام کا علاقہ
۱۷۲	مصریوں میں بیل کی پرستش		گیا (بھارت)
۱۸۱	مصریوں کا معبود بیل سنہری رنگ کا ہوتا تھا	۴۵۱	بدھ مذہب کا متبرک مقام
	عرب میں بہت سے مقامات کا نام مصر ہونے		
۴۲	کی وجہ		ل
	ملک مصر مراد ہو تو غیر منصرف استعمال ہوتا ہے عام		
۱۳۴	شہر مراد ہو تو منصرف ہوتا ہے		
۴۲	مصر شمالی عرب میں واقع شہر	۲۴۶	لکھنؤ (فرنگی محل)

۴۰۸	عیسائی وفد کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت نیل (دریا)	۳۴۸	حضرت سلیمان کے دشمن کا مصر بھاگ جانا مکہ مکرمہ
	مفسرین کے نزدیک حضرت موسیٰ نے ہجرت کے وقت دریائے نیل پار کیا تھا	۵۳۴، ۵۲۴، ۴۶۶، ۳۵۳، ۲۷۸	
۳۸	حضرت موسیٰ کے وقت صدر مقام کی آبادی نیل کے مشرق میں تھی	۵۴۷	مکہ کی بنیاد حضرت اسماعیل نے رکھی تھی مکہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے آباد ہونے کا واقعات
۳۸	نیویارک امریکہ	۴۵۸، ۳۸۲	حضرت اسماعیل کی اولاد کو مکہ کی حکومت دیئے جانے کی خبر
۵۲۴، ۵۱۶		۴۸۰	مکہ کی حرمت حضرت ابراہیم کی وجہ سے قائم ہوئی
	و	۴۵۸	ابراہیمی دعا کے مطابق پھلوں کی فروانی
	خدا تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں آباد کیا	۴۶۰	مکہ فاران کے نواح میں ہے بائبل سے ثبوت
۳۸۲		۵۴۷	ابرہہ کی مکہ فتح کرنے کی کوشش بنو اسماعیل سے دشمنی کی وجہ سے یہود نے تورات سے مکہ کا ذکر نکال دیا ہے
	ہ	۴۶۲	اہل مکہ کو آنحضرتؐ کا پہلا انذار
	ہردوار	۵۵۸	فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار قندوسیوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا
۴۵۱	ہندوؤں کا متبرک مقام ہرماٹھس (مصر) Hermonthis	۵۴۵	فتح مکہ کے موقع پر ابن اخطل کا حرم کعبہ میں قتل
		۴۰۹	فتح مکہ کے بعد اوسفیان کی بیوی ہندہ کی بیعت
۱۸۱، ۱۷۳	ہیلوپولس Helopolis مصر کا شہر جہاں سورج دیوتا کا مندر تھا	۴۹۹	مکہ ہمیشہ مسلمانوں کے قبضہ میں ہی رہے گا
		۴۸۰	
۱۸۱، ۱۷۳، ۵۹		۳۳۵	مید میٹفس (مصر) Memphis
۴۶۰	ہندوستان		
		۱۸۱، ۱۷۴، ۱۷۳	
	ی		ن
	یروشلم		ناصرہ
۵۳۷، ۵۳۵، ۳۴۵، ۳۳۷، ۳۳۳، ۲۹۵			عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش
۵۵۵	قبلہ یہود	۱۴۲	نجران
۳۳۵	دوبارہ آبادی ۴۸۹ ق م	۵۵۵	نجران کے عیسائیوں کے وفد کی مدینہ میں آمد

حَلُّ اللُّغَاتِ

۳۵۷	اضطر		
۱۳۲	إِعْتَدَى يَعْتَدِي		
۱۶۱	إِعْتَدَوْا	۲۹،۳۰۵	ال- آئل
۳۸۱	اعفوا	۲۱۳	أَمِنَ يُؤْمِنُ
۱۲۲	أَفْسَدَ يُفْسِدُ	۹۵،۳۷۱	الایة- ج الایات
۸۷	أَقْتُلُوا	۳۹۷	الاب
۳۳۸	الامام	۳۳۷	ابتلى- یبتلی
۵۵۹	إِمْتِرَاءٌ	۱۱۲	أَحْسَنَ يُحْسِنُ
۳۱۳	أَمْرٌ	۱۸۵	أَخَى يُخِي
۲۲۶	أَمَانِيٌّ مِمْ أَمِيَّةٌ	۲۳۳	أَخْلَفَ يُخْلِفُ
۳۳۵	امن	۱۸۲	إِدَارَةٌ تَمْ
۳۶۹	امة	۱۲۹	أَذَى
۱۲۲	أُنَاسٌ	۱۵۳	أَذُكُرُوا
۳۵۳،۳۵۸	انظرنا	۳۶۹	ارنا
۱۲۲	إِنْفَجَرَ (ت)	۳۶۹	ازی- یری
۳۲۶	اهواء م هوی	۵۰۶	الاسباط
		۱۲۸	إِسْتَبَدَلَ يَسْتَبْدِلُ
		۳۱	إِسْتَحْيَا يَسْتَحْيِي
		۱۱۹	إِسْتَشْفَى
۱۳۰،۵۱۰	(ب) بَاء	۳۹۷،۳۹۳	اسلم- یسلم
۱۱۱	بَابٌ	۲۹۱	اسمعوا
۸۷	بَارِئِكُمْ	۲۸۰	اشتری- یشتری
۸۷	بَارِي	۲۹۲	اشربوا
۹۷	بَعَثَ يَبْعَثُ	۳۸۹	اصطفى- یصطفى
۱۷۶	بِكَرٌ	۳۸۱	اصفحوا/صفح
۳۲	بَلَاءٌ	۱۸۵،۲۰۵	إِضْرِبُوا
۳۷۶	بَقْلٌ		

ب

۱۷۱	جَهْلٌ يَجْهَلُ	۲۳۷	بَلَى
		۲۶۳	بينت
	ح		ت
۲۱۳	حَرَفٌ يُحْرِفُ		تبدل - يتبدل
۱۱۱	حِطَّةٌ	۳۷۷	تتلوا
۱۳۲	أَلْحَقُّ	۳۲۰	تَجْرِي
۳۷۳	الحكمة	۹	تَدَارَةٌ تُمْ
۵۰۳	الحنيف	۱۸۲	تَسْتَبْدِلُونَ
		۱۲۸	تَشَابَهٌ
		۱۶۹	تَشَقَّقُ
۱۵۹	أَلْحَايِرِينَ		يَتَشَقَّقُ
۱۶۱	حَايِرِينَ	۲۰۹	تَشْكُرُونَ
۲۵۵	خزى	۵۳	تَظْمَعُونَ
۱۶۱	حَسَبًا يَحْسَبُ	۲۱۳	تَعْمَرُوا
۱۵۹	خَيْرٌ يَحْسُرُ	۱۲۲	تَفْجَرُ يَتَفَجَّرُ
	خَشِيٌّ يَخْشَى	۲۰۸	تلا يتلو تلاوة
۲۰۹	خَشِيَّةٌ	۳۲۰، ۳۲۸	تَنْظُرُونَ
۱۱۲	خَطَايَا الْعَظِيمَةِ	۳۳	توبة
۵۰۲	خلا يخلو	۳۶۹	تَوَلَّى يَتَوَلَّى
		۱۵۹	تَوَلَّيْتُمْ
		۱۵۹	ث
۱۸۲	دَرَّةٌ يَدْرَرُ		ثمرت
		۳۵۷	ج
۳۱	ذَبْحٌ يَذَّبَحُ		أَلْجَاهِلِينَ
۱۵۳	ذَكَرٌ يَذْكُرُ		جبريل
		۱۷۱	جَزَى يَجْزِي
		۳۰۳	جَهْرَةً
		۹	
۳۵۲	راعنا	۹	
۳۵۲	راعى يراعى	۹۶	

		۱۱۵	الرَّجَزُ
	<u>ص</u>	۴۴۶	رُكِعَ
۱۳۹	الصَّابِئِينَ مِصَّابِي	۱۵۳	رَفَعَ يَرْفَعُ
	الصَّاعِقَةُ	۲۶۴	رُوحٌ
۹۶	الصَّوَاعِقُ	۲۶۴	روح القدس
	صَبَّرَ يَصْبِرُ		
۱۲۷	الصَّبْرُ		<u>ز</u>
۴۸۹	صَاحٌ	۱۱۲	زَادَ يَزِيدُ
۵۱۳	صبغة		
۱۷۷	صَفْرَاءُ		<u>س</u>
	<u>ض</u>	۱۳۰	سَامَ يَسُومُ
		۱۶۱	السَّبْتُ
۳۷۷	ضَلَّ يَضِلُّ	۴۴۶	سجود سجدة
۱۳۰	ضَرَبَ	۴۲۱	سَحَرٌ
۱۸۵، ۲۰۴	يَضْرِبُ	۴۸۸	سَفَهٌ
		۵۲۱	سفهاء
	<u>ط</u>	۱۷۹	سَلَّمَ يُسَلِّمُ
۴۴۶	طَائِفٌ	۱۰۲	السُّلُوِي
۱۲۸	طَعَامٌ	۵۱۰	سميح
۲۱۳	طَمَعٌ يَطْمَعُ	۳۷۷	سواء
۱۵۴، ۱۵۵	الطُّورُ		
۱۰۳	طَيِّبَاتٌ مِطْيَبَةٌ		<u>ش</u>
	<u>ظ</u>	۹	شَفَاعَةٌ
		۵۰۹	شفاق
۲۹۱	ظالم ج ظالمون	۵۳	شَكَرَ يَشْكُرُ
۱۰۲	ظَلَّلَ (ظَلَّلْنَا)	۵۳	الشُّكْرُ
		۵۲۷	شهيد
	<u>ع</u>	۱۷۹	شَيْبَةٌ
۴۴۶	عَاكَفٌ		
۱۲۲	عَتِيَ يَعْتِي		

۱۶۱	نَكَالًا		
۳۴	نَظَرَ يَنْظُرُ	<u>م</u>	
۳۶۰	ننسخ	۳۲۳	ماروت
۳۶۰	ننساها	۴۴۵	مثابة
۵۴۰	نولينك	۳۹۷	محسن
		۱۱۲	الْمُحْسِنِينَ مِ الْمَحْسِنِ
		۱۳۰	الْمُسْكِنَةُ
	<u>و</u>		
۴۱۱	واسع	۴۶۹	مسلم
۴۱۰، ۳۹۷	وجه	۱۷۹	مُسَلَّمَةٌ
۳۸۱	ود-يود	۱۲۲	مَشْرَبٌ
۳۸۱	ودود	۱۲۹	مِضْرٌ
۵۲۶	وسطا	۴۴۶	مصلى
۱۷۹	وَشَى وَشْيًا	۱۲۲	مُفْسِدِينَ
۱۶۲	وَعَظَّ يَعْظُ	۳۲۱	ملك
	مَوْعِظَةٌ	۳۲۱	ملكين م ملك
۴۲۷	ولى	۵۵۹	مترين
		۴۶۹	مناسك م منسك
		۱۰۲	مَنْ يَمُنُّ
		۱۰۲	الْمَنْ
۱۳۹	هَادُوا	۱۸۶	الْمَوْتَى مِ الْمَيِّتِ / وَالْمَيِّتِ
۲۰۹	هَبَطَ يَهْبِطُ	۱۶۲	مَوْعِظَةٌ مِ
۳۲۳	هاروت	۱۵۳، ۲۳۲	مَيْثَاقٌ
	هَزَاءٌ يَهْزَأُ		
۱۷۱	هَزُؤًا		
			<u>ن</u>
		۱۰۷، ۱۱۹	نَزُولٌ
۲۰۹	يَتَشَقَّقُ	۱۱۲	نَزِيدٌ
۲۰۸	يَتَفَجَّرُ	۴۲۷	نصير
۴۲۸	يتلونہ	۵۲۷	نعلم
۲۱۳	يُجْرِفُونَ	۱۱۲	نَعْفُرُ
۱۸۵	يُجْبِي أَخِي	۱۳۹	الْأَنْصَارِي

۲۰۹	يَشَقُّ	۲۳۳	يُخْلِفُ أَخْلَفَ
۱۳۲	يَعْتَدُونَ	۳۸۱	يردونكم
۱۳۲	يَقْتُلُونَ	۴۷۳	يزكي زكي
۳۰۱	يود	۳۱	يَسْتَحْيُونَ
۲۰۹	يَهْبِطُ	۲۷۷	يستفتحون
		۳۰	يَسْؤَمُونَ

☆☆☆☆☆

کتابیات

BIBLIOGRAPHY

تفسیر و ترجمہ

التفسیر الکبیر للرازی
تفسیر ابن کثیر
البحر المحيط لابن حیان
فتح البیان
املاء ما من به الرحمن
راڈویل کا ترجمہ قرآن
وہیری کا ترجمہ قرآن
سیل کا ترجمہ قرآن
روح المعانی
جامع البیان
تفسیر الکشاف
تفسیر القرطبی
الدر المنثور
تفسیر محاسن التأویل

حدیث

صحیح البخاری
صحیح مسلم
سنن الترمذی
سنن النسائی
سنن ابی داؤد
سنن ابی ماجه
مشکاة المصابیح

مسند الامام احمد بن حنبل
دلائل النبوة للبيهقي
الطبقات الكبرى
کنز العمال

کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام

و کتب سلسلہ

حقیقۃ الوحی
چشمہ معرفت
شہادۃ القرآن
منصب خلافت
ازالہ اوہام
برائین احمدیہ
اعجاز المسیح
آئینہ کمالات اسلام
ملفوظات
الحکم

تاریخ

السيرة النبوية لابن هشام
شرح العلامة الزرقانی علی المواہب اللدنیة
زاد المعاد
الملل والنحل
تاریخ الطبری

لغت

المنجد
لسان العرب
اقرب الموارد
الکلیات لابن البقاء
المفردات فی غریب القرآن
تاج العروس
مجمع البحار
شرح مائة عامل
انسانیکو پیڈیا برٹینیکا
Encyclopedia
Britannica
انسانیکو پیڈیا بلیکا
Encyclopedia Biblica
جیوش انسانیکو پیڈیا
Jewish Encyclopedia
نیلسنز انسانیکو پیڈیا
Nelson Encyclopedia

- Hebrew and English Lexicon of the Old Testament
- Encyclopedia of religion and Ethics

تاریخ الخلفاء

السيرة الحلبية

اسد الغابة

الاصابة في تمييز الصحابة

- History of Egypt

ٹرائز آف سنٹرل آسٹریلیا

- The Nile and Egyptian Civilization

- Life of Muhammad by Sir William Muir

- The Historian History of the World

- Hutchinson's Story of The Nation

کتب اہل کتاب

ایروین طالمود

تارگم (یہودی احادیث کا مجموعہ)

اپوکریفا Apocrypha

سلک مرداریداز پادری اکبر مسیح

متفرق

- Secret Societies of the World

السبع المعلمات

الجواهر الحسان

دیوان حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی